

امام طبرانی کی شہرہ آفاق کتاب المعجم الاوسط کی احادیث
کا فقہی ترتیب سے پہلی مرتبہ آسان سلیس اردو ترجمہ مع تخریج

المعجم الاوسط


جلد
دوم

تالیف الإمام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمی الطبرانی
المتوفی ۳۲۰ھ

مترجم علامہ دستگیر چشتی سیالکوٹی
مدرس جامعہ رسولیہ شیرازہ رضویہ بلال گنج لاہور

مترجم

پروگریسو بکس



امام طبرانی کی شہرہ آفاق کتاب المعجم الاوسط کی احادیث
کافقہی ترتیب سے پہلی مرتبہ آسان سیس اردو ترجمہ منع تخریج



المعجم الاوسط

تالیف

الإمام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب النخعی الطبرانی

المتوفى ۳۲۰ھ

منتخب

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

مدرس جامعہ رسولیہ شیعہ ازبکستان رضویہ بلال گنج لاہور

پبلسٹک سروسز

اردو بازار لاہور

فون 042-37124354 ٹیکس 042-37352795

پروگریس پبلسٹک سروسز

العبر الاوسط

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ
جلد حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں



مستقیم

تالیف

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی
مدس ہمامہ رسولیہ شیہ ازبہ رضویہ بلال محج لاہور

الإمام الحافظ ابی القاسم سلیمان بن احمد بن ایوب النعمی الطبرانی
المتوفى ۳۲۰ھ

باراول	اگست 2015ء
پرنٹرز	آصف صدیق، پرنٹرز
تعداد	1100/-
ناشر	چوہدری غلام رسول - میاں جواد رسول میاں شہزاد رسول
قیمت	= / روپے

ملنے کے پتے

ملٹ پبلی کیشنز

فیصل مسجد اسلام آباد Ph: 051-2254111
E-mail: millat_publication@yahoo.com

ملٹ پبلی کیشنز

دوکان نمبر 5- مکہ سنٹر نیوار دو بازار لاہور 0321-4146464
Ph: 042-37239201 Fax: 042-37239200

یوسف مارکیٹ ۰ غزنی سٹریٹ
اردو بازار ۰ لاہور
فون 042-37352795 فیکس 042-37124354

پروکیسٹو بکس

فہرست (بلحاظ فقہی ترتیب)

عنوانات	حدیث نمبر
کتاب الایمان	
ایمان اور سختی کس طرف	2163
جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا	2124
جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں وہ کامل مسلمان ہے	3170, 3598
دار و مدار خاتمہ بالا ایمان پر ہے	2448
قرب قیامت آدمی رات کو مسلمان دن کو کافر ہوگا	2784
غریب لوگوں کی شان	2777
لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا جنتی ہے	2426
جس میں وعدہ وفائی اور امانت داری نہیں ہے اس کا ایمان کامل نہیں	2606
دین اسلام میں بڑی آسانی ہے	2479
تقدیر کا انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے	3114
تقدیر کا منکر جہنمی ہے	3573
مسلمان کو گالی دینا فسق ہے	3567
کامل ایمان والا کون ہے؟	3188
توحید رسالت کا اقرار کرنے والے کو قتل کرنا جائز نہیں ہے	3221
گناہ سے کفر لازم نہیں آتا ہے	2844

3664	توحید و رسالت کا اقرار کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ
3348	نماز کا انکار کرنے والا کافر ہے
3545	اسلام ضامن ہے
کتاب العلم	
2271	علم حاصل کرنے کے لیے رشک کرنا جائز ہے
2301, 3222	علم نہیں اٹھایا جائے گا بلکہ علماء دنیا سے چلے جائیں گے
2290	علم چھپانے والے کو آگ کی لگام دی جائے گی
2223	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی علم سے محبت
2270	حضور ﷺ کی محبت کے بغیر علم کا کوئی فائدہ نہیں ہے
3455	حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کا حضرت حماد بن زید رضی اللہ عنہ سے محبت
2492	معادن تقویٰ سے مراد کیا ہے؟
2462	علم حاصل کرنا فرض ہے
2688	حسد (رشک) صرف دو آدمیوں پر جائز ہے
2477	صحابہ کرام حدیث کا تکرار کرتے تھے
3446	اللہ کی رضا کیلئے علم حاصل کرنے والوں کی فضیلت
2838, 3364, 3381	حضور ﷺ کی احادیث بیان کرنے میں احتیاط کرنی چاہیے
3186	علم سیکھنے کا ثواب
3190	مجتہد اگر درست فیصلہ کرے تو اس کا ثواب
3227	حضور ﷺ پر جھوٹ باندھنے کا انجام جہنم ہے
2832	بے عمل خطیب حضرات کے لیے لمحہ فکریہ
2555	حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھتے تھے
2663	علم سیکھنے سے آتا ہے
3331, 3455	علم لکھنا چاہیے

3529	علم آگے پھیلانا چاہیے)
3322	علم چھپانا جائز نہیں ہے
3288	دین کی سمجھ سب سے بڑی شی ہے
3511	حضور ﷺ کا ایک خط
3277	قرب قیامت قاری زیادہ فقہاء کم ہوں گے

کتاب الطہارۃ

2237, 2742	بچہ اگر کپڑوں پر پیشاب کرے
2127, 2371	جمعہ کیلئے غسل کرنا
2238	ناک کو تین مرتبہ صاف کرنا چاہیے
2740	آگ سے بچی ہوئی شی کھانے کے بعد ہاتھ دھولینے چاہئیں
2123	بکری کی کھال سے نفع اٹھانا
2135	منی گاڑھی ہو تو کھرچنے سے پاک ہو جاتی ہے
2181, 3368	اگر رات کو غسل فرض ہو تو وضو کر کے سو جانا چاہیے
2192	گندگی والی جگہ دھو کر اس میں کپڑے میں نماز پڑھی جاسکتی ہے
2277	حضور ﷺ کے وضو کرنے کا طریقہ
2265	اعضاء وضو صاف کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے
2267	عورت کو احتلام ہوتا ہے
3600	اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھونا سنت ہے
2794	وضو کرنے کا ثواب
2645, 2684, 3151, 3214, 3617, 3619	موزوں پر مسح کے متعلق
3146	استنجاء میں تین پتھر استعمال کرنا چاہیے
2759	جو تے پر نجاست لگے تو مٹی پر رگڑنے سے پاک ہو جاتی ہے
2408, 2652	چمڑا دباغت سے پاک ہو جاتا ہے

2388, 2389, 3362, 3448	وضو کرنے کا طریقہ
2390	وضو نماز کی چابی ہے
2391, 3464, 3465, 3659	مرد و عورت ایک برتن سے غسل کر سکتے ہیں
2760	میت کو غسل دینے والا غسل کر لے تو اچھا ہے
2395	حضور ﷺ داڑھی شریف کا خلال کرتے تھے
2674	وضو کرتے ہوئے انگلیوں کا خلال کرنا چاہیے
2669, 2770	غسل جنابت کرنے کا طریقہ
2452, 3077, 3413	چوہا اگر گھی میں گرے تو حکم
3419	حضور ﷺ کی امت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے
2573	جمعہ کے دن غسل سنت ہے
3397	جمعہ کے دن غسل کرنے کا ثواب
3410	جب آدمی عورت سے جماع کرے تو غسل فرض ہو جاتا ہے
3106	وضو کا ثواب
3113	مسواک رب کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے
3444	آپ ﷺ احتلام سے پاک تھے
3069	کھڑے پانی میں پیشاب کرنا منع ہے
3557	مسواک سونے سے اُٹھنے کے بعد کرنی چاہیے
3084, 3518	اگر ہاتھ شرمگاہ پر لگے تو ہاتھ دھوئے
2822	کھڑے پانی میں پیشاب کرنا جائز نہیں ہے
3661	وضو کے متعلق
2830	وضو مکمل کرنا چاہیے
2219	وضو کرتے وقت کوئی جگہ خشک نہیں رہنی چاہیے
3263, 3335	نیند سے اُٹھ کر ہاتھ دھونے چاہئیں

3533	جمعہ کے دن غسل کرنے کے متعلق
3467	غسل اور وضو کتنے پانی سے کرنا چاہیے؟
3525	حضور ﷺ کے وضو کا طریقہ
3287	جمعہ کے دن خوشبو لگانی چاہیے
3494	ہوا خارج ہونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے
2394	جب عورت کو حیض آئے تو کیا کرے

کتاب الاذان

3131	اذان اونچی آواز میں دینی چاہیے
3163	اذان کا جواب دینا چاہیے
3426	حضور ﷺ اذان کا جواب دیتے
3671	اذان سے عذاب ختم ہو جاتا ہے
3662	اذان کی دعا
3670	اذان کا ثواب
3091	اذان کے کلمات اور اقامت کے کلمات کتنے ہیں
3093	اذان کا جواب دینے کا ثواب

کتاب الصلوٰۃ

2160	حضرت علی رضی اللہ عنہ حدیثیں لکھتے تھے
2218	نماز میں آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے
2262, 2680	امام کے پیچھے قرأت نہیں ہے
2279	صلوٰۃ الاذان
2281	نمازی کو اگر آگے سے کسی کے گزرنے کا خدشہ ہو تو سترہ رکھنا چاہیے
2214, 2285	فرض نماز کیلئے اقامت پڑھی جائے تو صرف فرض نماز ہے
2287	سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا بیان

2292	نماز کا تعلق دین سے اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جسم کے ساتھ ہے
2182	حضور ﷺ رات کو وتر پڑھتے
2174	باجماعت نماز کا ثواب
2161, 2661	نماز میں قرأت نماز پڑھاتے ہوئے مختصر کرنی چاہیے اگر امانت کروا رہا ہو
2144	نماز میں ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے
2150	نماز جمعہ کے وقت اونگھ آئے تو جگہ بدلی چاہیے
2129, 2132	وتر تین رکعتیں ہیں
2102, 2614, 2846, 3068, 3147	سجدہ میں میانہ روی اختیار کرو
2106	افضل نماز کون سی ہے؟
2126	مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت
2235	ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے متعلق
2236	نماز میں شک ہو جائے تو
2229	نماز میں التحیات رہ جائے تو
2354	امام سے پہلے سر اٹھانے والے کا انجام
2361	خالی پیٹ نماز نہ پڑھنے کا بیان
3353	عصر اور فجر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے
3630	نماز وقت پر ادا کرنا چاہیے
3633	جمعہ نہ پڑھنے والے
3618	فجر کی نماز سفیدی میں پڑھنے سے اُمت بھلائی پر رہے گی
3623	حضور ﷺ صبح کی نماز میں تنزیل السجدہ پڑھتے تھے
3605	امام ضامن اور مؤذن امانت دار ہوتا ہے
3451	نماز فجر کی سنتوں کا بیان
3162	ظہر کی چار سنتوں کی فضیلت

2755	حضور ﷺ کی نماز میں قرأت
2733, 2747, 3083	ظہر کی چار سنتوں کا ثواب
2763	حضور ﷺ کی نماز نہ پڑھنے والوں سے ناراضگی
2761	نفل نماز سواری پر جائز ہے
2785	گرمیوں میں ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھنی چاہیے
2362	اکیلے نماز پڑھتے وقت قرأت آہستہ کرنی چاہیے
2364	حضور ﷺ کی نماز
2369	رات کی نماز
2419	نماز میں صفیں مکمل کرنی چاہیے
2425	مردوں اور عورتوں کیلئے کون سی صف بہتر ہے؟
2427	سواری پر نماز پڑھنے کے بیان میں
2487, 2724, 2727	نمازِ چاشت
2499	حضور ﷺ جب نماز سے فارغ ہوتے تو اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھتے
2701	نماز پڑھتے اگر آگے سے گزرنے کا خدشہ ہو تو سترہ رکھنا چاہیے
2699	جانور چر رہے ہوں تو وہاں نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے
2700	سورج گرہن میں حضور ﷺ کا عمل
2468	نماز حالت سفر میں قصر ہے
2694	رات کی نماز دو رکعت ہے
2697	نماز کے لیے سکون سے آنا چاہیے
2433	صبح کی نماز کی فضیلت
2708, 2710	وتر واجب ہیں
2711	حضرت انس رضی اللہ عنہ کے گھر حضور ﷺ آئے تو آپ نے نماز پڑھائی
2431	نفل بیٹھ کر پڑھنا جائز ہے

2690	التحیات
2691	نماز میں رکوع و سجود مکمل کرنا چاہیے
2687	نماز پڑھنے کا طریقہ
3392	نماز میں رکوع و سجود مکمل طور پر نہ کرنے والا چور ہے
2580	عصر سے پہلے سنتوں کی فضیلت
2623, 2626, 3223	نماز وقت پر ادا کرنا چاہیے
2625	التحیات کے الفاظ
2597	باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب
2622	صبح کی نماز میں دعائے قنوت نہیں ہے
3409	رات کی نماز
3411	عورتیں باپردہ ہو کر مسجد میں نماز کے لیے آسکتی ہیں
3414	باجماعت نماز پڑھنے کا ثواب
3415	حضور ﷺ کے نفلوں کی تعداد
3115	عیدین کی نماز میں قرأت
3116	التحیات کے الفاظ
3441	جب کسی جگہ وقت نماز ہو تو وہاں نماز پڑھے
3443	حالت سفر میں نماز قصر ہے
3433	جمعہ کا دن عید کا دن ہے
3373	حضور ﷺ نے کعبہ کے اندر نماز پڑھی
3374	حضور ﷺ کی رات کی نماز
3638	نماز فجر اور عصر کے بعد کوئی نماز نہیں ہے
3124	جمعہ کی نماز کا ثواب
3635	حضور ﷺ نفل بیٹھ کر بھی پڑھتے تھے

3636	امام کی اقتداء کرنی چاہیے
3637	جمعہ کے دن جلدی آنے کا ثواب
3067	چاشت کی نماز
3569	نماز میں دو سلام ہیں
3562	حضور ﷺ نماز فجر کے لیے نکلتے غسل کر کے
3212	سجدہ کرنے کا طریقہ
3194	نماز کے انتظار میں رہنے والا
3586	امام سے پہلے سر اٹھانے کا عذاب
3184	جن اوقات میں نماز پڑھنا منع ہے
3560	وتروں کا وقت
3561	سنتوں کے متعلق
3226	نماز میں صفیں مکمل کرنے کا زمانہ ختم ہوتا جا رہا ہے
2812	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی نماز
2337	حالت سفر میں نماز
2805	سورج گرہن ہو تو نماز پڑھنی چاہیے
2820	جمعہ کے دن خوشبو لگانا
3098	اگر صبح میں نماز پڑھے تو سترہ رکھنے کی ضرورت نہیں
3095	وقت پر نماز پڑھنے کا ثواب اور بے وقت نماز پڑھنے کا گناہ
2824	قضاء حاجت کی طلب ہو تو قضاء حاجت کر کے پھر نماز پڑھے
2321, 2536, 2834, 3246	نفل نماز سواری پر جائز ہے
2828	بغیر عذر کے جمعہ چھوڑنے والوں کا انجام
2318	صلوٰۃ تسبیح کی تفصیل
2302	نماز میں کوئی واجب چھوڑا جائے یا فرض میں تاخیر ہو تو سجدہ سہو ہے

2312	حالت رکوع میں قرآن پڑھنا منع ہے
2521	نماز کے انتظار میں رہنے کا ثواب
2653	حضور ﷺ کی فجر کی سنتوں میں قرأت
2654	عیدین کی نماز کے متعلق
2638, 2676	نماز میں سلام دائیں بائیں جانب ہے
2639, 2640	جانور آگے چر رہے ہوں تو نماز پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے
2802	نماز میں ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھنا جائز ہے
2345, 2632	جمعہ کے دن صفائی رکھنی چاہیے
3451	فجر کی سنتوں کے متعلق
3347	نماز میں اٹھنے کے طریقے کے بیان میں
3341	عورتیں جنازہ میں شرکت نہیں کر سکتی ہیں
3342	اگر نماز میں پانچ رکعتیں پڑھیں
3245	عورتوں کے لیے حکم ہے کہ گھر میں نماز پڑھیں
3247	نماز خوف
3314	عورتیں صبح و عشاء کی نماز میں باپردہ ہو کر شریک ہو سکتی ہیں
3236	جنازہ کی چار تکبیریں ہیں
3338	پہلی صف کی فضیلت
3464	نمازی کو قتل کرنا منع ہے
3325	عورت نمازی کے آگے سے گزرے تو نماز نہیں ٹوٹتی ہے
3319	فجر کی نماز خوب سفیدی میں پڑھنی چاہیے
3253	تہجد قرب الہی کا وسیلہ ہے
3516	جمعہ کے لیے حضور ﷺ نے علیحدہ کپڑے رکھے تھے
3262, 3507	چاشت کی نماز کا ثواب

3304	نماز اول وقت پر ادا کرنے کا زیادہ ثواب
3306	امام سے پہلے سجدہ سے سر نہیں اٹھانا چاہیے
3307	نماز میں اگر تھوک آجائے تو
3297	پاک کپڑے میں نماز پڑھنی چاہیے
3266	حضور ﷺ پر تہجد فرض تھی
3281	نماز میں قدموں کے بل اٹھنا چاہیے

کتاب الزکوٰۃ والصدقہ

2270	صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے
2184	دین کے کاموں کیلئے صدقہ پر ابھارنا جائز ہے
2153	زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے
3450	چھپا کر صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے
3390	رکاز میں خمس ہے
2564	عورت شوہر کی اجازت کے بغیر مال نہ دے
3550	چھپا کر صدقہ کرنے کا ثواب
3378	صدقہ دینے کی فضیلت

کتاب الجنائز

2494	تقدیر کا انکار کرنے والوں کا جنازہ نہیں پڑھنا چاہیے
2512	نماز جنازہ کے متعلق
2159	جنازہ لے جانے کا طریقہ
2133	نماز جنازہ کے ساتھ جانے کا ثواب
2121	نماز جنازہ میں امام کہاں کھڑا ہو
3382	جنازہ دیکھ کر کھڑا ہونا چاہیے
3553	جنازہ کی چار تکبیریں

3379	جنازہ پڑھنے کے متعلق
3122	نماز جنازہ کی ایک دعا
3085	حضور ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا

کتاب الشہید

2396, 3169, 3299	شہداء کا مقام و مرتبہ
3193	طاعون کی بیماری میں مرنے والے کا ثواب
3079	دل سے شہادت کی تمنا رکھنے والے کو شہادت کا ثواب ملے گا اگرچہ بستر پر مرے
2349	اللہ کی راہ میں لڑنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا

کتاب الصوم

2173, 3243, 3249	ایک دن روزہ اللہ کی رضا کے لیے رکھنے کا ثواب
3130	جو نکاح نہ کرنے کی طاقت رکھے وہ روزے رکھے
3154	شعبان کے روزوں کے متعلق
3622	روزہ رکھ کر جھوٹ اور گانے والوں کے روزہ کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے
2775	روزے کا ثواب
2434, 2444, 2445, 2467, 2725, 2725	روزے دار کے لیے پچھانا لگانا جائز ہے
2480, 2720	عاشوراء کے روزہ کی فضیلت
2475	حضور ﷺ کسی ماہ کے مکمل روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے
2566, 2567, 2568, 2621	عاشوراء کے روزے سنت ہیں
3645, 3646	روزہ کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا
3118	اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھنے کا ثواب
3192	شوال کے چھ روزوں کی فضیلت
3199	روزہ دار کے منہ کی بدبو مشک خوشبو سے زیادہ ہے
3224	حضور ﷺ سخت گرمی میں روزہ رکھتے تھے

3074, 3075	ماہ رمضان اور جمعہ کی فضیلت
2821, 3337	پچھنا لگوانے کے متعلق
2660	پچھنا لگوانا سنت ہے
2642	چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے اور عید کرنی چاہیے
2562	روزے رکھنے کا ثواب
2556	عرفہ کے دن روزہ نہیں ہے
3239	اگر اپنے نفس پر کنٹرول ہو تو عورت کا بوسہ حالت روزہ میں لیا جاسکتا ہے
3240	نفل روزہ توڑا جاسکتا ہے
3248	سفر میں روزہ نہ رکھنے کی اجازت ہے
3238	اہل کتاب اور ہمارے روزوں کے درمیان فرق سحری کرنا ہے
3231	عاشوراء کے دن کی فضیلت
3490	حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت کو روزہ نہ رکھنے کا اختیار
3284	رمضان کے روزے
2101	عیدین کے دن روزہ جائز نہیں

کتاب التفسیر

3344	فاما الذین فی قلوبہم ذبیحہ کی تفسیر
3322	ان اولیاء الا المتقون کی تفسیر
2451	قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا کفر ہے
3288	نساء کم حرث لکم فاتوا حرثکم کی تفسیر
2718	یا ایہا الذین امنوا لا تقولوا بیدی اللہ ورسولہ
3510	یعمصک من الناس
3272	یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ
2303	جاء الحق وزهق الباطل

3209	ولسوف يعطيك فترضى
2316	سورہ تحریم کی چند آیتوں کی تفسیر
3171	لا مقطوعه ولا ممنوعه کی تفسیر
2330	لعمرك سے مراد حضور ﷺ کی زندگی کی قسم ہے
3141	سورہ رحمن و واقعہ کی چند آیتوں کی تفسیر
3663	النافور کی تفسیر
3137	کالمہل کی تفسیر
2569	لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر
2575	والذين لا يدعون مع الله الها اخر
2602	يرسل الصواعق ضيف من يشاء
2667	وان من اهل كتاب لمن يؤمن بالله وما انزل اليكم كاشان نزول

کتاب فضائل القرآن

2194	قرأت پڑھنے والوں کی عزت و مقام
2104	قرآن کو مضبوطی سے تھامو
2105	قل هو اللہ احد کی فضیلت
2796	قل اعوذ برب الفلق پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے
3143	رات کو سو آیتیں پڑھنے والے کو ساری رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے
3351	قرآن پڑھنے کا ثواب
3354	سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق پڑھنی چاہیے
2679	قرآن اچھی آواز میں پڑھنا صحابہ کی سنت ہے
2451	قرآن کے متعلق جھگڑنا منع ہے
2470	کچھ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترتا ہے
2478, 3344, 3666	قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا کفر ہے

3418	قرآن کی قرأت کے متعلق
2574	قرآن کو کھانے پینے کا ذریعہ نہیں بنانا چاہیے
3361	سورۃ قل هو اللہ احد فرض نماز پڑھنے کے بعد پڑھنے کا ثواب
3654	سورۃ الملک کی فضیلت
3678	قرآن اللہ کا کلام ہے
3187, 3302	قرآن پڑھتے رہنا چاہیے
2658	سورۃ الفلق والناس جیسی کوئی سورت نہیں ہے
3480	وحی الہی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع ہوئی ہے
3235	قرآن اونچی اور آہستہ آواز میں پڑھنے والے کا ثواب
3301	قرآن پاکی کی حالت میں چھونا چاہیے

کتاب الحج

2234	حالت احرام میں شکار جائز نہیں ہے
2282, 2744	تلبیہ کے الفاظ
2189	جمرات کو کنکری مارنے کے بیان میں
2185	تلبیہ کس وقت پڑھا جائے؟
2170	دوران طواف اگر حیض آئے
2120	حج تمتع
3608	حضور ﷺ کا حج تمتع کرنا اور علم غیب پر دلیل
2754	کنکریاں مارتے وقت تلبیہ پڑھنا چاہیے
2338	کنکری جمرات کو کتنی مارتی چاہیے
2773	حج کے دوران بال کٹوانے والے اور منڈوانے والوں کا ثواب
2731, 3375	نابالغ بچہ کو حج کے لیے ساتھ لے جانا
2696	پیدل حج کرنے کا ثواب

2705	حضور ﷺ نے کتنے عمرہ کیے ہیں
3387, 3416	تلبیہ کب پڑھنا چاہیے
2615	حضور ﷺ نے سواری پر طواف کیا
2665	حجر اسود کی قیامت کے دن دو آنکھیں اور زبان ہوں گی اپنے چومنے والے کی گواہی دے گا
2584	منیٰ میں جانے کا وقت
3437	حج قرآن
3571	حج مبرور کا ثواب
3183	حجۃ الوداع کا خطبہ
3185	عرفہ کا دن خوشی کا دن ہے
2323	حج طواف کے دوران رمل کرنے کی وجہ
2324, 3260	حطیم کعبہ، کعبہ میں شامل ہے
3097	حضور ﷺ کا منیٰ میں خطبہ دینا
2829	حرام کے متعلق
2300	حج بدل جائز ہے
2549, 2550	تلبیہ پڑھنے کے متعلق
3313	احرام سے پہلے خوشبو لگائی جاسکتی ہے
3383	حالت حج یا عمرہ میں کوئی عذر ہو تو شلوار پہننے کی اجازت ہے
3526	منیٰ کے دن کھانے پینے کے ہیں
3483	مقام بطح پر ٹھہرنے کے متعلق
3282	حج قرآن

کتاب الجنة والجهنم

2213	جو اللہ کا حق ادا کرتا ہے اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا
2359	جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ رب کی زیارت کرتے وقت سجدہ میں گریں گے

3148	جنت کی حوراء کا مقام
3149	جنت میں جانے والوں کا ذکر
3681	جہنم کی آگ کو ایک جز کھول دیا جائے تو مشرق و مغرب اس کی بدبو سے بھر جائے
3157	جہنم والے سرکش اور تکبر کرنے والے ہیں، جنت والے کمزور مغلوب لوگ
3160	جنت کے باغ
2410	جہنمی لوگوں کی داڑھیں اُحد پہاڑ جتنی ہوں گی
2373	ستر ہزار لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے
2730	حرام کھانے سے تیار ہونے والا خون جہنم میں جلے گا
2485	جنت میں اکثر کمزور لوگ جہنم میں زیادہ عورتیں
2482	بخار جہنم کی تپش سے ہے
2613	جنت کے دروازے کی چوڑائی
2583	جہنم کی ہولناکی
2619	عدل کرنے والا قاضی بھی قیامت کے دن تمنا کرے گا: کاش وہ قاضی نہ ہوتا
3644	جہنم سے بچنے کے لیے کوشش کرنی چاہیے
3365	غریب لوگ جنت میں امیروں سے پانچ سو سال پہلے جائیں گے
3446	آدمی دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا
3089	مردوں کا ذکر
3672	جنت میں موت نہیں ہے
3090	جہنم کی وادی حزن جس سے جہنم بھی پناہ مانگتی ہے اس میں ان قاریوں کے لیے جو حکمرانوں کی خوشامد کرنے والے ہوں گے
2519, 2520	جنت کے ایک درخت کی مسافت سو سال تک چلتے رہنے تک ہے
3477	امیر لوگوں سے پہلے غریب لوگ جنت میں جائیں گے
3548	جہنم میں ایک وادی ہے جس کا نام صہب ہے
3482	شہد کی مکھی جنتی ہے

کتاب البيوع

2220	شفعہ کے متعلق
3613	شرط لگانا حرام
3142	سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے
2400	دھوکہ سے بیع کرنا منع ہے
2741	ایک جانور کی بیع دوسرے جانور سے
2490	کاروبار میں دھوکہ نہیں کرنا چاہیے
3370	اندازے سے فروخت کرنا
3201	کتے اور بلی کی کمائی حرام ہے
3581	جانوروں کے تھنوں میں دودھ روکنا جائز نہیں ہے
2305, 2325, 2326, 2655	سونے کو سونے کے بدلے فروخت کرنا جائز ہے
2465, 3305	زمین کو رايہ پردینے کے متعلق
3293	قسم اٹھا کر سودا فروخت کرنے سے برکت ختم ہو جاتی ہے

کتاب الجهاد

2128	مال غنیمت کی تقسیم
2216	جنگ دھوکہ کا نام
3625	جہاد کرنے کا ذکر
2781	جہاد کس سے کرنا ہے؟
2570	تلوار سوننا منع ہے
2571	حنین کی جنگ
2600	خیبر کے فتح ہونے کا ذکر
3117	جہاد کا ثواب
3363	عورتیں جہاد کے لیے جاتی تھیں

3431	بدرکادن سخت تھا
3123, 3574	اللہ کی راہ میں لڑنے کا ثواب
3242	خیبر جب فتح ہوا
3292	غزوہ تبوک کا ذکر
3512	جہاد کا ذکر

کتاب حرمت الشراب

3134	جس نے شراب پی گویا اس نے اپنی مان خالہ پھوپھی سے زنا کیا
3135, 3207	ہر نشہ آورشی حرام
2734	شراب بنانے والے پلانے والے پر اللہ کی لعنت ہے
3440	شراب کو فروخت کرنا حرام ہے
3125	شراب کی حرمت
3667	شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے

کتاب النکاح

2164	حضور ﷺ نے حالت احرام میں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا
2107	حق مہر کی ادائیگی
2108	حق مہر مقرر کرنا چاہیے
2115	عورت اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے
2116	ولیمہ کرنا
3153	نکاح بڑی محبت کی شے ہے
2372	جب عورت کو طلاق ہو جائے تو پہلے شوہر کے لیے حلال کیسے ہوگی؟
2505	حالت حیض میں طلاق دینا بہتر نہیں ہے
2414	نکاح کا خطبہ
2422	حاملہ عورت کو طلاق ہو جائے تو اس کی عدت وضع حمل ہے

2683	حالت احرام میں نکاح جائز ہے
3111	عورت سے نکاح کرتے وقت اجازت لینی چاہیے
3445	منگیتر کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے
3676	طلاق نکاح کے بعد ہوگی
3195	جن عورتوں کو نکاح میں جمع کرنا جائز نہیں ہے
3559	نکاح شغار ناجائز ہے
2659	شادی کرنا سنت ہے
2342	شادی کس نیت سے کرنے سے ثواب ملتا ہے
3475	نکاح ولی کی اجازت سے ہے
3329	حضور ﷺ کی ایک شادی
3264	اچھا اور بُرا ولیمہ کون سا ہے؟
3275, 3508	جن دو عورتوں کو ایک نکاح میں جمع کرنا ناجائز ہے
3280	حضرت عبدالرحمن کی شادی

کتاب آداب الطعام والشراب

2140	حلال کمائی سے کھانا چاہیے
2227	سرکہ اچھا سالن ہے
2209, 2226	ہر آگ سے پکی ہوئی شے کھانے کے بعد ہاتھ دھونے چاہیے
3684	ٹیک لگا کر کھانا جائز نہیں ہے
2398, 2735	جب کھانے میں مکھی گرے تو
2750	پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے
2745	نبیذ بنانے کا ذکر
2412	کوئی شے پیتے وقت تین سانس لے کر پینا چاہیے
2459	چاندی کے برتن میں پینے والے اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں

2461	حضور ﷺ کو بکری کی دسی پسند تھی
2682	سود کا ایک لقمہ کھانا چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے بدتر ہے
2628	کھانے کی طلب ہو تو کھانا کھا کر نماز پڑھنی چاہیے
2599	کچا لہسن کھانے کے متعلق
3432	آب زمزم کھڑے ہو کر پینا چاہیے
3202	کھانا کھاتے وقت جوتا اتارنا چاہیے
2344, 2809, 3215	گدھوں کا گوشت حرام ہے
3596	کھانا کھاتے وقت انگلیاں صاف کرنی چاہیے
2510	شراب والے دسترخوان پر نہیں بیٹھنا چاہیے
3230	کچا لہسن کھا کر مسجد میں آنا جائز نہیں ہے
3333	چاندی دسونے کے برتن میں پینے والے اپنے پیٹ میں جہنم بھرتے ہیں
3484	جن برتنوں میں پینا منع ہے

کتاب المریض

2205	مریض کی عیادت کرنے کا ثواب
2506	مریض کی عیادت کرنے والے کا ثواب
3642	مریض کی عیادت کتنے دن بعد کرنی چاہیے
3119	سر درد اور بخار سے گناہ معاف ہوتے ہیں
2831	قسط بحری کی تفصیل
2836	99 بیماریاں ہیں
2560	زیتون کے فوائد
3343	دم کرنا جائز ہے
3318	بخار اس امت کے لیے گناہوں کی بخشش ہے
3485	مریض کو تندرست کے پاس نہیں لے جانا چاہیے

3503	مریض کی عیادت تین دن کے بعد کرنی چاہیے
کتاب الدعاء	
2275	امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو حضور ﷺ دم کرتے
2141	ایک اہم دعا
2795	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی ایک دعا
3611	ایک دعا
2757	ایک دعا
2381	یا مقلب القلوب ثبت علی علی دینک دعا پڑھنے کا ذکر
2383	گھر سے نکلنے کی دعا
2500	لیلۃ القدر میں کون سی دعا کرنی چاہیے
2455	نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا کرنا یعنی جو لوگ غار میں پھنس گئے ان کا ذکر
2702	جمعہ کے دن قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے
2431	جو اللہ سے نہ مانگے تو اللہ ناراض ہوتا ہے
2497, 2498	دعا قبول ہوتی ہے
3421	جن کلمات کے پڑھنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں
2627	جمعہ کے دن ایک ہے دعا کی قبولیت کا
3398	ضرورت پیش ہو تو اس کو حل کرنے والی دعا
3394	جو دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سمندر کو پار کرتے ہوئے مانگی
3428	رات کے آخری حصے میں دعا قبول ہوتی ہے
2827, 3206, 3429	بستر پر سونے کیلئے دعا
3639	مریض کے پاس دعا کرنے کا بیان
3677	ایک دعا
3071	حضور ﷺ کی ایک دعا

3208	رکوع سے اٹھتے وقت کی دعا
3196	دعا عبادت کا مغز ہے
3586	ایک دعا
2842	کسی کو الوداع کرتے وقت اس کے لیے دعا کرنی چاہیے
2307	نیک اعمال کے وسیلہ سے دعا قبول ہوتی ہے
3096	صبح و شام پڑھی جانے والی دعا
2523	دعا اللہ عزوجل کو زیادہ پسند ہے
2527	ملک یمن کے لیے حضور ﷺ کی دعا
2644	ایک اہم دعا
2570	کسی قوم سے ڈرنا اور اس کے لیے دعا
2803	گھر میں داخل ہونے کی دعا
3476	سجدہ میں دعا کا بیان
3479	شرک سے پرہیز کے لیے دعا
3303	فرض نماز کے بعد دعا کرنے کے بیان میں

کتاب فضائل سید الانبیاء

2243	حضرت ثابت بن قیس کا ادب رسول
2246	حضور ﷺ کے اختیارات پر زبردست دلیل
2247	حضور ﷺ اور ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کا ایک دو پہر بھوک کی وجہ سے نکلنا اور حضرت ابوالیوباء کے گھر کو عزت بخشنا
2280	حضور ﷺ کے اسماء گرامی
2154	حضور ﷺ کی اللہ سے محبت
2222	صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین، حضور ﷺ کی خوبیاں بیان کرتے تھے
2177	حضور ﷺ کی زلفیں
2783, 2784	مدینہ شریف کی شان

2788	حضور ﷺ جانتے ہیں زمین کے اندر کیا ہے
2714	حضور ﷺ کے حوض کوثر کی لمبائی
3132	حضور ﷺ کی عاجزی
3631	عشق مصطفیٰ ﷺ میں رونے والا تاتا
3145, 3216	حضور ﷺ کی چال مبارک
3158	ایک گستاخ رسول کا قتل
3159	حضور ﷺ کی دنیا سے بے رغبتی
3602	حضور ﷺ کا دل اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے
3626	ندیاں ہیں پنجاب رحمت واہ واہ
2758	حضور ﷺ کی مٹھی مبارک سے نکلنے والی کنکریاں
2751	جس راہ سے حضور ﷺ گزرتے وہ خوشبو سے مہک جاتی
2752	حضور ﷺ کا جسم اطہر سب سے زیادہ نرم تھا
2746	حضور ﷺ کا مقام و مرتبہ
2765	حضور ﷺ کا معجزہ مبارک
2767	حضور ﷺ پر درود پڑھنے کا ثواب
2397	حضور ﷺ اپنی امت کے لیے ہر روز بخشش مانگتے تھے
2365	حضور ﷺ نے حضرت عباس کے اسلام لانے کے وقت خوشی میں غلام آزاد کیا ہے
2366	حضور ﷺ کے اختیارات پر دلیل
2771	حضرت داؤد اور سلیمان علیہما السلام کا ایک فیصلہ
2417	یہودی لوگ ہمیشہ سے حضور ﷺ کے دشمن رہے ہیں
2430	خطبہ حجۃ الوداع اور مقام مصطفیٰ ﷺ
2668	حضور ﷺ کی نگاہ سے کوئی شی پوشیدہ نہیں ہے
2698	حضور ﷺ کے علم غیب پر زبردست دلیل

2447	جب ابو جہل نے حضور ﷺ کی معراج کا انکار کیا تو اللہ عزوجل نے بیت المقدس حضور ﷺ کے سامنے کیا
2707	ایک آدمی کا آپ ﷺ سے سوال آپ کا جواب دینا
2476	دجال مدینہ نہیں آسکے گا
3993	حضور ﷺ کے علم غیب پر دلیل
3385	حضور ﷺ کا لامعناہ شریف پہنتے تھے
2572	حضور ﷺ کی دنیا سے نفرت
2629	حضور ﷺ کی وصال سے پہلے چند حکمت والی باتیں
2601	حضور ﷺ کی دعا اور اس کے ثمرات
2716	حضور ﷺ کے اسماء مبارک
3108	حضور ﷺ کی ناموس رسالت کی حفاظت کرنیوالے کیساتھ حضرت جبریل کی مدد شامل حال ہوتی ہے
3112	ریاض الحجۃ
3366	جس سواری پر آپ ﷺ سوار ہو جاتے اس کو معلوم ہو جاتا کہ زمین کے اندر کیا ہو رہا ہے
3651	حضور ﷺ کی شان
3384	حضور ﷺ کے حوض کوثر سے متعلق
3376	حاجیو آ و شہنشاہ کا روضہ دیکھو..... کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ دیکھو
3105	حضور ﷺ کا معجزہ مبارک
3566	حضور ﷺ کی شفاعت کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہے
3570	قیامت کا دن سرکارِ دو عالم ﷺ کی عظمت کے اظہار کا دن ہے
3182	قبر کے اندر حضور ﷺ کی وجہ سے بخشش ہوتی ہے
2845	صحابہ کرام نماز میں حضور ﷺ کے چہرے کی زیارت کرتے تھے
2847	حضور ﷺ کے دشمنوں کو حضرت جبریل مارتے ہیں
2303	کعبہ کے اندر 360 بت تھے
2304	حضور ﷺ ساری کائنات کیلئے رحمۃ للعالمین ہیں

2811	حضور ﷺ کے علم غیب اور اختیارات پر دلیل
3663	حضور ﷺ کا خوفِ خدا
3092	حضور ﷺ کی بارگاہ میں درود پڑھنے کا ثواب
2320	حضور ﷺ دلوں کی باتیں جانتے ہیں
2833	حضور ﷺ کے علم غیب پر دلیل
2297	حضور ﷺ کے علم غیب پر دلیل
2315	انبیاء علیہم السلام سے اپنے آپ کو بہتر سمجھنا حرام ہے
2567	حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر
2538	حضور ﷺ کی عظمت و شان
2646	حضور ﷺ کی انگوٹھی مبارک
2539	حضرت ایوب علیہ السلام کا ذکر
2532	حضور ﷺ کی نگاہ مبارک
3345	حضور ﷺ نے وصال کے بعد ایک آدمی کو فرمایا: اللہ نے آپ کو بخش دیا ہے
3336	حضور ﷺ کا زمانہ بہتر ہے
3244	حضور ﷺ کا وصال مبارک
3528	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کہ حضور ﷺ کی دعا میں دنیا و ما فیہا ہے
3323	حضور ﷺ کے خاندان کو تکلیف نہ دینے والے سے حضور ﷺ خوش ہوتے ہیں
3261, 3268	حضور ﷺ کی سادگی
3271	حضور ﷺ دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں یعنی حضرت ابو ہریرہ کے دل کی بات جان لی
3291	حضور ﷺ کی زبان سے جو نکلتا ہے اللہ اس کو پورا کرتا ہے
3489	حضور ﷺ بکریاں چراتے تھے
3274	حضور ﷺ لوگوں کو جہنم سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں
3510	حضور ﷺ کی حفاظت اللہ کرتا ہے

3276

خندق کے موقع پر حضور ﷺ کا معجزہ

کتاب فضائل الصحابة

2167

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے ستر سورتیں یاد کیں

2252

حضرت بلال اور ام سلیم رضی اللہ عنہما کی شان

2256

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت

2260

پنجتن پاک رضی اللہ عنہم

2263

حضور ﷺ کی صاحبزادی کی فضیلت

2282

حضرت معدی بن کرب کی عظمت

2286

حضرت علی رضی اللہ عنہ کا گرمیوں میں سردیوں والے کپڑے اور سردیوں میں گرمیوں والے کپڑے پہننا

2289

حضرت تمیم الداری کی فضیلت

2190

امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما جنتی نوجوانوں کے سردار

2191

قیامت کے دن چار سوال ہوں گے ان میں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کے متعلق پوچھیں گے

2196

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی شان و مقام

2109, 2183

جس کے حضور ﷺ مولا ہیں حضرت علی اس کے مولا ہیں

2171

قریش کی شان و مقام

2169

انصار سے حضور ﷺ کی محبت

2165

مدینہ شریف میں دجال کا فر منافق نہیں رہے گا

2166

حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان

2155

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و مقام و مرتبہ کا اعلیٰ ترین ذکر

2156

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے محبت صرف مؤمن اور بغض منافق رکھتا ہے

2151

حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ کی شان

2110

حضرت علی رضی اللہ عنہ کیلئے بارہ گواہوں کی گواہی

2117

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا حدیث بیان کرنے میں کمال احتیاط

2119	صحابہ کا حضور ﷺ کی بیعت کرنا
2125	مؤمن اور منافق کی پہچان حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں
2204	حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان
2221	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان
2360	حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کا ذکر
3627	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی حضور ﷺ سے محبت
3634	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خارجیوں کو مارنا
3609	جو قریش کو رسوا کرے گا اللہ اس کو رسوا کرے گا
3161	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی فضیلت
3356	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے لیے حضور ﷺ کی دعا
3453	اگر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے خون کا مطالبہ نہ کیا جاتا تو آسمان سے پتھر برستے
3454	حضرت سلیمان التیمی رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ
3456	حضور ﷺ کا خاندان پاک
3624	بنی عمرو بن عوف کے قبیلے کا ذکر
2404	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان
2405	حضور ﷺ کی آل سے بغض جہنم میں جانے کا ذریعہ ہے
2406	حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ کی شان
2633, 2764	حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ
2386	جب سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گی حکم ہوگا: اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو
2367	عاص بن وائل کا ذکر
2374	اشجع عبدالقیس کا ذکر
2375	محمد بن سلمہ کو حضور ﷺ نے تلوار دی
2415	حضرت جریر رضی اللہ عنہ کی حضرت انس رضی اللہ عنہ سے محبت

2728	حضرت علی رضی اللہ عنہ کا عقیدہ اُمت میں انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر افضل ہیں
2607	حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی فضیلت
2608	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان
2723	حضرت ابن مکتوم رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی عدم موجودگی میں نماز پڑھاتے تھے
2432, 2442	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان
2437	حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے وسیلہ سے دعا کرتے
2721	حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شان
2692	قریش والوں کی فضیلت
3417, 3420	حضرت عمر و ابوبکر رضی اللہ عنہما کی فضیلت
3425	اچھا زمانہ کون سا ہے؟
2591	بہتر زمانہ حضور ﷺ اور صحابہ اور تابعین کا ہے
2576	حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا ذکر
2577	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عقیدت
2586	حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما کی شان
2667	جب حضرت نجاشی فوت ہوئے
2609	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کی شان
2594	حضور ﷺ کی اُمت میں جنت سے سب سے پہلے حضرت ابوبکر جائیں گے
2563	قریش کی فضیلت
2629	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان
2438	حضور ﷺ کی انگوٹھی پر کیا لکھا تھا؟
2717	انصار کے ایک آدمی سے حضور جبریل علیہ السلام کی گفتگو کرنا
2718	حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی شان
3650	حضرت عمرو بن جموح رضی اللہ عنہ کی شان

3439	کتاب اللہ اور اہل بیت کی محبت
3449	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان
3427	حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما کی شان
3430	حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا
3435	حضور ﷺ نے حضرت انس کی کنیت رکھی
3640	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی شان و مقام و مرتبہ
3128	قریش کی فضیلت
3565	حضرت سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ عنہا کی شان
3580	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے اشعار
3200	قریش کو رسوا کرنے والے کا انجام
3172	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ
3592	حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت
3593	حضرت مقداد رضی اللہ عنہ کی زندگی کا ایک واقعہ
3554	حضور ﷺ کے بعد امت میں افضل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں
3551	حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شان
3552	قبیلہ قریش کا ذکر
2848	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نماز کے لیے اللہ عزوجل کے حکم سے کہا ہے
2849	حضرت بشر بن خصاصیہ کی عظمت
2338	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان
3673	حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما کی شان
3668	حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی
2837	حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان
2651	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان

2516	حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ کا ذکر
2508	حضور ﷺ کی بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ذکر
2548	حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے عقیدت
2539	حضور ﷺ کے اختیارات پر دلیل
2537	قریش سے محبت سے حضور ﷺ خوش ہوتے ہیں
2647	بدر والوں کی شان
2648	حضرت عمر و ابو بکر رضی اللہ عنہما ایک بات میں اختلاف کرنا اور اس کی تفصیل
2797	حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی فضیلت
2553, 2554	حضرت ماعز بن مالک رضی اللہ عنہ کا مقام
3454	حضرت سلیمان تیمی کی شان
3456	حضور ﷺ کے خاندان سے پلیدی دور کردی گئی ہے
3458	حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی فضیلت
3542	قرآن اور اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے
3241	حضرت اشعث رضی اللہ عنہ کا مقام
3540	حضرت امامہ بنت العاص کو حضور ﷺ حالت نماز میں کندھوں پر سوار کرتے
3536	ایک گروہ کا ذکر
3250	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا ذکر
3250	جب حضرت معاذ کو یمن بھیجا گیا
3478	حضور ﷺ کے اہل بیت کی شان
3317	حضور ﷺ کے صحابہ ملک شام آئے
3544	جب مدینہ شریف حضور ﷺ آئے تو حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کے گھر ہے
3229	حضرت عباس رضی اللہ عنہ کی شان
3461	حضرت فاطمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہ کے متعلق

3463	حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کا ذکر
3328	حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شان
3330	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان
3466	حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی شان
3326	حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان
3523	حضور ﷺ نے اپنی ازواج کو اختیار دیا تھا
3517	حضور ﷺ کے صحابہ کی شان
3269	اصحاب صفہ
3521	ائمہ قریش سے ہوں گے
3290	حضرت بیچ کا ذکر
3293	حضرت عثمان بن مظعون کی شان
3495	علاء بن حضرمی کا ذکر
3488	حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شان
3506	حضرت خرمیم کا ذکر
3501	حضور ﷺ نے اپنی بیٹیوں کی شادی حضرت عثمان سے اللہ کے حکم سے کی
3502	حضرت عثمان کی شان
3499	صحابہ کرام کا حضور ﷺ کی مجلس میں بیٹھنے کے آداب

کتاب مناقب الامۃ

2257	حضور ﷺ کی اُمت، اُمت مرحومہ ہے
2273	اُمت کی ہلاکت
2137	اُمت محمدیہ ﷺ خُطّاءِ نسیان اور جس پر اسے مجبور کیا جائے وہ معاف ہے
3649	حضور ﷺ کی اُمت کا حساب جلدی ہوگا
3585	جب اس اُمت کے لوگ تکبر کریں گے

- 3555 اُمت کی ہلاکت کن لوگوں میں ہے
- 3660 حضور ﷺ کی اُمت کی مثال
- 3234 حضور ﷺ کی اُمت کے اعضاء چمک رہے ہوں گے
- 3252 حضور ﷺ کی اُمت کی شان
- 3273 حضور ﷺ کی اُمت کی شان جب جنت میں جائے گی
- 3278 حضور ﷺ اپنی اُمت کی طرف سے قربانی کرتے

کتاب الموارث

- 2233 وراثت کے متعلق
- 2738 کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے

کتاب الذکر

- 2268 ہمیشہ یاد الہی میں رہنا چاہیے
- 3171 اللہ کا ذکر کرنے والوں کا ثواب
- 2768 مصیبت پر انا للہ وانا الیہ راجعون پڑھنے کا ثواب
- 2382 سبحان ربی العظیم پڑھنے کا ثواب
- 2368 درود پاک کا ثواب
- 2370 ذکر والی زبان، شکر والادل بنانا چاہیے
- 2671 حضور ﷺ پر درود پڑھنے کا ثواب
- 2501 جو بندہ اللہ کو مقام دیتا ہے اللہ بندے کو ویسا مقام دیتا ہے
- 2696 حضور ﷺ کے پاس بیٹھنے والوں کا خوفِ خدا
- 2585, 2587 درودِ ابراہیمی
- 2504 بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت
- 3173 استغفار کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں
- 3179 جہنم سے چھٹکارہ والے اعمال

3178	سر پر ہاتھ رکھ کر دعائے مانگنے کے بیان میں
2839	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جہنم سے آزادی کا ذریعہ ہے
2296	ذکر الہی کی فضیلت
2313	دل ذکر الہی کے بغیر سخت ہوتا ہے
2346	جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ پڑھنی چاہیے
2798	ذکر کرنے سے تھکاوٹ دور ہوتی ہے
3346	بخشش آسمان سے اتری ہے
3541	لا حول ولا قوۃ پڑھنے کا ثواب
3532	صدقہ کا ذکر
3486	لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کا ثواب
3285	حضور ﷺ پر درود پڑھنے سے جنت ملتی ہے

کتاب الموت

2176	ہر آدمی کو سونے سے پہلے وصیت لکھنی چاہیے
2112	سوغ تین دن ہے
2118	کفن کیلئے کپڑا
2232	موت کیا ہے؟
3129	مؤمن کے لیے اچانک اور کافر کے لیے اچانک موت کے درمیان
3632	قبروں کی زیارت کرنے سے انسان کو آخرت یاد آتی ہے
3155	جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے
2753	عذاب قبر حق ہے
2770	جو آدمی مرجائے اس کی اچھائیاں یاد کرنی چاہیے
2780	اعمال کا دار و مدار خاتمہ پر ہے
2488	جس کے تین بچے فوت ہو جائیں

2709	قبروں کی زیارت کرنے سے متعلق
2588	حضور ﷺ ایک قبر کو دیکھ کر رو پڑے
2696	جہاں کسی نے مرنا ہوتا ہے وہاں وہ پہنچ جاتا ہے
2630	جبہ دی مر جاتا ہے تو اس کی تفصیل
3109	ہر آدمی دنیا سے اپنا رزق مکمل کر کے جائے گا
3129	اچانک موت آنے کے متعلق

کتاب علامات الساعة والفتن

2269	لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا
2283	قرب قیامت فتنے ہوں گے، صبح کو مسلمان رات کو کافرات کو مسلمان، صبح کافر
2210, 3076	قیامت کب آئے گی
2503	دجال کا فتنہ بڑا ہوگا
2439	قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے
2557	قیامت کی نشانی
3531	قرب قیامت فتنے ہوں گے
3474	قیامت کے دن بادشاہی اللہ کی ہے
3258	قیامت کے دن دھوکہ بازوں کا انجام
3289	کچھ لوگ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیرکمان سے نکلتا ہے
3295	مال فتنہ ہے

کتاب البر

2245, 2793	تحفہ واپس نہیں لینا چاہیے
2249	غریب لوگوں کی وجہ سے رزق بادش نازل ہوتی ہے
2255	والدین کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے
2259	حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حکمت والی باتیں

2266	کسی سے اجازت مانگتے وقت اپنا نام بتانا چاہیے
2268	وہ انسان اچھا ہے جس کے عمل اچھے اور عمر لمبی ہو
2278	آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا
2195	مشورہ امانت ہے
2187	تین مسجدوں کا ذکر
2149	کوئی کسی جگہ سے اُٹھے دوبارہ اس جگہ کا زیادہ حق دار ہے اگر واپس آئے تو
2153	مساکین اللہ کو پسند ہیں
2152	دنیا میں گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے
2139	گناہ پر پریشانی ہی گناہ کی بخشش کا سبب ہے
2111	غلام آزاد کرنا
2114	مومن مومن کیلئے شیشہ ہے
2122	جھوٹ بولنے والا اللہ کے ہاں بھی جھوٹا ہے
2138	اچھا خواب آنے پر اللہ کی تعریف اور بُرے خواب پر اللہ کی پناہ مانگنا
2215	اللہ کی رضا کیلئے مسجد بنانے کا ثواب
2217	تنگ دست کو مہلت دینے کا ثواب
2225	حضور ﷺ کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت
2239	حضور ﷺ کا لیٹنا
3139	عیب پر پردہ ڈالنا چاہیے
3167	جنت میں لے جانے والے کام
2353	غصہ نہ کرنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے
2354	قبلہ رخ بیٹھنے کا ثواب
2356	ماں باپ کا حق اولاد پر سب سے زیادہ ہے
2357	حضور ﷺ کی سنت

2358	لوگوں کے سامنے اپنی ضرورت چھپانے کا ثواب اور اللہ عزوجل سے محبت کا انعام
2389	حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو ایک وصیت
2390	مسجد حرام، بیت المقدس، مسجد نبوی کا ذکر
2391	تکبر سے کپڑا لٹکانے والے پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوگی
2786	اچھے اخلاق والے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے
3352	مسلمان بھائی سے نیکی کرنے کا ثواب
3135	مؤمن کو دوست بنانا چاہیے
3628	جو عورت اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے
3133	راستے سے تکلیف دہ شی دور کرنے کی وجہ سے ایک آدمی کی بخشش
3614	جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے
3615	قرض دے دینا چاہیے اگر پاس پیسے ہوں
3616	فیصلے تین طرح کے ہیں
3150	ماں باپ کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے
3682	زری اللہ کو پسند، سختی ناپسند
3610	آدمی کے نیک بخت اور بد بخت کون سی اشیاء ہیں؟
3612	عورت کی خوش قسمتی میں سے کون سی شئی ہے؟
3152	صلہ رحمی کا ثواب
3620	مرغ کو گالی نہیں دینی چاہیے
3621	جن حضرات کے لیے آسمان سے رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں
3141	حسن اخلاق والا دنیا و آخرت کی بھلائی سمیٹ لیتا ہے
3144	اہم باتیں
3350	حضور ﷺ کا ایک آدمی کے سلام کا جواب نہ دینا
3607	مسلمان کو تکلیف دینا دراصل اللہ کو تکلیف دینا ہے

3357	بغض اور حسد اللہ کو ناپسند ہیں
3452	جانوں کا مالک پر حق
3164	غلام آزاد کرنے کا ثواب
3165	یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے کا ثواب
3601	جو انسان دنیا سے چلا جائے اس کی اچھائیاں یاد کرنی چاہیے
3603	انگوٹھی پہننے کے متعلق
2401	جن تین آدمیوں پر اللہ کی نظر رحمت نہیں ہوتی ہے
2402	کتنے پیسے ہوں تو مانگنا جائز نہیں ہے
2756	جب حضور ﷺ کسی شی کو ناپسند کرتے تو ناپسندیدگی آپ کے چہرے سے معلوم ہو جاتی تھی
2403, 2748	پڑوسی کا مقام
2411	صلہ رحمی کرنے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے
2769	آدھی رات کو رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں
2377	گناہوں سے بچنا چاہیے
2339	جانور پر نڈے کسی کے درخت یا کھیتی سے کھائیں تو اس کا ثواب بھی ملتا ہے
2384	نیکی کی طرف دعوت دینے کا ثواب
2385	جب آدمی کسی عورت کو دیکھے تو اپنے گھر جائے
2392	پانی اور پھل دار درخت کے نیچے پیشاب نہیں کرنا چاہیے
2762	نیکی کا حکم دینا اور بُرائی سے منع کرنا چاہیے
2393	چغلی کرنا اور سننا گناہ ہے
2363	سخی اللہ کو پسند ہے
2779	اللہ کی رحمت کے حصے
2782	دنیا مومن کے لیے قید خانہ کافر کے لیے جنت
2376	اللہ عزوجل کی رحمت

2743	ایک خلیفہ کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ نہیں ہو سکتا ہے
2413	قبروں پر پھول ڈالنے سے میت کو ثواب ملتا ہے
2416	روم کے بادشاہ کا حضور ﷺ کو تحفہ دینا
2418	بیعت کا ذکر
2736	اگر کوئی کسی پر رحم کرتا ہے تو اللہ اس پر رحم کرتا ہے
2737	برے آدمی کے ذریعے دین کی خدمت لی جاسکتی ہے
2739	عورت اگر شوہر کے مال سے صدقہ کر لے تو دونوں کو ثواب ملتا ہے
2424	حضور ﷺ نے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے لیے اپنی چادر بچھادی
2428	ایک اہم بات
2429	اچھے اشعار سننا حضور ﷺ کی سنت ہے
2672	کون سا پڑوسی زیادہ حق دار ہے
2495	اشد سرمہ کی فضیلت
2676	کوئی نعمت ملے تو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے
2491	قرض ادا کرنا چاہیے
2502	اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے اللہ والے ہیں
2706	غیر محرم سے پردہ ہے
2455	کوئی کام شروع کیا تو چھپتا کر شروع کرنا چاہیے
2458	جس سے گفتگو کی جائے وہ بات امانت ہوتی ہے
2704	جس کے متعلق چالیس آدمی گواہی دیں تو ان کی اللہ عزوجل ان کی گواہی قبول کرتا ہے
2460	مؤمن کو پسینہ آنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں
2463	جو کسی پر نیکی کرے تو اس کو دینے کے لیے کوئی شئی نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے
2436	کنکھی کرنے کے متعلق
2715	جس شئی کا حضور ﷺ نے حکم دیا اس کو کرنا چاہیے

2766, 2787	برانا م بدل دینا چاہیے
2449	ماں باپ سے نیکی کرنی چاہیے
2450	جن لوگوں کو ہدیہ دیا جائے اس میں وہ برابر کے شریک ہیں
2453	رحمت صرف بد بخت سے لی جاتی ہے
2693	جس کے پاس صدقہ دینے کے لیے مال نہ ہو وہ ایمان والوں کیلئے دعا کرے تو صدقہ کا ثواب ہوگا
2481	بعض اشعار حکمت والے ہوتے ہیں
3422	طا عون کیا ہے؟
3423	کسی کو جان بوجھ کر قتل کرنے والے کی توبہ قبول نہیں ہے
3386	گھر میں کوئی آئے تو اطلاع کر کے آئے
2590	کسی کو دودھ دینے والا جانور دینے کا ثواب
2592	بھوکے کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کا ثواب
2603	وہی قبول ہوگا جو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا
2604	مہمان نوازی صرف تین دن ہے
2582	حضور ﷺ رخصت پر عمل کرتے تھے
2616	چندہ عیدین کے موقع پر حضرت بلال اکٹھے کیا کرتے تھے
2617	مال کی حفاظت میں قتل ہونے والے کو ثواب ملے گا
2618	پڑوسی کا خیال رکھنا چاہیے
2579	معاف کر دینے کا ثواب
2598	ایک لونڈی کو آزاد کرنے کا واقعہ
2602	حضور ﷺ کا ایک آدمی کو بلانا
2440	جو کوئی کسی کے پاس ہو وہ کھانے پینے کے لیے دے وہ لے لے
3399	مخلوق کو عذاب دینا جائز نہیں ہے
3395	دوستی اور بغض ایک حد تک ہونا چاہیے

3396	دھوکا نہیں کرنا چاہیے
3655	لبہن پیاز کھا کر مسجد میں آنا درست نہیں ہے
3107	جمعہ کے دن ورات کو مرنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہے گا
3110	مانگ نکالنا سنت ہے
3648	دل میں آنے والے وسوسہ کا گناہ نہیں ہے
3643	جنت کا طالب سوتا نہیں ہے
3120	انسان کی زندگی عمل و رزق وغیرہ لکھے جا چکے ہیں
3121	دین پر ثابت قدمی کا ثواب
3359	جو انسان اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ اس کی مشکلات دور کرتا ہے
3360	چھینک کے وقت بات سچی ہوتی ہے
3652	جب دو آدمی آپس میں گفتگو کر رہے ہوں تو وہاں ان کی اجازت کے بغیر بیٹھنا جائز نہیں ہے
3653	جب انسان کے پاس دولت ہو تو اپنے اوپر خرچ کرنی چاہیے
3380	اللہ عزوجل کی عزت
3434	اگر انسان کو حقیقت معلوم ہو جائے تو کھانا پینا چھوڑ دے
3377	مسلمان کو خوشی دینے کا بیان
3371	چھینک کا جواب دینا
3372	بچہ کا عقیقہ کرنا چاہیے
3436	کسی کا نام معلوم نہ ہو تو اس کو عبد اللہ کے نام سے بلانا چاہیے
3641	پیشاب کرتے وقت کسی کو سلام کرنا درست نہیں ہے
3126	اچھے اخلاق کا ثواب
3680	کسی کی شرمگاہ دیکھنا جائز نہیں ہے
3070	مخلوق خدا پر رحم کرنے سے اللہ رحم کرتا ہے
3657	امانت کے متعلق

3668	اولاد کے لیے سب سے اچھی وراثت ادب سکھانا ہے
3205	ملک شام کے متعلق
3210	سلام کی برکت
3211	حضور ﷺ کا اپنی ازواج سے گفتگو
3563	آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا
3684	عورت اپنے شوہر کی اجازت سے صدقہ کر سکتی ہے
3568	فرشتے ہمہ وقت اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں
3217	راستہ سے تکلیف دہ شی اٹھانے کا ثواب
3558	اذان اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اذان اور تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھیں گے
3580, 3582	اللہ کا شکر یہ وہ کرتا ہے جو لوگوں کا شکر یہ ادا کرتا ہے
3589	کون سے اعمال افضل ہیں؟
3189	جو مال بغیر طمع لالچ کے ملے وہ لے لینا چاہیے
3579	امیر لوگوں کے مال میں غریبوں کا حصہ ہے
3575	جس نے میت کا کوئی عیب چھپایا
3576	ایک جامع حدیث
3577	کسی مسلمان کے ساتھ نیکی میں مدد کرنا
3197	بلی کو باندھ کر بھوکا مارنے والی کا انجام
3594	کسی کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب
3595	امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے
3590	جانور ذبح کرتے وقت چھری تیر کرنی چاہیے
3591	ہمسایہ کا حق
3174	کسی کو کھانا کھلانے کا ثواب
3176	پچھنا کا حکم

3175	ردی شی اٹھانے کا حکم
3177	کسی نعمت کے چلے جانے کا ثواب
3180	اچھی خواب آئے تو
3181	غلام آزاد کرنے کا ثواب
3218	اللہ اکبر کہنے کے متعلق
3220	آرام سے کام کرنا چاہیے
3556	رشتے دار کو صدقہ دینے کا ثواب زیادہ ہے
3225, 3669	حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی وصیت
3228	جب اللہ کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو آزما تا ہے
3549	ایک بادشاہ کا حضور ﷺ کو تحفہ دینا
2308, 2309	اگر کسی سے غلطی ہو وہ اللہ سے معافی مانگے
2310	ماں باپ کی خدمت جہاد ہے
2311	حیاء سب سے بڑی شئی ہے
2840	حضور ﷺ کی عاجزی
2843	اسلام کبجوسی ختم کرتا ہے
2850	ثنیۃ المرار پر چڑھنے کا ثواب
2810	بکریوں والوں میں وقار و سکون ہے
2339	کسی مسلمان کو تنگ کرنے سے اللہ ناراض ہوتا ہے
2341	کنز و آدمی کو مارنا جائز نہیں ہے
3087	حضور ﷺ کی مسجد سے محبت
3088, 3522	گھوڑے کی عظمت
3082	ہر کام آرام سے کرنا چاہیے
3075	ان شاء اللہ کہنے سے قسم پر کفارہ نہیں ہے

3078	اتنی عبادت کرنی چاہیے جتنی وہ کر سکے
3072	کوئی کام کرے تو خاموشی سے کرے
3102	آزمائش پر صبر کرنے کا ثواب
3103	عافیت کا ثواب
3104	جن تین آدمیوں کی گواہی قبول نہیں ہے
3080, 3100	پڑوسی کے حقوق
3101	جب بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا عمل ہوتا ہے
3665	اللہ کا خوف دل میں رکھنے کی وجہ سے بخشش ہوئی
3094	تین آدمی اللہ کی ضمانت میں ہوتے ہیں
2825	دائیں ہاتھ سے کام کرنے سے حافظہ مضبوط ہوتا ہے
2826	پڑوسی کے متعلق
2317, 3233	جو مسلمان حالت صحت میں نیک عمل کرتا تھا بیماری میں اس کو اس کا ثواب ملتا ہے
2294	اللہ کی رحمت سے ہر کوئی نجات پاسکتا ہے
2295	اللہ عزوجل کے اسماء مبارک یاد کرنے سے جنت ملتی ہے
2298	اچھا اعمال کرنے والا اللہ کو پسند ہے
2835	تین کام اللہ کو ناپسند ہیں
2648	بڑی عمدہ عمدہ باتیں
2522	لیلۃ القدر کس رات میں ہے
2525, 2526	گالیاں دینا گناہ ہے
2518	ہر بندے کے تین دوست ہوتے ہیں
2657	اچھا کام ایجاد کرنے کا ثواب ملے گا بڑا کام ایجاد کرنے والے کو گناہ ملے گا
2513, 2515	جس کے متعلق اچھائی کی گواہی دیں تو عند اللہ بھی اچھا لکھا جاتا ہے
2511	نب برائی عام ہو تو عذاب نازل ہوتا ہے

2514	مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہیے
2634	حضور ﷺ کا گفتگو کرنے کا طریقہ
2637	مؤمن کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے
2540	تین باتیں جس میں ہوں وہ جنتی ہے
2541	رب بڑا کریم ہے
2542	جہنم سے چھٹکارے کے لیے کوشش کرنی چاہیے
2543	کامل مسلمان کون ہے؟
2640	محنت مزدوری کر کے رزق کمانا بڑی عبادت ہے
2535	حضرت انس رضی اللہ عنہ کے بھائی ابو عمیر سے حضور ﷺ کا مذاق کرنا
2530	ایک خطبہ کے الفاظ
2529	بُرے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے
2806	عشاء کے بعد دنیوی گفتگو منع ہے
2807	عورت گھر کے اندر رہے تو یہ اس کے لیے جہاد ہے
2808	نیکیوں والی باتیں
2804	حق بات کہنی چاہیے
2347	خط لکھنے کا طریقہ
2348	نیکی کے کام میں شریک ہونا چاہیے
2800	اللہ عزوجل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے
2350	اللہ سے ڈرنا چاہیے
2561	غلام آزاد کرنے کا ثواب
2671	بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کے متعلق چار چیزیں لکھی جاتی ہیں
2559	نیک اعمال اس وقت قبول ہوں گے جب مسلمان ہو
2664	غصہ کی حالت میں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے

3452	جانور کا حق بھی ہے
3339, 3340	صلہ رحمی کرنے کا ثواب
3334	اشد سرمہ کی فضیلت
3537, 3538	صلہ رحمی کرنے کے فوائد
3534	ماں باپ کا حق
3535	زری اللہ کو پسند ہے
3530	مؤمن کو ہرنیکی کے کام پر ثواب ملتا ہے
3251	اگر کوئی کسی عورت کو دیکھے تو اپنے گھر جائے
3546	کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہونے والے کے لیے جنت ہے
3232	کون سی شئی کس دن پیدا ہوئی اور کس وقت
3321, 3339	جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے
3332	ہر پرہیزگار حضور ﷺ کی آل ہے
3469	میت کا قرض ادا کرنا چاہیے
3470	اللہ بڑا رحیم کریم ہے
3472	انسان کو مرنے کے بعد تین چیزوں کا ثواب ملتا ہے
3324	جس کے تین نابالغ بچے فوت ہو جائیں
3423	انسان کا دل دولت سے نہیں بھرتا ہے
3254	مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے
3255	قرض اچھی طرح ادا کرنا چاہیے
3524	قرض قیامت کے دن بھی دینا پڑے گا
3257	دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے
3259	اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنانے کا ثواب
3513, 3514	وعدہ قرض ہے

3515	اخلاص والادب
3520	رزق حلال کھانے والا جنتی ہے
3496	اچھے نام سے پکارنا چاہیے
3498	قرض صدقہ ہے
3294	دم کرنا جائز ہے
3492	جس کی آنکھ کی بینائی چلی جائے اس کا ثواب جنت
3296	کسی کو دودھ دینے والا جانور دینا بڑا صدقہ ہے
3298	جس بندے کو مرنے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق ملے وہ اچھا آدمی ہے
3265	کچھ اشعار
3772	حضرت ابو طلحہ اور ان کی بیوی کا ایثار یعنی خود بھوکے رہ کر مہمان کو کھانا کھلایا
3509	سورۃ یسین اللہ کی رضا کے لیے پڑھنے کا ثواب
3505	مالک سواری پر آگے بیٹھنے کا زیادہ حق دار ہے
3279	رشتے دار کو صدقہ دینے کا زیادہ ثواب
3500	لوگوں کی مثال
3286	عورتوں کے لیے پردہ افضل ہے

کتاب اللباس

3168	جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ریشم اور سونا نہیں پہنتا
2420	ریشم پہننا ناجائز ہے
2695	زرد رنگ منع ہے
3457	شلوار گھٹنوں سے اوپر رکھنی چاہیے
3471	سفید کپڑے پہننے چاہیے

کتاب الحدود

2261	چور کا ہاتھ کتنا مال چوری کرنے پر کاٹنا چاہیے
------	---

2284

حدود اللہ میں سفارش جائز نہیں ہے

2681

رجم کرنے کے متعلق

2553, 3438

چور کا ہاتھ کب کاٹا جائے گا

3462

زانیہ کی کمائی حرام ہے

3320

متعد حرام ہے

3491

غلام کی حد

کتاب الاضحیۃ

3156

گائے میں سات آدمی شریک ہو سکتے ہیں قربانی کرنے کے لیے

2421

قربانی کا دن اللہ کو پسند ہے

3086, 3127

قربانی کا گوشت رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے

3578

جن جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے

3191

صحابہ کرام حضور ﷺ کے ساتھ قربانی کرتے

3597

قربانی کے دن تین دن ہیں

2509

قربانی کرنے کا ثواب

3527

حضور ﷺ کے زمانہ میں گائے کی قربانی ہوتی تھی

3315

نحر کا دن عید کا ہے

3308

قربانی نماز کے بعد ہے

کتاب متفرق المسائل

2188

حضور ﷺ نے پچھنا لگایا

2186

جو بھی قتل ہوگا اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے کو ملے گا

2168

جو کھیل جائز ہیں

2162

سورج و چاند گرہن

2146

برا خواب دیکھے تو تین دفعہ تھو کے

2143	رخسار پیٹنا گریبان پھاڑنا منع ہے
2134, 2136	جانوروں کو باندھ کر نشانہ بازی کرنا منع ہے
2103	چار چیزیں سنت ہیں
2113	سانپ مارنے کی فضیلت
2203	گواہ کے متعلق
2207	اللہ کا غضب کس پر ہے
2208	گم شدہ شی ملنے کے متعلق
2228	ذی الحجہ کے چاند کے متعلق
3599	ایک اہم واقعہ
2787	شوقیہ کتار کھنے والے کا ثواب کم ہوتا ہے
3357, 3629	ٹھیکری یا کنکری کسی کو نہیں مارنی چاہیے
3683	نسب بدلنے والا جہنمی ہے
3606	ماں کا ذبح بچہ کا ذبح ہے
3604	سونا مردوں پر حرام
2407	مردار پٹھوں سے نفع اٹھانا ناجائز ہے
2776	جب کمینے لوگ مسلط ہو جائیں تو کیا کیا جائے؟
2772, 3483	جس گھر میں تصویر اور کتا ہو اس گھر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں
2729	غلط فیصلہ کرنے والے کا انجام
2730	حکمرانوں کی چالپوسی کرنے والوں کا انجام
2423	خیانت بڑا گناہ ہے
2493	منہ پر تعریف نہیں کرنی چاہیے
2677	نیک لوگ چلے جائیں گے، کمینے لوگ رہ جائیں گے
2676	جو قاضی بنا اس کو گویا بغیر چھری کے ذبح کیا گیا

2605	مسجد میں کسی شی کا اعلان کرنا جائز نہیں ہے
2456	اگر ذبح کرنے کے لیے کوئی شی نہ ہو تو حالت مجبوری میں جس سے خون نکل جائے اس سے ذبح جائز ہے
2457, 3412	گھر میں تصویریں نہیں رکھنی چاہیے
2703	منکر نکیر کے نام
2464	ذخیرہ اندوزی گنہگار ہی کرتا ہے
2435	درہم کے متعلق
2685, 2719	کالے کتے کو مارنے کے متعلق
2722	آدمی کما سکتا ہو تو اس کو مانگنا جائز نہیں ہے
2441	حرم کا درخت کاٹنے کے متعلق
2443	جن تین آدمیوں کی طرف اللہ نظر رحمت نہیں کرتا ہے
2446	دنیا سے کسی کا پیٹ نہیں بھرتا ہے
2712	منافقت بدترین شی ہے
2432	حلال و حرام واضح ہیں
2434, 2689	ملک شام کی فضیلت
2483	جانور کو باندھ کر مارنا جائز نہیں ہے
2484	کسی کی زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں کا انجام
2486	بچہ کی بیعت نہیں ہے
2496	گم شدہ شی کا اعلان کرنا چاہیے
3391	جو شے مقدر میں ہے وہ ملے گی
3424	پچھنا لگوانا
3389	دھوکہ کرنے والے کا انجام
2583	عزہ قبیلہ کے متعلق
2575	بڑا گناہ کون سا ہے

2778	کافر ماں باپ پر فخر نہیں کرنا چاہیے
2666	دین پر تکالیف آزمائش آتی ہیں صبر کرنا چاہیے
2612	کوئی آدمی یہ نہ کہے: میرا نفس پلید ہے
2610	کسی سے لاتعلقی تین دن سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے
2611	رضاعت کب ثابت ہوگی؟
2593	ہر ایک کے ساتھ سرکش جن ہے
2595	دنیا کے لالچی انسان کے لیے ہلاکت ہے
2620	گریبان پھاڑنا، بال نوچنا، کپڑے پھاڑنے کا تعلق اسلام سے نہیں ہے
2565	حکومت نہیں مانگنی چاہیے اگر بغیر مانگے مل جائے تو لے لینی چاہیے
3656	قاضی بننے کا عذاب
3647	جب بڑے لوگ زیادہ ہوں تو عذاب اترتا ہے
3647	مشرق میں لوگ دھنسیں گے
3442	مجوسی اہل کتاب ہیں
3367	کھیتیاں کاٹنے کا حکم
3369	دنیا میں ظلم کرنے والوں کا انجام
3447	متعہ حرام ہے
3638	کوئی عورت تین دن سے زیادہ سفر اپنے محرم کے بغیر نہ کرے
3679	عزل عورت کی اجازت سے کرنے کا بیان
3572	ناجانہ طور پر کسی کی شی کو کھانے کا انجام
3203	دباغت چمڑے کو پاک کر دیتی ہے
3204	ایمان والا زنا نہیں کرتا ہے
3213	غیبت کرنے کا انجام
3584	پچھنا لگانے کے متعلق

3198	خودکشی کرنے والے کا انجام
3589	اہل مدینہ پر ظلم کرنے والوں کا انجام
3581	مدینہ والوں پر ظلم کرنے والے کا انجام
3548	تکبر کرنے والے کا انجام
3550	حضور ﷺ انگلی سے اشارہ کر کے احدا حد کہتے تھے
2841	جمعرات کو سفر کرنا اچھا ہے
2306	حالت عذر میں کھڑا ہو کر پانی پینا جائز ہے
3081	قبر کتنی اونچی ہونی چاہیے
3674	تلوار کے متعلق
3675	عورتیں بڑا فتنہ ہیں
3073	عورتوں پر پردہ لازم ہے
2817	اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ اشیاء کو حلال کرنا
2818	نسب کا بدلنا کفر ہے
2819	سانپ کو مارنا چاہیے
3099	زندہ جانور کا گوشت کا شامع ہے
2823	زنا حرام ہے
2319	بالوں والی جوتی پہننے کے متعلق
2314	فیصلہ ظاہر پر ہوتا ہے
2650	جانور گم ہو جائے تو اس کے متعلق تفصیل
2524	کافروں کے تحفہ کو قبول نہیں کرنا چاہیے
2528	ستاروں کے ذریعے بارش کا اندازہ لگانا جاہلیت ہے
2529	بڑے اعمال سے پرہیز کرنا چاہیے
2635	عزل کرنے کے متعلق

2551	معادہ توڑنے کا انجام
2641, 2643	ناحق کسی کا حق کھانے والے کا انجام
2343	احساسِ کتری کا شکار ہونا ناجائز ہے
2799	اپنے آقا کو بدلنے والے کا انجام
2351	ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ عمدہ کپڑے اور مشروبات پیئیں گے، شوخ گفتگو کریں گے
2352	حالتِ سفر میں ضرورت کی اشیاء ساتھ لے جانی چاہیے
2662	یہود قوم شرارتی ہے
3459, 3460	ایک زخمی آدمی کا مقدمہ
3543	خارجیوں کے متعلق
3539	قیامت کے متعلق
3481	جو لوگوں کے کاموں کا امیر بندے اس کے لیے عذاب
3316	انسان کے مختلف درجات
3547	بری بدعت ایجاد کرنے کا گناہ
3237	والدین کی نافرمانی کبیرہ گناہ ہے
3327	لوگوں کی مثال
3256	حضور ﷺ مالِ غنیمت سے خمس لیتے تھے
3267	سکھائے ہوئے کتے سے شکار کرنا
3519	زمین کے متعلق
3497	جو انسان کو ملنا ہے اس کو کوئی روک نہیں سکتا ہے
3300	حالتِ حیض میں عورت سے جماع کرنے کا نقصان
3504	جانور کو باندھ کر نشانہ لگانا ناجائز ہے



فہرست (بلحاظ حروف تہجی)

صفحہ	عنوانات
61	☆ احمد بن زہیر التستری
104	☆ أَحْمَدُ بْنُ زَكَرِيَّا شَادَانُ
107	☆ أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ
109	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ
110	☆ احمد بن عبد الکریم العسکری
112	☆ أَحْمَدُ بْنُ فَاذِكِ التُّسْتَرِيِّ
113	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبَرَائِيِّ
115	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْبُورَانِيِّ
121	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الْمَرِّيِّ
134	☆ احمد بن ابراہیم بن کیسان
136	☆ أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ السَّجِسْتَانِيِّ
139	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُجَاهِدِ الْقَطَّانِ
141	☆ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ
143	☆ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدَّمَشْقِيِّ
148	☆ أَحْمَدُ بْنُ شَاهِينَ الْبَغْدَادِيِّ
149	☆ أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلِ الْوَسَّاسِيِّ
157	☆ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ الشَّعِيرِيِّ
158	☆ بَابُ مَنْ اسْمُهُ إِبرَاهِيمُ

- 452 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ الشَّيرَازِيِّ
- 457 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ يُوْسُفِ الْبِرَازِ
- 458 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ بُنْدَارِ الْأَصْبَهَانِيِّ
- 461 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمِ الدِّمَشْقِيِّ
- 463 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ الْعَزَّالِ
- 465 ☆ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى التَّوَزِيِّ
- 469 ☆ مَنِ اسْمُهُ اسْمَاعِيلُ
- 475 ☆ مَنِ اسْمُهُ اسْحَاقُ
- 490 ☆ اسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ الْوَاسِطِيِّ
- 493 ☆ اسْحَاقُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّهَّانُ
- 495 ☆ اسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ
- 499 ☆ اسْحَاقُ بْنُ جَمِيلِ الْأَصْبَهَانِيِّ
- 501 ☆ مَنِ اسْمُهُ إِدْرِيسُ
- 503 ☆ مَنِ اسْمُهُ أَيُّوبُ
- 504 ☆ مَنِ اسْمُهُ أَنَسُ
- 506 ☆ مَنِ اسْمُهُ أَبَانُ
- 507 ☆ مَنِ اسْمُهُ أَسْلَمُ
- 512 ☆ مَنِ اسْمُهُ الْأَحْوَصُ
- 518 ☆ مَنِ اسْمُهُ أَزْهَرُ
- 520 ☆ مَنِ اسْمُهُ الْأَسْوَدُ
- 521 ☆ مَنِ اسْمُهُ أُسَامَةُ

بَابُ الْبَاءِ

- 522 ☆ مَنِ اسْمُهُ بَشْرُ
- 531 ☆ مَنِ اسْمُهُ بَكْرُ
- 640 ☆ مَنِ اسْمُهُ بَشْرَانُ
- 641 ☆ مَنِ اسْمُهُ بُجَيْرُ
- 643 ☆ مَنِ اسْمُهُ بَالَهُ نَهْ

- 644 ☆ مَنِ اسْمُهُ بُهْلُولٌ
- 645 ☆ مَنِ اسْمُهُ الْبَحْتَرِيُّ
- 646 ☆ مَنِ اسْمُهُ بَدْرٌ
- 647 ☆ مَنِ اسْمُهُ بُلْبُلٌ
- بَابُ التَّاءِ**
- 648 ☆ مَنِ اسْمُهُ تَمِيمٌ
- بَابُ التَّاءِ**
- 649 ☆ مَنِ اسْمُهُ ثَابِتٌ
- بَابُ الْجِيمِ**
- 651 ☆ مَنِ اسْمُهُ جَعْفَرٌ
- 681 ☆ مَنِ اسْمُهُ جَبِيرٌ
- 683 ☆ مَنِ اسْمُهُ جَبْرُونٌ
- بَابُ الْحَاءِ**
- 685 ☆ مَنِ اسْمُهُ الْحَسَنُ
- 715 ☆ مَنِ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ
- 733 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَسَنُونٌ
- 734 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَبَابٌ
- 736 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَبَابٌ
- 738 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَاجِبٌ
- 739 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَمَلَةٌ
- 740 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَمِيدٌ
- 741 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَمْدٌ
- 742 ☆ مَنِ اسْمُهُ حُدَاقِيٌّ
- 743 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَمْرَةٌ
- 746 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَجَّاجٌ
- 748 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَفْصٌ
- 756 ☆ مَنِ اسْمُهُ حَاتِمٌ

757	☆	مِنْ اسْمِهِ حُوَيْتٌ
758	☆	مِنْ اسْمِهِ حَبُوشٌ
760	☆	مِنْ اسْمِهِ حَامِدٌ
761	☆	مِنْ اسْمِهِ حَكِيمٌ
762	☆	مِنْ اسْمِهِ الْحَكَمُ
763	☆	مِنْ اسْمِهِ حَمْدَانُ

بَابُ الْخَاءِ

764	☆	مِنْ اسْمِهِ خَلْفٌ
773	☆	مِنْ اسْمِهِ خَضِرٌ
774	☆	مِنْ اسْمِهِ خَالِدٌ
776	☆	مِنْ اسْمِهِ خَيْرٌ
780	☆	مِنْ اسْمِهِ خَطَابٌ

بَابُ الدَّالِ

781	☆	مِنْ اسْمِهِ دَاوُدُ
784	☆	مِنْ اسْمِهِ دُكَيْلٌ

بَابُ الذَّالِ

785	☆	مِنْ اسْمِهِ ذَاكِرٌ
-----	---	----------------------

بَابُ الرَّاءِ

787	☆	مِنْ اسْمِهِ رَوْحٌ
794	☆	مِنْ اسْمِهِ رَجَاءٌ

بَابُ الزَّايِ

795	☆	مِنْ اسْمِهِ زَكْرِيَّا
799	☆	مِنْ اسْمِهِ زَيْدٌ
800	☆	مِنْ اسْمِهِ زُبَيْرٌ

بَابُ السَّيْنِ

801	☆	مِنْ اسْمِهِ سَعْدٌ
802	☆	مِنْ اسْمِهِ سَعْدُونَ

803	☆ مَنِ اسْمُهُ سَعِيدٌ
814	☆ مَنِ اسْمُهُ سَهْلٌ
818	☆ مَنِ اسْمُهُ سَلَمَةٌ
822	☆ مَنِ اسْمُهُ سَلَامَةٌ
824	☆ مَنِ اسْمُهُ سَلِيمَانُ
830	☆ مَنِ اسْمُهُ سَلَمٌ
831	☆ مَنِ اسْمُهُ سَيْفٌ

بَابُ الشَّيْنِ

833	☆ مَنِ اسْمُهُ شَعِيبٌ
835	☆ مَنِ اسْمُهُ شَبَابٌ
836	☆ مَنِ اسْمُهُ شَرَّاحِيلُ
837	☆ مَنِ اسْمُهُ شَيْبَانُ

بَابُ الصَّادِ

838	☆ مَنِ اسْمُهُ صَالِحٌ
-----	------------------------

بَابُ الضَّادِ مُهْمَلٌ

بَابُ الطَّاءِ

842	☆ مَنِ اسْمُهُ طَالِبٌ
846	☆ مَنِ اسْمُهُ طَاهِرٌ
850	☆ مَنِ اسْمُهُ طَيٌّ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورج غروب ہونے تک عصر کے بعد اور سورج طلوع ہونے تک صبح کے بعد کوئی (نفل) نماز (پڑھنا جائز) نہیں ہے اور عیدین کے دن روزہ جائز نہیں ہے کوئی عورت تین راتیں سفر نہ کرے مگر اس کا شوہر یا محرم اس کے ساتھ ہو اور سواریاں نہ باندھی جائیں مگر تین مساجد کی طرف (۱) مسجد حرام (۲) مسجد نبوی (۳) مسجد اقصیٰ۔

یہ حدیث تقسیم مولیٰ عمارہ سے صرف ابان بن صالح ہی روایت کرتے ہیں اور ابان سے صرف ابن اسحاق ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم اپنے سجدوں میں میانہ روی کرو اور تم میں کوئی سجدہ کی حالت میں کتے کی طرح کلاسیاں نہ بچھائے اللہ کی قسم! میں اپنی پشت کے پیچھے سے بھی تم کو دیکھتا ہوں جب تم سجدہ اور رکوع

2101 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَا عَمِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبِي؛ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ قُسَيْمًا، مَوْلَى عُمَارَةَ بْنِ عُتْبَةَ حَدَّثَهُ، أَنَّ قَزْعَةَ، حَدَّثَتْهُ، أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ حَدَّثَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ. وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ. وَلَا صِيَامَ يَوْمَ الْعِيدَيْنِ. وَلَا تَسَافِرُ امْرَأَةً فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ عَلَيْهَا. وَلَا تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُسَيْمٍ مَوْلَى عُمَارَةَ إِلَّا أَبَانُ بْنُ صَالِحٍ، وَلَا عَنْ أَبَانَ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ.

2102 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللّٰهِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَا عَمِي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اعْتَدِلُوا فِي سُجُودِكُمْ، وَلَا يَفْتَرِشْ أَحَدُكُمْ ذِرَاعِيهِ افْتِرَاشَ

2101- أخرجه أحمد في المسند جلد 3 صفحہ 56 رقم الحديث: 11432 .

2102- أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 351 رقم الحديث: 822؛ وأبو داؤد فی الصلاة جلد 1 صفحہ 235 رقم

الحديث: 897؛ والترمذی فی الصلاة جلد 2 صفحہ 66 رقم الحديث: 176؛ والنسائی فی التطبيق جلد 2

صفحہ 169 (باب الاعتدال فی السجود)؛ وابن ماجه فی الإقامة جلد 1 صفحہ 288 رقم الحديث: 892؛ وأحمد

فی المسند جلد 3 صفحہ 342 رقم الحديث: 13981 .

الْكَلْبِ فِي السُّجُودِ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ وَرَاءِ
ظَهْرِي إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ

کرتے ہو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكَ إِلَّا يَعْقُوبُ
بْنُ إِبْرَاهِيمَ

یہ حدیث شریک سے صرف یعقوب بن ابراہیم ہی
روایت کرتے ہیں۔

2103 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت
بریرہ رضی اللہ عنہا کے معاملہ میں چار چیزیں سنت ہیں:
(۱) ان کے شوہر نے ان کو طلاق دی تھی (۲) ان کا شوہر
غلام تھا (۳) تو نبی کریم ﷺ نے ان کو اختیار دیا تھا اور
ان کو آزاد کی عدت گزارنے کا حکم دیا تھا اور (۴) رسول
اللہ ﷺ آئے تو آپ نے فرمایا: کیا تمہارے پاس ہمیں
کھلانے کے لیے کوئی شے ہے؟ تو انہوں نے عرض کی:
نہیں! مگر گوشت سے کوئی شے باقی ہے جو بریرہ پر صدقہ
کیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ہمارے لیے ہدیہ
کرنے آپ نے فرمایا: وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور
ہمارے لیے ہدیہ ہے۔ پس آپ نے اس سے کھایا اور
اس کے موالیوں پر شرط لگائی کہ وہ اس کو فروخت نہ کریں
آپ نے فرمایا (حضرت عائشہ سے) اس کو خرید اور آزاد
کردے کیونکہ ولاء ان کے لیے ہوگی، ولاء اس کے لیے
ہے جس نے (آزاد کرنے کے لیے) مال دیا۔

بَشِيرٍ، أَخُو أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ لَأُمِّهِ قَالَ: نَا حَمَّادُ
بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ فِي بَرِيرَةَ أَرْبَعَةٌ مِنَ السَّنَةِ:
طَلَّقَهَا زَوْجَهَا، وَكَانَ عَبْدًا، فَخَيَّرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَرَهَا أَنْ تَعْتَدَ عِدَّةَ الْحُرَّةِ وَدَخَلَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ
عِنْدَكُمْ شَيْءٌ تَطْعَمُونَا؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا شَيْءٌ مِنْ لَحْمٍ
تُصَدِّقُ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ، أَهْدَنُ لَنَا، فَقَالَ: هُوَ عَلَيَّهَا
صَدَقَةٌ، وَلَنَا هَدِيَّةٌ، فَكُلْ مِنْهَا وَاشْتَرِطْ مَوَالِيَهَا أَنْ
لَا يَبِيعُوهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْوَلَاءُ لَهُمْ، فَقَالَ: اشْتَرِيهَا
وَاعْتِقِيهَا، فَإِنَّ الْوَلَاءَ لِمَنْ أَعْطَى الْمَالَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُدَيْرٍ إِلَّا
حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ

یہ حدیث عمران بن حدیر سے صرف حماد بن مسعدہ
ہی روایت کرتے ہیں۔

2104 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم آپس میں

شَاهِينَ الْوَأَسْطِي قَالَ: نَا هُشَيْمٌ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ

2103- تقدم تخريجه .

2104- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 172 .

قرآن کا دور جاری رکھو! اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ سینوں سے نکلنے میں اتنا تیز ہے کہ جتنا باندھا ہوا اونٹ اپنے باندھنے والی جگہ سے بھاگتا ہے۔

اسے عوف سے صرف ہشیم ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں اسحاق بن شاہین اکیلے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے۔

یہ حدیث عمران قصیر سے صرف حماد بن مسعدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا: کون سا اسلام افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان کی زبان و ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، عرض کی گئی: کون سا جہاد افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس میں اس سواری کی کوچیں کاٹ دی جائیں اور اس کا خون بہا دیا جائے۔ عرض کی گئی: کون سی نماز افضل ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: لمبا قیام والی۔

یہ حدیث عمش سے صرف ابن ابی غنیہ ہی روایت کرتے ہیں۔

الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْإِبِلِ الْمُعَقَّلَةِ إِلَىٰ أَعْطَانِهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا هَشِيمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ شَاهِينَ

2105 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو الرَّبِيعِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مَعْدَانَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ تَعْدِلُ ثُلُثُ الْقُرْآنِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ الْقَصِيرِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ

2106 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا خَلَادُ بْنُ يَزِيدَ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَاثِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سُئِلَ: أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ قَيْلٌ: وَأَيُّ الْجِهَادِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: مَنْ عَقَرَ جَوَادُهُ، وَأَهْرَيْقَ دَمُهُ قَيْلٌ: فَأَيُّ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: طُولُ الْقُنُوتِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا ابْنُ أَبِي غَنِيَّةَ

حضرت مسروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، آپ سے عرض کی گئی: ایک آدمی کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اس کا حق مہر مقرر نہیں کرتا اور اس عورت سے دخول کرنے سے پہلے وہ فوت ہو جائے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے اس حوالہ سے کوئی شے نہیں سنی ہے مجھے آپ اس معاملہ میں مہلت دو تم پھر میرے پاس آنا۔ پس وہ چلے گئے پھر آپ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: میں اپنی طرف سے بہتر بات کہتا ہوں کہ اگر وہ درست ہوئی تو اللہ نے مجھے توفیق دی ہے اور اگر غلطی ہوئی تو میری طرف سے ہوگی، میری رائے یہ ہے کہ اس کے لیے عورتوں کی مثل مہر ہوگا، اس میں کمی یا زیادتی نہیں کی جائے گی، اور اس کے لیے میراث اور عدت بھی ہو گی۔ تو حضرت معقل بن سنان اشجعی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: وہ نبی کریم ﷺ کے ساتھ موجود تھے انہوں نے آپ کا فیصلہ سنا تھا جو آپ نے ایک عورت سے متعلق کیا تھا، وہ آپ کے فیصلہ کی ہی طرح تھا، ان میں ایک عورت کے علاوہ جس کو بروع بنت واشق کہا جاتا تھا۔

یہ حدیث اسماعیل بن ابی خالد سے صرف محمد بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو عبد الرحمن اسلمی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ماہ تک آتی رہی، آپ ہر دفعہ اس کو واپس

2107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَثْمَانَ بْنَ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ ذَلْهَمِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلَ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ، وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا، وَتَوَفَّى عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَقَالَ: مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرَ فِي ذَلِكَ، فَارْجِعُوا، ثُمَّ اتَّوَهُ، فَقَالَ: سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللَّهُ وَفَقِينِي، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قَبْلِي: أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا، لَا وَكُحْسٍ وَلَا شَطَطٍ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ. فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانَ الْأَشْجَعِيُّ: هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِاللَّذَى قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهَا: بَرُوعُ بِنْتُ وَاشِقِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

2108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا عَطَاءُ بْنُ

کرتے رہنے اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس نے اس کے لیے حق مہر مقرر نہیں کیا تھا، تو حضرت عبداللہ نے فرمایا: میں اپنی طرف سے کہتا ہوں کہ اگر وہ درست ہوا تو اللہ کی طرف سے ہے اور اگر غلط ہوا تو ابن ام عبد کی طرف سے ہے اس کے لیے اسی کی عورتوں کی مثل مہر ہوگا، اس کے لیے میراث بھی ہوگی (اولاد نہ ہونے کی صورت میں) چوتھا (اولاد ہونے کی صورت میں) یا آٹھواں حصہ وہاں رسول اللہ ﷺ کے اصحاب میں سے قبیلہ اشجعی کا ایک آدمی تھا اس نے کہا: میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی کریم ﷺ نے ہم میں سے ایک عورت کا بھی فیصلہ کیا تھا جو آپ نے کیا اس عورت کا نام بروع بنت واشق تھا۔

یہ حدیث عطاء بن سائب سے صرف وہیب ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں احمد بن اسحاق اکیلے ہیں۔

حضرت عمرو ذی مرفر ماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے قسم لیتے ہوئے سنا کہ کس نے نبی کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں مولا اس کا علی مولا (یعنی مدگار)۔ وہ کھڑا ہو تو بارہ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی کہ (انہوں نے واقعتاً یہ سنا ہے)۔

یہ حدیث جلیح سے ان کے بیٹے عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمیرہ بن سعد فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو لوگوں سے قسم لیتے ہوئے سنا کہ

السَّائِبِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، أَنَّ امْرَأَةً، كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا، كُلَّ ذَلِكَ يُرِيدُهَا، وَكَانَتْ تُوَفِّي عَنْهَا زَوْجَهَا وَلَمْ يَفْرَضْ لَهَا صَدَاقًا، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: أَقُولُ فِيهَا بَرَأِي، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنَ ابْنِ أُمِّ عَدِيٍّ: لَهَا صَدَاقٌ أَحَدَى نِسَائِهَا، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرَّبْعُ وَالثُّمْنُ. وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِّنْ أَشْجَعٍ مِّنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَشْهَدُ اللَّهَ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مَّا يُقَالُ لَهَا بَرُوعُ بِنْتُ وَاشِقِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وَهَيْبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

2109 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجَلْحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو ذِي مَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا يَنْشُدُ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، إِلَّا قَامَ، فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ، فَشَهِدُوا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَجَلْحِ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ اللَّهِ

2110 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجَلْحِ،

کس نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس کا میں مولا اس کا علی مولا (یعنی مددگار)۔ تو بارہ افراد کھڑے ہوئے اور انہوں نے گواہی دی رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے: جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔

یہ حدیث جلیح سے صرف ان کے بیٹے عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری آدمی تھا جس کی کنیت ابو مذکور تھی اس نے اپنا مدبر غلام آزاد کیا تھا تو نبی کریم ﷺ نے ان کی طرف پیغام بھیجا تو اس نے اسے فروخت کیا۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف ابن ابی نجیح ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں جریر بن حازم اکیلے ہیں۔

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: کسی عورت کے لیے جائز نہیں ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہو کہ وہ کسی کے لیے بھی تین دن سے زیادہ سوگ منائے سوائے اپنے شوہر کے۔

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَمِيرَةَ بِنِ سَعْدٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ عَلِيًّا، يَنْشُدُ النَّاسَ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ؟ فَقَامَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ، فَشَهِدُوا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَجْلَحِ إِلَّا ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ

2111 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَزْدَادَ أَبُو الصَّقْرِ قَالَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوِّذِيُّ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ يُكْنَى أَبَا مَذْكَورٍ اعْتَقَ عَبْدًا لَهُ عَنْ ذُبُرٍ فَبَعَثَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَاعَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ

2112 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحِلُّ لِمَرْأَةٍ تُوْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ تُحَدَّ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِلَّا عَلَى زَوْجٍ

2111- أخرجه البخارى فى البيوع جلد4 صفحه415 رقم الحديث: 2141، ومسلم فى الايمان جلد3 صفحه1289 .

2112- أخرجه البخارى فى الطلاق جلد9 صفحه402 رقم الحديث: 5342، ومسلم فى الطلاق جلد2 صفحه27؛ 1 .

یہ حدیث قتادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن بلال اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے سانپ سے ڈرتے ہوئے اس کو مارنے سے چھوڑ دیا، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

یہ حدیث بشمیں جد عبد الحمید الحمائی سے صرف عمار ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابوالجواب اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مؤمن، مؤمن کیلئے شیشہ ہے۔

یہ حدیث شریک بن عبد اللہ سے صرف محمد بن عمار بن سعد روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں عثمان بن محمد بن عثمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اسلام لانے کے بعد بندے کے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ

2113 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

مَنْصُورِ الرَّمَادِيِّ قَالَ: نَا أَبُو الْجَوَابِ، عَنْ عَمَارِ بْنِ رَزِيْقٍ، عَنْ بَشْمِيْنَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الْحَيَاتِ خَشِيَةَ النَّارِ فَلَيْسَ مِنَّا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشْمِيْنَ جَدَّ عَبْدِ الْحَمِيْدِ الْحَمَائِيِّ إِلَّا عَمَارٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْجَوَابِ

2114 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ الْعُثْمَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَارِ بْنِ سَعْدِ الْمُؤَدِّنُ قَالَ: نَا شَرِيْكَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ مِنْ مِرَاةِ الْمُؤْمِنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيْكَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَارِ بْنِ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُثْمَانَ

2115 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نَا

2113- أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4 صفحہ 365 رقم الحديث: 5248' وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 331 رقم

الحديث: 7341 -

2114- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 267 -

2115- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 275 -

لیے مؤمنہ بیوی سے بہتر کوئی نہیں ہے جب اس کی طرف دیکھے تو وہ اسے خوش کر دے اور جب وہ گھر میں موجود نہ ہو تو وہ خود اپنی اور شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔

یہ حدیث جابر سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں یزید اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ولیمہ پہلے دن کرنا حق ہے دوسرے دن نیکی ہے تیسرے دن ریاکاری اور دکھاوا ہے۔

یہ حدیث منصور سے صرف عبدالملک بن حسین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قرظہ بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے گروہ میں تھے تو آپ نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ سے روایات کرنا کم کرو؛ میں تمہارا شریک ہوں۔

یہ حدیث داؤد بن ابی ہند سے صرف عبدالوہاب بن عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

شَرِيكٌ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَفَادَ عَبْدٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ زَوْجٍ مُؤْمِنَةٍ: إِذَا نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِذَا غَابَ عَنْهَا حَفِظَتْهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَزِيدُ

2116 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِبَادَةَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَلِيمَةُ أَوْلُ يَوْمٍ حَقٌّ، وَالثَّانِي مَعْرُوفٌ، وَالثَّلَاثُ رِيَاءٌ وَسُمْعَةٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الْحُسَيْنِ

2117 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى السُّوسِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ قَرِظَةَ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: شِيعْنَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فَقَالَ: أَقْلُوا الرِّوَايَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا شَرِيكُكُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ

2116- أخرجه ابن ماجه فى النكاح جلد 1 صفحه 617 رقم الحديث: 1915

2117- أخرجه ابن ماجه فى المقدمة جلد 1 صفحه 12 رقم الحديث: 28

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا، ان میں ایک قمیص تھی۔

یہ حدیث حمید سے صرف حماد اور حماد سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابن عقیل اکیلے ہیں۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے لوگوں کو حدیبیہ کے دن بیعت کے لیے بلایا، تو حضرت ابوسنان بن مھسن حاضر ہوئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ سے بیعت کرتا ہوں اس پر جو آپ کے دل میں ہے، آپ ﷺ نے فرمایا: میرے دل میں کیا ہے؟ عرض کی: میں تلوار ماروں آپ کے سامنے یہاں تک کہ دین اسلام غالب ہو جائے یا میں قتل کیا جاؤں، تو آپ نے ان سے بیعت کی اور لوگوں نے حضرت ابوسنان کی بیعت کی طرح بیعت کی۔

یہ حدیث زہری سے صرف محمد بن عبدالعزیز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف ہی روایت کرتے ہیں، اور محمد سے صرف عبدالعزیز بن عمران ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں یعقوب بن محمد اکیلے ہیں۔

2118 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْمُقْرِيُّ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِرَاهِيمَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُفِّنَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ، أَحَدَهَا قَمِيصٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ، إِلَّا حَمَّادٌ وَلَا عَنْ حَمَّادٍ إِلَّا مُسْلِمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَقِيلٍ

2119 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَةِ النَّاسَ لِلْبَيْعَةِ، فَجَاءَ أَبُو سِنَانِ بْنِ مُحْصِنٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَبَايَعُكَ عَلَى مَا فِي نَفْسِكَ قَالَ: وَمَا فِي نَفْسِي؟ قَالَ: أَضْرِبُ بِسَيْفِي بَيْنَ يَدَيْكَ حَتَّى يُظْهِرَكَ اللَّهُ أَوْ أَقْتَلَ، فَبَايَعَهُ، وَبَايَعَ النَّاسُ عَلَى بَيْعَةِ أَبِي سِنَانٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ

2118- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 2713.

2119- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 14916.

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حج تمتع
صرف ہم اصحاب محمد ﷺ کے لیے ہی خاص تھا۔

2120 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ الْمُخَرَّمِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا
مُفَضَّلُ بْنُ مَهْلَهْلِ، عَنْ بَيَانَ بْنِ بَشْرٍ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الشَّعَثَاءِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ
أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: إِنَّمَا كَانَتِ الْمُتَعَةُ لَنَا خَاصَّةً
أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعْنِي: مُتَعَةً
الْحَجِّ .

یہ حدیث عبدالرحمن بن ابی الشعثاء سے صرف بیان
ہی روایت کرتے ہیں اور بیان سے صرف مفضل بن
مہلہل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں
یحییٰ بن آدم اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
الشَّعَثَاءِ إِلَّا بَيَانَ، وَلَا عَنْ بَيَانَ إِلَّا مُفَضَّلُ بْنُ
مَهْلَهْلِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ آدَمَ

حضرت سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے ایک عورت کی نماز جنازہ
پڑھائی تو آپ اس کے وسط میں کھڑے ہوئے۔

2121 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا حَمْدَانُ بْنُ
عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا
شُعْبَةُ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ،
عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى امْرَأَةٍ فَقَامَ وَسَطَهَا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا شَبَابَةُ
وَحَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ

یہ حدیث شعبہ سے صرف شبابہ اور حجاج بن نصیر ہی
روایت کرتے ہیں۔

2122 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَبُو عَسَانَ مَالِكُ بْنُ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ایک بندہ
جھوٹ بولتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں وہ جھوٹا لکھا

2120 - أخرجه مسلم في صحيحه جلد 2 صفحہ 897، والنسائي في المناسك جلد 5 صفحہ 141 (باب اباحة فسخ الحج

بعمره الخ) وابن ماجه في المناسك جلد 2 صفحہ 994 رقم الحديث: 2985 .

2121 - أخرجه البخاري في الحيض جلد 1 صفحہ 511 رقم الحديث: 332 .

2122 - أخرجه البخاري في الأدب جلد 10 صفحہ 523 رقم الحديث: 6094، ومسلم في البر جلد 4 صفحہ 2012 .

جاتا ہے اور ایک بندہ سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ کے ہاں بھی وہ سچا لکھا جاتا ہے۔

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْعَبْدَ لَيَكْذِبُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ كَذَابًا، وَيَصْدُقُ حَتَّى يُكْتَبَ عِنْدَ اللَّهِ صِدْقًا

یہ حدیث عبدالاعلیٰ سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابو غسان اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا إِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو غَسَّانَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کی کسی زوجہ کے گھر میں ایک بکری مرگئی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا: کیا تم اس کی کھال سے نفع نہیں اٹھاؤ گے۔

2123 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ السَّمْسَارُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ نَافِعِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَاتَتْ شَاةٌ فِي بَعْضِ بُيُوتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا انْتَفَعْتُمْ بِمَسْكِيهَا

یہ حدیث ابراہیم بن نافع سے صرف یحییٰ بن ابی بکیر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ نَافِعِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ

حضرت سلمہ بن نعیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا اگرچہ وہ زانی اور چور ہو۔

2124 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ شُعَيْبِ السَّمْسَارُ قَالَ: نَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نَعِيمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ زَنَا، وَإِنْ سَرَقَ

یہ حدیث منصور سے صرف شیبان ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَيْبَانُ

2123- أخرجه أحمد في المسند جلد 1 صفحہ 361 رقم الحديث: 2508 .

2124- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 7 صفحہ 55، والامام أحمد في المسند جلد 4 صفحہ 260 .

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم منافقوں کو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض کی وجہ سے پہچان لیتے تھے۔

یہ حدیث زہیر سے صرف محمد بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری اس مسجد میں نماز سوائے مسجد حرام کے دوسری مسجدوں کی بہ نسبت ہزار نمازوں کے ثواب کے برابر ہے۔

یہ حدیث حبیب بن ابی ثابت سے صرف مسعودی اور مسعودی سے صرف حسین بن محمد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں اسحاق بن ابراہیم بغوی اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو جمعہ کے لیے آئے

2125 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: مَا كُنَّا نَعْرِفُ الْمُنَافِقِينَ إِلَّا بِبُغْضِهِمْ عَلَيَّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُهَيْرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ الْقَاسِمُ

2126 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ قَالَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوُذِيُّ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةٌ فِي مَسْجِدِي هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلَاةٍ فِي مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ، إِلَّا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، وَلَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَغَوِيُّ

2127 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْوُذِيُّ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَجِيدِ

2125- انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 135-136 .

2126- أخرجه البخاری فی فضل الصلاة فی مسجد مكة جلد 3 صفحہ 76 رقم الحديث: 1190، ومسلم فی الحج جلد 2

صفحہ 1012 .

2127- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 176 .

تو اسے چاہیے کہ وہ غسل کرے۔

أَبُو عَلِيٍّ الْحَنْفِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ
يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ
الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے صرف ہشام اور
ہشام سے صرف عبید اللہ بن عبد المجید ہی روایت کرتے
ہیں، اسے روایت کرنے میں زہیر بن محمد اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ
الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت سائب بن یزید اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ
نے مال غنیمت دیا، ہمارے خمس والے حصے کے علاوہ تو
مجھے بوڑھا اونٹ ملا۔

2128 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ
النُّمَيْرِيُّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ الْأَسْوَارِيُّ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ يُونُسَ
الْأَيْلِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: نَقَلْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْلًا
سِوَى نَصِيبِنَا مِنَ الْخُمْسِ، فَأَصَابَنِي شَارِفٌ

یہ حدیث زہری سے صرف یونس اور یونس سے
صرف عبد اللہ بن رجاء کی روایت کرتے ہیں، اسے
روایت کرنے میں اسحاق بن ادريس اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ،
وَلَا عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، تَفَرَّدَ
بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ إِدْرِيسَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ وتر پڑھتے تو (پہلی رکعت میں) سبح
اسم ربك الاعلى اور (دوسری رکعت میں) قل يا ايها
الكافرون اور (تیسری رکعت میں) قل هو الله احد
پڑھتے۔

2129 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ
إِسْرَائِيلَ، عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا
الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

2128- انظر: مجمع الزوائد للحافظ الهيثمي جلد 6 صفحہ 10 .

2129- أخرجه النسائي في قيام الليل جلد 3 صفحہ 194 (ذكر الاختلاف على أبي اسحاق..... الخ) وابن ماجه في جلد 1

صفحہ 371 رقم الحديث: 1172، وأحمد في المسند جلد 1 صفحہ 397 رقم الحديث: 2780 .

یہ حدیث عبدالاعلیٰ سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں حسن بن عطیہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جب تم میں سے کوئی پیٹ کی ہوا محسوس کرے تو وضو کر لے۔

یہ حدیث عمران سے صرف محمد بن بلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سفر میں دو رکعتیں مقرر کیں، جس طرح آپ نے حالت اقامت میں چار مقرر کی تھیں۔

یہ حدیث یحییٰ بن عبید سے صرف حجاج اور حجاج سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن بلال اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہنیکہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا تو فرمایا کہ صبح کو پائے وہ وتر نہ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى إِلَّا اسْرَائِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ

2130 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدِ الْأَدْمِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ بِأَحَدِكُمْ رِزٌّ فَلْيَتَوَضَّأْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِمْرَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ

2131 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: افْتَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ، كَمَا افْتَرَضَ أَرْبَعًا فِي الْحَضَرِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ

2132 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِسْحَاقَ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ

2131- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1 صفحہ 479، والنسائي في تقصير الصلاة جلد 3 صفحہ 96 (باب تقصير الصلاة

في السفر) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحہ 339 رقم الحديث: 1068 .

2132- أخرجه أحمد في المسند جلد 6 صفحہ 270 رقم الحديث: 26112 .

پڑھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ صبح کرتے تھے تو تراویح کرتے تھے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو جنازہ کے ساتھ چلا یہاں تک کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی پھر واپس آیا تو اسے ایک قیراط کے برابر ثواب ملے گا، تو اگر وہ جنازہ کے ساتھ گیا اور اس نے نماز جنازہ پڑھی پھر دفن کرنے تک بیٹھا رہا تو اس کے لیے دو قیراط ثواب ہے، ان میں سے ہر قیراط اُحد پہاڑ سے بڑا ہے۔

یہ حدیث داؤد بن ابی ہند سے صرف سلمہ بن علقمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو باندھ کر نشانہ بنانے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث سالم الافطس سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

ابن جریج قال: أَخْبَرَنِي زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ، أَنَّ أَبَا نَهْيِكَ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ حَطَبَ فَقَالَ: مَنْ أَدْرَكَهُ الصُّبْحُ فَلَا وَتَرَلَهُ. فَقَالَتْ عَائِشَةُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُدْرِكُهُ الصُّبْحُ فَيُوتِرُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

2133 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَثْمَانُ بْنُ حَفْصِ التُّومِيَّ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ الْمَازِنِيُّ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَبَعَ جِنَازَةً حَتَّى يُصَلِّيَ عَلَيْهَا، ثُمَّ انْصَرَفَ فَلَهُ قِيرَاطٌ مِنَ الْأَجْرِ، وَإِنْ تَبِعَهَا فَصَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ قَعَدَ حَتَّى يُفْرَغَ مِنْ دَفْنِهَا فَلَهُ قِيرَاطَانِ، كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَعْظَمُ مِنْ أُحَدٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلْقَمَةَ

2134 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الطَّحَّانُ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مَوْمِلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ الْبَهَائِمُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ الْأَفْطَسِ إِلَّا سُفْيَانُ، فَفَرَّدَ بِهِ: مَوْمِلٌ

2133- أخرجه البخارى فى الجنائز جلد3 صفحه220 رقم الحديث: 1323، ومسلم فى الجنائز جلد2 صفحه653 .

2134- أخرجه الطبرانى فى الكبير جلد11 صفحه440 رقم الحديث: 12247 .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے کپڑے میں منی دیکھتی تھی تو اسے کھرچ دیتی تھی، پھر آپ ﷺ اس کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔

یہ حدیث منصور سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں حسن بن عطیہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے جانوروں کو آپس میں لڑانے سے منع کیا۔

یہ حدیث از عمش از منہال صرف زیاد بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے اس امت کی خطا و نسیان کو معاف کر دیا ہے اور جس پر اس کو مجبور کیا جائے۔

2135 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ عَفَّانَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: لَقَدْ رَأَيْتُنِي وَأَنَا أَحْكُ الْمَنِيَّ، مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يُصَلِّي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ

2136 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَكَّائِيُّ قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُحَرَّشَ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنِ الْمُنْهَالِ إِلَّا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

2137 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ زَيْدِ الْعَمِّيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ

2136- أخرجه أبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحہ 26 رقم الحدیث: 2562، والترمذی فی الجهاد جلد 4 صفحہ 210 رقم الحدیث: 1708 .

2137- أخرجه البيهقي في الخلع والطلاق جلد 7 صفحہ 584 رقم الحدیث: 15094، والدارقطني في سننه جلد 4

صفحہ 170 رقم الحدیث: 33، والحاكم في المستدرک جلد 3 صفحہ 198، وابن حبان رقم الحدیث: 1498،

والطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 133 رقم الحدیث: 11274 .

وَجَلَّ عَفَا لِهَذِهِ الْأَمَةِ عَنِ الْخَطَا، وَالنِّسْيَانِ، وَمَا
اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ زَيْدِ الْعَمِيِّ إِلَّا ابْنُهُ،
تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَرَشِيُّ

یہ حدیث زید العمی سے صرف ان کے بیٹے ہی
روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں حرشی اکیلے
ہیں۔

2138 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ

رَاشِدِ الْأَدْمِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الْهَاشِمِيِّ
قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى خَيْرًا فِي
مَنَامِهِ فَلْيُحْمَدِ اللَّهَ، وَلْيَذْكُرْهُ، وَمَنْ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ
فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، وَلَا يَذْكُرْهَا، فَإِنَّهُ لَا يَضُرُّهُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اچھا خواب دیکھے تو اس پر اللہ کی
تعریف کرے اور وہ اسے کسی کو بتائے اور جو کوئی بُرا خواب
دیکھے تو اللہ سے پناہ مانگے اور وہ کسی کو نہ بتائے تو وہ خواب
اسے نقصان نہیں دے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا
سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ

یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے صرف سعید بن
عبد الرحمن ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں
سلیمان بن داؤد اکیلے ہیں۔

2139 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

أَبِي الْحَارِثِ قَالَ: نَا دَاوُدَ الْمُحَبَّرُ قَالَ: نَا صَالِحُ
الْمُرِّي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ
لَيَذْنِبُ ذَنْبًا، فَإِذَا ذَكَرَهُ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ، فَإِذَا نَظَرَ
اللَّهُ إِلَيْهِ قَدْ أَحْزَنَهُ مَا صَنَعَ عَفَرَ لَهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک بندہ سے گناہ ہوتا ہے، اگر
اس کو یاد آ جائے تو وہ اپنے کیے ہوئے پر پریشان ہوتا ہے
جب اللہ اس کو اپنے کیے پر پریشان دیکھتا ہے تو اس کو بخش
دیتا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ إِلَّا
صَالِحُ الْمُرِّي، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ الْمُحَبَّرُ

یہ حدیث محمد بن سیرین سے صرف صالح المری ہی
روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں محبر اکیلے

2138- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 177-178

2139- انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 202

ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے حلال کمائی کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: حلال کمائی وہ ہے جو آدمی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے اور ہر کاروبار نیکی ہے۔

2140 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ

عَرَفَةَ قَالَ: نَا قُدَامَةَ بْنَ شِهَابِ الْمَازِنِيِّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ وَبَرَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَطْيَبِ الْكَسْبِ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا قُدَامَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ

یہ حدیث اسماعیل سے صرف قدامہ ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں حسن بن عرفہ اکیلے ہیں۔

2141 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو عَقِيلٍ

يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمَّانِيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي بَعْدَ الْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَقِيلٍ

یہ حدیث مسعر سے صرف عبد الحمید ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابو عقیل اکیلے ہیں۔

2142 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ

إِسْحَاقَ الْقُلُوسِيِّ قَالَ: نَا عَبَادُ بْنُ زَكْرِيَّا الصَّرِيمِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ دعا مانگتے تھے: 'اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ، وَمِنْ غَلْبَةِ العَدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ

2140 - انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 63-64 .

2141 - أخرجه البخاری فی مواقيت الصلاة جلد 2 صفحہ 77 رقم الحديث: 593، ومسلم فی المسافرین

جلد 1 صفحہ 573 .

2142 - أخرجه الطبرانی فی الصغير رقم الحديث: 2312 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 14 .

عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: الْآيِمِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ -

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلْبَةِ الدَّيْنِ، وَمِنْ غَلْبَةِ الْعُدُوِّ، وَمِنْ بَوَارِ الْآيِمِ، وَمِنْ فَتْنَةِ الدَّجَالِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا عَبَادُ بْنُ زَكْرِيَّاءَ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْقَلْبُوسِيُّ

یہ حدیث ہشام سے صرف عباد بن زکریا ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں قلوبی اکیلے ہیں۔

2143 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي وَإِلِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُودَ، وَشَقَّ الْجُيُوبَ، وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جو اپنے رخسار پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کا دعویٰ کرے اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ

یہ حدیث شعبہ سے صرف یزید بن ہارون ہی روایت کرتے ہیں۔

2144 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبَادَةُ بْنُ الْوَلِيدِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ قَالَ: نَا سَلِيمُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ بَيْنَ يَدَيْهِ فِي الصَّلَاةِ، وَلَا عَنْ يَمِينِهِ، وَلَكِنْ لِيَسْزُقَ، عَنْ يَسَارِهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی نماز کی حالت میں نہ اپنے آگے تھو کے اور نہ اپنی دائیں جانب، لیکن اگر تھو کنا ہی ہو تو اپنی بائیں جانب تھو کے۔

2145 - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ

2143- أخرجه البخارى فى الجنائز جلد3 صفحہ198 رقم الحديث: 1297، ومسلم فى الايمان جلد1 صفحہ99 .

2144- أخرجه البخارى فى العمل فى الصلاة جلد3 صفحہ101 رقم الحديث: 1214، ومسلم فى المساجد جلد1 صفحہ390 .

2145- أخرجه البخارى فى الأذان جلد2 صفحہ351 رقم الحديث: 822، ومسلم فى الصلاة جلد1 صفحہ355 .

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی سجدہ میں اپنی کلائیاں کتنے کی کلائیوں کی طرح نہ بچھائے۔

یہ دونوں حدیثیں سلیم بن حیان سے صرف حبان بن ہلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: خواب اللہ کی طرف سے ہے اور احتلام شیطان کی طرف سے، سو جب تم میں سے کوئی بُرا خواب دیکھے تو بائیں جانب تھو کے اور اس کے شر سے پناہ مانگے تو وہ اسے کوئی نقصان نہیں دے گا۔

اسے از زہری از ابوامامہ از حضرت ابو ہریرہ سے اور زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں عبدالغفار اکیلے ہیں۔ زہری کے اصحاب ابوسلمہ سے وہ ابوقادہ سے روایت کرتے ہیں اور یہی صحیح ہے۔

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ انصار کے مفتی یہ فتویٰ دیتے کہ پانی کی پانی سے رخصت ہے یہ ابتداء اسلام میں تھا۔

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَسْجُدَنَّ أَحَدُكُمْ بَاسِطًا ذِرَاعَيْهِ كَمَا كَلَبُ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَلِيمِ بْنِ حَيَّانٍ، إِلَّا حِبَّانُ بْنُ هِلَالٍ

2146 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الْمَلِكِ الدَّقِيقِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بْنُ عَبِيدِ اللَّهِ الْكُرَيْزِيُّ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا مِنَ اللَّهِ، وَالْحُلْمُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ فَلْيَتْفُلْ عَنْ يَسَارِهِ، وَلْيَسْتَعِذْ مِنْ شَرِّهَا، فَلَنْ تَضُرَّهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا صَالِحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الْغَفَّارِ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، وَهُوَ الصَّحِيحُ

2147 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا

مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سَفْيَانَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ، أَنَّ

2146- أخرجه البخارى فى التعبير جلد12 صفحه410 رقم الحديث: 7500، ومسلم فى الرؤيا جلد4 صفحه1771 .

2147- أخرجه أبو داؤد فى الطهارة جلد1 صفحه54 رقم الحديث: 214، والترمذى فى الطهارة جلد1 صفحه183 رقم

الحديث: 110، وابن ماجه فى الطهارة جلد1 صفحه200 رقم الحديث: 609 . وانظر: نصب الرأية للحافظ

الزبلى جلد1 صفحه82 .

الْفُتْيَا الَّتِي، كَانَتْ تُفْتَى بِهَا الْأَنْصَارُ: الْمَاءُ مِنْ
الْمَاءِ رُخْصَةً كَانَتْ فِي أَوَّلِ الْإِسْلَامِ
لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ الْأَصْلِحِ
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَهْلِ
بْنِ سَعْدٍ، وَهُوَ الصَّوَابُ

اسے از زہری از عطاء صرف صالح ہی روایت
کرتے ہیں۔ اور اصحاب زہری از زہری از سہل بن سعد
روایت کرتے ہیں اور یہی درست ہے۔

2148 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا
إِبْرَاهِيمَ بْنَ هَانَ النَّيْسَابُورِيَّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا أَبُو شَهَابٍ الْحَنَاطُ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَتَنَجَّجِي اثْنَانِ دُونَ الثَّلَاثِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: دو آدمی آپس میں تیسرے کو چھوڑ کر
سرگوشی نہ کریں۔

2149 - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُقِيمُ الرَّجُلُ الرَّجُلَ مِنَ مَكَانِهِ
فَيَجْلِسُ فِيهِ، فَإِذَا رَجَعَ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی نبی کریم ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: کوئی آدمی جو اپنی
جگہ سے اٹھے پھر واپس آئے تو وہی اس جگہ کا زیادہ حق
دار ہے۔

2150 - وَبِإِسْنَادِهِ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
فَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ مَكَانِهِ
لَمْ يَرَوْهُ هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا أَبُو
شَهَابٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی نبی کریم ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم میں سے جب
کسی کو جمعہ کے دن اونگھ آئے تو وہ اپنی جگہ بدل لے۔
یہ حدیث ابواسحاق سے صرف ابوشہاب ہی روایت
کرتے ہیں۔

2148- أخرجه ابن ماجه في الأدب جلد 2 صفحہ 1241 رقم الحديث: 3776، ومالك في الموطأ جلد 2 صفحہ 989 رقم

الحديث: 14، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 14 رقم الحديث: 4563 .

2149- أخرجه البخاری في الجمعة جلد 2 صفحہ 456 رقم الحديث: 911، ومسلم في السلام جلد 4 صفحہ 1714 .

2150- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 290 رقم الحديث: 1119، والترمذی في الجمعة جلد 2 صفحہ 404

رقم الحديث: 526، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 45 رقم الحديث: 4874 .

حضرت ایاس بن سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اُن کے چچا حضرت عامر بن اکوع رضی اللہ عنہ خیر کے دن زخمی ہوئے اور انہوں نے ایک آدمی کو قتل کیا تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اس کے لیے دوا اجر ہیں۔

محمد بن بشر سے صرف ابو احمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: کوئی آدمی نہیں ہے جو کسی قوم سے ملے تو وہ اُن کو معاف نہ کرے جس طرح وہ اپنے آپ اور گھر والوں کو معاف کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کو جہنم کی آگ میں ڈالے گا۔

اسے خالد سے صرف عبید بن محمد النخاس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے زید! لوگوں کے ساتھ اپنے سر کی زکوٰۃ دو اگر تو نہ پائے تو دھاگہ ہی دے دے۔

2151 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنصُورٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نَا أَبُو أَحْمَدَ الزُّبَيْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ بْنِ بَشِيرٍ الْأَسْلَمِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عَمَّهُ عَامِرَ بْنَ الْأَكْوَعِ جُرِحَ يَوْمَ خَيْبَرَ وَقَتَلَ رَجُلًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهُ أَجْرَانِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ بَشْرِ إِلَّا أَبُو أَحْمَدَ

2152 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو شَيْبَةَ بْنُ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ رَجُلٌ يَلِي قَوْمًا، ثُمَّ لَا يَحُوطُهُمْ كَمَا يَحُوطُ نَفْسَهُ وَأَهْلَهُ، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ نَارَ جَهَنَّمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ خَالِدِ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ

2153 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَّوْدِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ يَمَانَ، عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا زَيْدُ، أَعْطِ زَكَاةَ

2151- أخرجه البخاری فی المغازی جلد 7 صفحہ 530 رقم الحدیث: 4196، ومسلم فی الجهاد جلد 3 صفحہ 1432 .

2152- أخرجه الطبرانی فی الكبير جلد 20 صفحہ 218 رقم الحدیث: 506 .

2153- أخرجه الطبرانی فی الكبير جلد 5 صفحہ 120 رقم الحدیث: 4806 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 84 .

رَأْسِكَ مَعَ النَّاسِ وَإِنْ لَمْ تَجِدْ إِلَّا حَيْطًا

2154 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ: نَا عَمِّي يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمِّهِ قُطْبَةَ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ فَمَا يَتَنَلُّ مِنْ صَلَاتِهِ حَتَّى تَرْمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: اتَّجَهْدُ نَفْسَكَ، فَمَا هَذَا الْجَهْدُ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا

لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ وَبَيْنَ الْمُغِيرَةَ أَحَدٌ مِمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مِسْعَرِ قُطْبَةَ إِلَّا ابْنُ إِسْحَاقَ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نفل نماز کے لیے قیام کرتے یہاں تک کہ آپ کے قدموں میں ورم پڑ جاتے تھے آپ سے عرض کی گئی: آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈالتے ہیں حالانکہ آپ کے سبب سے اللہ عزوجل نے آپ کی امت کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیئے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں۔

زیاد بن علاقہ اور مغیرہ بن شعبہ کے درمیان کوئی داخل نہیں ہے جو مسعر قطبہ سے روایت کرتا ہو سوائے ابن اسحاق کے۔

حضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہما نے خطبہ دیا، تو اللہ کی حمد و ثناء کی، امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا، فرمایا: اوصیاء میں خاتم ہیں، خاتم الانبیاء کے وصی تھے صدیقین اور شہداء کے امین ہیں۔ پھر فرمایا: اے لوگو! تم سے ایک آدمی جدا ہوا ہے جو سابقین اولین میں سے تھا، پچھلوں نے اس کو نہیں پایا، رسول اللہ ﷺ نے اُن کو جھنڈا دیا تھا، حضرت جبریل علیہ السلام اس کی دائیں جانب اور حضرت میکائیل علیہ السلام اس کی بائیں جانب لڑ رہے

2155 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ الْوُرَاقِيُّ قَالَ: نَا سَلَامُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَبُودَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ: خُطِبَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فَحَمِدَ اللَّهُ وَآتَى عَلَيْهِ، وَذَكَرَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ خَاتِمَ الْأَوْصِيَاءِ، وَوَصَّى خَاتِمَ الْأَنْبِيَاءِ، وَآمِينَ الصِّدِّيقِينَ وَالشَّهَدَاءِ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَقَدْ فَارَقَكُمْ رَجُلٌ مَّا سَبَقَهُ الْأَوْلُونَ وَلَا يَدْرِكُهُ الْآخِرُونَ، لَقَدْ

2154- أخرجه البخاری فی التہجد جلد 3 صفحہ 19 رقم الحدیث: 1130، ومسلم صفة القيامة جلد 4 صفحہ 2171.

2155- أخرجه الطبرانی فی الکبیر رقم الحدیث: 7913، والحاکم فی مستدرک جلد 3 صفحہ 172، أخرجه الامام أحمد

فی مسنده جلد 1 صفحہ 199، والبراز جلد 3 صفحہ 205. انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 149.

تھے۔ وہ واپس نہیں آئے یہاں تک کہ اللہ نے اُن کو فرشتے دیے، اس رات اللہ نے ان کو وفات دی، جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وصیت کی تھی، اس رات کو ان کی روح کو اوپر چڑھایا گیا جس میں حضرت عیسیٰ بن مریم چڑھے تھے، اس رات اللہ عزوجل نے قرآن نازل کیا تھا اللہ کی قسم! آپ نے سونا، چاندی کوئی شے نہیں چھوڑی آپ کے گھر میں مال نہیں تھا سوائے ساڑھے سات سو درہموں کے، جو دینے سے بچ گئے تھے، اس کے ساتھ آپ نے اُم کلثوم کے لیے غلام خریدنے کا ارادہ کیا تھا۔ پھر فرمایا: جس نے مجھے پہچان لیا، اس نے مجھے پہچان لیا اور جس نے مجھے نہیں پہچانا تو میں حسن بن محمد رضی اللہ عنہ ہوں۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا قول تلاوت کیا: ”میں نے اپنے والد ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کی اتباع کی“ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پکڑی اور فرمایا: میں خوشخبری دینے والے کا لخت جگر ہوں، میں ڈرانے والے کا لخت جگر ہوں، میں غیب کی خبریں بتانے والے کا لخت جگر ہوں، میں اللہ کی طرف بلانے والے کا لخت جگر ہوں، میں چمکنے والے سورج کا لخت جگر ہوں، میں اس کا بیٹا ہوں، جس کو اس نے ساری کائنات کیلئے رحمۃ للعالمین بنا کر بھیجا، اور میں ان گھروالوں کا فرزند ہوں، جن سے اللہ نے پلیدی دور کر دی اور اُن کو خوب پاک کیا ہے، میں اُس گھر کا چشم و چراغ ہوں، جن کی موَدّت (محبت) اور ولایت اللہ عزوجل نے فرض کی ہے اور اس بارے جو حضرت محمد رضی اللہ عنہ پر نازل ہوا، پڑھا کہ ”اے پیارے حبیب! فرمادیں کہ میں تم سے

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيهِ الرَّايَةَ، فَيَقَاتِلُ جَبْرِيْلُ عَنْ يَمِينِهِ، وَمِيكَائِيلُ عَنْ يَسَارِهِ، فَمَا يَرْجِعُ حَتَّى يَفْتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَلَقَدْ قَبَضَهُ اللَّهُ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي قَبَضَ فِيهَا وَصِيَّ مُوسَى، وَعُرِجَ بِرُوحِهِ فِي اللَّيْلَةِ الَّتِي عُرِجَ فِيهَا بِرُوحِ عِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ، وَفِي اللَّيْلَةِ الَّتِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهَا الْفُرْقَانَ . وَاللَّهِ، مَا تَرَكَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً وَلَا شَيْئًا يَصْرُ لَهُ، وَمَا فِي بَيْتِ مَالِهِ إِلَّا سَبْعِمِائَةٌ دِرْهَمٍ وَخَمْسِينَ دِرْهَمًا فَصَلَّتْ مِنْ عَطَائِهِ، أَرَادَتْ أَنْ يَشْتَرِيَ بِهَا خَادِمًا لِأَمْ كَلْثُومٍ، ثُمَّ قَالَ: مَنْ عَرَفَنِي فَقَدْ عَرَفَنِي، وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي فَأَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ تَلَا هَذِهِ آيَةَ قَوْلِ يُوسُفَ: (وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ) ، ثُمَّ أَخَذَ فِي كِتَابِ اللَّهِ فَقَالَ: أَنَا ابْنُ الْبَشِيرِ، وَأَنَا ابْنُ النَّذِيرِ، وَأَنَا ابْنُ النَّبِيِّ، وَأَنَا ابْنُ الدَّاعِي إِلَى اللَّهِ بِأَذْنِهِ، وَأَنَا ابْنُ السِّرَاجِ الْمُضِيرِ، وَأَنَا ابْنُ الَّذِي أُرْسِلَ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا، وَأَنَا مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ الَّذِينَ افْتَرَضَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَوَدَّتَهُمْ وَوَلَّيْتَهُمْ، فَقَالَ فِيمَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى) (الشورى: 23)

کوئی معاوضہ نہیں مانگتا سوائے اپنے گھروالوں کی محبت کے۔ (الشوری: ۲۳)

یہ حدیث ابو طفیل سے صرف معروف بن خربوذ اور معروف سے صرف سلام بن ابی عمرہ ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں اسماعیل بن ابان اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تجھ سے صرف مومن ہی محبت کرے گا اور منافق ہی تجھ سے بغض رکھے گا۔

یہ حدیث حارث بن حصیرہ سے صرف محمد بن کثیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق سنا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اپنے بندوں میں سے زینت دی، ایسی زینت اپنے بندوں میں کسی کو نہیں دی، بے شک اللہ عزوجل نے آپ کے لیے مساکین کو پسند کیا ہے، تجھے اُن کے قریب کیا ہے اور تیرے لیے امامت مقرر کی ہے اور آپ کو ان کا امام بنایا ہے، ان کی تیرے لیے رضا ہے، اُن کی اتباع تیری رضا کے لیے بنائی ہے، خوشخبری اس کے لیے ہے جو تجھ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الطَّفِيلِ إِلَّا مَعْرُوفُ بْنُ خَرْبُوذَ، وَلَا عَنْ مَعْرُوفٍ إِلَّا سَلَامُ بْنُ أَبِي عَمْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبَانَ

2156 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عُمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهِمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ السَّيِّعِيِّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحَصِينِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: لَا يُحِبُّكَ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، وَلَا يُبْغِضُكَ إِلَّا مُنَافِقٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

2157 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عُمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهِمِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَزْوَرِّ، عَنْ أَصْبَغِ بْنِ نُبَاتَةَ، عَنْ عَمَارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لِعَلِيِّ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى زَيَّنَكَ بِزِينَةٍ لَمْ يُزَيِّنِ الْعِبَادَ بِزِينَةٍ مِثْلِهَا، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى حَبَّبَ إِلَيْكَ الْمَسَاكِينَ، وَالذُّنُوفَ مِنْهُمْ، وَجَعَلَكَ لَهُمْ إِمَامًا تَرْضَى بِهِمْ، وَجَعَلَهُمْ لَكَ اتِّبَاعًا يَرْضَوْنَ بِكَ، فَطُوبَى لِمَنْ أَحَبَّكَ وَصَدَّقَ

2156- انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 136

2157- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 13519

سے محبت کرنے، تیری تصدیق کرنے اور ہلاکت اس کے لیے ہے جو تجھ سے بغض رکھے، تجھ کو جھٹلائے، جو تجھ سے محبت کرے تیری تصدیق کرنے، تیرے گھر کے پاس پڑوسی ہوں گے اور جنت میں تیرے ساتھی ہوں گے جو تجھ سے بغض رکھے گا اور تجھے جھٹلائے گا اللہ پر حق ہے کہ اس کو جھٹلانے والوں کے موافق کر دے۔

یہ حدیث عمار سے اسی سند سے روایت ہے، اسے روایت کرنے میں محمد بن کثیر اکیلے ہیں۔

حضرت عطاء بن ابی رباح رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، انہیں نے عرض کی: آپ کیا فرماتے ہیں دو درہم ایک جید درہم کے بدلے؟ آپ نے فرمایا: اس میں کوئی حرج نہیں ہے! کیا دو اونٹ ایک گا بھن اونٹنی کے برابر نہیں ہیں؟ حضرت ابوسعید خدری نے فرمایا: اے ابن عباس! تم سو دکھاتے ہو اور لوگوں کو بھی کھلاتے ہو؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ حضرت ابوسعید نے فرمایا: میں نہیں جانتا تھا کہ جو رسول اللہ ﷺ کی قرابت کو جانتا ہو وہ مجھ پر یہ جرات کرے گا۔ تو حضرت ابوسعید نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں آپ کی خیر خواہی اور آپ پر شفقت کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے، آپ نے فرمایا: سونا سونے کے بدلے برابر برابر چاندی چاندی کے بدلے برابر برابر اور کھجور کے کھجور بدلے برابر برابر اور نمک نمک کے بدلے برابر برابر فروخت کرو۔

عَلَيْكَ، وَوَيْلٌ لِّمَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ، فَمَا مَنَّ أَحَبُّكَ وَصَدَقَ عَلَيْكَ فَهَمَّ جِيرَانُكَ فِي دَارِكَ، وَرُفَقَاؤُكَ مِنْ جَنَّتِكَ، وَأَمَّا مَنْ أَبْغَضَكَ وَكَذَبَ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ حَقٌّ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يُؤَفِّقَهُمْ مَوَاقِفَ الْكَذَّابِينَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ

2158 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا طَاهِرُ بْنُ خَالِدِ بْنِ نِزَارٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: كَيْفَ تَقُولُ فِي دِرْهَمَيْنِ تُسَوِي بَدْرَهُمَ جَيْدٍ؟ قَالَ: وَمَا بَأْسُ ذَلِكَ؟ هَلْ ذَلِكَ إِلَّا كَالْبَعِيرَيْنِ بِالنَّاقَةِ السَّمِينَةِ؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: يَا ابْنَ عَبَّاسٍ أَنْتَ الَّذِي تَأْكُلُ الرِّبَا وَتُطْعِمُهُ النَّاسَ؟ فَقَالَ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ، فَقَالَ: مَا شَعَرْتُ أَنَّ أَحَدًا يَعْلَمُ قَرَابَتِي مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْتَرُّ عَلَيَّ هَذِهِ الْجُرَاةَ. فَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ: وَاللَّهِ، مَا أَقُولُ لَكَ ذَلِكَ إِلَّا نَصِيحَةً لَكَ، وَشَفَقَةً عَلَيْكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ مِثْلًا بِمِثْلِ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلِ

یہ حدیث مطر وراق سے صرف ابراہیم بن طہمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے نبی ﷺ سے جنازہ لے جانے کے متعلق پوچھا (کہ کیسے لے جائیں)؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: جلدی جلدی لیکن جھٹکے نہ لگیں، اگر وہ نیک ہوگا تو اس کو جلدی لے چلو گے، اور اگر وہ برا ہوگا تو جہنم والوں کے لیے دوری ہے، جنازہ متبوعہ ہوتا ہے، تابع نہیں ہے اور اس کا تعلق ہم سے نہیں، جو جنازہ کے آگے چلے۔

یہ حدیث علی بن صالح سے صرف عامر بن مدرک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی: اے امیر المؤمنین! کیا تمہارے پاس وحی کے علاوہ کوئی شے ہے جو اللہ عزوجل کی کتاب میں نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اس ذات کی قسم جو دانے کو پھاڑتا ہے اور اگاتا ہے! میں نہیں جانتا ہوں مگر وہی فہم جو اللہ عزوجل نے ایک آدمی کو قرآن کا دیا ہے اور جو کچھ صحیفہ میں ہے؟ میں نے عرض کی: صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: دیت اور قیدیوں کے احکام اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے قتل نہ کیا جائے۔

یہ حدیث حسن بن صالح سے صرف عامر بن مدرک

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطْرِ الرَّاقِ إِلَّا
ابْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ

2159 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ الْأَهْوَزِيُّ قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ صَالِحِ بْنِ حَيٍّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْمُجَبَّرِ، عَنْ أَبِي مَاجِدٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْنَا نَبِيَّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ السَّيْرِ بِالْجِنَازَةِ؟ فَقَالَ: السَّيْرُ بِهِ مَا دُونَ الْخَبَبِ، فَإِنْ يَكُ خَيْرًا يُعَجَّلُ إِلَيْهِ، وَإِنْ يَكُ شَرًّا فَبَعْدًا لِأَصْحَابِ النَّارِ، الْجِنَازَةُ مَتْبُوعَةٌ، وَلَا تَتَّبَعُ، وَلَيْسَ مِنَّا مَنْ تَقَدَّمَهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ صَالِحِ إِلَّا
عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ

2160 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ، عَنْ مُطْرِفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَلْ عِنْدَكُمْ مِنَ الرُّوحِيِّ إِلَّا مَا فِي كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ، مَا أَعْلَمُهُ، إِلَّا فَهْمٌ يُعْطِيهِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلًا فِي الْقُرْآنِ، وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ وَفِكَائِكُ الْأَسِيرِ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحِ إِلَّا

عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ

ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں فلاں کے باجماعت نماز لمبا کرنے کی وجہ سے نماز سے پیچھے رہتا ہوں (شریک نہیں ہوتا)۔ (راوی حدیث فرماتے ہیں کہ) میں نے نبی کریم ﷺ کو کبھی کسی شے پر اتنا غصہ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنا اس مسئلہ پر کرتے ہوئے دیکھا آپ ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! تم میں نفرت پھیلانے والے ہیں جو کوئی تم میں سے نماز پڑھائے تو مختصر پڑھائے کیونکہ ان میں بچے بزرگ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں۔

2161 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا

مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ، عَنْ خَلَادٍ الصَّفَارِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا تَحَلِّفُ عَنِ الصَّلَاةِ مِمَّا يُطَوَّلُ بِنَا فَلَانٌ، فَمَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَضِبَ مِنْ شَيْءٍ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُتَقَرِّبِينَ، فَأَيُّكُمْ صَلَّى بِالنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ، فَإِنَّ فِيهِمُ الصَّغِيرَ وَالْكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَّةِ

2162 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ الْقَمَرَ لَا يَنْكَسِفَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلَا لِحَيَاتِهِ، لَكِنَّهُمَا آيَاتَانِ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ ذَلِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالصَّلَاةِ

2163 - وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ نَحْوَ الْيَمَنِ، فَقَالَ: إِنَّ الْإِيمَانَ هَاهُنَا، وَإِنَّ الْقِسْوَةَ وَغَلَطَ الْقَلْبِ فِي الْفَتَادِينِ عِنْدَ مَطْلِعِ الشَّمْسِ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ أَصُولِ أَذْنَابِ الْإِبْلِ، فِي رَبِيعَةٍ

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت کی وجہ سے نہیں لگتا، اور نہ کسی کی زندگی کی وجہ سے لیکن یہ دونوں اللہ عزوجل کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں سو جب تم انہیں دیکھو تو نماز پڑھا کرو۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے یمن کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا: ایمان یہاں ہے اور سختی اور سخت دلی مشرق کی جانب ہے یہاں سے شیطان کا سینک طلوع ہوگا، اونٹوں کی دم کے پاس قبیلہ ربیعہ اور مضر میں۔

2161- أخرجه البخاری فی العلم جلد 1 صفحہ 224 رقم الحدیث: 90، ومسلم فی الصلاة جلد 1 صفحہ 340 .

2162- أخرجه البخاری فی الكسوف جلد 2 صفحہ 633 رقم الحدیث: 1057، ومسلم فی الكسوف جلد 2

صفحہ 628 .

2163- أخرجه البخاری فی بدء الخلق جلد 6 صفحہ 403 رقم الحدیث: 3302، ومسلم فی الأیمان جلد 1 صفحہ 71 .

وَمُضَرَ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ خَلَادِ الصَّفَارِ إِلَّا
عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ

یہ حدیث خلاد الصفار سے صرف عامر بن مدرک ہی
روایت کرتے ہیں۔

2164 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا
عَلِيُّ بْنُ نَضْرٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ
الْأَسْوَدِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرِمٌ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی
کریم ﷺ نے حضرت ميمونہ رضی اللہ عنہا سے حالت
احرام میں شادی کی۔

یہ حدیث عثمان سے صرف ابو عاصم ہی روایت
کرتے ہیں۔

2165 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ
النَّضْرِ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ
الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ،
اذْكُرُوا يَوْمَ الْخَلَاصِ، قَالُوا: وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟
قَالَ: يُقْبَلُ الدَّجَالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِدُبَابٍ فَلَا يَبْقَى
بِالْمَدِينَةِ مُشْرِكٌ وَلَا مُشْرِكَةٌ، وَلَا كَافِرٌ وَلَا كَافِرَةٌ،
وَلَا مُنَافِقٌ وَلَا مُنَافِقَةٌ، وَلَا فَاسِقٌ وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا
خَرَجَ إِلَيْهِ، وَيَخْلُصُ الْمُؤْمِنُونَ، فَذَلِكَ يَوْمُ
الْخَلَاصِ الْحَدِيثِ .

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ
ﷺ نے فرمایا: اے اہل مدینہ! خلاص کے دن کو یاد کرو!
صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! خلاص کا دن کیا
ہے؟ آپ نے فرمایا: دجال آئے گا یہاں تک کہ ذباب
کے پاس اترے گا مدینہ میں نہ کوئی مشرک مرد و عورت نہ
کافر مرد و عورت اور نہ منافق مرد و عورت اور نہ فاسق مرد و
عورت رہنے دیا جائے گا، مگر اس کی طرف نکلے گا ان کو
نکال دیا جائے گا، صرف مؤمن رہیں گے یہ خلاص کا دن
ہوگا۔

یہ حدیث سعید جریری سے صرف علی بن عاصم ہی
روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا
عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ
2166 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ

2164- أخرجه البزار جلد2 صفحہ167 . انظر مجمع الزوائد رقم الحديث: 2704 .

2165- انظر: مجمع الزوائد جلد3 صفحہ311 .

2166- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد1 صفحہ109، والبزار جلد2 صفحہ225 . انظر: مجمع الزوائد

ﷺ نے فرمایا: اگر انہوں نے ابوبکر کو خلیفہ بنایا تو وہ اسے امین اور دنیا سے بے رغبت پائیں گے اور آخرت سے رغبت رکھنے والا اگر انہوں نے عمر کو امیر بنایا تو وہ اسے قوی امین پائیں گے، تم انہیں اللہ کے معاملہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت قبول کرتا نہیں پاؤ گے اور اگر علی کو امیر بنایا تو وہ ان کو ایسے کرنے والا نہیں پائیں گے، ان کو ہدایت دینے والا اور خود ہدایت یافتہ پائیں گے وہ ان کو سیدھے راستے پر چلائیں گے۔

یہ حدیث فضیل سے صرف زید بن حباب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ستر سورتیں یاد کی تھیں، حضرت زید بن ثابت کے اسلام لانے سے پہلے۔

یہ حدیث اسماعیل بن سالم سے صرف ابو عوانہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگے بڑھنے کا کھیل تیز گھوڑے اور اونٹ میں ہے۔

عَبْدُ الْمَلِكِ بْنِ زَنْجَوِيَةَ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ قَالَ: نَا فَضِيلُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نَا أَبُو اسْحَاقَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ يُثَيْعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ يَسْتَحْلِفُوا أَبَا بَكْرٍ يَجِدُوهُ مُسْلِمًا أَمِينًا زَاهِدًا فِي الدُّنْيَا، رَاغِبًا فِي الْآخِرَةِ، وَإِنْ يُؤْمَرُوا عَمَرَ يَجِدُوهُ قَوِيًّا أَمِينًا، لَا تَأْخُذُهُ فِي اللَّهِ لَوْمَةٌ لَائِمٌ، وَإِنْ يُؤْمَرُوا عَلِيًّا، وَلَا أَرَاهُمْ يَفْعَلُونَ، يَجِدُوهُ هَادِيًا مَهْدِيًّا، يَسْلُكُ بِهِمُ الطَّرِيقَ الْمُسْتَقِيمَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فَضِيلٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ

2167 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْأَرَزِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْأَزْدِيَّ، يَقُولُ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَعِينِ سُورَةً، قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَالِمٍ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ

2168 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجُنَيْدِ الدَّقَاقُ قَالَ: نَا حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ سَعِيدِ

جلد 5 صفحہ 179 .

2168- أخرجه أبو داود في الجهاد جلد 3 صفحہ 29 رقم الحديث: 2574، والترمذي في الجهاد جلد 4 صفحہ 205 رقم الحديث: 1700، والنسائي في الخيل جلد 6 صفحہ 188 (باب السبق) وابن ماجه في الجهاد جلد 2 صفحہ 960 رقم الحديث: 2878، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 343 رقم الحديث: 7501 .

الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا سَبَقَ إِلَّا فِي نَضْلِ، أَوْ حَافِرٍ، أَوْ خُفٍّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ سَلِيمَانَ أَخُو فُلَيْحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: حُجَيْنُ بْنُ الْمُثَنَّى

2169 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الْجَزْرِيُّ قَالَ: نَا عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ، وَلِدَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِدَرَارِيِّ الْأَنْصَارِ، وَلِمَوَالِي الْأَنْصَارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتٍ

2170 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَانَ بْنَ كَرَامَةَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاضٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا قَدِمَتْ وَهِيَ مُعْتَمِرَةٌ، فَحَاصَتْ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ بِالْبَيْتِ، فَسَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَهَا أَنْ تَهَلَّ بِالْحَجِّ، فَلَمَّا قَضَتْ نُسُكَهَا. قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَرَجِعُ أَحْوَاتِي بِحَجِّ

یہ حدیث ابو زناد سے صرف عبد الحمید بن سلیمان جو فتح کے بھائی ہیں وہ روایت کرتے ہیں۔ اسے روایت کرنے میں حنین بن شئی اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! انصار اور انصار کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اور انصار کے غلاموں کو بخش دے۔

یہ حدیث عکرمہ بن عمار سے صرف علی بن ثابت ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں عمرہ کرنے کے لیے آئی تھی تو میں طواف بیت اللہ کرنے سے پہلے حائضہ ہو گئی تو انہوں نے نبی کریم ﷺ سے پوچھا تو آپ نے انہیں حج کا احرام باندھنے کا حکم دیا، جب انہوں نے حج کے ارکان ادا کر لیے تو عرض کی: یا رسول اللہ! میری بہنیں حج اور عمرہ کر کے واپس جا رہی ہیں؟ تو جبکہ میں صرف حج کر کے جا رہی ہوں آپ

2169 - أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 713 رقم الحدیث: 3902، والطبرانی فی الکبیر جلد 5 صفحہ 205

رقم الحدیث: 5103 .

2170 - أخرجه البخاری فی الحج جلد 3 صفحہ 492 رقم الحدیث: 1561، ومسلم فی الحج جلد 2 صفحہ 870 .

ﷺ نے فرمایا: تو اپنے بھائی کے ساتھ جا! پس میں اپنے بھائی کے ساتھ مقام تنعیم کی طرف نکلی اور رسول اللہ ﷺ مقام ابلح میں اترے ان کا وہاں پر انتظار کرنے لگے پس یہ اب لوگوں کیلئے سنت ہوگئی۔

یہ حدیث زیاد بن فیاض سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں عبید اللہ بن موسیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہمارے پاس آئے ہم گھر میں تھے آپ نے میرے گھر کی چوکت پکڑی پھر فرمایا: بے شک میرا تم پر حق ہے اور ائمہ قریش کا جب وہ تین کام کریں: (۱) جب فیصلہ کریں تو عدل کریں (۲) اگر ان سے رحم طلب کیا جائے تو وہ رحم کریں (۳) اگر وہ وعدہ کریں تو وعدہ پورا کریں جو ان میں سے یہ نہ کرے اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔

یہ حدیث منصور سے صرف موسیٰ الجہنی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ وتر پڑھتے تو (پہلی رکعت میں) سبح اسم ربك الاعلیٰ اور (دوسری رکعت میں) قل یا ایہا

وَعُمْرَةَ، وَارْجِعْ بِحَجَّةٍ؟ فَقَالَ: اخْرُجِي مَعَ اخِيكَ، فَخَرَجَتْ مَعَهُ إِلَى التَّنْعِيمِ، وَنَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْأَبْطَحِ يَنْتَظِرُهَا، فَصَارَتْ سُنَّةَ النَّاسِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زِيَادِ بْنِ قِيَاظٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

2171 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ

مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبِيدِ الطَّنَافِسِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى الْجُهَنِيُّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: دَفَعَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي بَيْتٍ، فَأَخَذَ بَعْضَادَتِي الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ لِي عَلَيْكُمْ حَقًّا، وَلَا تَمِثُّ قُرَيْشٍ مَا عَمِلُوا بِثَلَاثٍ: إِنْ حَكَمُوا عَدْلُوا، وَإِنْ اسْتَرْحَمُوا رَحِمُوا، وَإِنْ عَاهَدُوا وَقُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورِ الْآمُوسَى الْجُهَنِيُّ

2172 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا جَابِرُ بْنُ

كُرْدِيِّ الْوَأَسِطِيِّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ

2171- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 1 صفحہ 252 رقم الحديث: 725. انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 197.

2172- أخرجه النسائي في قيام الليل جلد 3 صفحہ 194 (باب ذكر الاختلاف على أبي اسحاق في حديث سعيد بن جبیر

عن ابن عباس في الوتر) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحہ 371 رقم الحديث: 1172، وأحمد في المسند جلد 1

صفحہ 412 رقم الحديث: 2910.

الکافرون اور (تیسری رکعت میں) قل هو الله احد پڑھتے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف سعید بن عامر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا، اللہ عزوجل اس کو ستر سال کی مسافت کے برابر جہنم سے دور کر دے گا۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف بقیہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک آدمی آیا جبکہ رسول اللہ ﷺ نماز پڑھا چکے تھے تو آپ ﷺ نے فرمایا: کیا کوئی ایسا آدمی ہے جو اس پر صدقہ کرے؟ پس اس کے ساتھ نماز پڑھے۔

وہیب اور سلیمان الاسود کے درمیان خالد الخذاء کو داخل نہیں کیا جس نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، وہیب سے سوائے احمد بن اسحاق حضرمی کے۔

ابن عباس قال: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ

2173 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ حَبَّانَ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، بَاعَدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا بَقِيَّةُ

2174 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ يُونُسَ بْنِ مَهْرَانَ الزِّيَّاتُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا وَهَيْبٌ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ وَقَدْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَيَّ هَذَا؟ فَيَصَلِّيَ مَعَهُ

لَمْ يُدْخِلْ بَيْنَ وَهَيْبٍ وَسُلَيْمَانَ الْأَسْوَدِ خَالِدًا الْحَدَّاءَ أَحَدًا مِمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَهَيْبٍ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ

2174 - أخرجه أبو داود في الصلاة جلد 1 صفحہ 154 رقم الحديث: 574، والترمذی في الصلاة جلد 1 صفحہ 428 رقم

الحديث: 220، والدارمی في الصلاة جلد 1 صفحہ 367 رقم الحديث: 1368، وابن حبان رقم الحديث: 436

وأحمد في المسند جلد 3 صفحہ 79 رقم الحديث: 11619 .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: رات کی نماز دو دو رکعت ہے، جب کسی کو صبح ہونے کا خوف ہو تو وہ ایک رکعت ساتھ ملا کر وتر کرے۔

2175 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ الْمُسَلِّيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ زِيَادِ التَّرْمِذِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ بِرَكْعَةٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ دو راتیں اس پر اس طرح گزریں کہ اس کی وصیت لکھی ہوئی اس کے پاس نہ ہو۔

2176 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي لِمَرْءٍ ذِي وَصِيَّةٍ يَبِيتُ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ

یہ دونوں حدیثیں خالد بن زیاد سے صرف محمد بن ابی یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ خَالِدِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي يُونُسَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کے بال مبارک گھونگھریا لے تھے۔

2177 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْكِينِ الْيَمَامِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَتْ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جُمَّةٌ جَعْدَةٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ

یہ حدیث شعبہ سے صرف محمد بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

2178 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زِمَامٍ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ شُعَيْبِ بْنِ الْحَبَابِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: باجماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔

2175- أخرجه البخاری فی الوتر جلد2 صفحہ554 رقم الحدیث: 990، ومسلم فی المسافرین جلد1 صفحہ516 .

2176- أخرجه البخاری فی الوصایا جلد5 صفحہ2738، ومسلم فی الوصیة جلد3 صفحہ1249 .

2177- أخرجه النسائی فی الزینة جلد8 صفحہ160 (باب اتخاذ الجمة) .

2178- أخرجه البزار جلد1 صفحہ227 . انظر: مجمع الزوائد جلد2 صفحہ41 .

تَفْضُلٌ عَلَى صَلَاةِ الْفِدِّ خَمْسًا وَعِشْرِينَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعَيْبٍ إِلَّا ابْنُهُ عَبْدُ

السَّلَامِ

2179 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ

قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ مَرْدَانَ، عَنْ رَقِبةِ بْنِ

مَسْقَلَةَ، عَنْ مَجْرَاةَ بْنِ زَاهِرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ

طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الذَّنَسِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَقِبةِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

يَزِيدَ

2180 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا

الْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَانُ بْنُ

عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ رَقِبةِ بْنِ مَسْقَلَةَ، عَنِ

الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا دَخَلَ الرَّفْقُ فِي شَيْءٍ

إِلَّا زَانَهُ، وَلَا نُزِعَ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَقِبةِ إِلَّا أَبُو حَمْزَةَ .

یہ حدیث شعیب سے صرف ان کے بیٹے عبدالسلام

ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

رسول اللہ ﷺ یہ دعا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي

بِالثَّلْجِ وَالْبَرْدِ وَالْمَاءِ الْبَارِدِ، اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ

الذُّنُوبِ كَمَا يُطَهَّرُ الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الذَّنَسِ“۔

یہ حدیث رقبہ سے صرف ابراہیم بن یزید ہی

روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی

کریم ﷺ نے فرمایا: جس شی میں نرمی داخل ہوتی ہے وہ

اس کو خوبصورت کر دیتی ہے اور جس شے سے نرمی لے لی

جائے اس کو بدصورت بنا دیتی ہے۔

یہ حدیث رقبہ سے صرف ابو حمزہ ہی روایت کرتے

ہیں۔

2179- أخرجه مسلم في الصلاة جلد 1 صفحہ 346، والنسائي في الغسل جلد 1 صفحہ 163 (باب الاغتسال بالثلج

والبرد) وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 432 رقم الحديث: 19142 .

2180- أخرجه مسلم في البر جلد 4 صفحہ 2004، وأبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحہ 3 رقم الحديث: 2478، وأحمد في

المسند جلد 6 صفحہ 66 رقم الحديث: 24361، وانظر الترغيب والترهيب لابن المنذر جلد 2 صفحہ 415 رقم

الحديث: 3 .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے اس آدمی کے متعلق پوچھا جو جنابت میں سوتا ہے تو آپ ﷺ نے فرمایا: وہ وضو کر لے پھر سو جائے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ جب رات کو نماز پڑھتے تو آپ وتر بھی پڑھتے تھے پھر اپنے بستر پر آتے، پس جب آپ کو نماز کے لیے بلایا جاتا تو آپ اپنے بستر سے اٹھ جاتے اگر آپ حالت جنابت میں ہوتے تو اپنے اوپر پانی بہاتے، اور اگر حالت جنابت میں نہ ہوتے تو نماز جیسا وضو کرتے پھر نماز کے لیے جاتے۔

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور آپ فرما رہے تھے: یہ میرا ولی ہے اور میں اس کا ولی ہوں، میں اس سے دوستی رکھوں گا جو اس

2181 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الصَّبَّاحِ الْمُسَمَعِيُّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَنَامُ وَهُوَ جُنُبٌ؟ فَقَالَ: يَتَوَضَّأُ، ثُمَّ يَرْقُدُ

2182 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ السَّبَّيْعِيُّ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَسْوَدُ بْنُ يَزِيدَ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى صَلَاتَهُ مِنَ اللَّيْلِ أَوْتَرَ، ثُمَّ جَاءَ إِلَى فِرَاشِهِ، فَإِذَا نَادَى الْمُنَادِي بِالصَّلَاةِ وَتَبَّ مِنْ فِرَاشِهِ، فَإِنْ كَانَ جُنُبًا أَقَاضَ عَلَيْهِ الْمَاءَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ جُنُبًا تَوَضَّأَ وَضُوئَهُ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ جَاءَ فَصَلَّى

2183 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الصُّوفِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ خَالِدٍ أَبُو عَمْرٍو الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ، عَنِ الْمُعَلَّى بْنِ عُرْفَانَ، عَنِ أَبِي وَإِئِيلٍ، عَنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:

2181- أخرجه البخارى فى الغسل جلد 1 صفحہ 468 رقم الحديث: 290، ومسلم فى الحيض جلد 1 صفحہ 249 والدارمى فى الطهارة جلد 1 صفحہ 212 رقم الحديث: 756، وأحمد فى المسند جلد 2 صفحہ 63 رقم الحديث: 5055 .

2182- أخرجه النسائى فى قيام الليل جلد 3 صفحہ 189 (باب وقت الوتر) وأحمد فى المسند جلد 6 صفحہ 197 رقم الحديث: 25488 .

2183- انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 111 .

سے دوستی رکھے گا اور میں اس سے دشمنی رکھوں گا جو اس سے دشمنی رکھے گا۔

رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِ عَلِيٍّ وَهُوَ يَقُولُ: هَذَا وَلِيِّي وَأَنَا وَلِيُّهُ، وَالْيَيْتُ مَنْ وَالَى، وَعَادَيْتُ مَنْ عَادَى

یہ حدیث ابو داؤد سے صرف معلیٰ بن عرفان ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں علی بن قاسم الکندی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي وَائِلٍ إِلَّا الْمُعَلَّى بْنُ عُرْفَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ الْقَاسِمِ الْكِنْدِيُّ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مردوں اور عورتوں کے درمیان کھڑے ہوئے، آپ نے مردوں کو صدقہ دینے پر ابھارا، پھر عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے تو آپ نے انہیں بھی صدقہ دینے پر ابھارا۔ حضرت زینب زوجہ عبداللہ رضی اللہ عنہا نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ رسول اللہ ﷺ کو مہاجرین عورتوں کی طرف سے سلام عرض کرنا اور آپ ﷺ کو میرے متعلق نہ بتانا اور عرض کرنا کہ کیا اس میں بھی نیکی ہے کہ مہاجر عورتیں اپنے مہاجر شوہروں کو صدقہ دیں اور جو یتیم ان کی پرورش میں ہیں یا اپنے بھائیوں کے بیٹوں کو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا: ہاں! ان کے لیے دواجر ہیں ایک رشتے داری کا اور دوسرا صدقہ کا۔

2184 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَبْسَةَ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَحَصَّ الرِّجَالَ عَلَى الصَّدَقَةِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النِّسَاءِ، فَحَثَّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ فَبَعَثَتْ إِلَيْهِ زَيْنَبُ امْرَأَةُ عَبْدِ اللَّهِ بِإِلَّاءٍ، فَقَالَتْ: أَقْرَأُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ مِنْ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَلَا تُبَيِّنْ لَهُ، وَقُلْ لَهُ: هَلْ لَهَا مِنْ أَجْرٍ فِي زَوْجِهَا مِنْ الْمُهَاجِرِينَ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ، وَأَبْتَامُ فِي حَجْرِهَا، وَهُمْ بَنُو أُخِيهَا أَنْ تَجْعَلَ صَدَقَتَهَا فِيهِمْ؟ فَاتَى بِلَالُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: نَعَمْ، لَهَا أَجْرَانِ: أَجْرُ الْقَرَابَةِ، وَأَجْرُ الصَّدَقَةِ

یہ حدیث عامر بن شقیق سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حجاج بن نصیر اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَامِرِ بْنِ شَقِيقٍ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ
2185 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا

نبی کریم ﷺ جس وقت سواری پر سیدھے بیٹھ گئے تو اس وقت آپ نے تلبیہ پڑھا۔

الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّغَفَرَانِيُّ قَالَ: نَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ قَالَ: نَا وَرْقَاءُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَعْدَةَ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدِ بْنِ أَبِيهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ

یہ حدیث عمرو بن دینار سے صرف ورقاء ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا وَرْقَاءُ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جو جان بھی قتل کی جائے گی اس کے گناہ کا حصہ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے پر ہوگا کیونکہ اس نے سب سے پہلے قتل کا طریقہ شروع کیا تھا۔

2186 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيِّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ إِلَّا كَانَ عَلَى ابْنِ آدَمَ كِفْلًا مِنْهُ، لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ وَخَالَفَ سُلَيْمَانَ أَصْحَابَ الْأَعْمَشِ فِي إِسْنَادِهِ، فَقَالَ: عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ شَقِيقِ، وَرَوَاهُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ: عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ

یہ حدیث سلیمان تمیمی سے صرف معتمر ہی روایت کرتے ہیں۔ اسے روایت کرنے میں عمرو بن عاصم اکیلے ہیں۔ سلیمان نے اعمش کے اصحاب کی اس سند میں مخالفت کی اور فرمایا: عبداللہ شقیق سے روایت کرتے ہیں کہ سفیان ثوری وغیرہ از اعمش از عبداللہ بن مرہ از ابوالاحوص روایت کرتے ہیں۔

2187 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ

2186- أخرجه البخاری فی الاعتصام جلد 13 صفحہ 314 رقم الحدیث: 7321، والترمذی فی العلم جلد 5 صفحہ 42 رقم الحدیث: 2673، وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 561 رقم الحدیث: 4122، والطبرانی فی الکبیر جلد 10 صفحہ 192 رقم الحدیث: 10429 .

2187- أخرجه البخاری فی جزاء الصيد جلد 4 صفحہ 86 رقم الحدیث: 1864، ومسلم فی الحج جلد 2 صفحہ 676

سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سواریوں کے کجاوے صرف تین مسجدوں کی طرف باندھے جائیں (۱) مسجد نبوی (۲) مسجد حرام (۳) بیت المقدس۔

الْمُعَلَّىٰ بِنِ مِّنْصُورِ الرَّازِيِّ قَالَ: نَا أَبُو غَسَّانَ مَالِكُ بِنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا مِندَلُ بِنِ عَلِيٍّ، عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَمْرٍو، عَنِ قَزَعَةَ، عَنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِ بَيْتِ الْمَقْدِسِ

یہ حدیث حسن بن عمرو سے صرف مندل اور مندل سے صرف غسان ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں یحییٰ بن معقل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بِنِ عَمْرٍو إِلَّا مِندَلٌ، وَلَا عَنِ مِندَلٍ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بِنِ الْمُعَلَّى

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطیبہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کو پچھنا لگایا آپ نے اس کو کھانے کا ایک صاع دیا اور اس کے اہل کو حکم دیا کہ اس سے تخفیف کریں۔

2188 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بِنِ شُعَيْبِ الْبِسْمَسَارِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بِنِ عَبْدِ لَعَزِيزِ بِنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَطَاءِ بِنِ أَبِي رِيَّاحٍ، عَنِ أَنَسِ بِنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو طَيِّبَةَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَعْطَاهُ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُخَفِّفُوا عَنْهُ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف عبد المجید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: نحر کے دن ادھر آؤ! میرے لیے کچھ کنکریاں لے آنا میں نے ان کے لیے کچھ کنکریاں لیں وہ ٹھیکری کی طرح کنکریاں تھیں آپ نے فرمایا: اس کی مثل مارو! کیونکہ تم سے پہلے لوگ اس

2189 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بِنِ مِّنْصُورِ الرَّمَادِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بِنِ سُلَيْمَانَ، عَنِ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنِ زِيَادِ بِنِ حُصَيْنٍ، عَنِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بِنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ

2188- أخرجه البخاری فی البيوع جلد 4 صفحہ 380 رقم الحدیث: 2102، ومسلم فی المساقاة جلد 3 صفحہ 1204.

2189- أخرجه النسائی فی المناسک جلد 5 صفحہ 218 (باب النفاط الحصى) وابن ماجه فی المناسک جلد 2

صفحہ 1008 رقم الحدیث: 3029، وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 283 رقم الحدیث: 1856.

لیے ہلاک ہوئے ہیں کہ انہوں نے دین میں غلو کیا۔

کسی ایک نے بھی ذکر نہیں کیا جس نے یہ حدیث ازعوف بن زیاد از ابوالعالیہ از حضرت ابن عباس از فضل روایت کی صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔ اور دوسرے لوگ عوف سے وہ زیاد سے وہ ابوالعالیہ سے اور وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: حسن و حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔

یہ حدیث سعید بن مسروق سے صرف قیس بن ربیع ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں علی بن ثابت اکیلے ہیں۔

حضرت ابو برزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی اپنا قدم نہیں اٹھائے گا

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ: هَاتِ، التَّقَطُّ لِي حَصِيَّاتٍ ، فَالتَّقَطُّ لَهُ حَصِيَّاتٍ مِّثْلَ حَصِيَّاتِ الخَذْفِ فَقَالَ: بِمِثْلِ هَؤُلَاءِ فَارْمُوا، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِالْغُلُوِّ فِي الدِّينِ

لَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِّمَّنْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: عَنِ الْفَضْلِ إِلَّا جَعْفَرًا، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ عَوْفٍ، عَنْ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

2190 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دَلُوبَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ الدَّهَّانِ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي نُعْمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ إِلَّا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ ثَابِتِ

2191 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا أَبُو يُونُسَ

الْقُلُوسِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ:

2190- أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 656 رقم الحدیث: 3768، وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 5 رقم

الحدیث: 11005 .

2191- أخرجه الترمذی فی القيامة رقم الحدیث: 3614، والدارمی جلد 1 صفحہ 135، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 10

صفحہ 232 .

یہاں تک کہ اس سے چار سوال نہ کیے جائیں: (۱) اس کے جسم کے متعلق کہ کہاں اس کو استعمال کیا (۲) اس کی عمر کے متعلق کہ کہاں ضائع کی (۳) اس کے مال کے متعلق کہ اس کو کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا (۴) اور اہل بیت کی محبت کے متعلق۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! آپ کی محبت کی کیا نشانی ہے؟ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے کندھے پر ہاتھ مارا (یعنی ان سے محبت کرنا میرے اہل بیت سے محبت کرنا ہے)۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اگر ہم میں سے کسی کو کپڑے میں حیض آتا تو جب وہ پاک ہوتی تو اس کپڑے کو دھوتی جہاں پر حیض کا خون لگا ہوتا پھر اس میں نماز پڑھتی۔ آج تم نے اپنے خادم کو اس کی پاکی کے دن اس کپڑے کو دھونے سے فارغ کر دیا ہے۔

مجاہد سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں منہال اکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن غسل کرنا مستحب ہے فرض نہیں ہے۔

اسے رحیل سے صرف شجاع ہی روایت کرتے ہیں۔

نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ مَعْرُوفِ بْنِ خَرَبُودَةَ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي بَرُزَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ أَرْبَعَةٍ: عَنْ جَسَدِهِ فِيمَا أَبْلَاهُ، وَعَمْرِهِ فِيمَا أَفْنَاهُ، وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيمَا أَنْفَقَهُ، وَعَنْ حُبِّ أَهْلِ الْبَيْتِ. فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا عَلَامَةُ حُبِّكُمْ؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

2192 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ

الْحُسَيْنِ بْنِ إِشْكَابٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَلْمَةَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أُمِّ سَلْمَةَ قَالَتْ: كَانَتْ إِحْدَانَا تَحِيضُ فِي الثَّرْبِ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ طَهْرِهَا غَسَلَتْ مَا أَصَابَهُ، ثُمَّ صَلَّتْ فِيهِ، وَإِنَّ إِحْدَاكُنَّ الْيَوْمَ تَفَرَّغُ خَادِمَهَا لِعَسَلِ ثِيَابِهَا يَوْمَ طَهْرِهَا لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمِنْهَالُ

2193 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ

الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا أَبُو بَدْرٍ شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نَا الرَّحِيلُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: يُسْتَحَبُّ الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَلَيْسَ بِحْتَمٍ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الرَّحِيلِ إِلَّا شُجَاعُ

2192- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 285 .

2193- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 178-179 .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اس قرآن کو پڑھا وہ معزز فرشتوں کے ساتھ ہوگا اور جو انک انک کر پڑھتا ہے اس کے لیے کو دو گنا ثواب ہے۔

2194 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ زَيْدٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ هَذَا كَانَ مَعَ السَّفَرَةِ الْكِرَامِ الْبَرْرِ وَمَنْ يَتَتَعْتَعُ فِيهِ كَانَ لَهُ أَجْرَانِ

اسے روح بن قاسم سے صرف عیسیٰ بن شعیب ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا عِيسَى بْنُ شُعَيْبٍ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مشورہ امانت ہوتا ہے پس جب کسی سے مشورہ لیا جائے تو وہ اس کو اپنی طرف سے جو اس نے کرنا ہے اچھا مشورہ دے۔

2195 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْسَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الصَّبَّيِّ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ الْمُكْتَبِ، عَنِ الْمُسَيْبِ بْنِ نَجْبَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْمُسْتَشَارُ مُؤْتَمَنٌ، فَإِذَا اسْتُشِيرَ فَلْيُشِرْ بِمَا هُوَ صَانِعٌ لِنَفْسِهِ لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْسَةَ، وَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ

یہ حدیث عبدالرحمن بن عبسہ ہی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث غریب ہے۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں داخل ہوا کہ نبی کریم ﷺ رکوع میں تھے پھر میں نے صف میں ملنے سے پہلے ہی رکوع کر لیا یہاں تک کہ صف میں داخل ہو۔ تو نبی کریم ﷺ نے جس وقت

2196 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زُهَيْرٍ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَامِرُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا زُقَيْرٌ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: دَخَلْتُ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاكِعٌ،

2195- انظر: مجمع الروائد جلد 8 صفحہ 99 .

2196- أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 312 رقم الحدیث: 783، وأبو داؤد فی الصلاة جلد 1 صفحہ 179 رقم

الحدیث: 683، والنسائی فی الامامة جلد 2 صفحہ 91 (باب الركوع دون الصف) وأحمد فی المسند جلد 5

صفحہ 49 رقم الحدیث: 20430 .

سلام پھیرا تو فرمایا: اللہ عزوجل تیری حرص میں اضافہ
کرے آئندہ ایسا نہ کرنا۔

فَرَكَعْتُ خَارِجًا مِنَ الصَّفِّ، ثُمَّ مَشَيْتُ حَتَّى دَخَلْتُ
فِي الصَّفِّ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ
انْصَرَفَ: زَادَكَ اللَّهُ حِرْصًا، وَلَا تَعُدْ
لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زُفَرٍ إِلَّا ابْنُ مُدْرِكٍ

اسے زفر سے صرف ابن مدرک ہی روایت کرتے

ہیں۔



أَحْمَدُ بْنُ زَكْرِيَّا شَاذَانُ

احمد بن زكريا شاذان کی روایات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے کبھی رسول اللہ ﷺ کی شرمگاہ نہیں دیکھی۔

2197 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَكْرِيَّا شَاذَانُ الْقَصْرِيُّ قَالَ: نَا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ عَوْرَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطُّ

اسے صرف برکہ بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا بَرَكَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ غزوات میں شریک ہوئے تھے ہم ٹڈیاں کھاتے تھے۔

2198 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، وَأَبِي يَعْقُورٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ، نَأْكُلُ الْجِرَادَ

اسے شیبانی سے صرف ابو عوانہ اور ابو عوانہ سے صرف یحییٰ بن حماد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں حسن بن مدرک اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، وَلَا عَنْ أَبِي عَوَانَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ مُدْرِكٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت کے

2199 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُدْرِكٍ الْقَصْرِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ الْوَأَسِطِيُّ

2198- أخرجه البخاری فی الذبائح جلد 9 صفحہ 535 رقم الحدیث: 5495، ومسلم فی الصيد والذبائح جلد 3 صفحہ 1546.

2199- أخرجه أبو داؤد فی الصلاة جلد 1 صفحہ 227 رقم الحدیث: 864، والنسائی فی الصلاة جلد 1 صفحہ 188 (باب المحاسبة على الصلاة)، وابن ماجه فی الاقامة جلد 1 صفحہ 458 رقم الحدیث: 1425، وأحمد فی المسند جلد 2 صفحہ 389 رقم الحدیث: 7921.

دن سب سے پہلے بندہ سے نماز کے متعلق حساب لیا جائے گا، اللہ عزوجل فرشتوں کو فرمائے گا: میرے بندے کی نماز دیکھو کہ مکمل ہے یا اس میں کمی ہے؟ اگر مکمل ہوگی تو اس کے لیے مکمل ثواب لکھا جائے گا، اور اگر کمی ہوگی تو کہا جائے گا: کیا میرے بندہ کے نامہ اعمال میں نفل ہیں تو اس کے ذریعہ فرضوں میں کمی پوری کی جائے پھر اس کے بعد دوسرے اعمال لیے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے دباؤ اور مزفت کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔

ان دونوں کو ابن ثوبان سے صرف عتبہ بن حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: قریش سے دس افراد جنتی ہیں: ابو بکر جنتی ہیں، عمر جنتی ہیں، عثمان جنتی ہیں، علی جنتی ہیں، طلحہ جنتی ہیں، زبیر جنتی ہیں، سعد جنتی ہیں، سعید جنتی ہیں، عبد الرحمن بن عوف جنتی ہیں، ابو عبیدہ بن جراح جنتی ہیں۔

قَالَ: نَا أَبُو خُلَيْدٍ عُبَيْدُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثُوْبَانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، أَنَّهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو حَكِيمٍ الصَّبِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ صَلَاتُهُ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِمَلَائِكَتِهِ: انظُرُوا إِلَيَّ صَلَاةَ عَبْدِي، أَتَمَّهَا أَوْ نَقَصَهَا؟ فَإِنْ أَتَمَّهَا كُتِبَتْ لَهُ تَامَةٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ انْتَقَصَهَا، قِيلَ: انظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ نَافِلَةٍ تُكْمِلُونَ بِهَا فَرِيضَتَهُ؟ ثُمَّ تَوَخَّذُوا الْأَعْمَالَ بَعْدَ ذَلِكَ

2200 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مُدْرِكٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا ابْنُ ثُوْبَانَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَابِ وَالظَّرُوفِ الْمُزَقَّةِ لَمْ يَرَوْهُمَا عَنِ ابْنِ ثُوْبَانَ إِلَّا عُبَيْدُ بْنُ حَمَادٍ

2201 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ الْقُضَيْرِيُّ الْمُؤَدَّبُ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْخُمْسِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَشْرَةٌ مِنْ فَرِيضٍ فِي الْجَنَّةِ: أَبُو بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ، وَعُمَرُ فِي الْجَنَّةِ، وَعُثْمَانُ فِي

2200 - أخرجه مسلم في الأشربة جلد 3 صفحہ 1578، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 546 رقم الحديث: 9373 .

2201 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 29 .

الْجَنَّةِ، وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَّةِ، وَطَلْحَةُ فِي الْجَنَّةِ، وَالزُّبَيْرُ
فِي الْجَنَّةِ، وَسَعْدٌ فِي الْجَنَّةِ، وَسَعِيدٌ فِي الْجَنَّةِ،
وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ فِي الْجَنَّةِ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ
الْجَرَّاحِ فِي الْجَنَّةِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا
يُرْوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

اسے سفیان سے صرف حامد بن یحییٰ ہی روایت
کرتے ہیں اور حضرت ابن عمر سے صرف اسی سند سے یہ
روایت مروی ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: جس کی اللہ عزوجل آنکھ لے جائے
اور وہ صبر کرے اور ثواب کی نیت کرے تو اللہ پر ضروری
ہے کہ اس کی آنکھ کو جہنم نہ دکھائے۔

اس کو صرف وہب بن حفص ہی روایت کرتے

ہیں۔

2202 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ وَهْبٍ أَبُو زَيْدٍ
الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ
عَوْنٍ قَالَ: أَنَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَذْهَبَ اللَّهُ بَصَرَهُ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، كَانَ حَقًّا
عَلَى اللَّهِ وَاجِبًا أَنْ لَا تَرَى عَيْنَاهُ النَّارَ
لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا وَهْبُ بْنُ حَفْصٍ



احمد بن خلیل جریری کی روایات

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ سے گوہ کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: یہ مسخ شدہ امت ہے اور اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔

اسے روح بن قاسم سے صرف محمد بن سواء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو خطبہ دیتے ہوئے سنا وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک دن رسول اللہ ﷺ کو وضو کروا رہا تھا آپ نے اپنا سر مبارک میری طرف اٹھایا فرمایا: عنقریب تجھے میرے بعد میری امت کا والی بنایا جائے گا اگر ایسا ہو جائے تو ان کی اچھائیاں قبول کرنا اور بُرائیوں سے اجتناب کرنا۔ حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلسل اس کی امید رکھی یہاں تک کہ میں اس مقام پر کھڑا ہو گیا ہوں۔

اسے غالب القطان سے صرف یحییٰ بن غالب بن راشد ہی روایت کرتے ہیں۔

أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ

2203 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْجُرَيْرِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ يَحْيَى بْنِ زَمَامٍ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الضَّبِّ، فَقَالَ: أُمَّةٌ مُسَخَّتٌ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ

2204 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَابَهْرَامَ الْإِيذَجِيُّ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غَالِبِ بْنِ رَاشِدِ الْعَبْسِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ يَخْطُبُ وَهُوَ يَقُولُ: صَبَبْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَضَوْنَهُ، فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيَّ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ سَتَلِي أَمْرَ أُمَّتِي بَعْدِي، فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَقْبِلْ مِنْ مُحْسِنِهِمْ، وَتَجَاوَزْ، عَنْ مُسِيئِهِمْ قَالَ: فَمَا زِلْتُ أَرْجُوهَا حَتَّى قُمْتُ مَقَامِي هَذَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ غَالِبِ بْنِ رَاشِدِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مریض کی عیادت کرنے والا اللہ کی رحمت میں غوطہ زن ہوتا ہے، وہ جب اس کے پاس بیٹھتا ہے تو اس کی رحمت میں ڈوب جاتا ہے۔

2205 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمِصْرِيُّ الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نَا الْمُفْضَلُ بْنُ لَاحِقٍ قَالَ: نَا ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَائِدُ الْمَرِيضِ يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا جَلَسَ عِنْدَهُ اغْتَمَسَ فِيهَا

اسے مفضل سے صرف ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْمُفْضَلِ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

حضرت عروہ بن مضر رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔

2206 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْحَرِيشِ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

اسے اسماعیل سے صرف عمران بن عیینہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ إِسْمَاعِيلِ إِلَّا عِمْرَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ



احمد بن محمد نخعی کی روایات

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اللہ کا شدید غصہ اس پر ہوگا جس نے ظلم کیا اور جو میرے علاوہ کوئی مددگار نہ پائے۔

اسے ابواسحاق سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں مسعر بن ججاج اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ سے گم شدہ شے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: گم شدہ شے حلال نہیں؛ جس کو گم شدہ شے ملے تو وہ اس کا اعلان کرے، اگر اس کا مالک آجائے تو اس کو واپس کر دے اور اگر وہ نہ آئے تو اسے صدقہ کر دے پھر اگر وہ مالک آجائے تو اس کو اختیار ہے کہ اس کی مزدوری دے یا وہ چیز اس کو دے دے۔

اسے زیاد بن سعد سے صرف سمتی ہی روایت کرتے ہیں اور سبی سے صرف زیاد بن سعد ہی روایت کرتے ہیں۔

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ

2207 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّخَعِيُّ الْقَاضِي قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ الْحَجَّاجِ النَّهْدِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: اشْتَدَّ غَضَبُ اللَّهِ عَلَى مَنْ ظَلَمَ مَنْ لَا يَجِدُ نَاصِرًا غَيْرِي

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا شَرِيكُ، تَفَرَّدَ بِهِ مِسْعَرُ بْنُ الْحَجَّاجِ

2208 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ الْوَلِيدِ الشُّكْرِيُّ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ اللَّقْطَةِ؟ قَالَ: لَا تَحُلُّ اللَّقْطَةُ، مِنَ التَّقَطِّ شَيْئًا فَلْيَعْرِفْهُ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيَرُدَّهَا إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْتْ فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا، فَإِذَا جَاءَ فَلْيُخَيِّرْهُ بَيْنَ الْأَجْرِ، وَبَيْنَ الَّذِي لَهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا السَّمْتِيُّ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُمَيِّ إِلَّا زِيَادُ بْنُ سَعْدٍ



احمد بن عبد الکریم عسکری کی

روایات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آگ پر پکائی ہوئی شے کھائے وہ (کھا کر) وضو کرے۔

اسے ہارون سے صرف ابو قتیبہ ہی روایت کرتے ہیں، اور ہارون، یحییٰ سے اس حدیث کے علاوہ کوئی مسند حدیث روایت نہیں کرتے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا: لوگوں پر سو سال نہیں گزریں گے کہ آج جو زمین پر موجود ہے، کوئی نفس باقی نہیں رہے گا۔

اسے از داؤد از ابو عثمان صرف ابن ابی زائدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

احمد بن عبد الکریم
العسکری

2209 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْكُرَيْمِ الزَّعْفَرَانِيُّ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ قَالَ: نَا هَارُونَ بْنُ مُوسَى النَّحْوِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ هَارُونَ إِلَّا أَبُو قُتَيْبَةَ، وَلَمْ يُسْنِدْ هَارُونَ عَنْ يَحْيَى غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

2210 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمُوَيْهَ أَبُو سَيَّارٍ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَانُ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخَدْرِيِّ قَالَ: لَمَّا رَجَعْنَا مِنْ تَبُوكَ، سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: لَا يَأْتِي عَلَى النَّاسِ مِائَةٌ سَنَةٍ وَعَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ نَفْسٌ مَنفُوسَةٌ الْيَوْمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ إِلَّا ابْنَ أَبِي زَائِدَةَ

2209 - أخرجه مسلم في الحيض جلد 1 صفحہ 272 رقم الحديث: 352 والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحہ 87 (باب

الوضوء مما غيرت النار) وابن ماجه في جلد 1 صفحہ 163 رقم الحديث: 485، وأحمد في المسند جلد 2

- صفحہ 356 رقم الحديث: 7623 -

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کا شریک ٹھہراتا ہوا مرتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم میں داخل کرے گا، حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ ایک دوسری بات تھی جو میں نے رسول اللہ ﷺ سے نہیں سنی، میں اُمید کرتا ہوں کہ (وہ یہ تھی کہ) اللہ پر ضروری ہے کہ جو بندہ اس حالت میں مرے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے تو اللہ اس کو جنت میں داخل کرے۔

اسے ابوایوب افریقی سے صرف ابن ابی زائدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

2211 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمُوَيْهَ أَبُو سَيَّارٍ قَالَ: نَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكْرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ شَقِيقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا جَعَلَهُ اللَّهُ فِي النَّارِ وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: وَأُخْرَى لَمْ أَسْمَعْهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،: أَرْجُو أَنْ تَكُونَ حَقًّا: لَا يَمُوتُ عَبْدٌ لَّا يَجْعَلُ لِلَّهِ نَدًّا إِلَّا أَدَخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَفْرِيقِيِّ إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ



احمد بن فادک تستری کی

روایت

حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے تلوار مانگی تو آپ نے انہیں عطا کی اور رسول اللہ ﷺ نے ان پر اس حالت میں شرط لگائی کہ تلوار آپ کے ہاتھ میں تھی انہیں دینے سے پہلے۔ تو میں نے عرض کی: اے محمد! میں اس کے ساتھ مشرکوں کو قتل کروں گا، جب میں مسلمانوں کو دیکھوں گا کہ وہ لڑتے ہیں، تو میں ان کی طرف مدد کے لیے جاؤں گا، اسے اس کے ساتھ اُحد کی طرف بھیجے تاکہ وہ اسے توڑے۔

اسے محمد بن مجاہدہ سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

أَحْمَدُ بْنُ فَادِكِ
التُّسْتَرِيُّ

2212 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ فَادِكِ التُّسْتَرِيُّ

قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى أَبُو عَسَانَ السُّكْرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي قَالَ: قَالَ الْحَسَنُ: إِنَّ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيَّ سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفًا، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالسَّيْفُ فِي يَدِهِ قَبْلَ أَنْ يَدْفَعَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: هَاءَ يَا مُحَمَّدُ، فَاتْلُ بِهِ الْمُشْرِكِينَ مَا قُوتَلُوا، فَإِذَا رَأَيْتَ الْمُسْلِمِينَ اقْتَتَلُوا فَأَعْمَدَ بِهِ إِلَى أَحَدٍ فَأكْسِرَهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا ابْنَهُ



احمد بن مخلد برائی کی روایات

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا جنت میں ہم اپنے کپڑے اپنے ہاتھوں سے سلائی کریں گے؟ اس کی بات سن کر لوگ ہنس پڑے تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم کیوں ہنسے ہو؟ دیکھو تو سہی کہ بے علم ہے لیکن سوال اہل علم والا کرتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے دیہاتی! نہیں! بلکہ اس میں جنت کے پھل چیریں جائیں گے۔

اسے شععی سے صرف مجالد اور مجالد سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت جابر سے یہ حدیث صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اقامت پڑھی جائے تو پھر صرف فرض نماز ہے اور کوئی نماز نہیں ہے۔

أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَرَائِيُّ

2213 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَرَائِيُّ

قَالَ: نَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ مُجَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثِيَابُنَا فِي الْجَنَّةِ نَنْسُجُهَا بَأَيْدِينَا؟ قَالَ: فَضَحَكَ الْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بِمَ تَضْحَكُونَ؟ مِنْ جَاهِلٍ يَسْأَلُ عَالِمًا؟ لَا يَا أَعْرَابِيٌّ، وَلَكِنَّهَا تَشْفَقُ عَنْهَا نَمْرَاتُ الْجَنَّةِ لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا مُجَالِدًا، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا ابْنَهُ، وَلَا يُرْوَى إِلَّا عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2214 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي يَحْيَى

الْحَضْرَمِيُّ الْمَعْرُوفُ بِبِزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ أَبِي نَاجِيَةَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ يُونُسَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ

2214- أخرجه مسلم في المسافرين جلد 1 صفحہ 493، وأبو داود في الصلاة جلد 2 صفحہ 22 رقم الحديث: 1266،

والترمذی في الصلاة جلد 2 صفحہ 282 رقم الحديث: 421، والنسائی في الامامة جلد 2 صفحہ 90 (باب ما يكره

من الصلاة عند المكتوبة) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحہ 364 رقم الحديث: 1151، والدارمی في الصلاة

جلد 1 صفحہ 400 رقم الحديث: 1448، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 599 رقم الحديث: 9886.

عمرو بن دينار اور عطاء کے درمیان زہری داخل نہیں کرتے سوائے محمد بن عبداللہ بن عبید اللہ بن عبید بن عمیر کے۔

لَمْ يَدْخُلْ بَيْنَ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَعَطَاءِ الزُّهْرِيِّ
إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبِيدِ بْنِ عُمَيْرٍ

حضرت ابو اسحاق اپنے والد ذؤانہ ان کے دادا حضرت عیظ بن شریط سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے مسجد بنائی اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔

2215 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ
إِبْرَاهِيمَ بْنِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي إِسْحَاقُ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ نُبَيْطِ بْنِ شَرِيطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا بَنَى
اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ .

حضرت عیظ سے یہ حدیث صرف اسی سند سے روایت ہے اسے روایت کرنے میں ان کی اولاد اکیلی ہے۔

لَا يُرْوَى عَنْ نُبَيْطِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ
وَلَكَّذُهُ عَنْهُ



احمد بن محمد البوراني کی

روایات

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نبی کریم ﷺ سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا: جنگ دھوکہ کا نام ہے۔

اسے ہشام بن عروہ سے صرف علی بن غراب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس نے تنگ دست کو خوشحالی تک مہلت دی اللہ عزوجل اس کو گناہوں کی معافی مانگنے کی مہلت دے گا۔

حضرت ابن عباس سے یہ حدیث صرف اسی سند سے روایت ہے اسے روایت کرنے میں صدائی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز میں

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

البُرَانِيُّ

2216 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُرَانِيُّ الْقَاضِي قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ جَعْفَرِ الْمَدَائِنِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَرْبُ خَدَعَةٌ.

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ

2217 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبُرَانِيُّ الْقَاضِي قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّدَائِيُّ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ الْجَارُودِ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي الْمُنِيرِ، خَالَ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْظَرَ مُعْسِرًا إِلَى مَيْسَرَتِهِ أَنْظَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِذَنْبِهِ إِلَى تَوْبَتِهِ.

لَا يُرَوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّدَائِيُّ

2218 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْمُسَيْبِ بْنِ طُعْمَةَ الْحَلْبِيِّ قَالَ: نَا أَبُو خَيْثَمَةَ مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ

2216 - أخرجه ابن ماجه فى الجهاد جلد2 صفحه 945 رقم الحديث: 2833 .

2217 - أخرجه الطبرانى فى الكبير جلد 12 صفحه 151 رقم الحديث: 11330 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4

صفحة 137-138 .

2218 - انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 8612 .

ہو تو وہ اپنی آنکھیں بند نہ کیا کرے۔

قَالَ: نَا مُوسَىٰ بَنُ أَعْيَنَ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ فِي الصَّلَاةِ فَلَا يُغْمِضُ
عَيْنَيْهِ .

رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث صرف اسی سند سے
روایت ہے اور موسیٰ سے اسے صرف مصعب ہی روایت
کرتے ہیں۔

لَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُوسَىٰ إِلَّا مُصْعَبٌ

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نبی کریم ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک آدمی آیا
اس نے وضو کیا اور اس کے قدموں میں کچھ جگہ خشک تھی، تو
نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جاؤ! اپنا وضو مکمل کرو، تو اس نے
ایسا ہی کیا۔

2219 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ
التَّمِيمِيُّ الْمِصْبِيُّ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ:
نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ سِقْلَابٍ، عَنِ الْوَازِعِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ
سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ:
كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
فَجَاءَ رَجُلٌ قَدْ تَوَضَّأَ وَفِي قَدَمَيْهِ مَوْضِعٌ لَمْ يُصْبَهُ
الْمَاءُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
أَذْهَبْ فَاتِمَّ وَضُوءَكَ ، فَفَعَلَ .

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابو بکر سے یہ حدیث صرف اسی سند سے
روایت کی گئی ہے۔

2220 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ
السُّلَمِيِّ، بِجُونِيَّةَ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حِصْنِ
بْنِ حَسَّانِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ
الْبَيْرُوتِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشُّفْعَةُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شفعہ ہر شریک کے لیے ہے
چاہے وہ چوتھائی حصے میں ہو یا دیوار میں شریک ہو، کسی کو
فروخت کرنا جائز نہیں ہے یہاں تک کہ اپنے شریک سے
اجازت لے لے کہ وہ لے یا چھوڑ دے۔

2219- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 144 .

2220- أخرجه مسلم في المساقاة جلد 3 صفحہ 1229، وأبو داؤد في البيوع جلد 3 صفحہ 283 رقم الحديث: 3513،

والنسائي في البيوع جلد 7 صفحہ 265 (باب بيع المشاع)، وأحمد في المسند جلد 3 صفحہ 388 .

فِي كُلِّ شَرِكٍ فِي رُبْعٍ أَوْ حَائِطٍ لَا يَصْلُحُ أَنْ يَبِيعَهُ
حَتَّى يُؤْذَنَ شَرِيكُهُ، فَيَأْخُذَ أَوْ يَدَعَ

2221 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يُونُسَ الرَّقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي سَمِينَةَ قَالَ: نَا
أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ أَبِي
أَوْقَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
قَالَ لِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: بَشِّرْ خَدِيجَةَ بَبَيْتٍ فِي
الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، لَا صَخَبَ فِيهِ، وَلَا نَصَبَ .

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا ابْنُ عِيَّاشٍ، وَلَا رَوَاهُ
عَنْهُ إِلَّا ابْنُ أَبِي سَمِينَةَ

2222 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
يُونُسَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى التَّمِيمِيُّ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ
أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ قَالَ: قُلْتُ
لِلرُّبَيْعِ بِنْتِ مَعْوِذِ ابْنِ عَفْرَاءَ: صَفِي لِي رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: كُنْتُ إِذَا رَأَيْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُهُ كَالشَّمْسِ
الطَّالِعَةِ .

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الرَّبِيعِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ . تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى

2223 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارُ
الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا هَارُونُ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَبِي الزَّرْقَاءِ قَالَ:

حضرت ابن ابی اوفی رضی اللہ عنہ روایت کرتے
ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مجھے حضرت جبریل
علیہ السلام نے کہا کہ آپ خدیجہ کو جنت میں ایسے گھر کی
خوشخبری دیں جو بانسوں کا ہوگا اس میں نہ شور اور نہ ہی
تھکاوٹ ہوگی۔

اسے شیبانی سے صرف ابن عیاش ہی روایت کرتے
ہیں اسے روایت کرنے میں ابن ابی سمینہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء
رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے رسول اللہ ﷺ کی تعریف
سنائیں! آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں رسول اللہ
ﷺ کو جب بھی دیکھتی تھی تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ سورج
چمک رہا ہے۔

یہ حدیث ربیع سے صرف اسی سند سے روایت ہے
اسے روایت کرنے میں عبد اللہ بن موسیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت
عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے کسی شے پر اتنی

2221- أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحه 15 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحه 227 .

2222- انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحه 283 .

2223- أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحه 17 .

ندامت نہیں ہوئی جتنی مجھے اس بات پر ندامت ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ہوا کے متعلق کیوں نہیں پوچھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: کیوں نہیں! بلکہ میں نے آپ ﷺ سے اس کے متعلق پوچھا ہے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ ہوا کس چیز سے ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل کی طرف سے وہ بھیجتا ہے اس کو رحمت بنا کر اور عذاب بنا کر بھی۔

اسے شبلی سے صرف زید بن ابی زرقاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: تم جلاؤ گے، تم جلاؤ گے، جب تم نے فجر کی نماز پڑھ لی تو تم نے اس کو دھولیا پھر تم جلو گے جلو گے، جب تم نے ظہر کی نماز پڑھ لی تو تم نے اس کو دھولیا پھر تم جلو گے جلو گے، پھر تم جلو گے، پھر تم جلو گے، عصر کی نماز پڑھ لی تو تم اسے دھولیا کر دو پھر تم جلو گے تم جلو تو پھر جب تم مغرب کی نماز پڑھ لو گے تو تم نے اس کو دھو لیا، پھر تم جلو گے پھر تم جلو گے، پس جب تم نے عشاء کی نماز پڑھ لی تو تم نے اس کو دھولیا، پھر تم سوؤ گے کہ تم پر کوئی شے نہیں لکھی جائے گی یہاں تک کہ تم جاگ جاؤ۔

علی بن عثمان للاحقی اسے مرفوعاً روایت کرتے ہیں اور ایک جماعت اسے حماد بن سلمہ سے مرفوعاً روایت کرتی ہے۔

حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا شِبْلُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: مَا نَدِمْتُ عَلَى شَيْءٍ مَا نَدِمْتُ عَلَىٰ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرِّيحِ. فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: بَلَىٰ قَدْ سَأَلْتُهُ عَنْهَا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرِّيحُ مِمَّ هِيَ؟ قَالَ: مِنْ رُوحِ اللَّهِ يَبْعَثُهَا بِالرَّحْمَةِ، وَيَبْعَثُهَا بِالْعَذَابِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شِبْلٍ إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي الزَّرْقَاءِ

2224 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْحَسَنِ

التَّمِيمِيُّ أَبُو الصَّفْرِ الْبُعْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْأَلْحِقِيُّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ ابْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَحْتَرِفُونَ، تَحْتَرِفُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْفَجْرَ غَسَلْتُمُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِفُونَ تَحْتَرِفُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الظُّهْرَ غَسَلْتُمُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِفُونَ تَحْتَرِفُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعَصْرَ غَسَلْتُمُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِفُونَ تَحْتَرِفُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْمَغْرِبَ غَسَلْتُمُهَا، ثُمَّ تَحْتَرِفُونَ تَحْتَرِفُونَ، فَإِذَا صَلَّيْتُمُ الْعِشَاءَ غَسَلْتُمُهَا، ثُمَّ تَنَامُونَ فَلَا يُكْتَبُ عَلَيْكُمْ شَيْءٌ حَتَّىٰ تَسْتَيْقِظُونَ

رَفَعَهُ عَلِيُّ بْنُ عُثْمَانَ الْأَلْحِقِيُّ. وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ: عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ مَوْفُوفًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے خلیل ﷺ نے مجھے تین نصیحت کیں: رات کو سونے سے قبل وتر پڑھنے اور ہر مہینے میں تین روزے رکھنے اور جمعہ کے دن غسل کرنے کی۔

2225 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزَّازُ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا مِسْكِينُ أَبُو فَاطِمَةَ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ: الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِّنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْفَسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

2226 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشْرِ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا مِسْكِينُ، عَنْ حَوْشَبٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤُوا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ إِلَّا مِسْكِينُ، وَلَا رَوَاهُمَا عَنْهُ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ بَشْرِ

2227 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ السَّلَامِ الْجَوَابِقِيُّ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْحَبِطِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ حَكِيمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعْمَ الْإِدَامُ الْحَلُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جو کوئی آگ پر پکی ہوئی چیز کھائے تو وہ وضو کرے۔

یہ دونوں حدیثیں حوشب بن عقیل سے صرف مسکین ہی روایت کرتے ہیں، ان دونوں کو صرف اسماعیل بن بشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سرکہ بہترین سالن ہے۔

2225- أخرجه النسائي في الصيام جلد4 صفحه187 (باب صوم ثلاثة أيام من الشهر) وأحمد في المسند جلد2

صفحة307 رقم الحديث: 7157 .

2226- تقدم تخريجه .

2227- أخرجه الطبراني في الصغير جلد1 صفحه55 . انظر: مجمع الزوائد جلد5 صفحه46 .

حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ذی الحجہ کا چاند دیکھا تو وہ چاند موٹا تھا، تھوڑے لوگوں نے کہا: محسوس ہو رہا تھا کہ دو راتوں یا زیادہ نے کہا: تین دن کا ہے جب ہم مکہ آئے تو میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملا میں نے ان سے ترویہ کے دن کے متعلق پوچھا تو انہوں نے میرے لیے آج کا دن شمار کیا۔ میں نے عرض کی: ہم نے چاند کو موٹا دیکھا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے اس کو لمبا کیا دیکھنے کے لیے۔

اسے ابو خالد الدالانی سے صرف عبدالسلام بن حرب ہی روایت کرتے ہیں۔ شعبہ عمرو بن مرہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں نماز پڑھائی، تو آپ نماز میں بھول گئے، سو آپ نے سہو کے دو سجدے کیے، پھر آپ نے التحيات پڑھی، پھر سلام پھیرا۔

اس کو صرف محمد بن ثواب ہی روایت کرتے ہیں۔

2228 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَمْدَانَ أَبُو سَعِيدٍ التُّسْتَرِيُّ، بِعَبَادَانَ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ يُوْسُفَ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّلَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ أَبِي الْبُخْتَرِيِّ قَالَ: اَهْلَلْنَا هَالَالَ ذِي الْحِجَّةِ قَمْرًا ضَخْمًا، الْمُقَلَّلُ يَقُولُ: مِنْ لَيْتَيْنِ، وَالْمُكْثَرُ يَقُولُ: مِنْ ثَلَاثٍ، فَلَمَّا قَدِمْنَا مَكَّةَ لَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ يَوْمِ الْبَرِّيَّةِ، فَعَدَّ لِي مِنْ ذَلِكَ الْيَوْمِ، فَقُلْتُ: اَنَا اَهْلَلْنَا قَمْرًا ضَخْمًا، فَقَالَ: اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَدَهُ اِلَى رُوَيْتِهِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّلَانِيِّ اِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ . وَقَدْ رَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ

2229 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الصَّبَّاحِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ ثَوَابٍ الْخُصْرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا الْأَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ، عَنْ عَمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِهِمْ، فَسَهَا فِي صَلَاةٍ، فَسَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ، ثُمَّ تَشَهَّدَ، ثُمَّ سَلَّمَ لَمْ يَرَوْهُ اِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوَابٍ



احمد بن محمد المرئی کی روایات

حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: ہماری اہل بیت کی موت کو لازم پکڑو کیونکہ جو اللہ سے اس حال میں ملاقات کرنے گا کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہوگا تو وہ ہماری شفاعت کی وجہ سے جنت میں داخل ہوگا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! کسی بندہ کو اس کا علم نفع نہیں دے گا جب تک اس کو ہمارے حق کی معرفت نہیں ہوگی۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے اور پیاز کھانے سے منع فرماتے تھے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب آدم علیہ السلام کا بیٹا فوت ہو گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے حضرت حوا علیہا السلام سے فرمایا: آپ کا بیٹا فوت ہو گیا؟ حضرت حوا علیہا السلام نے عرض کی: موت کیا ہے؟ فرمایا: نہ وہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ وہ چلتا ہے نہ پکڑتا ہے۔ حضرت آدم نے جب یہ فرمایا تو

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ

2230 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرِّيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ الْحَسَنِ الطَّحَّانُ قَالَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشَقْرُ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الزُّمُومَا مَوَدَّتْنَا أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّهُ مَنْ لَقِيَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ يَوْمُنَا دَخَلَ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَنْفَعُ عَبْدًا عَمَلُهُ إِلَّا بِمَعْرِفَةِ حَقِّنَا

2231 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُرْوَزِيُّ الْبَصْرِيُّ، بِالْبَصْرَةِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْهَى عَنْ أَكْلِ الْكُرَاثِ وَالْبَصَلِ

2232 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قُرْقَرَةَ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَيَّارِ الْحَرَائِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا مَاتَ ابْنُ آدَمَ، قَالَ آدَمُ لَا مَرَاتِهِ حَوَاءُ: إِنَّهُ قَدْ مَاتَ ابْنُكَ، قَالَتْ: وَمَا الْمَوْتُ؟ قَالَ: لَا

2230- انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 175 .

2231- أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 394 رقم الحدیث: 854، ومسلم فی المساجد جلد 1 صفحہ 394

وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 485 رقم الحدیث: 15280 .

2232- انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 8 .

حضرت حوا علیہا السلام نے چیخ ماری، حضرت آدم نے فرمایا: یہ چیخ مار کر رونا تیری اور تیری لڑکیوں پر جمع ہے اور میرے بیٹے اس سے بری ہیں، پس رونا عورتوں میں جاری ہو گیا۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے صرف اسی سند سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: ایک آدمی فوت ہو جاتا ہے اور وہ اپنی ایک بیٹی اور پوتا اور ایک بہن چھوڑ جاتا ہے۔ حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے اور آپ ابن مسعود کے پاس جائیں، وہ بھی آپ کے لیے اسی کی مثل کہیں گے۔ پس میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور عرض کی: حضرت ابوموسیٰ نے مجھے مسئلہ اس طرح بتایا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: وہ اس مسئلہ کو بھول گئے ہیں اور میں بھی رہنماؤں میں سے نہیں ہوں، مسئلہ یہ ہے کہ بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لیے بقیہ ہے اور بہن کے لیے ایک تہائی ہے، رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح مقرر فرمایا ہے۔

عمرو بن مرہ سے صرف قیس ہی روایت کرتے ہیں اور ابو عبیدہ سے صرف عمرو بن مرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ روایت کرتے

يَطْعَمُ، وَلَا يَشْرَبُ، وَلَا يَمْسِي، وَلَا يَبْطِشُ، فَلَمَّا قَالَ ذَلِكَ صَرَخَتْ، فَقَالَ: الرَّثَّةُ عَلَيْكَ وَعَلَى بَنَاتِكَ، وَأَنَا وَبَنِي بُرَاءُ، فَصَارَتِ الْمَوَاتِيمُ عَلَى النِّسَاءِ

لَا يُرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2233 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ

إِسْرَاهِيمَ الْمُقْرِيءُ الْبُعْدَادِيُّ قَالَ: نَا جُبَارَةَ بْنَ مَغَلِّسٍ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى فَقَالَ: رَجُلٌ مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ وَبِنْتَ ابْنٍ، وَأُخْتًا، فَقَالَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، وَسَتَاتِي ابْنِ مَسْعُودٍ، وَيَقُولُ لَكَ مِثْلَ ذَلِكَ. فَاتَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ، فَقُلْتُ: إِنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ لِي: كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ: لِلْابْنَةِ النِّصْفُ، وَالْابْنَةِ الْإِبْنِ التَّكْمِلَةَ، وَالْأُخْتِ الثُّلُثُ، هَكَذَا فَرَضَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرَّةَ إِلَّا قَيْسُ، وَلَا عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ إِلَّا عَمْرٍو بْنُ مَرَّةَ

2234 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ

ہیں کہ نبی کریم ﷺ مقامِ ظہر مَرّ پر اترے تو آپ کو ایک شکار کا حصہ دیا گیا تو آپ ﷺ نے اسے ایلچی کو واپس کر دیا، آپ ﷺ نے اسے فرمایا: اس کو سلام کہنا اور کہنا کہ اگر یہ حرام نہ ہوتا تو میں اسے آپ کو واپس نہ کرتا۔

هَارُونَ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَمَادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ رَاشِدِ الْاَدَمِيِّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ مِهْرَانَ الدَّبَّاعِ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ شَعِيْبِ الْحِمَّانِيِّ، عَنِ اَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ ظَهْرَ مَرٍّ، فَاهْدَى عَضُو صَيْدٍ، فَرَدَّهُ عَلَى الرَّسُولِ، وَقَالَ لَهُ: اِقْرَأْ عَلَيْهِ السَّلَامَ، وَقُلْ: لَوْلَا اَنَا حُرْمٌ مَا رَدَدْتَاهُ عَلَيْكَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا اور اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آدمی ایک کپڑے میں نماز پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے ہر کوئی دو کپڑے پاتا ہے؟

2235 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مِرْدَاسٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمُرَةَ الْأَحْمَسِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ اشْعَثِ بْنِ سَوَّارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، اَبْصَلِي الرَّجُلُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ؟ قَالَ: اَوْ كَلُّكُمْ يَجِدُ ثَوْبَيْنِ؟

اسے اشعث سے صرف محاربی ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اشْعَثِ اِلَّا الْمُحَارِبِيُّ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: شیطان تم میں سے ہر ایک کی نماز میں خلل ڈالتا ہے، سو وہ نمازی نہیں جانتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں، اگر تم میں سے کوئی ایسی حالت پائے تو وہ بیٹھے بیٹھے دو سجدے کرے۔

2236 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَخْشِيِّ ابْنِ اَخِي الْمَخْشِيِّ الْفَرْعَانِيُّ قَالَ: نَا اَبُو الْقَاسِمِ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَفِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْمَغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ

2235- أخرجه البخاری فی الصلاة جلد 1 صفحہ 561 رقم الحدیث: 358، ومسلم فی الصلاة جلد 1 صفحہ 367 .

2236- أخرجه البخاری فی السهو جلد 3 صفحہ 125 رقم الحدیث: 1232، ومسلم فی المساجد جلد 1 صفحہ 398 .

سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو
قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ شَهَابِ الزُّهْرِيُّ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ
الشَّيْطَانَ يَأْتِي أَحَدَكُمْ فِي صَلَاتِهِ، فَيَلْبَسُ عَلَيْهِ،
حَتَّى لَا يَدْرِي كَمْ صَلَّى، فَإِذَا وَجَدَ ذَلِكَ أَحَدَكُمْ
فَلْيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ

2237 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أُمِّ قَيْسِ بِنْتِ مِحْصَنٍ،
قَالَتْ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِابْنِي لَمْ يَأْكُلِ الطَّعَامَ، فَجَعَلَهُ فِي حِجْرِهِ، فَقَالَ عَلِيٌّ
تُوبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَعَا بِمَاءٍ،
فَنَضَحَهُ عَلَى تَوْبِهِ، وَلَمْ يَغْسِلْهُ

2238 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا
إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ تَوَضَّأَ
فَلْيَسْتَنْشِرْ، وَمَنْ اسْتَجَمَرَ فَلْيُوتِرْ

2239 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ
تَمِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُسْتَلْقِيًا فِي الْمَسْجِدِ،

حضرت اُم قیس بنت محسن رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس اپنے بیٹے کو لے کر آئی
ابھی وہ کھانا نہیں کھا تھا تو آپ ﷺ نے اسے اپنی گود
میں رکھا، تو اس نے رسول اللہ ﷺ کے کپڑوں پر
پیشاب کر دیا، آپ نے پانی منگوایا اور اسے اپنے کپڑے
پر ڈالا اور اسے دھویا نہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول
اللہ ﷺ نے فرمایا: جو وضو کرے وہ ناک صاف کرے
اور جب وہ ڈھیلوں سے استنجاء کرے تو وہ طاق ڈھیلے
استعمال کرے۔

حضرت عبادہ بن تمیم اپنے چچا حضرت عبد اللہ بن
زید رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے
رسول اللہ ﷺ کو مسجد میں چت لیٹے ہوئے دیکھا، آپ

2237 - أخرجه البخاری فی الوضوء جلد 1 صفحہ 390 رقم الحدیث: 223، ومسلم فی الطہارة جلد 1 صفحہ 238، وأبو

داؤد فی الطہارة جلد 1 صفحہ 100 رقم الحدیث: 374، والنسائی فی الطہارة جلد 1 صفحہ 128 (باب بول

الصبي الذي لم يأكل الطعام) .

2238 - أخرجه البخاری فی الوضوء جلد 1 صفحہ 315 رقم الحدیث: 161، ومسلم فی الطہارة جلد 1 صفحہ 212 .

2239 - أخرجه البخاری فی الصلاة جلد 1 صفحہ 671 رقم الحدیث: 475، ومسلم فی اللباس جلد 3 صفحہ 1662 .

قَدْ وَضَعَ أَحَدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى

2240 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ بِنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ كَانَتْ تَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ مُصِيبَةٍ يُصَابُ بِهَا الْمُسْلِمُ إِلَّا كَفَّرَتْ عَنْهُ، حَتَّى الشُّوْكَةُ يُشَاكُهَا

2241 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ عُرْوَةَ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْوَزْغُ فَوْيَسِقَةٌ

2242 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، أَنَّ طَلْحَةَ بَنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْفٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَمْرِو بْنِ سَهْلٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ظَلَمَ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا فَإِنَّهُ يُطَوَّقُهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

2243 - وَعَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ ثَابِتَ بْنَ قَيْسٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ أَكُونَ قَدْ هَلَكْتُ، فَقَالَ: لِمَ؟ قَالَ: فَأَجِدُنِي أَحَبَّ الْخِيَلَاءِ، وَيَنْهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تَرْفَعَ أَصْوَاتَنَا فَوْقَ صَوْتِكَ، وَأَنَا جَهِيرُ الصَّوْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا ثَابِتُ، أَلَيْسَ تَرْضَى أَنْ

نے ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھا ہوا تھا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف اس کے لیے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے یہاں تک کہ کاٹنا بھی جو اسے چھبتا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: گرگٹ نافرمانوں میں سے ہے۔

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جو کسی کی زمین ظلماً تھوڑی بھی لے لے تو وہ اس کو سات زمینوں تک طوق بنا کے گلے میں ڈال دی جائے گی۔

حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں خوف کرتا ہوں کہ میں ہلاک ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کیوں؟ عرض کی: مجھے محسوس ہوتا ہوں کہ میں غرور کو پسند کرتا ہوں اور اللہ عزوجل نے آپ کی آواز پر آوازیں اونچی کرنے سے منع کیا ہے اور میں بلند آواز والا آدمی ہوں۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اے ثابت! کیا تو اس پر راضی نہیں

2240- أخرجه مسلم في البر جلد4 صفحہ1994، وأحمد في المسند جلد6 صفحہ12 رقم الحديث: 24882 .

2241- أخرجه البخاری في بدء الخلق جلد 6 صفحہ404 رقم الحديث: 3306، ومسلم في السلام جلد4

صفحہ1758 .

2242- أخرجه البخاری في المطالم جلد5 صفحہ123 رقم الحديث: 2454، ومسلم في المساقاة جلد3 صفحہ1231 .

تَعِيشَ حَمِيدًا، وَتُقْتَلَ شَهِيدًا وَتَدْخُلَ الْجَنَّةَ؟

ہیں کہ تو عزت کی زندگی گزارے اور تو شہید ہو اور جنت میں داخل ہو؟

2244 - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمانے لگے: آپ عظیم آدمی ہیں، رسول اللہ ﷺ نے خیبر میں عورتوں سے متعہ کرنے اور پالتو گدھوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا تھا (اور آپ متعہ کے جواز کا فتویٰ دیتے ہیں)۔

مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَحَسَنَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَخْبَرَاهُ، أَنَّ أَبَاهُمَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ، أَخْبَرَهُمَا، أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ تَأْتِيهِ، نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ، وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

2245 - وَعَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت صعب بن جثامہ بن قیس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کو مقام ودان یا ابواء کے مقام پر وحشی گدھا ہدیہ کیا گیا، تو آپ نے انہیں واپس کر دیا سو آپ نے میرے چہرے پر ناپسندیدگی کا اظہار دیکھا، تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہم ہدیہ واپس نہیں کرتے ہیں، لیکن ہم حالت احرام میں ہیں۔

بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّ الصَّعْبَ بْنَ جَثَامَةَ بْنَ قَيْسٍ حَدَّثَهُ، أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحَشِيًّا، وَهُوَ بَوْدَانٌ أَوْ بِالْأَبْوَاءِ، فَرَدَّهُ عَلَيْهِ قَالَ: فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ كَاتِبَةَ رَدِّهِ عَلَيَّ، فَقَالَ: لَيْسَ بِنَا رَدُّهُ عَلَيْكَ، وَلَكِنَّا حُرْمٌ

2246 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَخِي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دوران کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں ہلاک ہو گیا! آپ نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت! تجھے کیا ہوا؟ اس نے عرض کی: میں نے رمضان شریف میں حالت روزہ میں اپنی بیوی سے جماع کیا ہے۔ آپ نے فرمایا: کیا تو غلام آزاد کرنے کی طاقت رکھتا ہے؟ عرض کی: نہیں! اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! آپ

الْمَخْشِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ عُفَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِي الْمَغِيرَةُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدِ الْهَاشِمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ شَهَابٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آتَاهُ

2244- أخرجه البخاری فی المغازی جلد 7 صفحہ 549 رقم الحدیث: 4216، ومسلم فی النکاح جلد 2 صفحہ 1027 .

2245- أخرجه البخاری فی جزاء الصيد جلد 4 صفحہ 38 رقم الحدیث: 1825، ومسلم فی الحج جلد 2 صفحہ 850 .

نے فرمایا: کیا تو لگا تار دو ماہ کے روزے رکھنے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! اللہ کی قسم! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: کیا تو ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت رکھتا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! یا رسول اللہ! تو آپ نے اس سے اعراض فرمایا: ہم اسی حالت میں تھے کہ آپ کے پاس ایک ٹوکری لائی گئی اس میں کھجوریں تھیں، آپ نے فرمایا: وہ کہاں ہے جو آیا تھا، تو اسے بلایا گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو لے اور صدقہ کر! اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیسے میرے گھر والوں سے زیادہ کوئی فقیر ہے؟ اللہ کی قسم! ہم سے زیادہ ان دو ریگستانوں میں کوئی فقیر نہیں ہے۔ نبی کریم ﷺ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آئیں، آپ نے فرمایا: اس کو لے اور اپنے گھر والوں کو کھلا دے۔

یہ احادیث عبید اللہ بن عمر سے صرف اسی اسناد سے روایت ہیں عبید اللہ بن سعید بن عفیر اسے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ دو چہرہ کو باہر نکلے تو یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سنی تو وہ بھی نکلے تو دیکھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ہیں، کہا کہ اے ابوبکر! اس وقت کس چیز نے آپ کو باہر نکالا؟ انہوں (حضرت ابوبکر) نے فرمایا: اللہ کی قسم! مجھے اس بات نے نکالا کہ میں اپنے پیٹ میں بھوک کی وجہ سے کچھ نہیں پاتا، تو انہوں (حضرت عمر) نے کہا: مجھے بھی اللہ کی قسم! اس کے

رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكْتُ قَالَ: وَيْحَكَ، مَا لَكَ؟ قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي، وَأَنَا صَائِمٌ، فِي رَمَضَانَ قَالَ: هَلْ تَجِدُ رَقَبَةً تُعْتِقُهَا؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: فَهَلْ تُطِيقُ صِيَامَ شَهْرَيْنِ مُتَابِعَيْنِ؟ قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَهَلْ تَجِدُ إِطْعَامَ سِتِّينَ مَسْكِينًا؟ قَالَ: لَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ. فَبَيْنَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أُتِيَ بِعَرَقٍ فِيهِ تَمْرٌ، فَقَالَ: ابْنَ الْأَذَى أُتِيَ؟ فَدَعِيَ لَهُ، فَقَالَ: خُذْ هَذَا فَتَصَدَّقْ بِهِ قَالَ: أَعْلَى أَفْقَرٍ مِنْ أَهْلِي يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ وَاللَّهِ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَهْلٌ بِيَّتٍ أَفْقَرُ مِنَّا، فَضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ أَنْبَابُهُ، ثُمَّ قَالَ: خُذْهُ، فَاطْعِمُهُ أَهْلَكَ

لَا تُرَوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهَا: عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَفِيرٍ

2247 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مَهْدِيٍّ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ قَالَ: نَا عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ أَبُو بَكْرٍ بِالْهَاجِرَةِ، فَسَمِعَ بِذَلِكَ عُمَرَ، فَخَرَجَ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، مَا أَخْرَجَكَ هَذِهِ السَّاعَةَ؟ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَجِدُ فِي بَطْنِي مِنْ حَاقِ الْجُوعِ. قَالَ: وَأَنَا وَاللَّهِ مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَبَيْنَمَا هُمَا كَذَلِكَ إِذْ خَرَجَ

علاوہ کسی چیز نے نہیں نکالا۔ سو وہ اسی حال میں تھے کہ دونوں کے پاس نبی اکرم ﷺ تشریف لائے آپ نے پوچھا: اس وقت تم کو کس چیز نے نکالا؟ انہوں نے عرض کیا: اللہ کی قسم! ہمیں اس چیز نے نکالا کہ ہمارے پیٹوں میں بھوک کے سوا کچھ نہیں۔ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: مجھے بھی اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! اس کے علاوہ کسی چیز نے نہیں نکالا۔ تینوں اٹھ کر چلے حتیٰ کہ حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ کے دروازے پر آئے اور حضرت ابوایوب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ ﷺ سے کھانے اور دودھ کا ذکر کیا تھا تو اس دن انہوں نے دیر کر دی اس وقت وہ (گھر) نہیں آئے تھے تو وہ کھانا ان کے گھر والوں نے کھا لیا اور وہ اپنے کھجوروں کے باغ میں کام کرنے کے لیے چلے گئے۔ پس جب آپ ﷺ حضرت ابوایوب کے دروازے پر آئے تو ان کی اہلیہ باہر نکلی اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ کے لیے خوش آمدید اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی۔ رسول اللہ ﷺ نے اس (حضرت ابوایوب کی اہلیہ) سے پوچھا: ابوایوب کہاں ہے؟ اس نے عرض کیا: اے اللہ کے نبی! وہ ابھی آنے والے ہی ہیں تو رسول اللہ ﷺ لوٹ گئے تو حضرت ابوایوب نے آپ کو دیکھ لیا اور وہ کھجوروں کے باغ میں کام کر رہے تھے وہ جلدی سے آئے حتیٰ کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو جالیا۔ عرض کیا: اللہ کے نبی کو خوش آمدید ہو اور آپ کے ساتھیوں کے لیے بھی! انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ!

عَلَيْهِمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا أَخْرَجَكُمَا فِي هَذِهِ السَّاعَةِ؟ فَقَالَا: أَخْرَجَنَا، وَاللَّهِ مَا نَجِدُ فِي بُطُونِنَا مِنْ حَاقِ الْجُوعِ. فَقَالَ: وَأَنَا، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، مَا أَخْرَجَنِي غَيْرُهُ، فَقُومَا، فَقَامُوا. فَانْطَلَقُوا حَتَّى اتَّوَابَا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، وَكَانَ أَبُو أَيُّوبَ يَدْخِرُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا كَانَ أَوْ لَبَنًا، فَأَبْطَأَ يَوْمَئِذٍ فَلَمْ يَأْتِ لِحِينِهِ، فَأَطَعَمَهُ أَهْلُهُ، وَانْطَلَقَ إِلَى نَخْلِهِ يَعْمَلُ فِيهِ، فَلَمَّا اتَّوَابَا بَابَ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ خَرَجَتْ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ: مَرَحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَايْنَ أَبُو أَيُّوبَ؟ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ السَّاعَةَ. فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَصَرَ بِهِ أَبُو أَيُّوبَ وَهُوَ يَعْمَلُ فِي نَخْلٍ لَهُ، فَجَاءَ يَشْتَدُّ حَتَّى أَدْرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَرَحَبًا بِنَبِيِّ اللَّهِ وَبِمَنْ مَعَهُ. فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَيْسَ الْحِينُ الَّذِي كُنْتُ تَجِئُنِي فِيهِ، فَرَدَّهُ، فَجَاءَ إِلَى عِدْقِ النَّخْلِ فَقَطَعَهُ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَرَدْتَ إِلَى هَذَا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَحْبَبْتُ أَنْ تَأْكُلَ مِنْ رُطْبِهِ وَبُسْرِهِ وَتَمْرِهِ، وَلَا ذَبْحَنَ لَكَ مَعَهَا قَالَ: إِنْ ذَبَحْتَ فَلَا تَذْبَحَنَّ ذَاتَ دَرٍّ. فَاخَذَ عَنَاقًا لَهُ أَوْ جَدِيًّا فَذَبَحَهُ، وَقَالَ لِامْرَأَتِهِ: اخْتَبِرِي وَأَطْبُخِي أَنَا، فَأَنْتِ أَعْلَمُ بِالْحَبْرِ، فَعَمَدَ إِلَى نَصْفِ الْجَدِيِّ فَطَبَخَهُ، وَشَوَى نِصْفَهُ،

یہ وہ وقت تو نہیں ہے جس وقت آپ آیا کرتے ہیں، وہ آپ کو واپس لے آئے، پھر ایک کھجور کا خوشہ لے کر آئے، اسے کانا۔ رسول اللہ ﷺ نے ان سے فرمایا: میں تو یہ نہیں چاہتا تھا، انہوں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ تازہ اور پکی کھجور بھی کھائیں اور پکی بھی اور میں آپ کے لیے اس کے ساتھ یہ (بکری) بھی ذبح کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: اگر تو نے ذبح کرنا ہے تو دودھ والی ذبح نہ کرنا، تو انہوں نے بکری کا بچہ آپ کے لیے پکڑا اور اسے ذبح کیا اور اپنی اہلیہ سے کہا: روٹی پکا اور میں سالن پکاتا ہوں کیونکہ تو روٹی اچھی طرح بنانا جانتی ہے، انہوں نے آدھے بچے کو پکایا اور آدھے کو بھونا۔ پھر جب کھانا پک گیا تو انہوں نے رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے سامنے رکھا تو رسول اللہ ﷺ نے کچھ گوشت لیا اور ایک روٹی پر رکھا۔ پھر فرمایا: اے ابویوب! یہ فاطمہ تک پہنچاؤ کیونکہ اسے کئی دنوں سے اس طرح کا کھانا نصیب نہیں ہوا۔ جب انہوں نے کھایا اور سیر ہو گئے تو نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: روٹی اور گوشت، پکی اور تر کھجوریں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، پھر فرمایا: یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا، تو آپ کے صحابہ کرام پر یہ بات گراں گزری تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تمہیں اس قسم کی چیزیں ملیں اور تم اپنے ہاتھوں پر رکھو تو کہو: اللہ کے نام کے ساتھ اور اللہ کی برکت کے ساتھ۔ پھر جب تم سیر ہو جاؤ تو کہو: تمام تعریفیں اس اللہ کی ذات کے لیے جس نے ہمیں سیر

فَلَمَّا أَدْرَكَ الطَّعَامَ وَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ، فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْجَدْيِ فَوَضَعَهُ عَلَى رِغِيفٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، أَبْلَغْ بِهَذَا فَاطِمَةَ، فَإِنَّهَا لَمْ تُصَبِّ مِثْلَ هَذَا مِنْذُ أَيَّامٍ. فَلَمَّا أَكَلُوا وَشَبِعُوا، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُبْزٌ وَلَحْمٌ وَبُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ، وَدَمَعَتْ عَيْنَاهُ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا هُوَ النَّعِيمُ الَّذِي تُسْأَلُونَ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَكَبَّرَ ذَلِكَ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَصَبْتُمْ مِثْلَ هَذَا وَضَرَبْتُمْ بِأَيْدِيكُمْ، فَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ وَبَرَكَاتِهِ، فَإِذَا شَبِعْتُمْ، فَقُولُوا: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَشْبَعَنَا وَأَرْوَانَا وَانْعَمَ وَأَفْضَلَ، فَإِنَّ هَذَا كَفَافٌ بِهَذَا. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْتِي إِلَيْهِ أَحَدٌ مَعْرُوفًا إِلَّا أَحَبَّ أَنْ يُجَازِيَهُ، فَقَالَ لِأَبِي أَيُّوبَ: ائْتِنَا غَدًا، فَلَمْ يَسْمَعْ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ أَنْ تَأْتِيَهُ، فَلَمَّا آتَاهُ أَعْطَاهُ وَلِيْدَةً، فَقَالَ: يَا أَبَا أَيُّوبَ، اسْتَوْصِ بِهَا خَيْرًا، فَإِنَّا لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا مَا دَامَتْ عِنْدَنَا، فَلَمَّا جَاءَ بِهَا أَبُو أَيُّوبَ قَالَ: مَا أَجِدُ لَوْصِيَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرًا مِنْ أَنْ أَعْتَقَهَا، فَأَعْتَقَهَا

کیا اور ہمیں سیراب کیا اور انعام و فضل عطا فرمایا۔ یہ (دعا کرتا) اس (انعام) کا نعم البدل ہو جائے گا۔ رسول اللہ ﷺ کے پاس اگر کوئی بہترین چیز لاتا تو آپ اس کا بدلہ دینا پسند فرماتے۔ آپ نے حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ سے فرمایا: کل ہمارے پاس آنا! انہوں نے نہ سنا تو آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: (ان سے کہو) بے شک رسول اللہ ﷺ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ تم کل ہمارے پاس آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے ان کو ایک لونڈی عطا فرمائی، فرمایا: اے ابویوب! میں تجھے اس کے متعلق بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ ہم نے اسے اچھا پایا ہے جب سے یہ ہمارے پاس ہے۔ حضرت ابویوب رضی اللہ عنہ اسے لے کر آئے تو کہا کہ میں رسول اللہ ﷺ کی وصیت میں سوائے اس کے بہتری نہیں پاتا کہ میں اسے آزاد کر دوں، سوانہوں نے اسے آزاد کر دیا۔

یہ حدیث عبداللہ بن کیسان سے صرف فضل بن موسیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایسے نہ کرے کہ وہ ایک پاؤں کو دوسرے پاؤں پر رکھے پھر وہ قرآن اچھی طرز میں پڑھے اور سورہ بقرہ کو چھوڑ دے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ
إِلَّا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى

2248 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو طَلْحَةَ
الْمَجَاشِعِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَبُو
يُوسُفَ الْقُلُوسِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا حُلُوْبُنُ السَّرِيِّ الْأَوْدِيُّ، عَنْ أَبِي
إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا الْفَيْنَ أَحَدَكُمْ
يَضَعُ أَحَدِي رِجْلِيهِ عَلَى الْأُخْرَى ثُمَّ يَتَغَنَّى وَيَدْعُ

أَنْ يُقْرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ

یہ حدیث حلو بن سری سے صرف حارث بن محمد ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابو یوسف القلوبی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُلُوِّ بْنِ السَّرِيِّ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو يُوسُفَ الْقَلُوبِيُّ

حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی غریب ہے اور اس کے ساتھی اس کو دور رکھتے ہیں، کیا اس کے لیے دوسرے کی طرح حصہ ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تیری ماں تجھ پر روئے! تم کو روزق اور تمہاری مدد تو غریبوں ہی کی وجہ سے کی جاتی ہے۔

2249 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِبِيُّ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا عَمِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَكُونُ حَامِيَةَ الْقَوْمِ وَيَدْفَعُ عَنْ أَصْحَابِهِ، أَيَكُونُ نَصِيْبُهُ مِثْلَ نَصِيْبِ غَيْرِهِ؟ قَالَ: نَكَلْتِكَ أُمَّكَ، وَهَلْ تُرَزُّقُونَ وَتُنْصَرُونَ إِلَّا بِضِعْفَاتِكُمْ

یہ حدیث زہری سے صرف عبد الحمید بن جعفر ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں معلیٰ بن عبد الرحمن اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ایک تیز کا سہارا لے کر نماز پڑھتے تھے، ایک رومی گزرا، اس نے کہا: اگر مجھے محمد بلوائیں تو میں ان کے لیے اس سے زیادہ نرم چیز بنا دوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: رسول اللہ ﷺ کے لیے اس کو بلایا، اس نے آپ کے لیے چار پائوں والا منبر بنایا تو نبی کریم ﷺ منبر پر جلوہ افروز ہوئے اور خطبہ دینے لگے تو

2250 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِبِيُّ قَالَ: نَا عَمِّي عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا قَبِيصَةَ بِنْتُ عُقْبَةَ قَالَ: نَا حَبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي إِلَيَّ إِذَا جِئْتُ يَتَسَاءَلُنِي، فَمَرَّ رُومِي، فَقَالَ: لَوْ دَعَانِي مُحَمَّدٌ فَجَعَلْتُ لَهُ مَا هُوَ أَرْفَقُ بِهِ مِنْ هَذَا، قَالَتْ:

2249- أخرجه البخاری فی الجهاد والسير جلد 6 صفحہ 104 رقم الحدیث: 2896، وأحمد فی المسند جلد 1

صفحہ 219 رقم الحدیث: 1497.

2250- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 185.

وہ کھجور کا تارونے لگا جس طرح اونٹنی روتی ہے، تو رسول اللہ ﷺ منبر سے نیچے اترے اور آپ ﷺ نے فرمایا: تجھے کیا ہوا ہے؟ اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے اس حالت پہ لوٹا دے اور اگر تو چاہے تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ تجھے اللہ جنت میں داخل کرے تو اس میں پھل لگانے تو تیرے پھلوں سے اللہ کے انبیاء و رسل اور اس کے متقی پرہیزگار بندے پھل کھائیں۔ فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے وہ تازمین میں دھنس گیا تو آپ چلے گئے۔

یہ حدیث حضرت عائشہ سے صرف ابن بریدہ اور ابن بریدہ سے صرف صالح بن حیان اور صالح بن حیان سے قبضہ ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں علی بن احمد الجواربی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جو آدمی کسی دوسرے آدمی کو کافر کہتا ہے اگر وہ کافر ہو تو ٹھیک ہے ورنہ وہ کہنے والا ہی اس کفر کا مستحق ٹھہرے گا۔

عبد العزیز بن سیاہ از نافع، یہ حدیث اس طریقے کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں اور عبد العزیز سے صرف ان کے بیٹے اور ان کے بیٹے سے صرف ہاشم بن

فَدَعَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَعَلَ لَهُ الْمِنْبَرَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَصَعِدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمِنْبَرَ فَخَطَبَ، فَحَنَّ الْجَدْعُ كَمَا تَحْنُ النَّاقَةُ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا شَأْنُكَ؟ إِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ فَرَدَّكَ إِلَى مُحْتَبَسِكَ، وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ فَأَدْخَلَكَ اللَّهُ الْجَنَّةَ فَاتَّمَرْتَ فِيهَا، فَأَكَلَ مِنْ ثَمَرَتِكَ أَنْبِيَاءُ اللَّهِ الْمُرْسَلُونَ، وَعِبَادُهُ الْمُتَّقُونَ قَالَ: فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: نَعَمْ فَغَارَ الْجَدْعُ، فَذَهَبَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا ابْنُ بُرَيْدَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ إِلَّا صَالِحُ بْنُ حَيَّانَ، وَلَا عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، وَلَا عَنْ حَبَّانِ إِلَّا قَبِيصَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ

2251 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ أَحْمَدَ الْجَوَارِبِيُّ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ سَهْلِ الْأَعْرَجِ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سِيَاهٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا رَجُلٍ أَكْفَرَ رَجُلًا، فَإِنْ كَانَ كَافِرًا، وَإِلَّا فَقَدْ بَاءَ بِالْكَفْرِ

لَمْ يَرَوْ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ سِيَاهٍ، عَنْ نَافِعٍ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا ابْنُهُ، وَلَا عَنِ ابْنِهِ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ

عبدالواحد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میں جنت میں داخل ہوا، تو میں نے اپنے آگے ہٹ سنی تو عرض کی گئی: یہ بلال ہیں، اور میں نے ام سلیم بنت ملحان کو جنت میں دیکھا۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے حضرت ام عطیہ کو فرمایا: جب تو عورتوں کا ختنہ کرے تو تھوڑا سا کاٹ اور اس کو تکلیف نہ ہو کیونکہ اس سے چہرہ ہشاش بشاش رہتا ہے اور جماع کے وقت لذت حاصل ہوتی ہے۔

یہ حدیث حضرت انس سے صرف ثابت اور ثابت سے صرف زائدہ بن ابی الرقاد ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن سلام جمی اکیلے ہیں۔

2252 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوَارِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مَحْذُورَةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ عَطِيَّةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: دَخَلْتُ الْجَنَّةَ فَسَمِعْتُ حِسًا آمَامِي، فَقِيلَ: هَذَا بِلَالٌ، وَرَأَيْتُ أُمَّ سُلَيْمٍ بِنْتَ مِلْحَانَ فِي الْجَنَّةِ

2253 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى نَعْلَبُ النَّحْوِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَحِيُّ قَالَ: نَا زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرَّقَادِ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَأُمَّ عَطِيَّةَ: إِذَا خَفَضْتَ فَأَشِيْمِي وَلَا تَنْهَكِي، فَإِنَّهُ أَسْرَى لِلرَّوْجِ، وَأَحْطَى عِنْدَ الزَّوْجِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا ثَابِتٌ، وَلَا عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا زَائِدَةُ بْنُ أَبِي الرَّقَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْجَمَحِيُّ



2252 - أخرجه أحمد في المسند جلد 3 صفحہ 328 رقم الحديث: 13836، أخرجه البخاري في فضائل الصحابة جلد 7

صفحہ 50 رقم الحديث: 3679، ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4 صفحہ 1908 .

2253 - انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 27314 .

احمد بن ابراہیم بن کیسان کی روایات

حضرت عمیرہ بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھا جب آپ منبر پر جلوہ افروز تھے تو آپ نے اصحاب رسول اللہ ﷺ کو قسم دی کہ کس نے رسول اللہ ﷺ کو غدیر خم کے دن فرماتے سنا: کون آپ کے فرمان کی گواہی دے گا؟ تو ان میں سے بارہ افراد اٹھے: حضرت ابو سعید اور ابو ہریرہ اور انس بن مالک رضی اللہ عنہم انہوں نے گواہی دی کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: جس کا میں مددگار ہوں اس کا علی مددگار ہے اے اللہ! تو اس کو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے اور تو اس سے دشمنی رکھ جو اس سے دشمنی رکھے۔

یہ حدیث مسعر سے صرف اسماعیل بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: والد کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے اور والد کی نافرمانی اللہ کی نافرمانی ہے۔

یہ حدیث لیث بن سعد سے صرف اسماعیل بن عمرو

احمد بن ابراہیم بن کیسان

2254 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو الْبَجَلِيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ عَمِيرَةَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: شَهِدْتُ عَلِيًّا عَلَى الْمَنْبَرِ نَاشِدًا أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ غَدِيرِ خُمٍّ يَقُولُ مَا قَالَ فَيَشْهَدُ؟ فَقَامَ اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، مِنْهُمْ: أَبُو سَعِيدٍ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، فَشَهِدُوا أَنَّهُمْ سَمِعُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كُنْتُ مَوْلَاهُ فَعَلِيٌّ مَوْلَاهُ، اللَّهُمَّ وَالِ مِنْ وَالَاهُ، وَعَادِ مَنْ عَادَاهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو

2255 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ كَيْسَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَاعَةُ اللَّهِ طَاعَةُ الْوَالِدِ، وَمَعْصِيَةُ اللَّهِ مَعْصِيَةُ الْوَالِدِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا

2254 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 111 .

2255 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 139 .

اسْمَاعِيلُ بْنُ عَمْرٍو، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ
ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث
صرف اسی اسناد سے روایت ہے۔



أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ السَّجِسْتَانِيُّ

احمد بن یزید سجستانی کی روایات

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایسے ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے صرف اسماعیل بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں یحییٰ بن سعید سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت، امت مرحومہ ہے، اس پر قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا، جب قیامت کا دن ہوگا تو مسلمانوں میں سے ہر آدمی کے بدلے اہل کتاب کا ایک آدمی اس کی جگہ (جہنم میں) رکھا جائے گا، پس کہا جائے گا: اے مسلمان! یہ تیری جگہ جہنم میں فدیہ ہے۔

2256 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ

السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي طُوَّالَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَضْلُ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى

2257 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَزِيدَ

السَّجِسْتَانِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَشِيرٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ، لَا عَذَابَ عَلَيْهَا فِي الْآخِرَةِ، إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ دُفِعَ إِلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَجُلًا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، فَيَقَالُ: يَا مُسْلِمُ، هَذَا فِدَاؤُكَ مِنَ النَّارِ

2256- أخرجه البخاری فی فضائل الصحابة جلد 7 صفحہ 133 رقم الحدیث: 3770، ومسلم فی فضائل الصحابة جلد 4

صفحہ 1895 .

2257- أخرجه أبو داؤد فی الفتن جلد 4 صفحہ 103 رقم الحدیث: 4278، وأحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 511 رقم

الحدیث: 19775 .

یہ حدیث عروہ بن عبداللہ بن قشیر سے صرف جعفر بن حارث اور جعفر بن حارث سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں یحییٰ بن یحییٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو جعفر خطمی اپنے دادا حضرت عمیر بن حبیب بن خماشہ سے روایت کرتے ہیں اور انہوں نے بلوغت کے وقت نبی کریم ﷺ کو پایا تھا تو آپ نے ان کے بیٹے کی وصیت کی، آپ نے فرمایا: اے میرے بیٹے! بیوقوفوں کی مجلس سے بچنا، کیونکہ ان کی مجالس بیماری ہے جو بیوقوفوں سے بچے گا وہ آسانی میں رہے گا، اور جو ان سے محبت کرے گا وہ نادم ہوگا، وہ تھوڑے پر راضی نہیں ہوگا، جو پاگلوں کے پاس آئے گا وہ زیادہ پر راضی ہوگا، اور جب تم میں سے کوئی نیکی کا حکم دے یا بُرائی سے منع کرے اپنے اوپر آنے والی تکلیف پر صبر کرے اور اللہ عزوجل سے ثواب کی امید رکھے، کیونکہ جو اللہ سے ثواب کی امید رکھے تو اس کو کوئی تکلیف نقصان نہیں پہنچائے گی۔

یہ حدیث ابو جعفر خطمی سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں ابن عائشہ اکیلے ہیں۔

حضرت احنف بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اے احنف! جو زیادہ ہنسے گا اس کا رعب کم ہوگا، اور جو مذاق

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُشَيْرٍ إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ يَحْيَى .

2258 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ

الْحَشَابُ الْبَلَدِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَائِشَةَ قَالَ: سَأَلْتُ حَمَادُ بْنَ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ، أَنَّ جَدَّهُ عُمَيْرَ بْنَ حَبِيبِ بْنِ خُمَاشَةَ، وَكَانَ قَدْ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ احْتِلَامِهِ، أَوْصَى زَلَدَهُ، فَقَالَ: يَا بَنِيَّ، أَيَاكُمْ وَمُجَالَسَةَ السُّفَهَاءِ، فَإِنَّ مُجَالَسَتَهُمْ دَاءٌ، مَنْ يَحْلُمُ عَنِ السَّفِيهِ يُسْرُ، وَمَنْ يَجِبُهُ يَنْدَمُ، وَمَنْ لَا يَرْضَى بِالْقَلِيلِ مِمَّا يَأْتِي بِهِ السَّفِيهِ يَرْضَى بِالْكَثِيرِ، وَإِذَا أَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْمُرَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ يَنْهَى عَنِ مُنْكَرٍ فَلْيُؤَطِّنْ نَفْسَهُ عَلَى الصَّبْرِ عَلَى الْأَدَى، وَلْيَشِقْ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَإِنَّهُ مَنْ وَثِقَ بِالثَّوَابِ مِنَ اللَّهِ لَمْ يَضُرَّهُ مَسُّ الْأَدَى

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَعْفَرِ الْخَطْمِيِّ إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ

2259 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْبَلَدِيُّ

قَالَ: نَا ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا دُرَيْدُ بْنُ مُجَاشِعٍ، عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ الْأَحْنَفِ بْنِ

2258- انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 67 .

2259- انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 305 .

قَيْسٍ قَالَ: قَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: يَا أَحْنَفُ، مَنْ
كَثُرَ ضِحْكُهُ قَلَّتْ هَيْبَتُهُ، مَنْ مَزَّحَ اسْتُخِفَّ بِهِ، وَمَنْ
أَكْثَرَ مِنْ شَيْءٍ عُرِفَ بِهِ، وَمَنْ كَثُرَ كَلَامُهُ كَثُرَ
سَقَطُهُ، وَمَنْ كَثُرَ سَقَطُهُ قَلَّ حَيَاؤُهُ، وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ
قَلَّ وَرَعُهُ، وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ
لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ عَائِشَةَ

کرے گا اس کو حقیر جانا جائے گا اور جو زیادہ شے کی تلاش
میں ہوگا اس کے ساتھ مشہور ہوگا جو زیادہ گفتگو کرے گا
اس کا جھوٹ زیادہ ہوگا اور جس میں جھوٹ کثرت سے
ہوگا اس میں حیاء کم ہوگی اور جس میں حیاء کم ہوگی اس کا
تقویٰ کم ہوگا اور جس کا تقویٰ کم ہوگا اس کا دل مردہ ہوگا۔
یہ حدیث حضرت عمر سے صرف اسی سند سے مروی
ہے اسے روایت کرنے میں ابن عائشہ کیلئے ہیں۔



احمد بن مجاہد القطان کی

روایات

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آیا حسین بن علی رضی اللہ عنہما پر تعزیت کرنے تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے تو آپ سونے والے بستر پر آئے، تو حضرت فاطمہ بنت محمد رضی اللہ عنہا تشریف لائیں، برتن لے کر اس کو رکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: حسن و حسین اور میرے چچا زاد علی کو بلاؤ! جب سارے آپ کے پاس اکٹھے ہوئے تو آپ نے فرمایا: اے اللہ! یہ میرے خاص لوگ ہیں اور میری اہل بیت ہیں، ان سے پلیدی لے جا اور ان کو خوب پاک فرما!

یہ حدیث طعمہ بن عمرو سے صرف زافر بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں عبد اللہ بن عمر بن ابان اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چار دینار چوری کرنے پر ہی ہاتھ کاٹا جائے۔

أَحْمَدُ بْنُ مُجَاهِدٍ
الْقَطَّانُ

2260 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُجَاهِدٍ الْقَطَّانُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ قَالَ: نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو الْجَعْفَرِيِّ، عَنْ أَبِي الْجَحَّافِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشِبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أُمَّ سَلَمَةَ أُعْزِبُهَا عَلَى الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ فَقَالَتْ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَلَسَ عَلَى مَنْامَةٍ لَهَا، فَجَاءَتْهُ فَاطِمَةُ بِشَيْءٍ فَوَضَعَتْهُ، فَقَالَ: ادْعِي حَسَنًا وَحُسَيْنًا وَأَبْنَ عَمِّكَ عَلِيًّا، فَلَمَّا اجْتَمَعُوا عِنْدَهُ قَالَ: اللَّهُمَّ هَؤُلَاءِ خَاصَّتِي وَأَهْلُ بَيْتِي، فَأَذِمْ عَنْهُمْ الرَّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طُعْمَةَ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ

2261 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَطْعُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ

2260- أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 690 رقم الحدیث: 3871، وأحمد فی المسند جلد 6 صفحہ 331 رقم الحدیث: 26606، والطبرانی فی الکبیر جلد 3 صفحہ 53-54 رقم الحدیث: 2666.

2261- أخرجه البخاری فی الحدود جلد 12 صفحہ 99 رقم الحدیث: 6789، ومسلم فی الحدود جلد 3 صفحہ 1312.

یہ حدیث یحییٰ بن یحییٰ الغسانی سے صرف ان کے بیٹے ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: نماز سورہ فاتحہ اور اس کے ساتھ دو آیتیں ملائے بغیر نہیں ہوتی ہے۔

یہ حدیث حسان بن نوح سے صرف علی بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: یاد رہے کہ اگر کوئی آدمی امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تو وہ قرأت نہیں کرے گا اگر اکیلا نماز پڑھ رہا ہو تو وہ سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورت بھی ساتھ ملائے گا اور یہ بھی یاد رہے کہ مطلقاً قرأت فرض ہے سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری سورہ پڑھنا واجب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ نے اپنی لخت جگر رقیہ زوجہ عثمان غنی رضی اللہ عنہا کو دفن کیا تو فرمایا: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں بیٹیاں دفن کرنا بھلائی ہے۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے صرف اسی سند سے روایت ہے اسے روایت کرنے میں عبداللہ بن ذکوان دمشقی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى
الْغَسَّانِيِّ إِلَّا ابْنُهُ هِشَامٌ

2262 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
الِدِمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْخَلِيلِ الْحُسَيْنِيُّ قَالَ:
نَا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْحُسَيْنِيُّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ
الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ: لَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ، وَآيَتَيْنِ مَعَهَا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ
إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ يَحْيَى الْحُسَيْنِيُّ

2263 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ ذَكْوَانَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ خَالِدِ بْنِ
يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ،
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا عَزَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ابْنَتِهِ رُقِيَّةَ
امْرَأَةَ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ قَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ دَفَنُ الْبَنَاتِ
مِنَ الْمَكْرُمَاتِ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ
بُنُ ذَكْوَانَ الدِمَشْقِيُّ

2262- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 118 .

2263- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 366 رقم الحديث: 12035، والبراز جلد 1 صفحہ 375 . انظر:

مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 15 .

احمد بن عبد القاهر کی روایات

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: حلال اور حرام واضح ہیں ان دونوں کے درمیان کچھ شک والے امور بھی ہیں، اکثر لوگ نہیں جانتے ہیں کہ کیا وہ حلال ہے یا حرام؟ جس نے ان کو چھوڑا، اس نے اپنے دین اور عزت کو بچا لیا، اور جو اس میں پڑ گیا وہ حرام میں پڑ گیا، جس طرح چرنے والا جانور چراگاہ کے ارد گرد چر رہا ہوتا ہے، قریب ہے کہ اس میں جا پڑے، سنو! ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور بے شک اللہ کی چراگاہ اس کی حرام کردہ اشیاء ہیں۔

یہ حدیث ثور بن زید سے صرف منبہ بن عثمان اور ولید بن مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے وضو کیا پھر اپنے جبہ کو پلٹا اور اس کے ساتھ اپنے چہرے کو صاف کیا۔

أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ

2264 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْقَاهِرِ قَالَ: نَا ابْنُ الْخَبَرِيِّ اللَّخْمِيُّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مِنْبَهُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَامِرُ الشَّعْبِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالِ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ هِيَ، يَدْعُهُنَّ الْمَرْءُ يَكُونُ أَشَدَّ اسْتِبْرَاءً لِعَرْضِهِ وَدِينِهِ، وَمَنْ يَقَعُ فِيهِنَّ يُوشِكُ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَمُرْتِعٍ إِلَى جَانِبِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِي الْحِمَى، وَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مِنْبَهُ بْنُ عُثْمَانَ وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ

2265 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نَا مَرْوَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الطَّاطِرِيُّ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ السَّمِطِ، عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ مَحْفُوظِ بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ سَلْمَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، ثُمَّ قَلَّبَ جَبَّةَ عَلَيْهِ، فَمَسَحَ بِهَا وَجْهَهُ

2264- أخرجه البخارى فى الأيمان جلد1 صفحہ153 رقم الحديث: 52؛ ومسلم فى المسافاة جلد3 صفحہ1219 .

2265- أخرجه ابن ماجه فى الطهارة جلد1 صفحہ158 رقم الحديث: 468 .

یہ حدیث وضین بن عطاء سے صرف یزید بن سمط
 ہی روایت کرتے ہیں اُن سے روایت کرنے میں مروان
 بن محمد طبری اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَضِيِّ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا
 يَزِيدُ بْنُ السَّمْطِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ
 الطَّاطِرِيُّ



أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الِدِّمَشْقِيُّ

احمد بن حسين الدمشقي کی روایات

حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے اجازت چاہی آپ نے فرمایا: کون؟ میں نے عرض کی: میں! آپ نے فرمایا: میں میں گویا آپ نے ایسا کرنے کو ناپسند کیا (یعنی جب کوئی کسی کے پاس آئے تو وہ پوچھے: کون؟ تو اس کو اپنا نام بتانا چاہیے یہی اچھا طریقہ ہے)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عورت کے احتلام کے متعلق پوچھا کہ کیا اس پر غسل فرض ہے؟ تو آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! جب وہ پانی پائے تو غسل کرے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دو دیہاتی نبی کریم ﷺ کے پاس آئے ان میں سے ایک نے عرض کی: اے محمد! لوگوں میں سب سے اچھا کون ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔

2266 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِيَّاهِبٍ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَنْ ذَا؟ قَالَ: أَنَا، فَقَالَ: أَنَا أَنَا كَأَنَّهُ كَرِهَهُ

2267 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنُ هَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ بِنْتِ شُرْحَبِيلَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُسَيْرِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمُقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنِ الْمَرَأَةِ تَحْتَلِمُ: هَلْ عَلَيْهَا غُسْلٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، إِذَا وَجَدَتْ الْمَاءَ فَلْتَتَّسِلْ

2268 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عِرْقِ الْيَحْصَبِيِّ الْهَمْصِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عِيَّاشِ الْهَمْصِيُّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَسْرِ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيَّانِ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: مَنْ

2267- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 271 .

2268- أخرجه الترمذی فی الزهد جلد 4 صفحہ 565 رقم الحدیث: 2329، وأحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 233 رقم

الحدیث: 17715 .

خَيْرُ النَّاسِ يَا مُحَمَّدُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسَنَ عَمَلُهُ

دوسرے نے عرض کی: اسلام کے احکامات بہت زیادہ ہیں، ہم کن کو پکڑیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اپنی زبان کو ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تروتازہ رکھ۔

وَقَالَ الْآخَرُ: إِنَّ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيْنَا فَبِأَيِّهِ نَتَمَسَّكُ؟ فَقَالَ: لَا يَزَالُ لِسَانُكَ رَطْبًا مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ

یہ حدیث حسان بن نوح سے صرف علی بن عیاش ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَسَّانِ بْنِ نُوحٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ

حضرت مقدم بن معدی بن کرب رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ جس کے پاس زرد و سفید (میرا سونا چاندی ہے) نہیں ہوگا، اس کی زندگی اچھی نہیں ہوگی۔

2269 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِرْقٍ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ الْغَسَّانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عَبِيدٍ، عَنِ الْمُقَدَّامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ مَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ أَصْفَرٌ وَأَبْيَضٌ لَمْ يَتَهَنَّ بِالْعَيْشِ

یہ حدیث ابو بکر بن ابومریم سے صرف بقیہ بن ولید ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن حارث بن عرق اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ إِلَّا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ عِرْقٍ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا اور معاف کرنے سے عزت میں اضافہ ہوتا ہے، تم معاف کر دیا کرو اللہ تم کو عزت دے گا، اور جو آدمی اپنے اوپر مانگنے کا دروازہ کھول لیتا ہے تو اللہ عزوجل اس پر محتاجی کا

2270 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الدَّمِيرِيُّ الْمِصْرِيُّ، بِدَمِيرَةَ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ بْنِ قَيْسِ الْكِنْدِيِّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ حَبَّابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ

2269- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 20 صفحہ 278 رقم الحديث: 659، والامام أحمد في مسنده رقم الحديث:

13314 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 68 .

2270- أخرجه مسلم رقم الحديث: 2588، والامام أحمد في مسنده جلد 2 صفحہ 436-438 . انظر: مجمع الزوائد

جلد 3 صفحہ 108 .

دروازہ کھول دیتا ہے۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا نَقَصَ مَالٌ مِنْ صَدَقَةٍ، وَلَا عَفَا رَجُلٌ، عَنْ مَظْلَمَةٍ إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، فَأَعْفُوا يُعِزُّكُمْ اللَّهُ، وَلَا فَتَحَ رَجُلٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ

یہ حدیث سفیان سے صرف قاسم بن یزید الجرمی اور زکریا بن دوید الأشعثی ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَزِيدَ الْجَرْمِيُّ، وَزَكَرِيَّا بْنُ دُوَيْدَ الْأَشْعَثِيُّ

حضرت یزید بن اخنس رضی اللہ عنہ، جنہیں صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے، روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آپس میں حسد نہ کرو، مگر دو آدمیوں پر رشک کرو (رشک کا مطلب ہے کہ دعا کرنا کہ مجھے بھی یہ دے جس طرح اس کو دیا ہے، میں بھی اسی طرح تیری راہ میں خرچ کروں) (۱) ایسے آدمی پر جس کو اللہ عزوجل نے قرآن کا علم دیا اور وہ دن رات اس میں لگا رہتا ہے تو وہ آدمی کہے کہ اگر اللہ مجھے بھی اسی طرح دے تو میں بھی فلاں کی طرح دن رات قیام کیا کروں گا اور (۲) ایسے آدمی پر جس کو اللہ نے مال دیا اور وہ خرچ کرتا اور صدقہ کرتا ہے تو وہ آدمی بھی اسی کی مثل کہے (عرض کرے: میں بھی اس طرح خرچ کروں، اگر مجھے اللہ تعالیٰ مال دے)۔

2271 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحِيمِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَخْنَسِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَنَافَسَ بَيْنَكُمْ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٌ آعَطَاهُ اللَّهُ عِزًّا وَجَلَّ قُرْآنًا، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، يَتَّبِعُ مَا فِيهِ، فَيَقُولُ رَجُلٌ: لَوْ أَنَّ اللَّهَ آعَطَانِي مِثْلَ مَا آعَطَى فَلَانًا، فَأَقُومُ بِهِ كَمَا يَقُومُ - وَرَجُلٌ آعَطَاهُ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُ وَيَتَصَدَّقُ، وَيَقُولُ رَجُلٌ مِثْلَ ذَلِكَ

حضرت یزید بن اخنس، رسول اللہ ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ کسی اور سند روایت نہیں کرتے، اسے روایت کرنے میں زید بن واقد اکیلے ہیں۔

لَمْ يُسْنِدْ يَزِيدُ بْنُ الْأَخْنَسِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ

2272 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبِنَاءُ

2271 - أخرجه الطبراني في الصغير جلد 1 صفحہ 48، والكبير جلد 22 صفحہ 239 رقم الحديث: 626، والامام أحمد في

مسنده جلد 4 صفحہ 105. انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 111.

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر کی زمین کی مساکین کے لیے وصیت کی، تو نبی کریم ﷺ نے ان (حضرت عمر رضی اللہ عنہ) کو فرمایا: زمین اپنے پاس ہی رکھو اس کا غلہ صدقہ کر دو، وہ اس دن تک جاری رہے گا (یعنی ثواب تجھے ملتا رہے گا قیامت تک)۔

الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نَا سِحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ جُوْتِي الصَّنْعَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ الدَّمَارِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ عُمَرَ أَوْصَى بِارِضٍ خَيْرٍ لِلْمَسَاكِينِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَمْسِكْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِغَلَّتِهَا، فَهِيَ تَجْرِي عَلَى ذَلِكَ الْيَوْمِ

یہ حدیث سفیان سے صرف عبد الملک الذماری اور محمد بن یوسف الفریابی اور ابو داؤد الحنفی ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ الدَّمَارِيُّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْفَرِيَابِيُّ، وَأَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: میری امت کی ہلاکت طعن اور طاعون میں ہوگی، ہم نے عرض کی: طعن کو تو ہم نے پہچان لیا، طاعون کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تمہارے دشمن جنوں کی نظر ہر ایک میں شہادت (کا اجر و ثواب) ہے۔

2273 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ، عَنْ بَشْرِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حُرَّةَ، عَنْ سَالِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي فِي الطَّعْنِ وَالطَّاعُونِ - قُلْنَا: قَدْ عَرَفْنَا الطَّعْنَ، فَمَا الطَّاعُونُ؟ قَالَ: وَخَزُ أَعْدَائِكُمْ مِنَ الْجِنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٍ

یہ حدیث سالم سے صرف ابراہیم بن ابی حرہ اور ابراہیم سے صرف بشر بن حکیم اور بشر سے صرف عبد اللہ بن عیصمہ ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا اِبْرَاهِيمَ بْنُ أَبِي حُرَّةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا بَشْرُ بْنُ حَكِيمٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ بَشْرِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِصْمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ

2274 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْوَلِيدِ

2273- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 317 .

2274- أخرجه ابن ماجه فى النكاح جلد 1 صفحہ 596 رقم الحديث: 1856، وأحمد فى المسند جلد 5 صفحہ 327

آیت نازل ہوئی: ”وہ لوگ جو سونا اور چاندی ذخیرہ کرتے ہیں“ (التوبہ: ۳۴) تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونے و چاندی کے لیے تباہی ہو صحابہ کرام نے عرض کی: ہم کون سا مال حاصل کریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان اور نیک بیوی۔

یہ حدیث از سفیان از عمرو بن مرہ صرف مؤمل اور محمد بن حسین المزنی الواسطی اور عبدالمجید بن عبدالعزیز بن ابی رواد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کو ان کلمات سے دم کرتے تھے: ”أَعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ“۔

یہ حدیث از سفیان از ابن ابی لیلیٰ صرف الفریابی ہی روایت کرتے ہیں۔ اور لوگ سفیان سے وہ منصور سے وہ منہال سے روایت کرتے ہیں۔

بْنِ سَعْدِ الْمُرِّيِّ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَاعِدِ الصُّورِيِّ قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْوَةَ، وَالْأَعْمَشُ، وَمَنْصُورٌ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: (الَّذِينَ يَكْتُمُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ) (التوبة: 34)، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَقَالُوا: أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ: قَلْبًا شَاكِرًا، وَلِسَانًا ذَاكِرًا، وَرَوْجَةً صَالِحَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَرْوَةَ إِلَّا مُؤَمَّلٌ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمُزَنِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ

2275 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ هَارُونَ بْنُ رَوْحِ الْبُرْدَعِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَوْفِ الْحِمَاصِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفَرِيَابِيِّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَوِّذُ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، فَيَقُولُ: أَعِيدُكُمْ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، وَذَرَأَ وَبَرَأَ، وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَأَمَّةٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى إِلَّا الْفَرِيَابِيُّ وَرَوَاهُ النَّاسُ: عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الْمِنْهَالِ

رقم الحديث: 22455.

2275- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 116-117.

أَحْمَدُ بْنُ شَاهِينَ الْبَغْدَادِيُّ

احمد بن شاہین بغدادی کی روایت

2276 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شَاهِينَ الْبَغْدَادِيُّ

قَالَ: نَا شَيْبَانَ بْنَ قُرُوحٍ قَالَ: نَا عِكْرِمَةَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ
الْأَزْدِيَّ قَالَ: نَا عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ عُمَيْرٍ، عَنْ مُصْعَبِ
بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ قَوْلِهِ: (الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ)
(الماعون: 5)؟ قَالَ: هُمُ الَّذِينَ يُؤَخِّرُونَهَا عَنْ
وَقْتِهَا

لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
عُمَيْرٍ إِلَّا عِكْرِمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

حضرت مصعب بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا: میں نے نبی کریم ﷺ کو اللہ عزوجل کے اس ارشاد ”وہ لوگ جو نماز میں سستی کرتے ہیں“ (الماعون: 5) کے متعلق فرماتے سنا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو وقت سے مؤخر کرتے ہیں۔

یہ حدیث از عبد الملک بن عمیر صرف عکرمہ بن ابراہیم ہی مرفوع روایت کرتے ہیں۔



احمد بن اسماعیل الوسائسی کی

روایات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے پاس داخل ہوا تو آپ وضو کر رہے تھے آپ کے آگے پانی کا ایک مُد پڑا ہوا تھا، تھوڑا تھایا زیادہ تھا پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے اور گلی کی اور ناک میں پانی ڈالا تین تین مرتبہ اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا اور داڑھی کا خلال کیا اور اپنی کلائیوں کو تین تین مرتبہ دھوئیں اور اپنے سر کا مسح کیا اور دونوں کانوں کا مسح کیا دو مرتبہ اور اپنے دونوں پاؤں دھوئے یہاں تک کہ ان کو صاف کیا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! وضو اس طرح کرنا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میرے رب عزوجل نے مجھے اسی طرح حکم دیا ہے۔

یہ لفظ از عطاء از حضرت ابن عباس از نبی کریم ﷺ سے روایت نہیں کیے گئے ہیں کہ آپ ﷺ نے داڑھی کا خلال کیا سوائے نافع ابوہریرہ کے اسے روایت کرنے میں شیبان اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: آدمی اس کے ساتھ ہوگا جس سے اس نے محبت کی۔

أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

الْوَسَائِسِيُّ

2277 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْوَسَائِسِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا شَيْبَانَ بْنَ فَرُّوخَ قَالَ: نَا نَافِعَ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَتَطَهَّرُ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ إِيَاءٌ قَدَرِ الْمُدِّ، وَإِنْ زَادَ فَقَلَّ مَا يَزِيدُ، وَإِنْ نَقَصَ فَقَلَّ مَا يَنْقُصُ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَأَذْنَيْهِ مَرَّتَيْنِ مَرَّتَيْنِ، وَغَسَلَ رِجْلَيْهِ حَتَّى أَنْقَاهُمَا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَكَذَا التَّطَهَّرُ؟ قَالَ: هَكَذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ اللَّفْظَةَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي: تَخْلِيلِ اللَّحْيَةِ فِي الْوُضُوءِ إِلَّا نَافِعَ أَبُو هُرَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَيْبَانُ

2278 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَفْطَحُ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمُهَرَّقَانِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ قَبْرَاطٍ، عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى

2277 - انظر الأنساب للسمعاني جلد 13 صفحہ 338 .

2278 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 58 .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ إِلَّا جَسْرُ أَبُو

جَعْفَرٍ، وَأَبُو عَمَارَةَ الرَّازِي

2279 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَطَّابِ

الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدِ الزُّهْرِيُّ قَالَ:

نَا عَمِّي قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا

الْحَسَنُ بْنُ دِينَارٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ

السَّخْتِيَانِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ

زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الْوَايِينَ إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا الْحَسَنُ بْنُ

دِينَارٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

یہ حدیث یونس بن عبید سے صرف جسر ابو جعفر اور
ابوعمارہ الرازی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: صلوات الا وایین اس وقت ہے
جب اونٹوں کے پاؤں جل رہے ہوں۔

یہ حدیث ایوب سے صرف حسن بن دینار ہی
روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن اسحاق
اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، نبی کریم ﷺ
سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں احمد اور محمد
اور حاشرا اور مقفی اور خاتم ہوں (یعنی یہ میرے نام ہیں)۔

ضحاک سے صرف ابوسلمہ بن نبیط ہی روایت کرتے
ہیں اسے روایت کرنے میں ابونعیم اکیلے ہیں۔

2280 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى

السَّوْطِيُّ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: نَا أَبُو نَعِيمِ الْفَضْلُ بْنُ

دُكَيْنٍ قَالَ: نَا سَلْمَةَ بْنَ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ

مُزَاحِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: أَنَا أَحْمَدُ، وَمُحَمَّدٌ، وَالْحَاشِرُ،

وَالْمَقْفِيُّ، وَالْخَاتَمُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الضَّحَّاكِ إِلَّا سَلْمَةُ بْنُ نُبَيْطٍ، تَفَرَّدَ

بِهِ: أَبُو نَعِيمٍ

2279- أخرجه مسلم في المسافرین جلد 1 صفحہ 516، والدارمی فی الصلاة جلد 1 صفحہ 403 رقم الحدیث: 1457

وأحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 448 رقم الحدیث: 19286 .

2280- انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 287 .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ ہم پر نکلے اس حال میں کہ آپ اُدنی کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں نیزہ تھا، آپ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا سہارا لیے ہوئے تھے، آپ ﷺ نے نیزہ اپنے سامنے گاڑا پھر اس کی طرف نماز پڑھی۔

2281 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّوْطِيُّ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ بْنَ حَرْبٍ، وَعَقْفَانَ بْنَ مُسْلِمٍ، قَالَا: نَا شُعْبَةَ، عَنْ مُشَاشٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مَتَوَشِّحٌ بِثَوْبٍ قُطْنٍ، وَفِي يَدِهِ عَزْرَةٌ، وَهُوَ مُتَكِّئٌ عَلَى أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، فَرَكَزَهَا بَيْنَ يَدَيْهِ، ثُمَّ صَلَّى إِلَيْهَا

یہ حدیث مشاش سے صرف شعبہ اور مشاش سے شعبہ کے علاوہ کسی نے بھی روایت نہیں کی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُشَاشٍ إِلَّا شُعْبَةَ، وَلَا رَوَى عَنْ مُشَاشٍ أَحَدٌ غَيْرُ شُعْبَةَ

حضرت عمرو بن معدی کرب الزبیدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نے قریب سے دیکھا کہ جب ہم حج کر رہے تھے، ہم نے کہا: حاضر ہیں ہم تیری عظمت کا اظہار کرتے ہیں اور تجھ سے معذرت کرتے ہیں، زبید نے افسوس کی بات کی، وہ مجبور ہو کر آئی ہے۔ ہم عاجز اور دشوار کن مراحل طے کر کے آئے ہیں انہوں نے اللہ کے مد مقابل خدا بنائے، اس لیے وہ نقصان میں ہیں اور ہم جب بطن حُسر پر کھڑے تھے تو ہم کو ڈر لگا کہ ہم کو جن اچک نہ لیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو فرمایا: بطن عرفہ سے نیچے اُترؤ کیونکہ جب یہ مسلمان ہو گئے تو اب تمہارے بھائی ہیں اور ہم کو تلبیہ سکھایا: ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ“۔

2282 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ عَبَّادٍ الْجَوْهَرِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ بْنِ زَبَّارٍ الْكَلْبِيُّ قَالَ: نَا شَرِيفُ بْنُ الْقُطَامِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا طَلْقٍ الْعَائِدِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ شَرَّاحِيلَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الزُّبَيْدِيِّ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُنَا مِنْ قُرْبٍ وَنَحْنُ إِذَا حَجَجْنَا قُلْنَا: لَبَّيْكَ تَعْظِيمًا إِلَيْكَ عُذْرًا هَذِي زُبَيْدًا قَدْ أَتَيْتُكَ قَصْرًا يَقْطَعُنَ حَبْنًا وَجِبَالًا وَعَرَا قَدْ خَلَفُوا الْأَنْدَادَ خُلُوعًا صُفْرًا وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَقُوفًا بِبَطْنِ مُحَسِّرٍ، نَخَافُ أَنْ تَتَخَطَفَنَا الْجِنَّ، فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ارْتَفِعُوا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ، فَإِنَّهُمْ إِخْوَانُكُمْ إِذْ أَسَلَمُوا، وَعَلَّمَنَا التَّلْبِيَةَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

2281- انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 5312 .

2282- أخرجه البزار رقم الحديث: 1412 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 225 .

یہ حدیث شرقی بن قظامی سے صرف محمد بن زیاد بن زبار الکلبی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ بنت سعد اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے سنا: عنقریب میرے بعد فتنے ہوں گے، صبح آدمی مؤمن ہوگا، رات کو کافر، شام کو مؤمن تو صبح کافر۔ میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر خدا ہوں! کون لوگ زیادہ ہدایت والے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ آدمی جو ان دو حرمین میں کم ہوں گے اور نماز وقت پر ادا کریں گے اور حج اور عمرہ کریں گے معاملہ اسی طرح رہے گا یہاں تک کہ خاٹی کا ہاتھ آ جائے یا فیصلہ آ جائے۔

یہ حدیث حضرت عائشہ بنت سعد سے صرف صالح بن عبد الرحمن ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں محمد بن زیاد کیلے ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ ایک چور سے ملے آپ نے اس کی سفارش کی آپ سے کہا گیا: ہم اس کو امام کے پاس لے جائیں گے، حضرت زبیر نے فرمایا: میں امام کے پاس لے جاؤں گے تو اللہ کی لعنت ہو سفارش کرنے والے اور کروانے والے پر جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرْقِيِّ بْنِ الْقَطَامِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّارِ الْكَلْبِيِّ

2283 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ بْنِ زَبَّارِ الْكَلْبِيِّ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمَسُورِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ سَتَكُونُ بَعْدِي فِتْنٌ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا، وَيُصْبِحُ كَافِرًا . فَقُلْتُ: يَا أَبِي أَنْتَ وَآمِي، فَأَيُّ الرَّجَالِ أَرَشُدُ؟ قَالَ: رَجُلٌ بَيْنَ هَذَيْنِ الْحَرَمَيْنِ فِي قَلْبِهِ، يُقِيمُ الصَّلَاةَ لِمَوَاقِيتِهَا، وَيَحُجُّ وَيَعْتِمِرُ، فَلَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى تَأْتِيَهُ يَدٌ خَاطِنَةٌ، أَوْ مَنِيَّةٌ قَاصِيَةٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ إِلَّا صَالِحُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدِ

2284 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُ بْنُ شَبَّةَ قَالَ: نَا أَبُو غَزِيَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَقِيَ الزُّبَيْرُ سَارِقًا، فَشَفَعَ فِيهِ، فَقِيلَ لَهُ: حَتَّى نُبَلِّغَهُ الْإِمَامَ، فَقَالَ: إِذَا بَلَغَ الْإِمَامَ فَلَعَنَ اللَّهُ الشَّافِعَ وَالْمُشَفِّعَ، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے صرف عبدالرحمن بن ابی زناد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اقامت پڑھی جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی (دوسری سنت افضل) نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔

یہ حدیث ابن ثوبان سے صرف بقیہ ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں ابویوقی اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہمارے پاس آئے سخت گرمی میں آپ نے سردیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ سردیوں میں اس حالت میں ہمارے پاس آئے کہ آپ نے گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے آپ نے پانی مانگا! اس کو نوش کیا پھر اپنی پیشانی سے پسینہ صاف کیا پھر آپ اپنے گھر چلے گئے میں نے اپنے والد سے عرض کی: اے ابا جان! امیر المؤمنین ایسے کیوں کیا آپ نے دیکھا؟ آپ ہمارے پاس سردیوں میں آئے اور آپ نے گرمیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور آپ گرمیوں میں آئے تو آپ سردیوں والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ حضرت ابولیلیٰ نے فرمایا: میرے والد

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الزِّنَادِ

2285 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْرٍ بْنُ جَوْصَا الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْجَمَّصِيُّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ وَرْقَاءِ بْنِ عُمَرَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا صَلَاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ إِلَّا بَقِيَّةُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو تَقِيٍّ

2286 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ غِيَاثِ الْمَرْوَزِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّعْدِيُّ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبُو يَحْيَى الْمُعَلِّمُ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا أَيُّوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّقْفِيُّ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الصَّائِغِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فِي الْحَرِّ الشَّدِيدِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الصَّيْفِ، ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ، فَشَرِبَهُ، ثُمَّ مَسَحَ الْعَرَقَ عَنْ جَبْهَتِهِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى بَيْتِهِ، فَقُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتَاهُ أَمَا رَأَيْتَ مَا صَنَعَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ؟ خَرَجَ عَلَيْنَا فِي الشِّتَاءِ وَعَلَيْهِ

نے میرا ہاتھ پکڑا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس لے آئے۔ آپ سے اس کے متعلق عرض کی گئی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کیا تو حضرت علی نے ان سے فرمایا: رسول اللہ ﷺ نے مجھے اس حالت میں بھیجا کہ میری آنکھ میں درد تھی، آپ نے اپنا لعاب میری آنکھ میں لگایا، پھر فرمایا: اپنی دونوں آنکھیں کھولو! میں نے دونوں آنکھوں کو کھولا تو اس وقت سے لے کر آج تک میری آنکھوں میں تکلیف نہیں ہوئی اور آپ ﷺ نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا: اے اللہ! اس سے گرمی اور سردی لے جا! پس میں نہ گرمی اور نہ سردی محسوس کرتا ہوں یہاں تک کہ میرے لیے یہ دن آ گیا ہے۔

یہ حدیث ابو اسحاق سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں اور ابراہیم سے یہ صرف اسی سند سے روایت کی گئی ہے۔

حضرت سکن بن حکیم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابراہیم الصانع کے پہلو میں اس حالت میں نماز پڑھ رہا تھا کہ میرے اوپر چادر تھی میں اس سے مٹی صاف کر رہا تھا جب حضرت ابراہیم نے نماز پڑھ لی تو مجھے فرمایا: حضرت عطاء نے فرمایا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے سات اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور یہ کہ میں اپنے بالوں اور کپڑوں سے نہ کھیلوں۔

یہ حدیث از عطاء از حضرت ابن عباس صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

ثِيَابُ الصَّيْفِ، وَخَرَجَ عَلَيْنَا فِي الصَّيْفِ وَعَلَيْهِ ثِيَابُ الشِّتَاءِ، فَقَالَ أَبُو لَيْلَى: مَا فِطْنَتْ، فَأَخَذَ بِيَدِ أَبِيهِ، فَاتَى عَلِيًّا فَقَالَ لَهُ الَّذِي صَنَعَ. فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ بَعَثَنِي وَإِنَّا أَرْمَدُ، فَبَزَقَ فِي عَيْنِي، ثُمَّ قَالَ: افْتَحْ عَيْنَيْكَ، فَفَتَحْتَهُمَا، فَمَا اشْتَكَيْتُهُمَا حَتَّى السَّاعَةِ، وَدَعَا لِي فَقَالَ: اللَّهُمَّ اذْهَبْ عَنْهُ الْحَرَّ وَالْبَرْدَ، فَمَا وَجَدْتُ حَرًّا وَلَا بَرْدًا حَتَّى يَوْمِي هَذَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا اِبْرَاهِيمَ، وَلَا يَرَوِي عَنْ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2287 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا السَّكْنُ بْنُ حَكِيمٍ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ اِبْرَاهِيمَ الصَّانِعِ، وَعَلَى فَرَوْ، فَكُنْتُ اتَّقِي بِهِ التَّرَابَ، فَلَمَّا صَلَّى اِبْرَاهِيمُ، قَالَ لِي: قَالَ عَطَاءٌ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَرْتُ أَنْ أُسْجِدَ عَلَى سَبْعَةِ أَعْظُمٍ، وَلَا أَكْفَ شَعْرًا وَلَا ثَوْبًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا اِبْرَاهِيمَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: اکیلے نماز پڑھنا باجماعت نماز پڑھنے سے بچیں یا اس سے زیادہ ثواب میں اضافہ کر دیتا ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ہند ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا اور فرمایا: مجھے حضرت تمیم الداری نے بیان کیا کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ سمندر میں سوار تھے تیز ہوا جزیرہ سے سمندر میں آئی وہ بالوں والا جانور تھے صحابہ کرام نے عرض کی: تو کون ہے؟ تو اس نے کہا: میں جساسہ ہوں (یعنی دجال کا جاسوس) اس کے بعد جساسہ کی حدیث ذکر کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول

2288 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْدٍ اللَّهُ بْنُ يُونُسَ الْجَبْرِئِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ الْأَسْوَدِ بْنِ الْهَيْثَمِ الْحَنْفِيُّ قَالَ: نَا فَهْدُ بْنُ حَيَّانَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزِيدُ صَلَاةُ الْجَمِيعِ عَلَى صَلَاةِ الرَّجُلِ وَحَدَهُ بَضْعًا وَعِشْرِينَ، أَوْ خَمْسًا وَعِشْرِينَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا فَهْدُ

2289 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَيْدٍ اللَّهُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ، عَنْ سَعْدِ الْأَسْكَافِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ: حَدَّثَنِي تَمِيمُ الدَّارِيُّ، أَنَّهُ رَكِبَ الْبَحْرَ فِي أَنْاسٍ مِنْ أَهْلِهِ، فَالْجَاتَهُمُ الرِّيحُ إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ، فَأَذَا هُمْ بِدَابَّةِ أَهْلَبَ، فَقَالُوا: مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ فَذَكَرَ حَدِيثَ الْجَسَّاسَةِ

2290 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ دَاوُدَ

2288- أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 154 رقم الحدیث: 647، ومسلم فی المساجد جلد 1 صفحہ 450 .

2289- أخرجه أبو داؤد فی الملاحم جلد 4 صفحہ 115 رقم الحدیث: 4325، والترمذی فی الفتن جلد 4 صفحہ 521 رقم

الحدیث: 2253، وابن ماجه فی الفتن جلد 2 صفحہ 1354 رقم الحدیث: 4074، وأحمد فی المسند جلد 6

صفحہ 445 رقم الحدیث: 27417 .

2290- أخرجه أبو داؤد فی العلم جلد 3 صفحہ 320 رقم الحدیث: 3658، والترمذی فی العلم جلد 5 صفحہ 29 رقم

الحدیث: 2649، وابن ماجه فی المقدمة جلد 1 صفحہ 98 رقم الحدیث: 266، وأحمد فی المسند جلد 2

صفحہ 393 رقم الحدیث: 7588 .

اللہ ﷺ نے فرمایا: جس سے علم کے متعلق پوچھا گیا جس کو وہ جانتا ہو اس نے وہ چھپایا تو وہ قیامت کے دن اس حالت میں لایا جائے گا کہ اس کو آگ کی لگام دی ہو گی۔

السُّكْرِيُّ الْجُنْدِي سَابُورِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شَنْظِيرٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سُئِلَ عَنْ عِلْمٍ يَعْلَمُهُ، فَكْتَمَهُ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلْجَمًا بِلِجَامٍ مِّنْ نَّارٍ

یہ حدیث کثیر سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں محمد بن خلید اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرٍ إِلَّا حَمَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ خُلَيْدٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو اگر تم پر آسمان غبار آلود ہو تو تیس دن کی گنتی مکمل کرو۔

2291 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ شُعَيْبٍ الرَّجَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْمُقْرِي قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا وَرْقَاءُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْيَدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ وَرْقَاءَ إِلَّا الْمُقْرِي، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ

اسے ورقاء سے صرف مقری ہی روایت کرتے ہیں اسے روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔



احمد بن محمد الشعیری کی روایات

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جس میں امانت نہیں اس میں ایمان نہیں، اور جس نے وضو نہیں کیا اس کی نماز نہیں، اور جس نے نماز نہیں پڑھی اس کا دین نہیں، اور نماز کا تعلق دین سے اس طرح ہے جس طرح سر کا تعلق جسم سے ہے۔

یہ حدیث عبد اللہ بن عمر سے صرف مندل اور مندل سے صرف حسن ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں حسین بن الحکم اکیلے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: سونا سونے کے بدلے چاندی چاندی کے بدلے، گندم گندم کے بدلے اور جو جو کے بدلے، کھجور کھجور کے بدلے، کشمش کشمش کے بدلے، نمک نمک کے بدلے برابر برابر ہاتھ فروخت کرو، جس نے زیادتی یا اضافہ کیا، اس نے سود کا معاملہ کیا۔

یہ حدیث مغرور سے صرف زبیر ہی روایت کرتے ہیں، اسے روایت کرنے میں بشر اکیلے ہیں۔

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ

2292 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الشَّعِيرِيُّ الشَّيْرَازِيُّ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ الْعَجْرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا حَسَنُ بْنُ حُسَيْنِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: نَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا إِيْمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا طَهْرَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا صَلَاةَ لَهُ، إِنَّمَا مَوْضِعُ الصَّلَاةِ مِنَ الدِّينِ كَمَوْضِعِ الرَّأْسِ مِنَ الْجَسَدِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْدَلٌ، وَلَا عَنْ مِنْدَلٍ إِلَّا حَسَنٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَكَمِ

2293 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَبِيحِ الْمَدِينِيِّ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ: نَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ الْحُسَيْنِ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ، عَنِ الْمَعْرُورِ بْنِ سُؤَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالزَّرْبِيُّ بِالزَّرْبِيِّ، وَالْمَلْحُ بِالْمَلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، يَدَا بِيَدٍ، فَمَنْ زَادَ أَوْ أَزْدَادَ فَقَدْ آرَبَنِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمَعْرُورِ إِلَّا الزُّبَيْرُ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَشْرُ

بَابُ مَنْ

اسْمُهُ اِبْرَاهِيمُ

باب ان کے نام سے جن کا نام ابراہیم ہے

2294 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ

الْقَيْصَرَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوْسُفَ الْفَرِيَابِيِّ قَالَ:
نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَا اَحَدٌ مِنْكُمْ يُنْجِيهِ عَمَلُهُ قَالُوا: وَلَا اَنْتَ يَا
رَسُولَ اللّٰهِ؟ قَالَ: وَلَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِي اللّٰهُ
بِرَحْمَةٍ وَفَضْلٍ، وَلَوْ يُوَاخِذُنِي بِمَا جَنَى هُوَ لَاءِ
لَا وَبِقَنِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا الْفَرِيَابِيُّ

2295 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ

قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ عَاصِمِ الْاَحْوَلِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِلّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ
اسْمًا، مَنْ اَحْصَاهَا دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا الْفَرِيَابِيُّ

2296 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی اپنے عمل سے
نجات نہیں پائے گا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کی:
یا رسول اللہ! آپ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: میں بھی نہیں
مگر مجھے میرے اللہ نے اپنی رحمت اور مہربانی کی چادر
میں ڈھانپ لیا ہے، اگر میرا مواخذہ فرمائے اس کے
بدلے جو یہ سارے غلطی کرتے ہیں تو وہ ضرور کر سکتا ہے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف فریابی ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے ننانوے نام
ہیں، جس نے اُن کو یاد کر لیا وہ جنت میں داخل ہو جائے
گا۔

یہ حدیث سفیان سے صرف فریابی ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے مرفوعاً

2294 - أخرجه البزار بنحوه جلد4 صفحہ162 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ359 .

2295 - أخرجه البخاری: الدعوات جلد11 صفحہ218 رقم الحدیث: 6410، ومسلم: الذکر جلد4 صفحہ2063

وابن ماجة: الدعاء جلد2 صفحہ1269، وأحمد: المسند جلد2 صفحہ420 رقم الحدیث: 8166 .

2296 - انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ77 .

روایت کرتے ہیں کہ کسی آدمی کا کوئی عمل اتنا عذاب سے نجات دلانے والا نہیں جتنا اللہ کا ذکر، عرض کی گئی: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا: جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، فرمایا: جہاد بھی نہیں ایک صورت ہے کہ آدمی اپنی تلوار سے لڑے یہاں تک کہ شہید ہو جائے۔

يُوسُفَ الْفَرِيَابِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا عَمِلَ آدَمِيُّ عَمَلًا أَنْجَى لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ قِيلَ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: وَلَا الْجِهَادُ إِلَّا أَنْ تَضْرِبَ بِسَيْفِكَ حَتَّى يَنْقَطِعَ

یہ حدیث یحییٰ سے صرف ابو خالد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں فریابی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا أَبُو خَالِدٍ تَفَرَّدَ بِهِ الْفَرِيَابِيُّ

حضرت میمونہ زوجہ نبی ﷺ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے پاس آئے ہم بیٹھی ہوئی تھیں آپ نے کہا: تم میں سے سب سے پہلے جو حوض پر آئے گی جس کے ہاتھ لے ہیں ہم اپنے ہاتھ ناپنے لگیں کہ ہاتھ لمبا کس کا ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: میری مراد یہ نہیں ہے، میری مراد اس سے یہ ہے کہ جو خنی ہاتھ والی ہے۔

2297 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا فُذَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مَسْلَمَةَ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهَا، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ جُلُوسٌ، فَقَالَ: أَوَلَكُنَّ تَرُدُّ عَلَيَّ الْحَوْضَ أَطْوَلُكُنَّ يَدًا فَجَعَلْنَا نَقْدِرُ أَذْرُعَنَا أَيُّنَا أَطْوَلُ يَدًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ ذَاكَ أَعْنِي إِنَّمَا أَعْنِي أَصْنَعُكُنَّ يَدًا

یہ حدیث اوزاعی سے صرف مسلمہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں فدیک بن سلیمان اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا مَسْلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ فُذَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ

حضرت صالح بن بشیر بن فدیک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فدیک، حضور ﷺ کے پاس

2298 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا فُذَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنِ

2297 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 251 .

2298 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 18 صفحہ 336 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 258 .

آئے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ خیال کرتے ہیں کہ جنہوں نے ہجرت نہیں کی وہ ہلاک ہیں آپ ﷺ نے فرمایا: اے فدیک! نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، برائی چھوڑ دو، اپنی قوم کی جس زمین (شہر) میں چاہیں آپ رہیں۔

الزُّهْرِيُّ، عَنْ صَالِحِ بْنِ بَشِيرٍ بْنِ فُدَيْكٍ قَالَ: خَرَجَ فُدَيْكٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ مَنْ لَمْ يُهَاجِرْ هَلَكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فُدَيْكُ، اِقِمِ الصَّلَاةَ، وَآتِ الزَّكَاةَ، وَاهْجِرِ السُّوءَ، وَاسْكُنْ مِنْ أَرْضِ قَوْمِكَ حَيْثُ شِئْتَ

یہ حدیث اوزاعی سے صرف فدیک بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں، فدیک نے یہ حدیث اوزاعی سے سنی ہے۔

لَمْ يَزُورِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا فُدَيْكُ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَقَدْ سَمِعَ فُدَيْكُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ

حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے خیبر کی زمین حصے میں ملی، مجھے اس زمین سے بڑھ کر کوئی پسند نہیں تھی، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے جو خیبر کی زمین حصے میں ملی ہے وہ مجھے سب سے زیادہ پسند ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو صدقہ کر دوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: خود زمین کو اپنے پاس رکھو اور اس کا پھل وغیرہ صدقہ کر دو۔

2299 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَنْفَسَ مِنْهَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْهَا، وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَا، فَقَالَ أَحْبَسْ أَصْلَهَا، وَتَصَدَّقْ بِثَمَرِهَا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو پڑھتے ہوئے سنا: لبیک عن شبرمہ! آپ ﷺ نے فرمایا: شبرمہ کون ہے؟ اس نے

2300 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ

2299 - أخرجه البخاري: الشروط جلد 5 صفحہ 418 رقم الحديث: 2737، ومسلم: الوصية جلد 3 صفحہ 1256، وأبو

داؤد: الرصايبا جلد 3 صفحہ 116 رقم الحديث: 2878، والترمذی: الأحكام جلد 3 صفحہ 650 رقم

الحديث: 1375، والنسائي: الأحباس جلد 6 صفحہ 191 (باب كيف يكتب الحيس؟) وأحمد: المسند جلد 2

صفحہ 18 رقم الحديث: 4607 .

2300 - أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2 صفحہ 167 رقم الحديث: 1811، وابن ماجه: المناسك جلد 2 صفحہ 969 رقم

الحديث: 2903، والطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 42 رقم الحديث: 12419 .

عرض کی: ایک آدمی نے مجھے اپنی طرف سے حج کرنے کے لیے کہا تھا، حضور ﷺ نے فرمایا: پہلے اپنا حج ادا کر، پھر شہر مدہ کی طرف سے کر۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا يَقُولُ: لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: وَمَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ: رَجُلٌ أَمَرَنِي أَنْ أَحُجَّ عَنْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ، ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: علم لوگوں سے چھینا نہیں جائے گا بلکہ علم اٹھالیا جائے گا، علماء کے اس دنیا سے جانے کے ساتھ یہاں تک کہ کوئی عالم باقی نہیں رہے گا، لوگ جاہلوں کو سردار بنائیں گے، وہ ان سے سوال پوچھیں گے وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، وہ فتویٰ دینے والے خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

2301 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَفَّارِ بَنُ الْحَسَنِ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ أَنْزَاعًا يَنْزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُ الْعِلْمَ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يُبْقِ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُئُوسًا جُهَالًا، فَسُئِلُوا، فَأَفْتَوْا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، آپ نے دو رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ ذوالیہدین نے عرض کی: کیا نماز میں کمی کا حکم نازل ہوا یا آپ بھول گئے ہیں؟ حضور سرور کونین ﷺ نے فرمایا: ذوالیہدین نے کیا کہا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ذوالیہدین نے سچ کہا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دو رکعت مکمل فرمائیں، پھر دو سجدے سہو کے کیے بیٹھنے کی حالت میں سلام کے بعد۔ ابن مسعود کا نام عبداللہ ہے، حضور ﷺ کے اصحاب میں سے ہیں۔

2302 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةِ الْمَصْنَعَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنِ ابْنِ مَسْعَدَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكَعَتَيْنِ، فَقَالَ ذُو الْيَدَيْنِ: أَقْصَرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: صَدَقَ، فَاتَمَّ بِهِمُ الرُّكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتِي السَّهْوِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَمَا سَلَّمَ ابْنُ مَسْعَدَةَ اسْمُهُ عَبْدُ اللَّهِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث ابن جریر سے صرف عبدالرزاق ہی

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ

2301- أخرجه البخاری: العلم جلد 1 صفحہ 234 رقم الحدیث: 100، ومسلم: العلم جلد 4 صفحہ 2058، والترمذی:

العلم جلد 5 صفحہ 31 رقم الحدیث: 2652، وابن ماجه: المقدمة جلد 1 صفحہ 20 رقم الحدیث: 52، والدارمی:

المقدمة جلد 1 صفحہ 89 رقم الحدیث: 239، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 220 رقم الحدیث: 6518 .

الرِّزَّاقِ، تَفَرَّدَ بِهِ اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَرَّةَ

روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن محمد بن برہ اکیلے ہیں۔

2303 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَاعَبُدُ الرِّزَّاقِ

قَالَ: نَا الثُّورِيُّ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَخْبَرَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ يَوْمَ الْفَتْحِ وَحَوْلَ الْكَعْبَةِ ثَلَاثِمِائَةٍ وَسِتُّونَ صَنَمًا، فَجَعَلَ يَطْعَنُهَا فَتَسْقُطُ عَلَى وَجْهَيْهَا، وَهُوَ يَقُولُ: (جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ، إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ مکہ شریف داخل ہوئے فتح مکہ کے دن تو کعبہ شریف کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت تھے آپ اپنے نیزہ کے ساتھ گراتے جاتے اور وہ منہ کے بل گر رہے تھے آپ پڑھ رہے تھے: حق آ گیا باطل چلا گیا، بے شک باطل ختم ہی ہونے والا ہے۔

(الاسراء: 81)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثُّورِيِّ إِلَّا عَبْدُ

یہ حدیث امام ثوری سے صرف امام عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

الرِّزَّاقِ

2304 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَاعَبُدُ الرِّزَّاقِ

قَالَ: اَنَا الثُّورِيُّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَّ بِقَرْيَةٍ نَمَلٍ قَدْ أُحْرِقَتْ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يُعَذِّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت عبدالرحمن بن مسعود رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے آپ چیونٹیوں کی بستی کے پاس سے گزرے اس کو جلا دیا گیا تھا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: کسی کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ کسی کو عذاب دے اللہ عزوجل جیسا عذاب۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الثُّورِيِّ إِلَّا عَبْدُ

یہ حدیث امام ثوری سے صرف امام عبدالرزاق ہی روایت کرتے ہیں۔

الرِّزَّاقِ

2303- أخرجه البخاري: المظالم جلد 5 صفحہ 145 رقم الحديث: 2478، ومسلم: الجهاد جلد 3 صفحہ 1408،

والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 303 رقم الحديث: 3138، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 491 رقم

الحديث: 3583 .

2304- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 10 صفحہ 176 رقم الحديث: 10373-10374 . أخرجه أبو داود: الجهاد

جلد 3 صفحہ 55 رقم الحديث: 2675 .

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سونا چاندی کے بدلے فروخت کرنا سود ہے مگر برابر برابر جائز ہے۔

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عیسیٰ بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک مشکیزہ کی طرف کھڑے ہوئے آپ نے اس کا منہ کھولا اس سے کھڑے ہونے کی حالت میں پانی نوش کیا۔

یہ حدیث حضرت عبداللہ بن انیس سے صرف اسی سند کے ساتھ مروی ہے۔ اس حدیث کے ساتھ عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضور ﷺ سے سات تین آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: تین آدمی غار میں داخل ہوئے پہاڑ سے پتھر کا ایک ٹکڑا غار کے دروازے پر گرا (غار کا منہ بند ہو گیا) ان میں سے ایک نے کہا: اے لوگو! تم میں سے ہر کوئی اپنے نیک عمل کا وسیلہ پیش کرے ہو سکتا ہے تم پر رحم کیا جائے گا، ان میں سے ایک نے کہا: مجھے معلوم ہے

2305 - اخبرنا ابراهيم قال: انا عبد الرزاق قال: انا معمر، عن ايوب، عن ابي قلابه، عن هشام بن عامر، ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء لم يرو هذا الحديث عن ايوب الا معمر

2306 - حدثنا ابراهيم قال: انا عبد الرزاق قال: انا عبد الله بن عمر، عن عيسى بن عبد الله بن انيس، عن ابيه، ان النبي صلى الله عليه وسلم، قام الى قرية لهم، فحنتها، وشرب وهو قائم

لا يروى هذا الحديث عن عبد الله بن انيس الا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الرزاق

2307 - حدثنا ابراهيم قال: نا محمد بن عبد الرحيم بن شروس الصنعاني قال: سمعت عبد الله بن بحير القاص، يذكر، عن وهب بن منبه، عن النعمان بن بشير الأنصاري، انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الرقيم: ان ثلاثة نفر دخلوا في كهف، فوقع قطعة من الجبل على باب الكهف، فأصد عليهم، فقال

2305 - أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 25 رقم الحديث: 16358. انظر: مجمع الزوائد جلد 4

صفحہ 117-118 .

2306 - أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 180 رقم الحديث: 25333 .

2307 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 145 .

میں نے ایک نیک عمل کیا تھا، میرے پاس کچھ مزدور تھے میں نے ان کو مزدوری پر لگایا ہوا تھا مقررہ مزدوری پر۔ ایک آدمی ایک دن دوپہر کے وقت آیا اس کا آدھا دن مزدوری کا رہ گیا تھا، اس نے مزدوری کی اپنے بقیہ ساتھیوں کی مزدوری پر اس نے آدھا دن کام کیا۔ پس میں نے اپنے ذمہ میں یہ سمجھا کہ میں اس کے ساتھیوں کو جو اجرت دے رہا ہوں۔ اس کی اجرت اس سے کم نہ کروں کیونکہ اس نے اپنا کام کرنے میں محنت کی ہے۔ پس ان میں سے ایک آدمی نے مجھ سے کہا: کیا تو اس کو میرے برابر اجرت دے رہا ہے حالانکہ اس نے آدھا دن کام کیا ہے؟ میں نے کہا: اے اللہ کے بندے! میں نے تجھ سے جو اجرت مقرر کی تھی اس میں کمی تو نہیں کی ہے۔ اور یہ میرا حق ہے کہ اس کے بارے میں جو چاہوں میں فیصلہ کروں۔ پس وہ اس وقت غصے ہو گیا اور اپنی اجرت چھوڑ کر چلا گیا۔ پس میں نے اس کا حق گھر کے ایک کونے میں رکھ دیا جب تک اللہ نے چاہا پھر ایک دن میرے پاس سے گائیں گزریں۔ اس کے ساتھ میں نے ان میں سے ایک بچہ خرید لیا۔ پس اسے اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ وہ بڑا ہو گیا پھر میں نے اسے بیچ دیا۔ پھر میں نے اس کی رقم ایک گائے میں لگائی پس وہ حاملہ ہو گئی پھر اس نے بچہ جن دیا یہاں تک کہ وہ وہاں تک پہنچ گیا جہاں تک اللہ نے چاہا پھر ایک دن ایک بوڑھا آدمی میرے پاس سے گزرا، میں اسے نہ پہچان سکا سو اس نے آ کر مجھ سے کہا: تیرے پاس میرا حق تھا۔ پس اس نے

قَائِلٌ مِنْهُمْ: يَا قَوْمُ، تَذَكَّرُوا أَيُّكُمْ عَمِلَ حَسَنَةً لَعَلَّ اللَّهَ بِرَحْمَتِهِ يَرْحَمُنَا، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَرَّةً كَانَ لِي عَمَالٌ اسْتَأْجَرْتُهُمْ فِي عَمَلٍ لِي، كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ بِأَجْرٍ مَعْلُومٍ، فَجَانِبِي رَجُلٌ ذَاتَ يَوْمٍ وَسَطَ النَّهَارِ، فَاسْتَأْجَرْتُهُ مَا بَقِيَ مِنَ النَّهَارِ بِشَرْطِ أَصْحَابِهِ، فَعَمِلَ فِي بَقِيَّةِ نَهَارِهِ كَمَا عَمِلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ فِي نَهَارِهِ كُلِّهِ، فَرَأَيْتُ فِي الدِّمَامِ أَنْ لَا أَنْقِصُهُ شَيْئًا مِمَّا اسْتَأْجَرْتُ بِهِ أَصْحَابَهُ، لِمَا جِهَدْتُ فِي عَمَلِهِ، فَقَالَ لِي رَجُلٌ مِنْهُمْ: أَنْعِطِي هَذَا مِثْلَ مَا أَنْعِطِي نِسِي وَأَلَمْ يَعْملْ إِلَّا نِصْفَ نَهَارٍ؟ قُلْتُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لِمَ أَبْخَسَكَ شَيْئًا مِنْ شَرْطِكَ، وَإِنَّمَا هُوَ مَالِي أَحْكُمْ فِيهِ مَا شِئْتُ، فَغَضِبَ عِنْدَ ذَلِكَ، وَتَرَكَ إِجَارَتَهُ، وَوَضَعْتُ حَقَّهُ فِي جَانِبٍ مِنَ الْبَيْتِ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّتْ بِي بَعْدَ ذَلِكَ بَقْرٌ، فَاشْتَرَيْتُ بِهِ فَصِيلًا مِنَ الْبَقْرِ، فَأَمْسَكْتُهُ حَتَّى كَبُرَ، ثُمَّ بَعْتُهُ، ثُمَّ صَرَفْتُ ثَمَنَهُ فِي بَقْرَةٍ، فَحَمَلَتْ، ثُمَّ تَوَالَدَتْ لَهَا حَتَّى بَلَغَ مَا شَاءَ اللَّهُ، ثُمَّ مَرَّ بِي بَعْدَ حِينٍ شَيْخٌ ضَعِيفٌ لَا أَعْرِفُهُ، فَقَالَ لِي: إِنَّ لِي عِنْدَكَ حَقًّا، فَذَكَرَهُ حَتَّى عَرَفْتُهُ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، أَيَّاكَ أَبِغِي، فَعَرَضْتُهَا عَلَيْهِ جَمِيعًا، فَقُلْتُ: هَذَا حَقُّكَ، فَقَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ لَا تَسْتَهْزِءْ مِنِّي، إِنْ لَمْ تَتَّصِدَّقْ عَلَيَّ فَأَعْطِنِي حَقِّي، فَقُلْتُ: وَاللَّهِ مَا أَسْخَرُ مِنْكَ، إِنَّهَا لِحَقُّكَ، مَا لِي مِنْهَا شَيْءٌ، فَدَفَعْتُهَا إِلَيْهِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوْجْهِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَانْصَدِّعْ

تفصیل ذکر کی یہاں تک کہ میں نے اُسے پہچان لیا۔ میں نے کہا: ٹھیک ہے! میں تجھے دیتا ہوں، پس میں نے وہ سب اُس کے سامنے پیش کر دیا اور کہا: یہ سب تیرا حق ہے۔ اس نے کہا: اے اللہ کے بندے! تُو مجھ سے مذاق کرتا ہے، اگر تُو مجھ پر صدقہ نہیں کر رہا ہے تو مجھے بس میرا حق دے دے! (تیری بڑی مہربانی) میں نے کہا: قسم بخدا! میں تجھ سے مذاق نہیں کر رہا ہوں۔ یہ تیرا ہی حق ہے اس میں سے میری کوئی شئی نہیں۔ پس وہ سب کچھ میں نے اس کے حوالے کر دیا۔ اے اللہ! اگر یہ سب کام میں نے تیری رضا کے لئے کیا تھا تُو ہم پر کشادگی فرما۔ پھر تھوڑا سا سرک گیا یہاں تک کہ انہیں کچھ نظر آنے لگا۔ دوسرے نے کہا: میں نے بھی ایک ایسی نیکی کی تھی جس کا میرے نزدیک بڑا مقام ہے اور لوگوں پر وہ بات بڑی گراں گزری۔ پس ایک عورت میرے پاس آئی۔ مجھ سے نیکی کا سوال کیا۔ میں نے اُس سے کہا: نہیں! قسم بخدا! وہ تیری جان کے بدلے ہوگا۔ اس نے انکار کیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد وہ واپس آئی تو اُس نے مجھے اللہ کی یاد دلائی، پس میں نے اس سے انکار کر دیا۔ میں نے کہا: قسم ہے وہ تیرے نفس کے بدلے ہوگا۔ اس نے انکار کر دیا۔ پس اُس نے جا کر اپنے خاوند سے تذکرہ کیا۔ اس کے خاوند نے اُس سے کہا: اپنا نفس پیش کر دے اور اپنے بچوں کو مالدار بنا لے۔ وہ میرے پاس آئی اور اس نے مجھے اللہ کا نام دیا تو میں نے اس سے کہا: جان لگے گی۔ پس جب اس نے یہ دیکھا تو اپنا آپ میرے حوالے کر

الْجَبَلُ، حَتَّى رَأَوْا وَبَصَرُوا، وَقَالَ الْآخَرُ: فَعَلْتُ حَسَنَةً مَّرَّةً كَانَ عِنْدِي فَضْلٌ، وَأَصَابَتِ النَّاسَ شِلَّةً، فَجَاءَتْنِي امْرَأَةٌ تَطْلُبُ مِنِّي مَعْرُوفًا، فَقُلْتُ لَهَا: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ، فَأَبَتْ عَلَيَّ، ثُمَّ رَجَعْتُ فَذَكَرْتَنِي بِاللَّهِ، فَأَبَيْتُ عَلَيْهَا، فَقُلْتُ: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ، فَأَبَتْ عَلَيَّ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِزَوْجِهَا، فَقَالَ لَهَا: أَعْطِيهِ نَفْسَكَ وَأَغْنِي عِيَالِكَ، فَجَاءَتْنِي، فَتَشَدَّتْنِي اللَّهُ، فَقُلْتُ لَهَا: لَا وَاللَّهِ مَا هُوَ دُونَ نَفْسِكَ، فَلَمَّا رَأَتْ ذَلِكَ أَسْلَمَتْ إِلَيَّ نَفْسَهَا، فَلَمَّا كَشَفْتُهَا وَهَمَمْتُ بِهَا ارْتَعَدَتْ مِنْ تَحْتِي، فَقُلْتُ: مَا لِكَ؟ قَالَتْ: أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ، فَقُلْتُ لَهَا: خِفِ اللَّهَ فِي الشَّلَّةِ، وَلَمْ أَحْفَهُ فِي الرَّخَاءِ فَتَرَكَتْهَا، وَأَعْطَيْتُهَا مَا يَحِقُّ عَلَيَّ بِمَا كَشَفْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ لَوْجْهِكَ فَأَفْرُجْ عَنَّا، فَاِنْصَدَعَ الْجَبَلُ حَتَّى عَرَفُوا وَتَبَيَّنَ لَهُمْ، وَقَالَ الْآخَرُ: قَدْ عَمِلْتُ حَسَنَةً مَّرَّةً كَانَ لِي أَبُوَانُ شَيْخَانِ كَبِيرَانِ، وَكَانَتْ لِي غَنَمٌ، فَأَطْعِمَ أَبُوِي وَأَسْقِيهِمَا، ثُمَّ أَرْجِعْ إِلَيَّ غَنَمِي، فَلَمَّا كَانَ ذَاتَ يَوْمٍ أَصَابَنِي غَيْثٌ، فَحَبَسَنِي فَلَمْ أَرُحْ حَتَّى أَمْسَيْتُ، فَاتَيْتُ أَهْلِي، فَأَخَذْتُ مِحْلَبِي، فَحَلَبْتُ، وَتَرَكْتُ غَنَمِي قَائِمَةً، فَمَضَيْتُ إِلَى أَبِيِي لِأَسْقِيهِمَا، فَوَجَدْتُهُمَا قَدْ نَامَا، فَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَوْفِظَهُمَا، وَشَقَّ عَلَيَّ أَنْ أَتْرُكَ غَنَمِي، فَمَا بَرِحْتُ جَالِسًا وَمِحْلَبِي عَلَى يَدَيَّ حَتَّى أَيْقِظَهُمَا الصُّبْحُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتُ

تَعَلَّمَ اِنِّي فَعَلْتُ ذَلِكَ لِوَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا قَالَ
النُّعْمَانُ: لَكَ اِنِّي اَسْمَعُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: فَقَالَ الْجَبَلُ: طَاقٌ، فَفَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُمْ،
فَنَخَّرَجُوا

دیا۔ جب میں نے اُسے بے پردہ کیا اور مطلب برآری کا
ارادہ کیا میرے بچے سے وہ کاٹنے لگی۔ میں نے کہا: تجھے
کیا ہے؟ اس نے کہا: میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہی
ہوں۔ میں نے اس سے کہا: تو اس سختی اور تنگی کی حالت
میں بھی اللہ سے ڈرتی ہے اور میں خوشحالی میں بھی اپنے
رب سے نہیں ڈر رہا ہوں۔ پس میں نے اُسے چھوڑ دیا
اور اسے بے پردہ کرنے کے بدلے اُس کا جو حق تھا اسے
دے دیا۔ اے اللہ! اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے
کیا تو یہ چٹان ہم سے دُور فرما دے۔ چٹان کچھ اور سرک
گئی یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو پہچاننے لگے۔ اور ان
کے لیے بہت کچھ واضح ہو گیا۔ تیسرے نے کہا: مجھے بھی
اپنی ایک ایسی نیکی یاد ہے میرے والدین بہت بوڑھے
تھے۔ میرے پاس بکریوں کا ریوڑ تھا میں اپنے والدین کو
کھلاتا تھا اور دودھ پلاتا تھا۔ پھر میں اپنی بکریوں کی طرف
آتا تھا۔ پس ایک دن جب بادل آیا اُس نے مجھے روک
لیا، میں شام تک نہ جاسکا، پس میں اپنے گھر والوں کے
پاس آیا، ڈول اٹھایا، دودھ نکال کر بکریوں کو وہیں کھڑا
چھوڑا اور اپنے والدین کو دودھ پلانے کے لیے چل پڑا۔
پس میں نے انہیں سویا ہوا پایا۔ پس یہ بات مجھ پر بہت
گراں گزری کہ ان کو بیدار کروں اور یہ بات بھی اپنے
مقام پر مشکل تھی کہ میں اپنی بکریوں کو چھوڑ دوں۔ پس
میں انتظار میں بیٹھا رہا، دودھ کا برتن میرے ہاتھ پر تھا
یہاں تک کہ اُن کو صبح نے بیدار کیا۔ اے اللہ! اگر میرا یہ
عمل تیری رضا کے لیے تھا تو چٹان کو ہٹا دے۔ حضرت

نعمان فرماتے ہیں: گویا اس وقت میں رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سن رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا: جبل طاق۔ پس اللہ تعالیٰ نے اُن سے اس مصیبت کو دور کر دیا اور وہ غار سے نکل گئے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے اسی کی مثل حدیث روایت کی ہے۔

2308 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شُرَيْسٍ قَالَ: نَا رَبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ مُنْبِهِ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

حضرت عبداللہ بن عثمان بن خثعم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں ابو طفیل عامر بن واثلہ کے پاس داخل ہوا میں نے ان کو بڑا خوش حال پایا میں نے عرض کی: اے ابو طفیل! مجھے بتائیں اُن لوگوں کے متعلق جن پر رسول اللہ ﷺ نے لعنت فرمائی، ابو طفیل نے بتانے کا ارادہ کیا، اُن کی بیوی سودہ نے کہا: اے ابو طفیل! چھوڑیں، کیا آپ کو خبر نہیں پہنچی کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں انسان ہوں، مومنین میں سے کوئی بندہ میں نے جن کے خلاف بددعا کی ہے، وہ ان کے گناہوں کی پاکی اور رحمت بنا دے۔

2309 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ: قَالَ نَا مُحَمَّدُ قَالَ: نَا رَبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَالِدَةَ، فَوَجَدْتُهُ طَيَّبَ النَّفْسِ، فَقُلْتُ: يَا اَبَا الطُّفَيْلِ، اخْبِرْنِي مِنَ النَّفَرِ الَّذِينَ لَعَنَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَهَمَّ أَنْ يُخْبِرَنِي، فَقَالَتْ امْرَأَتُهُ سَوْدَةٌ: مَا يَا اَبَا الطُّفَيْلِ، اَمَا بَلَغَكَ اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ، فَاَيُّمَا عَبْدٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ دَعَوْتُ عَلَيْهِ بِدَعْوَةٍ فَاَجْعَلْهَا لَهٗ زَكَاةً وَرَحْمَةً

یہ حدیث سودہ امراء ابو طفیل سے صرف اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں عمر بن حبیب الہکی اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَوْدَةَ امْرَأَةِ أَبِي الطُّفَيْلِ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ حَبِيبٍ الْمَكِّيُّ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

2310 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ

2308- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحہ 454. انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 270.

2310- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 325.

ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا عرض کی: میں جہاد کرنا چاہتا ہوں! آپ نے فرمایا: کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: تو ان دونوں کی خدمت کر یعنی تیرے لیے جہاد ہے۔

یہ حدیث حبیب سے روایت ہے انہوں نے ابن عمر سے روایت کی ہے اور حبیب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں رباح اکیلے ہیں اور اس کو مسعر، سفیان ثوری وغیرہ نے روایت کیا ہے۔ حبیب بن ثابت سے انہوں نے ابوالعباس شاعر سے انہوں نے عبداللہ ابن عمرو سے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگوں نے کلام نبوت میں سے سب سے پہلے جو چیز پائی وہ یہ تھی کہ جب حیاء نہ ہو تو جو چاہو کرو۔

یہ حدیث معمر منصور سے اور منصور سے صرف رباح ہی سے روایت کرتے ہیں عبدالرزاق، معمر سے وہ اعمش سے وہ ابوالضحیٰ سے وہ مسروق سے وہ ابو مسعود سے وہ حضور ﷺ سے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے مجھے منع کیا حالت جنابت میں قرآن پڑھنے

قَالَ: نَارَبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُجَاهِدَ، فَقَالَ: أَحَىٰ أَبَوَاكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَفِيهِمَا فَجَاهِدْ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ رَبَّاحٌ وَرَوَاهُ مِسْعَرٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُمْ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّاعِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2311- وَبِهِ عَنِ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ الْأُولَى: إِذَا لَمْ تَسْتَحْ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا رَبَّاحٌ وَرَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2312- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَارَبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ، عَنِ النُّعْمَانِ

2311- أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 539-540 رقم الحدیث: 6120، وأبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 253

رقم الحدیث: 4797، وابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1400 رقم الحدیث: 4183، وأحمد: المسند جلد 4

صفحہ 149 رقم الحدیث: 17094 .

سے اور صرف مجھے ہی منع کیا، میں نہیں کہتا کہ آپ نے تم کو منع کیا، زرد رنگ کے کپڑوں سے اور سونے کی انگوٹھی پہننے سے اور مقام قسی کا بنا ہوا لباس پہننے سے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی ہرگز یہ نہ کہے کہ میرا نفس خبیث ہے، اگر کہنا ہے تو یہ کہے: میرا دل سخت ہو گیا ہے۔

یہ دونوں حدیثیں نعمان سے صرف ابوالجراح ہی روایت کرتے ہیں، ان دونوں سے روایت کرنے میں رباح اکیلے ہیں۔

حضرت ام سلمہ زوجہ نبی ﷺ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے سنا اپنے دروازے کے پاس دو آدمیوں کو جھگڑتے ہوئے، آپ ان کے پاس نکلے، آپ نے فرمایا: میں ظاہر میں انسان ہوں میرے پاس جھگڑے آتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی زبان میں بڑا تیز ہو دوسرے سے، میں اس کے مطابق فیصلہ کر دوں، میں خیال کروں کہ وہ سچ ہے، جس کے لیے ایسا فیصلہ کر دیا گیا تو اس کے لیے جہنم کا ٹکڑا کاٹ دیا ہے وہ چاہے تو لے لے یا اس کو چھوڑ دے۔

بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَائَةِ وَأَنَا جُنُبٌ، وَنَهَانِي، وَلَا أَقُولُ نَهَاكُمْ، عَنْ لِبَاسِ الْمُعْصَفِرِ، وَعَنْ مَيْثِرَةَ الْأَرْجَوَانِ، وَعَنْ التَّخْتِمْ بِالذَّهَبِ، وَعَنْ لِبَاسِ الْقَيْسِيِّ

2313 - وَبِهِ: عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: خَبِثَتْ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسَتْ نَفْسِي لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا أَبُو الْجَرَّاحِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا رَبَاحٌ

2314 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ، قَالَ نَا رَبَاحُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بِنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ أَبِي سَلَمَةَ أَخْبَرَتْهُ، عَنْ أُمِّهَا أُمِّ سَلَمَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: سَمِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَصَمًا عِنْدَ أَبِيهِ، فَخَرَجَ إِلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، وَيَأْتِينِي الْخَصَمُ، فَلَعَلَّ بَعْضَهُمْ أَنْ يَكُونَ الْحَنُّ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ، فَأَقْضِي لَهُ وَأَحْسَبُ أَنَّهُ

2313 - أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 579 رقم الحدیث: 6179، ومسلم الألفاظ جلد 4 صفحہ 1765، وأبو

داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 297 رقم الحدیث: 4979، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 58 رقم الحدیث:

24298

2314 - أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 128 رقم الحدیث: 2458، ومسلم: الأفضیة جلد 3 صفحہ 1337، وأبو

داؤد: الأفضیة جلد 3 صفحہ 300 رقم الحدیث: 3583 .

صَادِقٌ، فَمَنْ قَصَيْتُ لَهُ حَقَّ مُسْلِمٍ فَإِنَّمَا هِيَ قِطْعَةٌ
مِنَ النَّارِ، فَلْيَأْخُذْهَا أَوْ لِيَدَعْهَا

2315- وَبِهِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي
الْعَالِيَةِ الرَّيَّاحِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ أَنْ يَقُولَ: أَنَا
خَيْرٌ مِنْ يُونُسَ بْنِ مَتَّى فَنَسَبَهُ إِلَى أَبِيهِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور ﷺ سے
روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں ہرگز کوئی نہ
کہے: میں حضرت یونس بن متی علیہ السلام سے بہتر
ہوں۔ پس آپ نے ان کی نسبت ان کے باپ کی طرف
کی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے حضرت ماریہ قبطیہ کے ساتھ حفصہ کے
گھر میں غلوت کی جو کہ رخصت پر تھیں لیکن اسی دوران
تشریف لائیں اور انہیں باہر انتظار کی زحمت اٹھانا پڑی
پس جب انہوں نے حضرت ماریہ کو (اپنے گھر میں)
آپ کے ساتھ دیکھا تو عرض کرنے لگیں: اے اللہ کے
رسول! اپنی بیویوں میں سے میرے گھر میں (اور میرے
بستر پر یہ کام)؟ (یہ سن کر آپ کبیدہ خاطر ہوئے اور)
فرمایا: اے حفصہ! (اب اس کے بعد) اُسے چھونا مجھ پر
حرام ہے اب اسے چھپائے رکھنا۔ پس وہ وہاں سے نکل
کر حضرت عائشہ کے گھر آئیں اور ان سے کہا: اے بنت
ابوبکر! کیا میں تجھے ایک خوشخبری نہ دوں۔ انہوں نے کہا
کون سی؟ انہوں نے کہا: میں نے ماریہ کو اپنے گھر میں
رسول کریم ﷺ کے ساتھ دیکھا۔ تو میں نے عرض کی
اے اللہ کے رسول! اپنی بیویوں کے گھروں میں سے

2316- حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ
اِبْرَاهِيمَ اَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ، اِمَامٌ مَسْجِدِ صَنْعَاءَ
قَالَ: اَنَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، مَوْلَى
الْاَنْصَارِ، عَنْ عَمِّهِ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ
اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِمَارِيَةَ الْقُبْطِيَّةِ سَرَّتِيهِ بَيْتَ حَفْصَةَ بِنْتِ
عُمَرَ، فَوَجَدَتْهَا مَعَهُ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِي
بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بَيُوتِ نِسَائِكَ؟ قَالَ: فَإِنَّهَا عَلَيَّ حَرَامٌ
أَنْ أَمْسَهَا يَا حَفْصَةُ، وَانْتَمِي هَذَا عَلَيَّ فَخَرَجَتْ
حَتَّى آتَتْ عَائِشَةَ، فَقَالَتْ: يَا بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، أَلَا
أُبَشِّرُكَ؟ فَقَالَتْ: بِمَاذَا؟ قَالَتْ: وَجَدْتُ مَارِيَةَ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِي، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ فِي بَيْتِي مِنْ بَيْنِ بَيُوتِ نِسَائِكَ؟ وَبِئْسَ
تَفَعَّلُ هَذَا مِنْ بَيْنِ نِسَائِكَ؟ فَكَانَ أَوَّلَ الشُّرُورِ أَنْ

2315- أخرجه البخاری: أحاديث الأنبياء جلد 6 صفحہ 494 رقم الحديث: 3395، وتسلم: الفضائل جلد 4

صفحہ 1846، وأبو داؤد: السنة جلد 4 صفحہ 217 رقم الحديث: 4669.

2316- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 130.

میرے گھر میں (یہ)؟ حالانکہ آپ اپنی بیویوں میں سے میرے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہیں؟ پس پہلی خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے۔ پھر مجھ سے فرمایا: اے حفصہ! میں تجھے ایک خوشخبری نہ دوں! تو میں نے عرض کی: کیوں نہیں! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! یا رسول اللہ! آپ نے مجھے بتایا کہ تیرا باپ ان کے خلیفہ ہوں گے اور میرے باپ تیرے باپ کے بعد خلیفہ ہوں گے۔ آپ نے مجھ سے اسے پوشیدہ رکھنے کو کہا: تو بھی اسے پوشیدہ رکھ۔ پس اللہ تعالیٰ نے اسی بارے میں یہ آیات نازل فرمائیں: اے نبی! کس حکمت کے تحت آپ وہ کام کرنے سے رُک گئے جس کو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کیا ہے۔ یعنی ماریہ سے (ہمسٹری کرنے سے) اپنی بیویوں کی مرضی سے یعنی حفصہ کی۔ اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی اس چیز کو جس کا آپ سے صدور ہوا ہے۔ تحقیق قسموں کا کفارہ دے کر کھولنا اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا ہے اور اللہ تمہارا مددگار ہے اور وہ علیم و حکیم ہے۔ اور جب نبی کریم ﷺ نے کسی زوجہ محترمہ (حفصہ) سے راز کی بات کی تو انہوں نے وہ بات آگے (عائشہ کو) بتا دی۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کو نبی پر ظاہر فرما دیا۔ یعنی قرآن اتار کر۔ تو نبی نے اسے کچھ بتایا، یعنی آپ نے حضرت حفصہ کو جتا دیا جو انہوں نے حضرت ماریہ کا معاملہ ظاہر کیا اور بعض سے اعراض کر لیا۔ یعنی وہ کچھ جو انہوں نے ابوبکر و عمر کی خلافت کے حوالے سے

حَرَمَهَا عَلَى نَفْسِهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: يَا حَفْصَةَ، أَلَا أَبَشِّرُكَ؟ فَقُلْتُ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَعَلِمَنِي أَنَّ أَبَاكَ يَلِي الْأَمْرَ مِنْ بَعْدِهِ، وَأَنَّ أَبِي يَلِيهِ بَعْدَ أَبِيكَ، وَقَدْ اسْتَكْتَمَنِي ذَلِكَ فَاسْتَمِيهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي ذَلِكَ: (يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ) (التحریم: 1) (أَي: مِنْ مَارِيَةَ: (تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ) أَي: حَفْصَةَ، (وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ) (البقرة: 218) (أَي: لِمَا كَانَ مِنْكَ، (قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ) (التحریم: 2) ، (وَإِذَا أَسْرَ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا) (التحریم: 3) (يَعْنِي حَفْصَةَ، (فَلَمَّا بَيَّنَّاتُ بِهِ) (التحریم: 3) (يَعْنِي عَائِشَةَ، (وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ) (التحریم: 3) (أَي بِالْقُرْآنِ (عَرَفَ بَعْضَهُ) (التحریم: 3) (عَرَفَ حَفْصَةَ مَا أَظْهَرَتْ مِنْ أَمْرِ مَارِيَةَ، (وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضِ) (التحریم: 3) (عَمَّا أَخْبَرَتْ بِهِ مِنْ أَمْرِ أَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَتْرَبْهُ عَلَيْهَا، (فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَاكَ هَذَا قَالَ نَبَانِي الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ) (التحریم: 3) ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهَا يُعَاتِبُهَا، فَقَالَ: (إِنْ تَسُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِنْ تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ) (التحریم: 4) (يَعْنِي أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ، (وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَقْتُكَ أَنْ يُبَدِّلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكَ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ

حضرت عائشہ کو خبر دی۔ پس جب حضور ﷺ نے حضرت حفصہ کو یہ بات کہی تو انہوں نے کہا: آپ کو یہ بات کس نے بتائی؟ تو آپ نے فرمایا: مجھے میرے عظیم و خبیر رب نے خبر دی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عتاب فرمایا ہے۔ (اگلی آیات میں) اے نبی کی دونوں بیویو! اگر تم اللہ کی طرف رجوع کرو تو ضرور تمہارے دل راہ سے ہٹ گئے ہیں اور اگر ان پر زور باندھو تو اللہ ان کا مددگار ہے اور جبریل بھی اور نیک ایمان والے بھی۔ یعنی ابو بکر و عمر اور اس کے بعد فرشتے مدد پر ہیں۔ ان کا رب قریب ہے اگر وہ تمہیں طلاق دے دیں کہ انہیں تم سے بہتر بیویاں بدل دے۔ اطاعت والیاں، ایمان والیاں، ادب والیاں، توبہ والیاں، بندگی والیاں، روزے رکھنے والیاں، بعض شیبہ اور بعض کنواریاں۔ پس اللہ تعالیٰ نے آپ سے شیبہ میں سے فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم کا وعدہ فرمایا اور نوح علیہ السلام کی بہن کا۔ اور کنواریوں میں سے مریم بنت عمران اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن کا وعدہ دیا۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کے ساتھ حضرت ہشام بن ابراہیم منفرد ہیں۔

حضرت عون بن عبد اللہ بن عتبہ بن مسعود اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے لیے تعجب ہے جو اس کو بخاری کی وجہ سے تکلیف ہوتی ہے، اگر اس کو معلوم ہو جائے کہ بخار ہونے کی صورت میں کتنا ثواب ملتا ہے تو وہ پسند

سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا) (التحریم: 5) ، فَوَعَدَهُ مِنَ الثَّيِّبَاتِ آسِيَةَ بِنْتِ مُزَاحِمٍ امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ ، وَأُخْتِ نُوحٍ ، وَمِنَ الْأَبْكَارِ مَرِيَمَ بِنْتِ عِمْرَانَ ، وَأُخْتِ مُوسَى عَلَيْهِمُ السَّلَامُ لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ

2317 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شُرُوسٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

کرے گا کہ سارا زمانہ اس کو بخار رہے پھر حضور ﷺ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا، آپ مسکرائے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! آپ نے اپنا سر مبارک آسمان کی طرف اٹھایا پھر آپ اس کے بعد مسکرائے اس کی وجہ؟ اس کے بعد حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے دو فرشتوں کو دیکھ کر تعجب کیا، وہ دونوں ایک بندہ کو تلاش کرتے ہیں اس جگہ جہاں وہ نماز پڑھتا تھا، وہ دونوں اس کو اس جگہ نہیں پاتے ہیں اس کے بعد دونوں واپس جاتے ہیں۔ دونوں عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیرا فلاں بندہ تھا اس کا ثواب جو وہ کرتا تھا دن اور رات کو ہم اس کو لکھتے تھے، ہم نے اسکو پایا ہے اس کو تکلیف ہے وہ عمل نہیں کرنے دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: میرے بندے کے لیے وہی عمل لکھو جو وہ دن اور رات میں کرتا تھا اس سے ذرہ برابر بھی کمی نہ کرنا، اور مجھ پر اس عمل کا ثواب دینا ضروری ہے جس کے کرنے سے میں نے اُسے روک دیا، اس کے لیے اس سارے عمل کا ثواب ہے جو وہ کیا کرتا تھا۔

یہ حدیث عتبہ بن مسعود سے اسی سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں محمد بن ابی حمید اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے (مجھے) فرمایا: اے لڑکے! کیا میں تجھے محبوب نہ بنا لوں؟ کیا تیرے نفع والی بات کروں؟ کیا میں تجھے عطا نہ کروں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! یا رسول

عَجِبَ لِلْمُؤْمِنِ وَجَزَعِهِ مِنَ السَّقَمِ، وَكَوْ يَعْلَمَ مَا لَهُ فِي السَّقَمِ أَحَبَّ أَنْ يَكُونَ سَقِيمًا اللَّذَّهْرُ ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكَ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مِمَّ رَفَعْتَ رَأْسَكَ إِلَى السَّمَاءِ فَضَحِكْتَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجِبْتُ مِنْ مَلَكَئِن كَانَا يَلْتَمِسَانِ عَبْدًا فِي مُصَلًى كَانَ فِيهِ، وَلَمْ يَجِدَاهُ، فَرَجَعَا، فَقَالَا: يَا رَبَّنَا، عَبْدُكَ فَلَانٌ كُنَّا نَكْتُبُ لَهُ فِي يَوْمِهِ وَكَيْلَتِهِ عَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ، فَوَجَدْنَاهُ قَدْ حَبَسْتَهُ فِي حَبَالِكَ فَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: اكْتُبُوا لِعَبْدِي عَمَلَهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ فِي يَوْمِهِ وَكَيْلَتِهِ، وَلَا تَنْقُصُوا مِنْهُ شَيْئًا، وَعَلَى أَجْرٍ مَا حَبَسْتَهُ، وَلَهُ أَجْرُ مَا كَانَ يَعْمَلُ

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ
2318 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عَبْدِ الْقُدُوسِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ: يَا غُلَامُ أَلَا أَحْبُوكَ؟ أَلَا

اللہ! میں نے گمان کیا آپ میرے لیے مال کا ایک حصہ الگ کر کے دیں گے آپ نے فرمایا: چار رکعتیں نفل ادا کیا کرو! ہر دن اگر ہر دن نہ ہو تو ہر جمعہ اگر ہر جمعہ نہ ہو سکے تو ہر ماہ اگر ہر ماہ نہ ہو سکے ہر سال اگر سال میں نہ ہو سکے تو زندگی میں ایک مرتبہ پڑھ لو۔ (اس کے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے:) تو اللہ اکبر کہہ اس کے بعد الحمد للہ اور سورہ پڑھ پھر ۱۵ مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ والا اللہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھ پھر تُو رکوع کر رکوع میں دس مرتبہ اوپر والے کلمات پڑھ پھر رکوع سے جب اٹھے تو دس مرتبہ وہی کلمات پڑھ پھر تُو سجدہ کرے تو وہی کلمات دس مرتبہ پڑھ پھر سجدہ سے سر اٹھائے تو دس مرتبہ وہی کلمات پڑھ پھر دوسری رکعت بھی پہلی رکعت کی طرح ادا کر جب تُو اس سے فارغ ہو تو تشهد کے بعد اور سلام سے پہلے پڑھ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی، وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ، وَمُنَاصِحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ، وَجِدَّ اَهْلِ الْحِسْبَةِ، وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبَّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ، وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَخَافُكَ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ مَخَافَةَ تَحْجِزْنِیْ عَنْ مَعَاصِیْكَ، حَتّٰی اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ، وَحَتّٰی اُنَاصِحَكَ فِی التَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ، وَحَتّٰی اُخْلِصَ لَكَ النَّصِیْحَةَ حُبًّا لِّكَ، وَحَتّٰی اَتَوَكَّلَ عَلَیْكَ فِی الْاُمُوْرِ حُسْنًا، فَیَا اَبْنَ عَبَّاسٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذُنُوْبَكَ صَغِیْرَهَا وَكَبِیْرَهَا، وَقَدِیْمَهَا وَحَدِیْثَهَا، وَسِرَّهَا وَعَلَانِیَّتَهَا، وَعَمَدَهَا وَخَطَاَهَا

اَنْحَلِّكَ؟ اَلَا اُعْطِیْكَ؟ قَالَ: قُلْتُ: بَلٰی، بِاَبِیْ وَاُمِّیْ اَنْتَ یَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ: فَظَنَنْتُ اَنَّهُ سَیَقْطَعُ لِیْ قِطْعَةً مِنْ مَالٍ، فَقَالَ: اَرْبَعُ رَكَعَاتٍ تُصَلِّیْهِنَّ، فِی كُلِّ یَوْمٍ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِیْ كُلِّ جُمُعَةٍ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِیْ كُلِّ شَهْرٍ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِیْ كُلِّ سَنَةٍ، فَاِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فِیْ ذَهْرِكَ مَرَّةً: تَكْبِیْرٌ، فَتَقْرَأُ اَمَّ الْقُرْآنِ وَسُوْرَةَ، ثُمَّ تَقُوْلُ: سُبْحَانَ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَلَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاللّٰهُ اَكْبَرُ خَمْسَ عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ تَرْكَعُ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَسْجُدُ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَرْفَعُ، فَتَقُوْلُهَا عَشْرًا، ثُمَّ تَفْعَلُ فِی صَلَاتِكَ كُلِّهَا مِثْلَ ذَلِكَ، فَاِذَا فَرَغْتَ قُلْتَ بَعْدَ التَّشْهِدِ وَقَبْلَ التَّسْلِیْمِ: اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُكَ تَوْفِیْقَ اَهْلِ الْهُدٰی، وَاَعْمَالَ اَهْلِ الْیَقِیْنِ، وَمُنَاصِحَةَ اَهْلِ التَّوْبَةِ، وَعَزْمَ اَهْلِ الصَّبْرِ، وَجِدَّ اَهْلِ الْحِسْبَةِ، وَطَلَبَ اَهْلِ الرَّغْبَةِ، وَتَعَبَّدَ اَهْلِ الْوَرَعِ، وَعِرْفَانَ اَهْلِ الْعِلْمِ حَتّٰی اَخَافُكَ، اَللّٰهُمَّ اَسْأَلُكَ مَخَافَةَ تَحْجِزْنِیْ عَنْ مَعَاصِیْكَ، حَتّٰی اَعْمَلَ بِطَاعَتِكَ عَمَلًا اَسْتَحِقُّ بِهٖ رِضَاكَ، وَحَتّٰی اُنَاصِحَكَ فِی التَّوْبَةِ خَوْفًا مِنْكَ، وَحَتّٰی اُخْلِصَ لَكَ النَّصِیْحَةَ حُبًّا لِّكَ، وَحَتّٰی اَتَوَكَّلَ عَلَیْكَ فِی الْاُمُوْرِ حُسْنًا، فَیَا اَبْنَ عَبَّاسٍ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ ذُنُوْبَكَ صَغِیْرَهَا وَكَبِیْرَهَا، وَقَدِیْمَهَا وَحَدِیْثَهَا، وَسِرَّهَا وَعَلَانِیَّتَهَا، وَعَمَدَهَا وَخَطَاَهَا

پرانے نئے پوشیدہ ظاہر جان بوجھ کر کیے گئے اور بھولے سے کیے گئے سب معاف کر دے گا۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف عبدالقدوس اور عبدالقدوس سے صرف ابن جعفر ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں ابوالولید مخزومی اکیلے ہیں۔

حضرت نافع سے روایت ہے کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی گئی: آپ بالوں والی نعلیں پہنتے ہیں، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے حضور ﷺ کو یہ پہنے ہوئے دیکھا ہے۔

یہ حدیث اسماعیل بن کثیر سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں، اس سے روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ہم کو نماز پڑھائی، آپ کے پاس دو آدی جلدی سے آئے، ایک آدی کا تعلق انصار سے تھا اور ایک کا تعلق قبیلہ ثقیف سے تھا، انصاری ثقفی سے سبقت لے گیا، حضور ﷺ نے ثقفی سے فرمایا کہ انصاری آپ سے پوچھنے کے حوالہ سے سبقت لے گیا ہے، انصاری نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہو سکتا ہے اس کو

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ إِلَّا عَبْدُ الْقُدُوسِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْقُدُوسِ إِلَّا مُوسَى بْنُ جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الْوَلِيدِ الْمُخَزُومِيُّ

2319 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَرُوسٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزُّنْجِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ قِيلَ لَهُ: إِنَّا نَرَاكَ تَلْبَسُ النِّعَالَ السِّيِّيَّةَ، فَقَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْبَسُهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ كَثِيرٍ إِلَّا مُسْلِمًا، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

2320 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شَرُوسٍ، قَالَ نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ الْبَصْرِيُّ، قَالَ نَا أَبُو سِنَانٍ عِمْسَى بْنُ سِنَانٍ قَالَ: نَا يَعْلى بْنُ شَدَادٍ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَخَطَّى إِلَيْهِ رَجُلَانِ: رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، وَرَجُلٌ مِنْ ثَقِيفٍ، فَسَبَقَ الْأَنْصَارِيُّ الثَّقَفِيَّ، فَقَالَ

2319 - أخرجه البخاری: الوضوء جلد 1 صفحہ 321-322 رقم الحدیث: 166، ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 844، وأبو

داؤد: المناسك جلد 2 صفحہ 155 رقم الحدیث: 1772، ومالك في الموطأ: الحج جلد 1 صفحہ 333 رقم

الحدیث: 31.

2320 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 279-280.

مجھ سے جلدی ہو وہ حالت احرام میں ہے۔ ثقفی نے نماز کے متعلق پوچھا، آپ نے اس کو بتایا، پھر حضور ﷺ نے فرمایا: انصاری سے۔ اگر تو چاہے تو میں آپ کو بتا دوں جو تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہے، اگر تو چاہے تو تو مجھ سے پوچھ میں تم کو بتاؤں گا؟ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ مجھے بتائیں! آپ نے فرمایا: تو مجھ سے پوچھنے کے لیے آیا ہے اس میں کتنا ثواب ہے جب تو حرم شریف جانے کا ارادہ کرے۔ عرفات میں ٹھہرنے کا کتنا ثواب ہے، شیطین کو کنکریاں مارنے کا کتنا ثواب ہے، سر کے بال کٹوانے میں کتنا ثواب ہے، طواف وداع کا ثواب کتنا ہے؟ انصاری نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، میں اس کے علاوہ آپ سے پوچھنے کے لیے نہیں آیا تھا۔ آپ نے فرمایا: تیرے لیے ثواب ہے تو جب بیت اللہ شریف جانے کا ارادہ کرے تو کوئی بھی قدم اٹھائے گا یا قدم رکھے گا یا سواری پر چلنے کی وجہ سے قدم سواری اٹھائے گی، تیرے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے ایک نیکی ہوگی اور ایک گناہ معاف کیا جائے گا، بہر حال تیرا میدان عرفات میں ٹھہرنے کا ثواب یہ ہے کہ اللہ عزوجل نے فرشتوں سے فرمایا: اے فرشتو! میرا بندہ کیا مانگ رہا تھا؟ وہ فرشتے عرض کرتے ہیں: (ہم) اس حالت میں ایسے آئے ہیں، وہ تیری رضا اور جنت مانگ رہے تھے اللہ عزوجل فرماتا ہے: میں اپنی اور اپنی مخلوق کو گواہ بناتا ہوں، میں نے ان سب کو زمانہ کے دنوں کے برابر اور

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلثَّقْفِيِّ، إِنَّ الْأَنْصَارِيَّ قَدْ سَبَقَكَ بِالْمَسْأَلَةِ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: لَعَلَّهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنْ يَكُونَ أَعْجَلَ مِنِّي، فَهُوَ فِي حِلِّ قَالَ: فَسَأَلَهُ الثَّقْفِيُّ عَنِ الصَّلَاةِ فَأَخْبَرَهُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْأَنْصَارِيِّ: إِنَّ شِئْتَ خَبَرْتُكَ بِمَا جِئْتَ تَسْأَلُ عَنْهُ، وَإِنْ شِئْتَ سَأَلْتَنِي فَأَخْبِرُ بِذَلِكَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تُخْبِرُنِي، فَقَالَ: جِئْتَ تَسْأَلُنِي مَا لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي وُفُوكَ فِي عَرَفَةَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي رَمِيكَ الْجِمَارِ، وَمَا لَكَ مِنَ الْأَجْرِ فِي حَلْقِ رَأْسِكَ، وَمَا لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا وَدَعْتَ الْبَيْتَ فَقَالَ الْأَنْصَارِيُّ: وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، مَا جِئْتُ أَسْأَلُكَ عَنْ غَيْرِهِ قَالَ: فَإِنَّ لَكَ مِنَ الْأَجْرِ إِذَا أَمَمْتَ الْبَيْتَ الْعَتِيقَ لَا تَرْفَعُ قَدَمًا أَوْ تَضَعُهَا أَنْتَ وَذَاتُكَ إِلَّا كُنَيْتَ لَكَ حَسَنَةً، وَرَفَعْتَ لَكَ دَرَجَةً، وَأَمَّا وُفُوكَ بِعَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ لِمَلَائِكَتِهِ: يَا مَلَائِكَتِي مَا جَاءَ بِعِبَادِي؟ قَالُوا: جَاءُوا يَلْتَمِسُونَ رِضْوَانَكَ وَالْجَنَّةَ، فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: فَإِنِّي أَشْهَدُ نَفْسِي وَخَلْقِي أَنِّي قَدْ عَفَرْتُ لَهُمْ عَدَدَ أَيَّامِ الدَّهْرِ، وَعَدَدَ الْقَطْرِ، وَعَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، وَأَمَّا رَمِيكَ الْجِمَارِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: (فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (السجدة: 17)، وَأَمَّا حَلْقُكَ رَأْسَكَ فَإِنَّهُ لَيْسَ مِنْ شَعْرِكَ شَعْرَةٌ تَقَعُ فِي الْأَرْضِ

بارش کے قطروں کے برابر کنکریاں مارنے کی تعداد کے برابر ان کے گناہ معاف کر دیئے ہیں، بہر حال کنکریاں مارنا بے شک اللہ عزوجل فرماتا ہے: "فَلَا تَعْلَمَنَّ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ" بہر حال سر کا منڈانا تو تیرا کوئی بھی بال زمین پر گرے گا، وہ بال تیرے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، بہر حال طواف وداع تو اس کا ثواب یہ ہے کہ تو اسے الوداع کرے گا تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح آج ہی تیری ماں نے تجھے پیدا کیا ہے۔

یہ حدیث عبادہ سے اسی سند سے مروی ہے، ان سے روایت کرنے میں یحییٰ بن ابی جحجج اکیلے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے عرض کی: جب آپ مکہ جاتے ہیں تو آپ سواری پر نماز پڑھتے ہیں، آپ ایسے کیوں کرتے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اگر میں نے حضور ﷺ کو ایسے کرتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں بھی ایسے نہ کرتا۔

یہ حدیث حُصَيْف سے صرف عتاب بن بشیر ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں ابن جعشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب حضور ﷺ مکہ شریف داخل ہوئے تو مکہ والوں نے کہا: اصحابِ محمد ﷺ بھوکے اور کمزور ہیں، حضور ﷺ نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ کندھے ہلا ہلا کر چلیں تاکہ وہ

إِلَّا كَانَتْ لَكَ نُورًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَأَمَّا الْبَيْتُ إِذَا وَدَعْتَ، فَإِنَّكَ تَخْرُجُ مِنْ ذُنُوبِكَ كَيَوْمِ وَلَدَتْكَ أُمُّكَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ

2321 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبُو سَالِمٍ بْنُ جُعْشَمٍ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ: نَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنْ حُصَيْفٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: إِذَا تَوَجَّهْتَ إِلَى مَكَّةَ تُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِكَ، فَلِمَ تَصْنَعُ ذَلِكَ؟ فَقَالَ: لَوْ لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْنَعُهُ مَا صَنَعْتُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُصَيْفٍ إِلَّا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُعْشَمٍ

2322 - وَبِهِ: عَنْ حُصَيْفٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، وَعَعْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ أَهْلُ مَكَّةَ: إِنَّ بَأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ جُوعًا وَهَزَلًا، فَأَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى

ان کی قوت دیکھیں! تو صحابہ کرام تین چکر کندھے ہلا کر چلتے تو چار چکر حسب عادت چلتے۔

یہ حدیث خفیف سے صرف عتاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے طواف کیا بیت اللہ کا سب ارکان کو استلام کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ان کو فرمایا: آپ نے ان دو رکعتوں کو استلام کیوں کیا حالانکہ حضور ﷺ ایسے نہیں کرتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ نے فرمایا: بیت اللہ شریف کی کوئی شئی ممنوع نہیں ہے۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا: بے شک آپ کے لیے رسول اللہ ﷺ کی زندگی بطور نمونہ ہے، حضرت معاویہ نے فرمایا: آپ نے سچ کہا۔

یہ حدیث خفیف سے صرف عتاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے عبد اللہ بن زبیر سے کہا: حضور ﷺ نے فرمایا ہے کہ اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو میں بیت اللہ شریف شہید کرتا اور جو بیت اللہ میں کمی ہوئی ہے اس میں اضافہ کرتا اس کے دو دروازے بناتا ایک سے لوگ نکلتے اور ایک سے داخل ہوتے تاکہ رش نہ ہو۔

یہ حدیث خفیف سے صرف عتاب ہی روایت کرتے ہیں۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَهْرُوا لَوْ لَيُرُوهُمْ أَنْ بِهِمْ قُوَّةٌ
وَكَانُوا يَهْرُوا لَوْ لَثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ، وَيَمْشُونَ أَرْبَعًا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَابٌ

2323 - وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ

ابن عباس، أن معاوية، طاف بالبيت، فجعل يستلم الأركان كلها، فقال له ابن عباس: لم تستلم هذين الركنين ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما؟ فقال معاوية: ليس من البيت شيء مهجور، فقال ابن عباس: (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) (الاحزاب: 21)، فقال معاوية: صدقت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَابٌ

2324 - وَبِهِ عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا

قَالَتْ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ: إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا: لَوْلَا حِدْتَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَنَقَضْتُ الْبَيْتَ، فَرُدْتُ فِيهِ مَا نَقَصَ مِنْهُ، وَلَوْ ضَعْتُهُ بِالْأَرْضِ، وَجَعَلْتُ لَهُ بَابَيْنِ: بَابٌ يَدْخُلُ مِنْهُ، وَبَابٌ يُخْرَجُ مِنْهُ حَتَّى لَا يَكُونَ رِحَامٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ إِلَّا عَتَابٌ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے برابر وزن کر کے فروخت کرو۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اس حال میں سنا کہ آپ منبر پر تشریف فرماتے اور سونا کو سونے کے بدلے اور چاندی کو چاندی کے بدلے بیچنے سے منع فرما رہے تھے مگر یہ کہ وہ برابر برابر ہوں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے عرفہ کے دن عرفات میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔

یہ حدیث صفوان سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو وہ دو رکعت نفل ادا کرنے سے پہلے نہ بیٹھے۔

2325 - وَبِهِ عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَزَنَّا بِوَزْنٍ

2326 - وَعَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ يَنْهَى عَنِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ إِلَّا وَزَنَّا بِوَزْنٍ

2327 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ بْنِ شُرُوسٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ

2328 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَعْمَرٍ الصَّنَعَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو حُمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الزُّبَيْدِيُّ قَالَ: نَا أَبُو قُرَيْبَةَ مُوسَى بْنُ طَارِقٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ

2325- أخرجه البخارى: البيوع جلد4 صفحہ 444 رقم الحديث: 2176، ومسلم: المساقاة جلد3 صفحہ 1208 .

2326- أخرجه مسلم: المساقاة جلد3 صفحہ 1209، وأحمد: المسند جلد3 صفحہ 114 رقم الحديث: 11887 .

2327- انظر: مجمع الزوائد جلد3 صفحہ 192 .

2321- أخرجه ابن ماجة جلد1 صفحہ 323 رقم الحديث: 1012 .

أَحَدَكُمْ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسُ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو قُرَّةَ

یہ حدیث سفیان سے صرف ابو قرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

2329 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا صَامِتُ بْنُ مُعَاذِ الْجَنْدِيِّ قَالَ: نَا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَأَلَ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کا پڑوسی اس کی دیوار میں لکڑی رکھنے کے متعلق پوچھے تو اس کو رکھنے سے منع نہ کرے۔

2330 - وَبِهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مَهْرِ الْبَيْعِيِّ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا زانیہ کی کمائی اور نر کو مادہ پر کودنے کے پیسے لینے سے۔

2331 - وَبِهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا دھوکہ کی بیع سے۔

2332 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ،

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: زانی زنا کرتے وقت چور چوری

2329- أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 131 رقم الحدیث: 2463، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1230، وأبو داؤد: الأفضیة جلد 3 صفحہ 314 رقم الحدیث: 3634، والترمذی: الأحکام جلد 3 صفحہ 626 رقم الحدیث: 1353 .

2330- أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحہ 657 رقم الحدیث: 10500، والبیہقی فی الکبریٰ جلد 6 صفحہ 10 رقم الحدیث: 11011 .

2331- أخرجه مسلم: البيوع جلد 3 صفحہ 1153، وأبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحہ 252 رقم الحدیث: 3376، والترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 523 رقم الحدیث: 1230، والنسائی: البيوع جلد 7 صفحہ 230 (باب بیع البحصاة) وابن ماجة: التجارات جلد 2 صفحہ 739 رقم الحدیث: 2194، والدارمی: البيوع جلد 2 صفحہ 327 رقم الحدیث: 4552، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 497 رقم الحدیث: 8906 .

2332- أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 143 رقم الحدیث: 2475، ومسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 76 .

کرتے وقت شرابی شراب پیتے وقت مؤمن نہیں ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزے رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو، اگر آسمان غبار آلود ہو تو تیس روزے مکمل کرو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نماز پڑھانے کی حالت میں پیچھے بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہوں تو اس ڈر سے کہ اس کی ماں فتنے میں مبتلا نہ ہو جائے تو میں نماز کو مختصر کرتا ہوں۔

یہ حدیث یعقوب سے صرف زمعد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں ابو ہریرہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جنت میں شراب کا عادی عمل کر کے احسان جتانے والا اپنے والدین کا نافرمان داخل نہیں ہوں گے۔

یہ حدیث منصور سے صرف عباد اور عباد سے صرف زمعد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں

وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَشْرَبُ الْحَمْرَ حِينَ يَشْرَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ

2333 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الشَّهْرَ ثَلَاثِينَ

2334 - وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَسْمَعُ بَكَاءِ الصَّبِيِّ خَلْفِي وَأَنَا فِي الصَّلَاةِ، فَأَخْفِفْ صَلَاتِي مَخَافَةَ أَنْ تَفْتِنَ أُمَّهُ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ يَعْقُوبَ إِلَّا زَمْعَةَ، تَفَرَّدَ بِهَا أَبُو قُرَّةَ

2335 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبُو حَمَةَ قَالَ: نَا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ زَمْعَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَبَادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ مِقْسَمٍ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُدْمِنٌ خَمْرٍ، وَلَا مَنَانٌ عَلَى اللَّهِ بِعَمَلِهِ، وَلَا عَاقٍ لَوَالِدَيْهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا عَبَادٌ، وَلَا عَنْ عَبَادٍ إِلَّا زَمْعَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُرَّةَ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ،

2333 - أخرجه البخاری: الصوم جلد4 صفحہ143 رقم الحدیث: 1909، ومسلم: الصیام جلد2 صفحہ762 .

2334 - انظر: مجمع الزوائد جلد2 صفحہ77 .

2335 - انظر: مجمع الزوائد جلد5 صفحہ78 .

ابوہرہ اکیلے ہیں سفیان منصور سے وہ سالم سے وہ جابان سے وہ عبداللہ بن عمرو سے وہ شعبہ منصور سے وہ سالم سے وہ نبیط بن شریط سے وہ جابان سے وہ عبداللہ بن عمرو سے۔

عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ نَبِيْطِ بْنِ شَرِيْطٍ، عَنْ جَابَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: دو آدمیوں کا کھانا چار کے لیے اور چار کا آٹھ کے لیے کافی ہوتا ہے۔

2336 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نا أَبُو حُمَةَ قَالَ: نا أَبُو قُرَّةَ قَالَ: ذَكَرَ ابْنُ جُرَيْجٍ: أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: طَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي الْاِرْبَعَةَ، وَطَعَامُ الْاِرْبَعَةَ يَكْفِي الثَّمَانِيَةَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ

یہ حدیث ابی بکر سے صرف ابن جریج ہی روایت کرتے ہیں۔

2337 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عِرْقٍ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ عَثْمَانَ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نا بَيْتَةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ عَمَّارِ الدُّهْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَمَانِيًا جَمِيعًا، وَسَبْعًا جَمِيعًا مُقِيمًا فِي غَيْرِ سَفَرٍ فَقُلْتُ: اَيْنَ كَانَ؟ قَالَ: بِالْمَدِينَةِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے سات آٹھ رکعت (نفل) اکٹھے پڑھے حالت اقامت میں سفر کے علاوہ۔ سعید بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: آپ کہاں تھے اس وقت؟ فرمایا: مدینہ پاک میں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا قَيْسُ

یہ حدیث عمار سے صرف قیس ہی روایت کرتے ہیں۔

2338 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ مُصَفَّى قَالَ: نا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ: نا سُفْيَانُ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام میں سے محفوظین اس بات

2336- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 24 .

2337- أخرجه البخاری: المواقيت جلد 2 صفحہ 29 رقم الحديث: 543، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 491 .

2338- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 673 رقم الحديث: 3807 .

سے اچھی طرح آگاہ تھے کہ ام عبد کے بیٹے ان سب میں سے وسیلہ کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہیں۔

الشَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ الْمُحْفُوظُونَ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ ابْنَ أُمِّ عَبْدِ مَنْ أَقْرَبَهُمْ إِلَى اللَّهِ وَسَيَلَةً لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُؤَمَّلًا

یہ حدیث سفیان سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان کی پیٹھ بغیر حق کے کھینچی وہ اللہ سے ملے گا اس حالت میں کہ اللہ عزوجل اس سے ناراض ہوگا۔

2339 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَدَقَةَ الْجُبَلَانِيُّ قَالَ: نَا الْيَمَانُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَدَ ظَهْرَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لَقِيَ اللَّهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ إِلَّا الْيَمَانُ

یہ حدیث محمد بن زیاد سے صرف یمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ثوبان حضور ﷺ کے غلام سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری ہے اس کے لیے جس کی زبان اس کے قابو میں ہو اور اس کا گھر وسیع ہو (کہ اس میں نماز کی جگہ ہو) اور اپنی غلطیوں پر رونے کی توفیق بھی ہو۔

2340 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ سَلِيمَانَ الشَّيْزُرِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ ثُوبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طُوبَى لِمَنْ مَلَكَ لِسَانَهُ، وَوَسِعَهُ بَيْتُهُ، وَبَكَى عَلَى خَطِيئَتِهِ

یہ حدیث ثوبان سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں عیسیٰ اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ثُوبَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ عَيْسَى

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

2341 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

2339- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد8 صفحہ136 رقم الحديث: 7536 . انظر: مجمع الزوائد جلد6 صفحہ256 .

2340- أخرجه الطبرانی في الصغير جلد1 صفحہ78 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ302 .

2341- أخرجه مسلم: الأيمان جلد3 صفحہ1278، وأحمد: المسند جلد2 صفحہ63 رقم الحديث: 5050 .

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے غلام کو کسی وجہ کے بغیر مارا اس کا کفارہ یہ ہے کہ اس کو آزاد کر دیا جائے۔

یہ حدیث ہشام سے صرف اسحاق ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن ابی عبدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے آپ نے فرمایا: جس نے کسی عورت سے شادی کی عزت بڑھانے کے لیے (کہ اس عورت سے شادی کرنے سے میری عزت میں اضافہ ہوگا) اللہ عزوجل اس کی رسوائی ہی میں اضافہ کرے گا، جس نے کسی عورت سے شادی کی مال دار ہونے کے لیے تو اللہ عزوجل اس کی محتاجی میں اضافہ کرے گا، جس نے کسی عورت سے شادی کی حسب کے اعلیٰ ہونے کی بناء پر تو اللہ عزوجل اس کے گھٹیا پن میں اضافہ ہی کرے گا، جس نے کسی عورت سے شادی کی تاکہ اس کی نظر جھک جائے یا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کے لیے یا صلہ رحمی کے لیے تو اللہ عزوجل اس کی بیوی اور اس مرد کے لیے برکت دے گا۔

یہ حدیث ابراہیم سے صرف عبدالسلام ہی روایت کرتے ہیں۔

قُدَامَةُ الْجَوْهَرِيُّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ الْغَازِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَطَمَ غَلَامَهُ فِي غَيْرِ حَقٍّ فَكَفَّارَتُهُ عِتْقُهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا إِسْحَاقُ

2342 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عُمَانَ الْحَمِصِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لِعِزِّهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دُلًّا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِمَالِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا فَقْرًا، وَمَنْ تَزَوَّجَهَا لِحَسَبِهَا لَمْ يَزِدْهُ اللَّهُ إِلَّا دَنَاءَةً، وَمَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً لَمْ يَتَزَوَّجَهَا إِلَّا لِيُغَضَّ بَصَرَهُ أَوْ لِيُحْصِنَ فَرْجَهُ، أَوْ يَصِلَ رَحِمَهُ بَارَكَ اللَّهُ لَهُ فِيهَا، وَبَارَكَ لَهَا فِيهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ

2342- أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 245، وابن حبان في المجروحين جلد 2 صفحہ 151، وابن الجوزي في

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر کوئی اپنے سے نیچے والے کو دیکھے اپنے سے اوپر (مال) والے کو نہ دیکھے، اگر ایسے کرو گے تو تم اللہ کی نعمتوں کو حقیر نہیں جانو گے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف و کعب ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں عبداللہ بن نصر اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ہم کو گھوڑوں کا گوشت کھانے کا حکم دیتے تھے اور ہم کو پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کرتے تھے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ میں نے سنا اس حالت میں کہ آپ منبر پر تشریف فرما تھے، آپ ہم کو جمعہ کے دن غسل کا حکم دیتے تھے۔

2343 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ نَصِيْرٍ الْاَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا وَكِيْعٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنِ اَبِيْ صَالِحٍ، عَنِ اَبِيْ هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنْظُرُوْا اِلَيَّ مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا اِلَيَّ مَنْ فَوْقَكُمْ، فَاِنَّهٗ اَجْدَرُ اَنْ لَا تَزْدُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرَوْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا وَكِيْعٌ، تَفَرَّدَ بِهٖ عَبْدُ اللّٰهِ بِنُ نَصِيْرٍ

2344 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَبَّاسِ بِنِ السَّنْدِيّ قَالَ: نَا يُوْسُفُ بِنُ اَسْبَاطٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ عَمْرِوْ بِنِ دِيْنَارٍ، عَنِ سَعِيْدِ بِنِ الْحُوَيْرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اَمَرْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلُحُوْمِ الْخَيْلِ، وَنَهَانَا عَنْ لُحُوْمِ الْحُمْرِ

لَمْ يَرَوْ هٰذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا يُوْسُفُ

2345 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا عَمْرُ بِنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْاَوْصَابِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدَةَ الْمُرُوْزِيُّ قَالَ: نَا الْحَرَّاحُ بِنُ مَلِيْحٍ، عَنِ اِبْرَاهِيْمِ بِنِ عَبْدِ الْحَمِيْدِ بِنِ ذِيْ حِمَايَةَ، عَنِ غَيَّلَانَ بِنِ جَامِعٍ،

2343 - أخرجه مسلم: الزهد جلد 4 صفحہ 2275، والترمذی: صفة القيامة جلد 4 صفحہ 665 رقم الحديث: 2513

وابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1387 رقم الحديث: 4142، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 340 رقم

الحديث: 7467 .

2344 - انظر: لسان الميزان جلد 6 صفحہ 317 .

2345 - أخرجه البخاری: الجمعة جلد 2 صفحہ 462 رقم الحديث: 919، ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحہ 579 .

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ وَثَّابٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَأْمُرُنَا بِالْفُغْسِلِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرب کے لوگ ہمارے پاس گوشت لاتے، ہم اس کے متعلق اپنے دلوں میں کوئی شے پاتے، ہم نے یہ بات حضور ﷺ کے سامنے ذکر کی، آپ نے فرمایا: اُن سے قسمیں لو کہ انہوں نے بذاتِ خود ذبح کیا ہے، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اس کو کھا لو۔

2346 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ الْعِيَّارِ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هَارُونَ الْعَبْدِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ اَنَسُ مِنْ الْعَرَبِ يَأْتُونَا بِاللَّحْمِ، فَكَانَ فِي اَنْفُسِنَا مِنْهُ شَيْءٌ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اَجْهَدُوا اِيْمَانَهُمْ اَنْتُمْ ذَبَحُوهَا، ثُمَّ اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَكُلُوا

یہ حدیث سلمہ بن عیاری سے صرف محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْعِيَّارِ اِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی آدمی کسی کو خط لکھے تو وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرے، جب خط لکھ لے تو خط کو بند کر دے یہ زیادہ اچھا ہے۔

2347 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ سَلَمَةَ الْخَبَائِرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْعُكَّاشِيُّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ، تُخْبِرُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَتَبَ اَحَدُكُمْ اِلَى اِنْسَانٍ فَلْيَبْدَأْ بِاسْمِهِ، وَاِذَا كَتَبَ فَلْيَتَرَبَّ كِتَابَهُ، فَهُوَ اَنْجَحُ

حضرت ابوعبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو جمعہ کی نماز پڑھے اور اس کے

2348 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ الْاَوْصَابِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ

2346- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 39 .

2347- انظر: كشف الخفاء جلد 1 صفحہ 100 رقم الحديث: 257 . انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 101-102 .

2348- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 172 .

دن کا روزہ رکھے مریض کی عیادت کرے جنازے میں شریک ہو نکاح میں شریک ہو اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

یہ حدیث حریر سے صرف محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی راہ میں لڑتا ہوا شہید ہو جائے اللہ تعالیٰ اسے قبر کی آزمائش سے محفوظ رکھے گا۔

یہ حدیث صفوان سے محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا فرمایا: جس نے کسی مومن کو بغیر کسی وجہ کے ڈرایا تو اللہ پر حق ہے کہ اسے قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے امن نہ دے۔

یہ حدیث سلمہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حَرِيْرِ بْنِ عَشْمَانَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى الْجُمُعَةَ وَصَامَ يَوْمَهُ، وَعَادَ مَرِيضًا، وَشَهِدَ جَنَازَةً، وَشَهِدَ نِكَاحًا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَرِيْرِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْرٍ

2349 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمَّنَهُ اللَّهُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْرٍ

2350 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيْرٍ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْعِيَّارِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ أَخَافَ مُؤْمِنًا بِغَيْرِ حَقٍّ كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُؤَمِّنَهُ مِنْ أَفْزَاعِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلْمَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ

2349- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد8 صفحہ113 رقم الحديث: 7480 . انظر: مجمع الزوائد جلد5 صفحہ292 .

2350- انظر: مجمع الزوائد جلد6 صفحہ257 .

2351 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

حَفْصٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ: نَا اَبُو بَكْرٍ بْنُ اَبِي مَرْيَمَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ عُمَيْدٍ، عَنْ اَبِي اِمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ اُمَّتِي يَأْكُلُونَ الْوَانَ الطَّعَامَ، وَيَشْرَبُونَ الْوَانَ الشَّرَابِ، وَيَلْبَسُونَ الْوَانَ الثِّيَابِ، يَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ، اُولَئِكَ شِرَارُ اُمَّتِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي بَكْرٍ اِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ

2352 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

حَفْصٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، مَا كُنْتُ اِذَا سَافَرْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَجَجْتُ اَوْ عَزَوْتُ مَعَهُ، مَا كُنْتُ تَزُو دِينَهُ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اَزُو دُهُ قَارُورَةَ دُهْنٍ، وَمُشَطًّا، وَمِرَاةً، وَمِقْصًا، وَمُكْحَلَةً، وَسِوَاكَ

2353 - وَعَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ اَبِي عَبْلَةَ قَالَ:

سَمِعْتُ اُمَّ الدَّرْدَاءِ، تُحَدِّثُ عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، دُلَّنِي عَلَى عَمَلٍ يَدْخِلُنِي الْجَنَّةَ قَالَ: لَا تَغْضَبُ وَلَا كَ الْجَنَّةَ

2354 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ

عُثْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدِ الْوُهَيْبِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ

حضرت ابوعمامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب میری امت سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو مختلف قسم کے کھانے کھائیں گے، قسم قسم کے مشروبات پیئیں گے، مختلف رنگوں کے کپڑے پہنیں گے، گفتگو میں شوخی کریں گے، یہی بدترین لوگ ہوں گے میری امت سے۔

یہ حدیث ابوبکر سے محمد بن حمیر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ام درداء رضی اللہ عنہا سے روایت ہے آپ فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا کہ جب آپ حضور ﷺ کے ساتھ سفر کرتیں یا حج کرتیں یا جہاد کرتیں تو آپ کا زادراہ کیا ہوتا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں اپنے ساتھ تیل کی شیشی اور کنگھی، شیشہ اور قینچی اور سرمہ دانی اور مسواک زادراہ کے طور پر رکھتی تھی۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے ایسا کوئی عمل بتائیں کہ جس کی وجہ سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں! آپ نے فرمایا: کبھی غصہ نہ کیا کرو تمہارے لیے جنت ہے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر شے کی سردار کوئی شے ہوتی ہے

2351 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 253 .

2353 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 73 .

2354 - انظر: مجمع البحرين (5053) .

مخالف کا سردار قبلہ رو ہونا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا اور پہلے رکھتا ہے، خوف ہے کہ اس کا سر گدھے کے سر کی طرح ہو جائے۔

یہ دونوں حدیثیں محمد بن خالد سے صرف عمرو بن عثمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سب سے زیادہ حق اولاد پر کس کا ہوتا ہے؟ فرمایا: تیری ماں کا، تیرے باپ کا، تیری بہن کا، تیرے بھائی کا، اس کے بعد درجہ بہ درجہ۔

حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ بن عمر کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ وہ حج میں کسی شے کی شرط نہیں لگاتے تھے اور فرماتے کہ تمہیں تمہارے نبی ﷺ کی سنت ہی کافی ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ الْمَجَالِسِ قِبَالَةَ الْقِبْلَةِ

2355 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا يَأْمَنُ الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ؛ وَيَضَعُهُ أَنْ يُحَوِّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ

2356 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ الشَّيْبَانِيُّ، قَالَ نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمُّكَ وَأَبَاكَ، وَأُخْتُكَ وَأَخَاكَ، وَأَذْنَاكَ فَأَذْنَاكَ

2357 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى الْإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ شَيْئًا، وَيَقُولُ: حَسْبُكُمْ سُنَّةُ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ

2355 - انظر: الميزان جلد 1 صفحہ 63 .

2356 - أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحہ 303 .

2357 - أخرجه البخاري: المحصر جلد 4 صفحہ 11 رقم الحديث: 1810، والترمذي: الحج جلد 3 صفحہ 270 رقم

الحديث: 942، والنسائي: المناسك جلد 5 صفحہ 131، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 46 رقم الحديث: 4880 .

حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم ﷺ نے فرمایا: جس کو بھوک لگی یا ضرورت پیش آئی اس نے لوگوں سے اسے چھپایا (یعنی لوگوں کے سامنے اس کا اظہار نہیں کیا) اس کا اظہار اللہ تعالیٰ سے کیا تو اللہ تعالیٰ پر ضروری ہے کہ اس کے لئے رزق حلال کے دروازے کھول دے۔

2358 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ الرَّقِيُّ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ رَجَاءِ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نا مُوسَى بْنُ اَعْيَنَ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَاعَ اَوْ اِحْتَاَجَ، فَكَتَمَهُ النَّاسُ وَاَفْضَى بِهِ اِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ حَقًّا عَلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ اَنْ يَفْتَحَ لَهُ رِزْقًا حَسَنًا مِنْ حَلَالٍ

یہ حدیث اعمش سے صرف موسیٰ ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں اسماعیل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ اِلَّا مُوسَى تَفَرَّدَ بِهِ اِسْمَاعِيلُ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ تمام مخلوق کو ایک جگہ جمع کرے گا، پھر ہر قوم کا خدا جس کی وہ عبادت کرتے تھے ان کو اٹھائے گا اور ان کو جہنم میں پھینک دے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے باقی رہ جائیں گے۔ ان کو کہا جائے گا: تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ وہ عرض کریں گے: ہم اس رب کا انتظار کر رہے ہیں جس کی بن دیکھے عبادت کرتے تھے۔ ان کو کہا جائے گا: کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: اگر اس نے چاہا تو ہم خود اسے پہچانیں گے، اللہ تعالیٰ ان کے سامنے تجلی فرمائے گا (وہ اس تجلی کو دیکھ کر) سجدے میں گر جائیں گے ان کو کہا جائے گا: اے خیر والو! اپنے سروں کو اٹھاؤ! تم سب کیلئے جنت واجب ہو گئی ہے اور

2359 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: اَنَا أَبُو جَعْفَرٍ السُّفْيَلِيُّ قَالَ: نا أَبُو الدَّهْمَاءِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: اَنَا ثَابِتُ الْبَنَانِيُّ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ اَبِي بُرْدَةَ، عَنْ اَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ فِي صَعِيدٍ وَاَحِدٍ، ثُمَّ رَفَعَ لِكُلِّ قَوْمٍ اِلَهَتَهُمُ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فَيُورِدُونَهُمُ النَّارَ، وَيَبْقَى الْمُوَحِّدُونَ، فَيَقَالَ لَهُمْ: مَا تَنْتَظِرُونَ؟ فَيَقُولُونَ: نَنْتَظِرُ رَبًّا كُنَّا نَعْبُدُهُ بِالْغَيْبِ، فَيَقَالَ لَهُمْ: اَوْتَعَرَفُونَهُ؟ فَيَقُولُونَ: اِنْ شَاءَ عَرَفْنَا نَفْسَهُ، فَيَتَجَلَّى لَهُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَخِرُّونَ لَهُ سُجَّدًا، فَيَقَالَ لَهُمْ: يَا اَهْلَ التَّوْحِيدِ، اِرْفَعُوا رُؤُوسَكُمْ، فَقَدْ اَوْجَبَ اللَّهُ لَكُمْ الْجَنَّةَ، وَجَعَلَ مَكَانَ كُلِّ رَجُلٍ يَهُودِيًّا اَوْ نَصْرَانِيًّا فِي النَّارِ

2358 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 259

2359 - أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء جلد 5 صفحہ 363

جہنم میں تمہاری جگہ پر یہودی یا عیسائی کو رکھ دیا گیا ہے۔
یہ حدیث عمر سے صرف ثابت اور ثابت سے صرف
ابودھاء اور ان سے روایت کرنے میں نفی کی گئی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کہ حضور
اکرم ﷺ نے حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا کی عدت
طلاق والی عورت کی عدت کی طرح قرار دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور ﷺ اس حالت میں نماز نہیں پڑھتے تھے جب
آپ کے پیٹ میں کوئی شے ہوتی تھی۔
یہ دونوں حدیثیں ابو معشر سے صرف محمد بن بکار ہی
روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ حضور اکرم ﷺ ہمارے پاس رمضان کی رات کو
آئے لوگ یا صحابہ کرام نماز پڑھ رہے تھے آپ نے
فرمایا: ایک دوسرے سے اونچانہ پڑھو اس طرح نمازی کو
تکلیف ہوتی ہے۔

یہ حدیث سالم بن ابی نصر سے صرف محمد بن یعقوب ہی
روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عنینہ کی گئی ہے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا ثَابِتٌ وَلَا
عَنْ ثَابِتٍ، إِلَّا أَبُو الدَّهْمَاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ النُّفَيْلِيُّ
2360 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ
بْنِ الرَّيَّانِ الْبُغْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ
الْمَدَنِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
قَالَتْ: جَعَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِدَّةَ
بَرِيرَةَ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

2361 - وَعَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُصَلِّي وَهُوَ يَجِدُ فِي
بَطْنِهِ شَيْئًا

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ إِلَّا
مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ

2362 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا
عَنْبَسَةَ بِنْتُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَعْقُوبَ، عَنْ
أَبِي النَّضْرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ رَمَضَانَ
وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ، فَقَالَ: لَا يَجْهَرُ بَعْضُكُمْ عَلَى
بَعْضٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يُؤْذِي الْمُصَلِّيَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْبَسَةَ

2363 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

2360 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 6.

2361 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 92.

2363 - أخرجه الترمذی فی البر والصلة جلد 3 صفحہ 231، والعقيلي فی الضعفاء الكبير جلد 2 صفحہ 117، وابن عدی

حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: سخی اللہ کے قریب ہے جہنم سے دور ہے، جنت کے قریب ہے اور لوگوں کے قریب ہے، بخیل اللہ سے بھی دور ہے اور جنت سے بھی دور ہے، لوگوں سے دور ہے اور جہنم کے قریب ہے، جاہل سخی اللہ کے ہاں زیادہ پسندیدہ ہے عابد بخیل سے۔

سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: السَّخِيُّ قَرِيبٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّارِ، قَرِيبٌ مِنَ الْجَنَّةِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّاسِ، وَالْبَخِيلُ بَعِيدٌ مِنَ اللَّهِ، بَعِيدٌ مِنَ الْجَنَّةِ، بَعِيدٌ مِنَ النَّاسِ، قَرِيبٌ مِنَ النَّارِ، وَالْجَاهِلُ السَّخِيُّ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الْعَابِدِ الْبَخِيلِ

یہ حدیث یحییٰ محمد سے وہ اپنے والد سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اور یحییٰ سے صرف سعید بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرض نماز زمین پر بیٹھ کر پڑھی اور نفل نماز زمین پر اشارے سے پڑھی۔

2364 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، قَاضِي حَلَبٍ، عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ فُلْفُلٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى الْأَرْضِ الْمَكْتُوبَةَ قَاعِدًا، وَقَعَدَ فِي التَّسْبِيحِ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَ إِيمَاءَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُخْتَارِ إِلَّا حَفْصُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

یہ حدیث مختار سے صرف حفص ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو خوشخبری دی، حضرت عباس کے اسلام لانے کی، آپ ﷺ نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا۔

2365 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ شُرْحَيْبِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ بَشَّرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِسْلَامِ الْعَبَّاسِ، فَأَعْتَقَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فی الكامل جلد 2 صفحہ 1238، والبیہقی فی شعب الایمان جلد 7 صفحہ 428-429 رقم الحدیث: 10849 .

2364 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 152 .

2365 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 271 .

یہ حدیث البورانغ سے صرف اسی سند سے روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں محمد بن بکار اکیلے ہیں۔

حضرت شرحبیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے بنی حارثہ میں ایک پرندہ پکڑا، اس پرندہ کو مجھ سے رافع بن خدیج نے پکڑا اور اس کو چھوڑ دیا اور فرمایا: حضور ﷺ نے مدینہ شریف کے دونوں کناروں کے درمیان کو حرم قرار دیا ہے۔

یہ حدیث شرحبیل سے صرف ابو معشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی: اے ابوجان! وہ کون آدمی تھا جس کو آپ نے مشرکین سے چھڑایا تھا، اُس دن وہ آپ کو مار رہے تھے؟ فرمایا: وہ حاص بن وائل سہمی تھے۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف محمد بن اسحاق اور محمد بن اسحاق سے صرف حماد بن زید ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن حرب اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ رضی اللہ عنہ سے

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي رَافِعٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ

2366 - وَعَنْ شُرْحَبِيلَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

أَخَذْتُ طَائِرًا فِي بَنِي حَارِثَةَ، فَأَخَذَهُ مِنِّي رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ، فَأَرْسَلَهُ، وَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَا بَيْنَ لَابَتِي الْمَدِينَةِ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ شُرْحَبِيلٍ إِلَّا أَبُو
مَعْشَرٍ

2367 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ الْكَشِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا
حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قُلْتُ
لِأَبِي: يَا أَبَتِ، مَنِ الرَّجُلُ الَّذِي خَلَصَكَ مِنَ
الْمُشْرِكِينَ يَوْمَ ضَرْبُوكَ؟ قَالَ: ذَاكَ الْعَاصُ بْنُ
وَائِلِ السَّهْمِيِّ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مُحَمَّدُ
بْنُ إِسْحَاقَ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا حَمَادُ
بْنُ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

2368 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ

2366 - أخرجه أحمد: المسند جلد 5 صفحہ 228 رقم الحديث: 21727، والبيهقي في الكبرى جلد 5 صفحہ 326 رقم

الحديث: 9971، والطبرانی في الكبير جلد 5 صفحہ 150 رقم الحديث: 4910-4913. انظر: مجمع الزوائد

جلد 3 صفحہ 306 .

2368 - أخرجه البخاری: أحاديث الأنبياء جلد 6 صفحہ 469-470 رقم الحديث: 3370، ومسلم: الصلاة

روایت ہے کہ مجھے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ ملے فرمایا: کیا میں آپ کو ہدیہ دوں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! آپ میرے لیے ہدیہ دیں، فرمایا: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کے اہل بیت پر درود کس طرح پڑھیں یہ تو ہم نے معلوم کر لیا، لیکن سلام کس طرح پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: اس طرح کہو 'اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد' کما صلیت علی ابراهيم انک حمیدٌ مجیدٌ۔

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، قَالَ أَبُو فَرَوَةَ سَلَّمَ بَنُ سَالِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بَنُ عَيْسَى بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ: لَقِينِي كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ فَقَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً؟ قُلْتُ: بَلَى، فَأَهْدِهَا لِي قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ، فَإِنَّا قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ؟ قَالَ: قُولُوا اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

یہ حدیث ابوفروہ سے صرف عبدالواحد بن زیادہ ہی روایت کرتے ہیں اور عبداللہ بن عیسیٰ سے صرف ابوقرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي فَرَوَةَ إِلَّا عَبْدُ الْوَاحِدِ بَنُ زِيَادٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بِنِ عَيْسَى إِلَّا أَبُو فَرَوَةَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی رات کی نماز کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: وہ دو دور کعتیں ہیں۔

2369 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ: مَثْنَى مَثْنَى

یہ حدیث ابن عون سے ابن سیرین سے اور ابن عون سے ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

2370 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

جلد 1 صفحہ 305 .

2369 - أخرجه البخاری: الوتر جلد 2 صفحہ 554 رقم الحدیث: 990، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 516 .

2370 - أخرجه الترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 277 رقم الحدیث: 3094، وابن ماجه: النکاح جلد 1 صفحہ 596 رقم

الحدیث: 1856، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 327 رقم الحدیث: 22455 . انظر: الدر المنثور لسليوطی

جلد 3 صفحہ 232 .

ﷺ نے فرمایا: سونا اور چاندی ہلاکت ہے یہ آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا مال ہم بنائیں؟ آپ نے فرمایا: ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل، مؤمنہ بیوی۔

الضَّرِيرُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ثَوْبَانَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَبًّا لِلذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، يَقُولُهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْمَالِ نَتَّخِذُ؟ فَقَالَ: لِسَانًا ذَاكِرًا، وَقَلْبًا شَاكِرًا، وَزَوْجَةً مُؤْمِنَةً

یہ حدیث سفیان عمرو بن مرہ سے اور سفیان سے صرف محمد بن حسن المزنی الواسطی ہی روایت کرتے ہیں اور عبد الحمید بن عبد العزیز بن ابی رواد۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمُرْنِيُّ الْوَاسِطِيُّ، وَعَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ جب جمعہ کے دن خطبہ دیتے تو فرماتے تھے: جب تم میں سے کوئی جمعہ کے لیے آئے تو وہ غسل کرے۔

2371 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ حُمَيْدٍ الطَّوِيلُ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نَا صَخْرُ بْنُ جُوَيْرِيَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يَقُولُ: إِذَا رَاحَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْجُمُعَةِ فَلْيَغْتَسِلْ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تو پہلے کے لیے حلال نہیں ہو سکتی ہے یہاں تک کہ دوسرا شوہر ذائقہ نہ چکھ لے، یعنی اس سے وطی نہ کر لے۔

2372 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ الطَّاحِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَزِيدَ الْهَنْائِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحِلُّ لِلأَوَّلِ حَتَّى يَذُوقَ الأَخرُ عَسَيْتَها

یہ حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں محمد بن دینار اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ دِينَارٍ

2371- أخرجه النسائي: الجمعة جلد3 صفحہ86 (باب حث الامام في خطبته على الغسل يوم الجمعة).

2372- أخرجه أحمد: المسند جلد3 صفحہ347 رقم الحديث: 14032، والبيهقي في الكبرى جلد7 صفحہ616 رقم

الحديث: 15201. انظر: مجمع الزوائد جلد4 صفحہ343.

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں میری امت کے لوگ ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا: وہ لوگ ہوں گے نہ (ناجائز کلمات سے) دم کروائیں گے نہ فال نکلوائیں گے اور اپنے رب پر بھروسہ کریں گے۔

یہ حدیث حکم بن اعرج سے صرف ابوشینہ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت اشجع عبد القیس سے فرمایا: تم میں دو باتیں جو اللہ کو بھی پسند ہیں یہ ہیں: (۱) بردباری (۲) رجوع (اللہ کی طرف)۔

یہ حدیث قرہ سے صرف بشر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن زید بن سعد الأشہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو نجران سے آئی ہوئی تلوار بطور ہدیہ دی آپ نے وہ تلوار محمد بن مسلمہ کو عطا کی اور فرمایا: اس کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو جب

2373 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا حَاجِبُ بْنُ عَمْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي سَبْعُونَ أَلْفًا بِغَيْرِ حِسَابٍ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: الَّذِينَ لَا يَسْتَرْقُونَ، وَلَا يَكْتُمُونَ، وَلَا يَتَطَيَّرُونَ، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ إِلَّا أَبُو حُشَيْنَةَ حَاجِبُ بْنُ عَمْرٍ

2374 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي جَمْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِلْأَشْجِ أَشْجِ عَبْدِ الْقَيْسِ: إِنَّ فِيكَ خَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللَّهُ: الْحِلْمُ وَالْأَنَاةُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ إِلَّا بَشْرُ

2375 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمُودِ بْنِ مَسْلَمَةَ

2373- أخرجه البخارى: الطب جلد10 صفحہ163-164 رقم الحديث: 5705، ومسلم: الايمان جلد1 صفحہ198 .

2374- أخرجه مسلم: الايمان جلد1 صفحہ48، والترمذى: البر والصلة جلد4 صفحہ366 رقم الحديث: 2011، وابن

ماجه: الزهد جلد2 صفحہ1401 رقم الحديث: 4188 .

2375- انظر: مجمع الزوائد جلد7 صفحہ304 .

لوگوں کی گردنیں ادھر ادھر ہو جائیں۔ تو آپ نے یہ تلوار پتھر پر مارنی ہے پھر اپنے گھر چلے جانا ہے وہاں ٹھہرے رہنا یہاں تک کہ لوگ تجھے بے گناہ ہاتھ قتل کر دے یا تیرے پاس فیصلہ کن موت آ جائے۔

الْأَنْصَارِيُّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ سَعْدِ الْأَشْهَلِيِّ قَالَ: أَهْدَى لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَيْفٌ مِنْ نَجْرَانَ، فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ أَعْطَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ فَقَالَ: جَاهِدْ بِهَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ أَعْنَاقُ النَّاسِ فَاضْرِبْ بِهِ الْحَجَرَ، ثُمَّ ادْخُلْ بَيْتَكَ فَكُنْ جَلْسًا مُلْقَى حَتَّى تَقْتُلَكَ كَفَّ خَاطِئَةً، أَوْ تَأْتِيكَ مَنِيَّةٌ قَاضِيَةٌ

یہ حدیث سعد بن زید سے اسی سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں تجھی اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَعْدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَبِيُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضور ﷺ سے مرفوعاً روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا: اگر تم گناہ نہیں کرو گے تو اللہ عزوجل ایسی قوم لائے گا جو گناہ کریں گے پھر اللہ سے بخشش طلب کریں گے اللہ اُن کو معاف کرے گا۔

2376 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ النَّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ - يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَجَاءَ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ، ثُمَّ يَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ، فَيَغْفِرَ لَهُمْ

یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں یحییٰ بن عمر اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو! کیونکہ اللہ کی طرف سے یہی مطلوب ہے۔

2377 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مُسْلِمِ بْنِ بَانَكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: أَخْبَرَنِي

2376 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 172 رقم الحديث: 12794، والامام أحمد في مسنده جلد 1

صفحہ 289، والبخاری جلد 4 صفحہ 82. وانظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 218.

2377 - أخرجه ابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1417 رقم الحديث: 4243، والدارمی: الرقاق جلد 2 صفحہ 392 رقم

الحديث: 2726، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 79 رقم الحديث: 24469.

عَوْفُ بْنُ الْحَارِثِ بْنِ الطَّفِيلِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ،
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا عَائِشُ،
إِيَّاكَ وَمُحَقَّرَاتِ الذُّنُوبِ، فَإِنَّ لَهَا مِنَ اللَّهِ طَالِبًا
لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ

حضرت عائشہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت
ہے، اس کو روایت کرنے میں سعید اکیلے ہیں۔

2378 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ
الْمُفْضَلِ بْنِ فَضَالَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ
سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْأَخْوَصِ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ
جُنْدُبٍ، أَنَّهَا رَأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَدَاةَ الْجَمْرَةِ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، لَا يَقْتُلَنَّ
بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَأَرْمُوا مِثْلَ حَصَى الْخَذْفِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُفْضَلِ إِلَّا حَمَادٌ

حضرت ام جندب رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
انہوں نے حضور ﷺ کو کنکریاں مارنے کے دن صبح کے
وقت دیکھا، آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! ایک دوسرے
کو قتل نہ کرو اور ٹھیکری کی طرح کنکری پھینکو۔

یہ حدیث مفصل سے صرف حماد ہی روایت کرتے
ہیں۔

2379 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ سُؤَيْدٍ
بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَحَدِ بَنِي عَمْرٍو بْنِ
عَوْفٍ، إِمَامَ مَسْجِدِ قُبَاءَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
مُوسَى بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
السُّلَمِيِّ قَالَ: أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
دَارَ بَنِي عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، فَرَأَى حِصْنَةً
فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَرْضِ، وَلَمْ يَكُنْ رَأَاهُ قَبْلَ ذَلِكَ،

حضرت جابر بن عبد اللہ السلمی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور ﷺ بدھ کے دن بنی عمرو بن عوف
کے گھر آئے، آپ نے ان کے گھر اموال اور غلہ کا ڈھیر
دیکھا، اس سے پہلے ان کے گھر میں ایسا نہیں تھا، آپ
نے ان کو فرمایا: اے انصار کے گروہ! انہوں نے عرض کی:
یا رسول اللہ! حاضر ہیں! ہمارے ماں باپ آپ پر نرا
ہوں! فرمایا: اگر جمعہ کے لیے آؤ تو تم وہاں ٹھہرو یہاں
تک کہ میری گفتگو سنو۔ انہوں نے عرض کی: ٹھیک ہے

2378 - أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2 صفحہ 207 رقم الحديث: 1966، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 608 رقم

الحديث: 16094. انظر: نصب الرأية جلد 3 صفحہ 75.

2379 - أخرجه البزار جلد 1 صفحہ 451. انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 131.

اے اللہ کے رسول! ہمارے ماں باپ آپ پر خدا ہوں! جب جمعہ کا دن آیا تو رسول اللہ ﷺ جمعہ کی نماز کے لیے حاضر ہوئے پھر آپ نے سلام پھیرا اس جگہ کے قریب ہی دو رکعت نفل ادا کیے اس سے پہلے یہ تھا کہ جب آپ جمعہ پڑھا لیتے تو اپنے گھر چلے جاتے وہاں اپنے گھر دو رکعت نفل ادا کرتے لیکن یہاں پر آپ نے دو رکعت نفل مسجد میں ادا کیے جب آپ نے سلام پھیرا تو آپ نے اپنا چہرہ مبارک اُن کی طرف کیا انصار مسجد کی طرف آنے لگے یہاں تک کہ حضور ﷺ کے پاس آئے آپ نے اُن کو فرمایا: اے انصار کے گروہ! انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! حاضر ہیں! ہمارے ماں باپ آپ پر خدا ہوں! آپ نے فرمایا: تم جاہلیت میں تھے اس وقت اللہ کی عبادت نہیں کی جاتی تھی تم اپنے اموال کے حوالے سے مشکل اٹھاتے تھے اور نیکی کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے یہاں تک کہ تم پر اسلام نے احسان کیا اور محمد ﷺ تشریف لائے جو تم اس میں جمع کرتے ہو اس سے ابن آدم کھاتا ہے اس میں تمہارے لیے ثواب ہے جو اس میں پرندے کھائیں اس میں تمہارے لیے ثواب ہے جو درندے کھائیں اس میں تمہارے لیے ثواب ہے۔ قوم چلی گئی ان میں کوئی باقی نہیں رہا تو دو تہائی یا ایک تہائی مال باغ میں بکھیر دیا تاکہ فقراء داخل ہوں اور اس سے کھجوریں کھائیں۔

یہ حدیث جابر سے اسی سند سے روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں ججی اکیلے ہیں۔

فَقَالَ لَهُمْ: مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا بَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا أَنْتَ قَالَ: لَوْ أَنَّكُمْ إِذَا هَبَطْتُمْ لِعِيدِكُمْ، يَعْنِي الْجُمُعَةَ، مَكَثْتُمْ حَتَّى تَسْمَعُوا مِنِّي قَوْلِي قَالُوا: نَعَمْ، أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، يَا بَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا أَنْتَ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ حَضَرُوا صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُمُعَةَ، ثُمَّ أَنْصَرَفَ فَتَنَفَّلَ رُكْعَتَيْنِ عِنْدَ مَقَامِهِ، وَكَانَ قَبْلَ ذَلِكَ إِذَا صَلَّى الْجُمُعَةَ أَنْصَرَفَ إِلَى بَيْتِهِ فَصَلَّاهُمَا فِي بَيْتِهِ، حَتَّى كَانَ يَوْمَئِذٍ فَتَنَفَّلَهُمَا فِي الْمَسْجِدِ، فَلَمَّا أَنْصَرَفَ اسْتَقْبَلَهُمْ بِوَجْهِهِ، فَتَبِعَتِ الْأَنْصَارُ مِنَ الْمَسْجِدِ، حَتَّى آتَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ فَقَالُوا: لَبَّيْكَ، أَيُّ رَسُولَ اللَّهِ، يَا بَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا أَنْتَ قَالَ: كُنْتُمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ لَا يُعْبَدُ اللَّهُ، تَحْمِلُونَ الْكُلَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، وَتَفْعَلُونَ الْمَعْرُوفَ، وَتُصَلُّونَ، حَتَّى إِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَيْكُمْ بِالْإِسْلَامِ وَآتَى مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَنْتُمْ تُحْصِنُونَ، فِيمَا يَأْكُلُ ابْنُ آدَمَ أَجْرٌ، وَفِيمَا يَأْكُلُ الطَّيْرُ أَجْرٌ، وَفِيمَا يَأْكُلُ السَّبْعُ أَجْرٌ فَأَنْصَرَفَ الْقَوْمُ، فَمَا بَقِيَ أَحَدٌ إِلَّا هَدَمَ فِي مَالِهِ ثَلَمَتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، يَعْنِي هَدَمَ فِي حَيْطَانِ بَسَاتِينِهِمْ، لِيَدْخُلَ الْفُقَرَاءُ فَيَأْكُلُوا مِنَ الثَّمْرِ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَبِيُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ عزوجل کے اس ارشاد کی تفسیر ”لعمرك“ کرتے ہوئے فرماتے ہیں: مراد یہ ہے کہ اے محمد ﷺ! آپ کی زندگی کی قسم!

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس مدینہ شریف آیا، میرے اور آپ کے درمیان پردہ تھا میں نے سنا آپ فرما رہی تھیں کہ حضور ﷺ کثرت سے یہ دعا مانگتے تھے: اے دلوں کو پلٹنے والے! میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھنا (تعلیم امت کے لیے یہ دعا فرمائی) آپ نے فرمایا: ہر آدمی کا دل اللہ عزوجل کی دو انگلیوں (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) کے درمیان ہے، جب چاہے ٹیڑھا کر دے جب چاہے اس کو سیدھا کر دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت سو مرتبہ سبحان اللہ ربی العظیم وبحمدہ پڑھا اسی طرح شام کے وقت پڑھا تو روئے زمین میں اس کی مثل کوئی نہیں ہوگا ہاں جس نے یہ کلمات پڑھ لیے اور یا اضافہ کر لیا۔

2380 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَالِكِ النُّكْرِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الْجَوْزَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِهِ: (لَعَمْرُكَ) (الحجر: 72) قَالَ: بِحَيَاتِكَ يَا مُحَمَّدُ

2381 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبُو كَعْبٍ الْأَزْدِيُّ، صَاحِبُ الْحَرِيرِ قَالَ: نَا شَهْرُ بْنُ حَوْشِبٍ قَالَ: دَخَلْتُ عَلَى أُمِّ سَلَمَةَ بِالْمَدِينَةِ، وَبَيْنِي وَبَيْنَهَا حِجَابٌ، فَسَمِعْتُهَا تَقُولُ: كَانَ أَكْثَرَ دُعَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوبِ، ثَبِّتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ قَالَ: مَا مِنْ آدَمِيٍّ إِلَّا وَقَلْبُهُ بَيْنَ اصْبَعَيْنِ مِنْ أَصَابِعِ الرَّحْمَنِ، إِذَا شَاءَ أَرَاغَهُ، وَإِذَا شَاءَ هَدَاهُ

2382 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ الصَّرِيرُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سُمَيٍّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّيَ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ، مِائَةَ مَرَّةٍ، وَإِذَا أَمَسَ

2380 - أخرجه البيهقي في دلائل النبوة جلد 5 صفحہ 488 . انظر: البر المنثور جلد 4 صفحہ 103 .

2381 - أخرجه الترمذی: الدعوات جلد 5 صفحہ 538 رقم الحديث: 3522 وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 348 رقم

الحديث: 26735 . انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 213-214 .

2382 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 326 رقم الحديث: 5091 .

لَمْ يَأْتِ رَجُلًا مِثْلًا مِثْلَ مَا وَافَى بِهِ،
إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ

كَذَلِكَ، لَمْ يُوَافِ أَحَدًا مِنَ الْخَلَائِقِ مِثْلَ مَا وَافَى بِهِ،
إِلَّا مَنْ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور ﷺ میرے گھر سے جب بھی نکلتے تو آپ آسمان
کی طرف سر اٹھاتے تو یہ دعا پڑھتے: "اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ
بِكَ أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَجْهَلَ
أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ"۔

2383 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ قَالَتْ: مَا خَرَجَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ بَيْتِي قَطُّ إِلَّا
رَفَعَ بَصْرَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
أَنْ أَضِلَّ أَوْ أُضَلَّ، أَوْ أَزِلَّ أَوْ أُزَلَ، أَوْ أَجْهَلَ أَوْ
يُجْهَلَ عَلَيَّ، أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلَمَ

یہ حدیث شععی عبداللہ بن شداد سے ہے وہ حضرت
میمون سے اور شععی سے صرف بکر ہی روایت کرتے ہیں
ان سے روایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بِنِ شَدَادٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ .

حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نیکی کی دعوت دینے والا نیکی
کرنے والے کی طرح ہے۔

2384 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَائِشَةَ قَالَ: نَا عِمْرَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ،
عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّالُّ عَلَى الْخَيْرِ
كَفَاعِلِهِ

یہ حدیث ابو حازم سے صرف عمران ہی روایت کرتے
ہیں ان سے روایت کرنے میں ابن عائشہ اکیلے ہیں، سہل
بن سعد سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا
عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَائِشَةَ، وَلَا يَرَوِي عَنْ سَهْلِ
بِنِ سَعْدٍ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

2385 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ

2383 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 132 .

2384 - أخرجه أبو داؤد جلد 5 صفحہ 327، والترمذی جلد 5 صفحہ 155، والنسائی جلد 8 صفحہ 268، وابن ماجه

جلد 2 صفحہ 1278، والامام أحمد فی مسنده جلد 6 صفحہ 306 .

2385 - أخرجه مسلم: النكاح جلد 2 صفحہ 1021، وأبو داؤد: النكاح جلد 2 صفحہ 253 رقم الحديث: 2151

ﷺ نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، اس نے اپنی ضروری پوری کر لی، پھر آپ باہر نکلے، آپ نے فرمایا: عورت شیطان کی صورت میں آتی ہے اور شیطان کی صورت میں چلتی ہے، جب تم میں سے کوئی اس کے متعلق اپنے دل میں کوئی بات پائے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے، جو اس کے دل میں اس کے متعلق بُرا خیال آیا، وہ چلا جائے گا۔

یہ حدیث ابو زبیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں ہشام اکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو کہا جائے گا: اے اہل محشر! اپنی نگاہوں کو نیچے کرو، فاطمہ بنت محمد ﷺ گزر رہی ہیں، آپ اس شان سے گزریں گی کہ آپ پر دو سبز جوڑے ہوں گے۔

یہ حدیث بیان سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں عبدالحمید اور عباس بن بکار اکیلے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامَ الدَّسْتَوَائِي قَالَ: نَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى امْرَأَةً، فَدَخَلَ عَلَى زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ، فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا، ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: إِنَّ الْمَرْأَةَ تَقْبَلُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، وَتُدْبِرُ فِي صُورَةِ شَيْطَانٍ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ فَلْيَاتِ أَهْلَهُ، فَإِنَّهُ يَغْمُرُ مَا فِي نَفْسِهِ

بَاب مَنْ اسْمُهُ اِبْرَاهِيمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ

2386 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ بَحْرِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَأَسِطِيُّ، عَنْ بَيَانَ أَبِي بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ: يَا أَهْلَ الْجَمْعِ غَضُّوا أَبْصَارَكُمْ تَمُرُّ فَاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: فَتَمُرُّ وَعَلَيْهَا رَيْطَانِ خَضْرَاوَانٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانَ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ. وَالْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ الضَّبِّيُّ، وَلَا يُرَوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

والترمذی: الرضاع جلد 3 صفحہ 455 رقم الحدیث: 1158، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 405 رقم

الحدیث: 14550 .

2386- أخرجه ابن عدی فی الكامل جلد 5 صفحہ 1666 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 215

2387 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَاعَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ سَعْدِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: ذُكِرَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: شِهَابٌ، فَقَالَ: بَلْ أَنْتَ هِشَامٌ

- حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا، اس کو شہاب کہا جاتا تھا، آپ نے فرمایا: بلکہ تیرا نام ہشام ہے۔

2388 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا ابْنُ الْمِنْهَالِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ، قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا، فَنَاتِيهِ بِمِصَاةٍ لَنَا فِيهَا مَاءٌ، يَأْخُذُ بِمِدِّ الْمَدِينَةِ مَدًّا وَنِصْفًا أَوْ ثَلَاثًا، فَاصْبُ عَلَيْهِ، فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ ثَلَاثًا، وَيَمْضِضُ وَيَسْتَشْفِقُ، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَيَمْسَحُ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةً، وَيَمْسَحُ بِأُذُنَيْهِ ظَاهِرَهُمَا، وَبَاطِنَهُمَا، وَيُطَهِّرُ قَدَمَيْهِ

- حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے پاس آتے تھے، ہم آپ کے پاس ایک برتن لے کر آتے، اس میں پانی ہوتا تھا، آپ اس سے مدینہ کے مدیا آدھا یا ایک تہائی لیتے، اس میں سے پانی بہاتے، اپنے ہاتھ کو تین مرتبہ دھوتے اور کلی کرتے اور ناک میں پانی ڈالتے اور اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھوتے اور کلائیوں کو تین مرتبہ دھوتے اور سر کا ایک مرتبہ مسح کرتے اور کانوں کے اندرونی و بیرونی حصہ کا مسح کرتے اور اپنے پاؤں کو دھوتے۔

یہ حدیث روح سے صرف یزید ہی روایت کرتے

ہیں۔

2389 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسَدَّدٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ الْخُرَيْبِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ مَعْوِذِ بْنِ عَفْرَاءَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

- حضرت ربیع بنت معوذ بن عفراء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب وضو کرتے تو سر کا مسح کرتے، جو پانی بچ جاتا اس کو ہاتھ پر رکھتے، اس سے سر کے آگے والے حصے سے ابتداء کرتے، پھر گردن تک لے

2387 - انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 5418 .

2388 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 24 صفحه 267 رقم الحديث: 676 .

2389 - أخرجه أبو داود: الطهارة جلد 1 صفحه 32 رقم الحديث: 130 . أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 24

صفحة 267 .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا تَوَضَّأَ مَسَحَ رَأْسَهُ بِفَضْلِ مَاءٍ كَانَ فِي يَدِهِ، فَبَدَأَ بِمُؤَخَّرَةِ رَأْسِهِ، ثُمَّ جَرَّهُ إِلَى قَفَاهُ، ثُمَّ جَرَّهُ إِلَى مُؤَخَّرِهِ

جاتے، پھر اس کو آگے کھینچتے تھے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف عبداللہ بن رواہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نماز کی چابی وضو ہے (نماز سے پہلے جو کام جائز تھے) تکبیر ان کو حرام کرنے والی ہے (اور نماز کے اندر جو کام ناجائز تھے) ان کو سلام حلال کرنے والا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ

2390 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الْوُضُوءُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ

یہ حدیث سعید سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں ابو عمر اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ اور میں ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے وہ ایک فرق (سولہ رطل یعنی تین صاع) پانی ہوتا تھا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ إِلَّا حَسَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ

2391 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ شِهَابِ الزُّهْرِيِّ، يُحَدِّثُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، وَهُوَ الْفَرْقُ

یہ حدیث زہری سے قاسم اور زہری سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

2392 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْحَكَمُ

2390 - أخرجه الترمذی فی الصلاة رقم الحدیث: 238 .

2391 - أخرجه البخاری: الغسل جلد 1 صفحہ 433 رقم الحدیث: 250، ومسلم: الحيض جلد 1 صفحہ 255 .

2392 - انظر: مجمع البحرين للحافظ الهیثمی (344) .

حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ آدمی پھل دار درخت کے نیچے اور جاری نہر میں پاخانہ کرے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے چغلی کرنے اور سننے سے منع کیا۔

یہ حدیث میمون سے صرف سفرات ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں حکم اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے حیض سے پاکی کے متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا: تو ایک کپڑا لے! اس نے عرض کی: میں اس سے کیا کروں؟ حضور ﷺ پر حیاء کی کیفیت طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: میں نے اس کو کہا: میرے پاس آؤ میں تم کو بتاتی ہوں اس کو خون نکلنے والی جگہ پر رکھنا۔

یہ حدیث عطاء سے حماد ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابو عمر اکیلے ہیں۔

حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے وضو کیا اور داڑھی کا خلال کیا۔

بْنُ مَرْوَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا فَرَاتُ بْنَ السَّائِبِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَلَّى الرَّجُلُ تَحْتَ شَجَرَةٍ مُثْمِرَةٍ، وَنَهَى أَنْ يَتَخَلَّى عَلَى ضَفَّةِ نَهْرٍ جَارٍ 2393 - وَبِهِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّيْمَةِ، وَعَنِ الْإِسْتِمَاعِ إِلَى النَّيْمَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ مَيْمُونِ إِلَّا فَرَاتٌ، تَفَرَّدَ بِهَا الْحَكْمُ

2394 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ طَهْرِ الْحَيْضِ، فَقَالَ: خُذِي سَكْبَتِكَ فَقَالَتْ: أَصْنَعُ بِهَا مَاذَا؟ فَاسْتَحْيَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ لَهَا عَائِشَةُ: هَلِمِي إِلَيَّ أُخْبِرْكِ، أَمْرِيهَا عَلَى مَخْرَجِ الدَّمِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حَمَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عُمَرَ

2395 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ حَسَّانِ بْنِ

2393 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 94

2395 - أخرجه الترمذی: الطهارة جلد 1 صفحہ 44 رقم الحديث: 29-30، وابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحہ 148 رقم

الحديث: 429

بِلالٍ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانٌ

یہ حدیث قتادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سفیان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو اللہ کی راہ میں زخم آیا، قیامت کے دن آئے گا اس حالت میں کہ اس کے خون کا رنگ خون کی طرح ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشک کی طرح ہوگی۔

یہ حدیث زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں دن میں سو مرتبہ بخشش مانگتا ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے کھانے میں مکھی گر جائے تو وہ اس کو ڈبولے، کیونکہ اس کے ایک پر میں بیماری ہے اور ایک میں شفاء ہے۔

2396 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ حُمَيْدِ الطَّوِيلُ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ جَرَحَ جُرْحًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ الْمِسْكِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ

2397 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي لَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ سَبْعِينَ مَرَّةً

2398 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبَ، وَهَشَامَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

2396- أخرجه أحمد: المسند جلد2 صفحہ674 رقم الحديث: 10664 .

2397- أخرجه الطبرانی في الدعاء رقم الحديث: 1836، والبخاري جلد4 صفحہ81 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ211 .

2398- أخرجه البخاری: بدء الخلق جلد6 صفحہ414 رقم الحديث: 3320، والدارمی: الأئمة جلد2 صفحہ135 رقم الحديث: 2039، وأحمد: المسند جلد2 صفحہ330 رقم الحديث: 7377 .

إِذَا وَقَعَ الذَّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْآخِرُ شِفَاءٌ

2399 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعَجْمَاءُ جُبَارٌ، وَالْبَيْرُ جُبَارٌ، وَفِي الرِّكَازِ الْخُمْسُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے زبان جانور کسی کو زخمی کرے اور کتواں جو اپنی ملک میں کھودے اس میں کوئی گر کر ہلاک ہو جائے اس صورت میں تاوان نہیں ہے اور ذن شدہ خزانے میں خمس ہے۔

2400 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

قَالَ: اَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَحَبِيبٍ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ ابْتَاعَ شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ، لَا سَمْرَاءَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی بکری فروخت کی اس حالت میں کہ اس کا دودھ رکا ہوا تھا، اس لینے والے کو اختیار ہے تین دن کا، اگر چاہے تو اس کو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع گندم کا دے اس میں کانٹے نہ ہوں۔

2401 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ

بُنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيِّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا يُزَكِّيهِمْ، وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ: رَجُلٌ آتَى قَوْمًا عَلَى إِسْلَامٍ دَامِجٍ، فَشَقَّ عَصَاهُمْ حَتَّى اسْتَحَلُّوا الْمَحَارِمَ، وَسَفَّكُوا الدِّمَاءَ، وَسُلْطَانٌ جَائِرٌ وَقَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ،

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت نہیں کرے گا نہ ان کو پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے: (۱) ایک وہ آدمی جو ایسی قوم کے پاس آیا وہ مسلمان تھے اس نے ان پر عصا کاٹ کر ان کا خون بہایا اور خون کو حلال جانا (۲) ظالم بادشاہ اور فرمایا: جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے

2399 - أخرجه البخاری: الزکاة جلد 3 صفحہ 426 رقم الحدیث: 1499، ومسلم: الحدود جلد 3 صفحہ 1334 .

2400 - أخرجه مسلم: البيوع جلد 3 صفحہ 1158، وأبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحہ 268 رقم الحدیث: 3444 .

والترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 544 رقم الحدیث: 1252 .

2401 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 240 .

میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ سفیان تیسرے کا ذکر کرنے سے خاموش رہے۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اس حالت میں مانگا کہ اس کے پاس چالیس درہم یا اس کے برابر قیمت ہے، وہ لپٹنے والا ہے وہ بہنے والے پانی کی طرح ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جبریل علیہ السلام مجھے مسلسل وصیت کرتے رہے پڑوسی کے متعلق یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ وارث نہ بنا دیا جائے۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن چار آدمیوں سے پڑھو دو کا تعلق مہاجرین سے ہے اور دو کا تعلق انصار سے ہے وہ چار آدمی یہ ہیں: (۱) حضرت عبداللہ بن مسعود (۲) سالم مولیٰ ابی حذیفہ (۳) ابی بن کعب (۴) معاذ بن جبل رضی اللہ عنہم۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کو ایک بات کے ساتھ خاص کیا، وہ یہ تھا کہ جس کا ارادہ ہو کہ قرآن اس طرح پست آواز میں

وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَسَكَّتْ سُفْيَانُ عَنِ الثَّلَاثِ، فَلَمْ يَذْكُرْهَا

2402 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ وَلَهُ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا أَوْ قِيمَتُهَا فَهُوَ مُلْحَفٌ، وَهُوَ مِثْلُ سَقِّ الْمَاءِ

2403 - وَبِهِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا زَالَ جِبْرِيلُ يُوصِيَنِي بِالْجَارِ حَتَّى ظَنَنْتُ أَنَّهُ سَيُورِثُهُ

2404 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خُذُوا الْقُرْآنَ مِنْ أَرْبَعَةٍ: رَجُلَيْنِ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ، وَرَجُلَيْنِ مِنَ الْأَنْصَارِ: مِنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَسَالِمِ مَوْلَى أَبِي حُدَيْفَةَ، وَأَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَمُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَخَصَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ بِكَلِمَةٍ قَالَ: مَنْ أَرَادَ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْ بِقِرَاءَةِ ابْنِ مَسْعُودٍ

2402 - أخرجه النسائي: الزكاة جلد 5 صفحہ 73 (باب الاحاف في المسألة) والبيهقي في الكبرى جلد 7 صفحہ 39 رقم

الحديث: 13211 .

2403 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 341 رقم الحديث: 5152، والترمذی: البر والصلة جلد 4 صفحہ 333 رقم

الحديث: 1943، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 218 رقم الحديث: 6503 .

2404 - أخرجه البخاری: مناقب الأنصار جلد 7 صفحہ 158 رقم الحديث: 3808، ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4

صفحہ 1913

پڑھے جس طرح نازل ہوا ہے وہ قرآن عبد اللہ بن مسعود کی قرأت پر پڑھے۔

یہ تمام احادیث داؤد بن شایبہ سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں رمادی اکیلے ہیں۔

حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما انہوں نے فرمایا: اے معاویہ بن خدیج! ہم سے بغض رکھنے سے پرہیز کرو بے شک حضور ﷺ نے فرمایا: جو ہم سے بغض اور حسد کرے گا اس کو قیامت کے دن حوض سے آگ کے ڈنڈوں کے ساتھ ہٹا دیا جائے گا۔

یہ حدیث شریک سے صرف عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طفیل بن عمرو الدوسی رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کے پاس آئے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ کو مضبوط قلعہ اور حفاظت کی ضرورت ہے؟ مراد ہمارا قلعہ تھا جو قبیلہ بنی دوس کا زمانہ جاہلیت میں تھا حضور ﷺ نے لینے سے انکار کر دیا کیونکہ یہ توفیق اور سعادت مندی اللہ عزوجل نے انصار کے لیے رکھ دی تھی جب حضور ﷺ مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے آئے تو حضرت طفیل بن عمرو نے آپ کی طرف ہجرت کی آپ کے ساتھ آپ کی

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ شَابُورَ إِلَّا سُفْيَانُ، تَفَرَّدَ بِهَا الرَّمَادِيُّ

2405 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍو الْوَاقِعِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حُدَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ: يَا مُعَاوِيَةُ بْنُ حُدَيْجٍ، إِنِّي كُفْرًا وَأَبْرَأُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبْغِضُنَا وَلَا يَحْسُدُنَا أَحَدٌ إِلَّا ذِيْدٌ عَنِ الْحَوْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِسِيْاطٍ مِنْ نَارٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

2406 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ الصَّوَّافِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ الطَّفِيلَ بْنَ عَمْرٍو الدَّوْسِيَّ، أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ لَكَ فِي حِصْنِ حَصِينٍ وَمَنْعَةٍ؟ يُرِيدُ حِصْنًا كَانَ لِدَوْسٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَبَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ لِلَّذِي ذَخَرَ اللَّهُ لِلْأَنْصَارِ، فَلَمَّا هَاجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَدِينَةِ هَاجَرَ إِلَيْهِ الطَّفِيلُ بْنُ عَمْرٍو،

2405- انظر: لسان الميزان جلد3 صفحہ320 . وانظر: مجمع الزوائد جلد9 صفحہ175 .

2406- أخرجه مسلم: الايمان جلد1 صفحہ108، وأحمد: المسند جلد3 صفحہ453 رقم الحديث: 14992 .

وَهَاجَرَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنْ قَوْمِهِ، فَاجْتَوَى الرَّجُلُ
الْمَدِينَةَ، فَجَزِعَ، فَاحْتَدَّ مَشَاقِصَ لَهُ، لَفَقَطَعَ بِهَا
بَرَاجِمَهُ، فَشَخَبَتْ يَدَاهُ حَتَّى مَاتَ، فَرَأَاهُ الطُّفَيْلُ بْنُ
عَمْرٍو فِي مَنَامِهِ، فَرَأَاهُ فِي هَيْئَةٍ حَسَنَةٍ، وَرَأَاهُ يُعْطِي
يَدَيْهِ، فَقَالَ: مَا صَنَعَ بِكَ رَبُّكَ؟ فَقَالَ: غَفَرَ لِي
بِهِجْرَتِي إِلَى نَبِيِّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: مَا
لِي أَرَاكَ مُغَطِّيًا يَدَيْكَ؟ قَالَ: قِيلَ لِي: لَنْ نُصَلِّحَ
مِنْكَ مَا أَفْسَدْتَ، فَقَضَّهَا الطُّفَيْلُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: اللَّهُمَّ
وَلْيَدِيهِ فَاعْفُرْ

قوم کے ایک آدمی نے بھی ہجرت کی وہ آدمی مدینہ پاک
میں بیمار ہو گیا اور بیماری زیادہ ہو گئی اس نے بانس کی
لکڑی لی اس کے ساتھ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کے جوڑ
کاٹنے لگے اس کی وجہ سے خون بہا اور وہ مر گیا۔ حضرت
طفیل نے اس کو خواب میں دیکھا تو اچھی حالت میں دیکھا
اور اس کو دیکھا وہ اپنے ہاتھ چھپا رہا ہے۔ حضرت طفیل
نے فرمایا: تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا کیا؟ آپ
نے کہا: مجھے حضور ﷺ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ
سے بخش دیا۔ میں نے کہا: تو اپنے ہاتھ کیوں چھپا رہا
ہے؟ اس نے کہا: مجھے کہا گیا ہے کہ جس کو تو نے بگاڑا ہے
ہم اس کو درست نہیں کریں گے۔ حضرت طفیل نے حضور
ﷺ سے خواب بیان کیا تو حضور ﷺ نے عرض کی:
اے اللہ! اس کے ہاتھوں کو درست فرما دے اور اسے
معاف کر دے!

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا
حَجَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَادٌ
2407 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو
الضَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو شَيْبَةَ اِبْرَاهِيمُ بْنُ عُمَانَ، عَنِ
الْحَكِّمِ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُكَيْمٍ قَالَ: آتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى
أَرْضِ جُهَيْنَةَ قَبْلَ وَفَاتِهِ بِشَهْرَيْنِ: أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنْ
الْمَيْتَةِ يَا هَابٍ وَلَا عَصَبٍ

حضرت ابو زبیر سے یہ حدیث حضرت حجاج نے ہی
روایت کی ہے۔ اس کے ساتھ حضرت حماد اکیلے ہیں۔
حضرت عبداللہ بن عکیم رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ ہمارے پاس حضور ﷺ کا خط آیا سرزمین جہینہ
کی طرف سے آپ کی وفات سے بیس دن پہلے وہ خط یہ
تھا کہ مردہ کھال اور پٹھوں سے نفع نہ اٹھایا جائے۔

2407- أخرجه أبو داؤد: اللباس جلد 4 صفحہ 66 رقم الحديث: 4128، والترمذی: اللباس جلد 4 صفحہ 222 رقم

الحديث: 1729، والنسائی: الفرع جلد 7 صفحہ 154 (باب ما يديغ به جلود الميتة) وابن ماجه: اللباس جلد 2

صفحہ 1194 رقم الحديث: 3613، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 381 رقم الحديث: 18808.

کہ ایک جہنمی کی دونوں کانوں کی لوؤں سے اس کی گردن تک سات سو سال کے برابر مسافت ہوگی، اس کی جلد کی موٹائی چالیس ہاتھ ہوگی، ان کی داڑھ اُحد پہاڑ سے بڑی ہوگی۔

اس حدیث کو ابو یحییٰ سے صرف عمران نے روایت کیا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ اللہ عزوجل اس کے رزق میں برکت دے اور اس کی عمر لمبی کرے وہ صلہ رحمی کرے۔

یہ حدیث ابن ابی حسین سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ (کوئی) شی پیتے وقت تین سانس میں پیتے تھے۔

یہ حدیث یمان سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت یعلیٰ بن سیاہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ النَّارِ لَيُعْظَمُونَ لِلنَّارِ، حَتَّى يَصِيرَ مَا بَيْنَ شَحْمَةِ أُذُنَيْهِ إِلَى عَاتِقَيْهِ مَسِيرَةَ سَبْعِمِائَةِ عَامٍ، وَغَلْظُ جِلْدِهِ أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا، وَضَرْسُهُ أَعْظَمَ مِنْ أَحَدٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَحْيَى إِلَّا عِمْرَانَ

2411 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الرَّزَجِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُعْظَمَ اللَّهُ رِزْقَهُ، وَأَنْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَجَلِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ أَبِي حُسَيْنٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

2412 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ

بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا الْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَشْرَبُ فِي ثَلَاثَةِ أَنْفَاسٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَمَانَ إِلَّا حَجَّاجُ

2413 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ

2411 - أخرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحہ 353 رقم الحديث: 2067، ومسلم: البر جلد 4 صفحہ 1982، وأحمد:

المسند جلد 3 صفحہ 191 رقم الحديث: 12595 .

2412 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 84 .

2413 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4 صفحہ 172 . انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 96 .

کہ وہ حضور ﷺ کے ہم زمانہ ہیں کہ آپ ﷺ ایک قبر پر تشریف لائے تو دیکھا اس قبر والے کو عذاب ہو رہا ہے آپ نے فرمایا: یہ قبر والا لوگوں کی چغلی کرتا تھا پھر آپ نے کھجور کی ایک سبز شاخ منگوائی اس کو قبر پر رکھ دیا اور فرمایا: یقیناً اس کے سبز رہنے تک اللہ عزوجل اس کے عذاب میں تخفیف کرتا رہے گا۔

الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ بَهْدَلَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ يَعْلَى بْنِ سِيَابَةَ، أَنَّهُ عَهَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَى عَلَى قَبْرِ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ، فَقَالَ: إِنَّ هَذَا كَانَ يَأْكُلُ لُحُومَ النَّاسِ ثُمَّ دَعَا بِجَرِيدَةٍ رَطْبَةٍ، فَوَضَعَهَا عَلَى قَبْرِهِ، وَقَالَ: لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُ مَا دَامَتْ هَذِهِ رَطْبَةً

یہ حدیث عاصم سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا حَمَادٌ

فائدہ: معلوم ہوا کہ قبروں پر پھول ڈالنا اچھی بات ہے، اگر گنہگار ہوگا تو اس سے گناہ معاف ہوں گے اور اگر نیک ہو تو درجات بلند ہوں گے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ہم کو نکاح کا خطبہ سکھاتے تھے: (وہ خطبہ یہ ہے) ”الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (الاحزاب: 70) الْآيَةُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 102) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ

2414 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُطْبَةَ الْحَاجَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنُسْتَعِينُهُ، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا) (الاحزاب: 70) الْآيَةُ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

2414 - أخرجه أبو داود: النكاح جلد 2 صفحہ 245 رقم الحدیث: 2118، والترمذی: النكاح جلد 3 صفحہ 404 رقم

الحدیث: 1105، وابن ماجه: النكاح جلد 1 صفحہ 609 رقم الحدیث: 1892، وأحمد: المسند جلد 1

صفحہ 510 رقم الحدیث: 3719، والطبرانی فی الکبیر جلد 1 صفحہ 98-99 رقم الحدیث: 10080.

مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (النساء: 1) الْآيَةَ -

مُسْلِمُونَ) (آل عمران: 102) (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ) (النساء: 1) الْآيَةَ

یہ حدیث حماد سے صرف ابو عمر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا أَبُو عَمْرٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں حضرت جریر رضی اللہ عنہ کے پاس ٹھہرا آپ میری خدمت کرتے تھے حالانکہ آپ مجھ سے بڑے تھے حضرت جریر نے فرمایا: میں نے انصار کو دیکھا کہ حضور ﷺ کی جیسی خدمت انصار صحابہ نے کی ایسی خدمت کوئی نہیں بجالایا اس لیے میں نے ان میں سے ہر ایک سے محبت کی۔

2415 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَرْعَرَةَ قَالَ: نَا شُعْبَةَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: صَحِبْتُ جَرِيرًا، فَكَانَ يَخْدُمُنِي، وَكَانَ أَكْبَرَ مِنْ أَنَسٍ وَقَالَ جَرِيرٌ: رَأَيْتُ الْأَنْصَارَ يَصْنَعُونَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا لَا أَرَى أَحَدًا مِنْهُمْ إِلَّا أَحَبَبْتُهُ عَلَيْهِ

یہ حدیث شعبہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مُحَمَّدٌ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ روم کے بادشاہ نے حضور ﷺ کی طرف ہدیہ بھیجا اس ہدیہ میں ایک گھڑا تھا اس میں زنجبیل تھی آپ نے ہر صحابی کو اس سے ایک ٹکڑا کھلایا اور مجھے بھی اس سے ایک ٹکڑا کھلایا۔

2416 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ قَالَ: نَا شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ زَيْدٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: أَهْدَى مَلِكُ الرُّومِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدَايَا، وَكَانَ فِيهَا أَهْدَى إِلَيْهِ جَرَّةٌ فِيهَا زَنْجَبِيلٌ، فَاطْعَمَ كُلَّ إِنْسَانٍ قِطْعَةً، وَأَطْعَمَنِي قِطْعَةً

یہ حدیث شعبہ سے صرف عمرو ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَمْرُو

2415- أخرجه البخاری: الجهاد جلد 6 صفحہ 98 رقم الحدیث: 2888، ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4 صفحہ 1951،

والطبرانی فی الكبير جلد 2 صفحہ 293 .

2416- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 48 .

ہیں۔

حضرت ہشام بن زید بن انس اپنے دادا حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک یہودی عورت حضور ﷺ کے پاس زہر ملی بکری لے کر آئی آپ نے اس سے کھایا اس کے بعد اس عورت کو لایا گیا آپ سے عرض کی گئی: کیا ہم اس کو قتل نہ کر دیں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں مسلسل حضور ﷺ کے منہ مبارک سے پچھانتا رہا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف خالد اور روح بن عبادہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو اسود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو دیکھا کہ آپ ﷺ مسفلہ کے قریب لوگوں سے بیعت لے رہے ہیں آپ کے پاس مرد عورتیں بچے بڑے آ رہے ہیں اور وہ اسلام اور شہادت پر بیعت کر رہے ہیں میں نے عرض کی: شہادت سے مراد کیا ہے؟ مجھے محمد بن اسود نے بتایا: شہادت سے مراد لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ کی گواہی دینا ہے۔

یہ حدیث اسود سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابن جریج اکیلے ہیں۔

2417- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ جَدِّهِ أَنَسٍ، أَنَّ امْرَأَةً يَهُودِيَّةً آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ مَسْمُومَةٍ، فَآكَلَ مِنْهَا، فَجِئَ بِهَا، فَقِيلَ: أَلَا نَقْتُلُهَا؟ قَالَ: لَا فَمَا زِلْتُ أَعْرِفُهَا فِي لَهَوَاتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا خَالِدٌ وَرَوْحُ بْنُ عِبَادَةَ

2418- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الْأَسْوَدِ بْنِ خَلْفٍ أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَاهُ الْأَسْوَدَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ عِنْدَ قَرْنٍ مَسْفَلَةٍ، فَجَاءَهُ الرَّجَالُ وَالنِّسَاءُ وَالصَّغِيرُ وَالْكَبِيرُ، فَبَايَعُوهُ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالشَّهَادَةِ قُلْتُ: وَمَا الشَّهَادَةُ؟ فَأَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْأَسْوَدِ قَالَ: عَلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَأُيْرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْأَسْوَدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ

2417- أخرجه البخارى: الهبة جلد5 صفحہ 272 رقم الحديث: 2617، ومسلم: السلام جلد4 صفحہ 1721 .

2418- أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد3 صفحہ 415، والطبرانی في الكبير جلد5 صفحہ 8، والحاكم في مستدرک

جلد3 صفحہ 296 . انظر: مجمع الزوائد جلد6 صفحہ 40 .

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: صفیں مکمل کرو، اگر کوئی کمی ہو تو پچھلی صف میں۔

یہ حدیث سعید سے صرف ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ریشم اور مصمت سے منع کیا، بہر حال جس کا تانا یا بانا ریشم کا ہو، اس کو پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے اور آپ نے چاندی کے برتن سے منع کیا۔

یہ حدیث ضعیف سے روایت ہے، وہ سعید اور عکرمہ سے روایت کرتے ہیں اور ضعیف سے صرف ابن جریج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن قرط رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کے ہاں سب دنوں سے افضل دن قربانی کا دن ہے، پھر نویں ذی الحجہ کا دن جس میں لوگ (میدان عرفات میں) ٹھہرتے ہیں، وہ یوم نحر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ حضور ﷺ کی بارگاہ میں پانچ یا چھ

2419 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّمُوا الصُّفُوفَ، فَإِنْ كَانَ نَقْصَانٌ فِيهِ الْمُؤَخَّرِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

2420 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: إِنَّمَا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِيرِ الْمُصْمَتِ، فَإِنَّمَا أَنْ يَكُونَ سَدَاهُ أَوْ لِحْمَتُهُ حَرِيرًا فَلَا بَأْسَ بِلُبْسِهِ وَنَهَى عَنِ الْإِنَاءِ الْفُضَّةِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُصَيْفٍ عَنِ سَعِيدٍ وَعِكْرِمَةَ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ

2421 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَفْضَلُ الْإَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمُ الْقَرِّ يَسْتَقَرُّ فِيهِ النَّاسُ، وَهُوَ

2419 - أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 177 رقم الحدیث: 671 والنسائی: الامامة جلد 2 صفحہ 72 (باب الصف

المؤخر) وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 163 رقم الحدیث: 12360 .

2420 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 79 .

2421 - أخرجه أبو داؤد: المناسك جلد 2 صفحہ 153 رقم الحدیث: 1765، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 427 رقم

الحدیث: 19099 .

اونٹ پیش کیے گئے (جب ان اونٹوں کو پتہ چلا کہ حضور نے ہمیں ذبح کرنا ہے) تو وہ ایک دوسرے کو سر مار مار کے آپ کی طرف بڑھ رہے تھے کہ جس سے آپ چاہیں ابتداء کریں جب وہ کروٹ کے بل گر پڑے تو حضور ﷺ نے ایک پوشیدہ کلمہ فرمایا، میں اس کو سمجھ نہ سکا، میں نے اپنے پہلو میں کھڑے آدمی سے پوچھا: آپ نے کروٹ کے بل گراتے وقت کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا: جو چاہے اس میں حصہ لے۔

یہ حدیث عبداللہ بن قرطہ سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ثورا کیلے ہیں۔

حضرت أم حبیبة بنت عرباض بن ساریہ اپنے والد سے روایت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے خیبر کے دن ہر کچلیوں والے درندے اور ہر بچوں سے شکار کرنے والے پرندے اور نوک سے کرنے والوں سے منع کیا اور حاملہ سے وحی کرنے سے یہاں تک کہ وہ جن دے جو ان کے پیٹ میں ہے۔

حضرت أم حبیبة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مالِ فنی سے ویر لیا، اس کے بعد فرمایا: مجھے کیا اس سے جو تم میں کوئی لیتا ہے سوائے خمس کے، وہ تم پر مردود ہے، سوئی اور دھاگہ ہے تم خیانت سے بچو، کیونکہ

الَّذِي يَلِي النَّحْرَ، فُذِمَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدَنَاتٌ خَمْسٌ أَوْ سِتٌّ، فَجَعَلَن يَزْدَلْفَن إِلَيْهِ، بَأْتِهِنَّ يَبْدَأُ، فَلَمَّا وَجِبَتْ جُنُوبُهَا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلِمَةً خَفِيَّةً لَمْ أَفْهَمَهَا، فَقُلْتُ لِلَّذِي إِلَى جَنبِي: مَا قَالَ؟ قَالَ: مَنْ شَاءَ افْتَطَعَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرْطِطٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ثَوْرٌ

2422 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ وَهْبِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ، عَنْ أَبِيهَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ، وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ وَنَهَى عَنِ الْمُجَثَّمَةِ وَأَنْ تَوَطَّأَ الْحَبَالَى حَتَّى يَضَعَنَّ مَا فِي بَطُونِهِنَّ

2423 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَخَذَ وَبَرَةً مِنَ الْفَيْءِ فَقَالَ: مَا لِي مِنْ هَذِهِ إِلَّا مَا لِأَحَدِكُمْ إِلَّا الْخُمْسُ، وَهُوَ مَرْدُودٌ عَلَيْكُمْ، فَرُدُّوا الْخَيْطَ وَالْمَخِيطَ، وَإِيَّاكُمْ وَالْعُلُولَ، فَإِنَّهُ عَارٌ

2422 - أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 157 رقم الحدیث: 17158، والطبرانی فی الکبیر جلد 18 صفحہ 259 رقم

الحدیث: 648 .

2423 - أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 157-158 رقم الحدیث: 17159، والطبرانی فی الکبیر جلد 18

صفحہ 259-260 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 34 .

وَسَنَارٌ وَنَارٌ

یہ عار اور نقصان اور آگ ہے۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَانِ عَنِ الْعُرْبَاضِ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا أَبُو عَاصِمٍیہ دونوں حدیثیں عرباض سے اسی سند سے روایت
ہیں ان دونوں کے ساتھ ابو عاصم اکیلے ہیں۔

2424 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ

قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمِي عُمَارَةُ
بُنُ ثَوْبَانَ، أَنَّ أَبَا الطُّفَيْلِ، أَخْبَرَهُ قَالَ: كُنْتُ غُلَامًا
أَحْمِلُ عُضْوًا لِبَعِيرٍ، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْسِمُ لَحْمًا بِالْجِعْرَانَةِ، فَجَاءَتْهُ امْرَأَةٌ،
فَبَسَطَ لَهَا رِدَائَهُ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذِهِ؟ قِيلَ: أُمُّهُ الَّتِي
أَرْضَعَتْهُحضرت ابو طفیل فرماتے ہیں کہ میں بچہ تھا میں
اونٹ کا عضو اٹھا سکتا تھا، اس کے بعد میں نے
حضور ﷺ کو دیکھا، آپ مقام جعرانہ پر گوشت تقسیم کر
رہے تھے ایک عورت آئی، آپ نے اپنی چادر اس کے
لیے بچھا دی، میں نے عرض کی: یہ کون عورت ہے؟ فرمایا
گیا: یہ وہ میری ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ إِلَّا

یہ حدیث ابو طفیل سے اسی سند سے روایت ہے اس
کو روایت کرنے میں ابو عاصم اکیلے ہیں۔

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ

2425 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ

قَالَ: أَنَا جَعْفَرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَمِيهِ عُمَارَةَ بْنِ ثَوْبَانَ،
عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَجَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ صُفُوفِ
الرِّجَالِ أَوْلَاهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا، وَخَيْرُ صُفُوفِ
النِّسَاءِ آخِرُهَا، وَشَرُّهَا أَوْلَاهَاحضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: مردوں کی سب سے بہتر صف
پہلی ہے اور بدترین صف آخری ہے اور عورتوں کی
بہترین صف آخری ہے اور بدترین صف پہلی ہے۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا

یہ حدیث ابن عباس سے اسی سند سے روایت ہے
اس کو روایت کرنے میں ابو عاصم اکیلے ہیں۔

الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ

2426 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

حضرت ابو شیبہ الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت

2424- أخرجه أبو داود: الأدب جلد4 صفحہ339 رقم الحديث: 5144. انظر: مجمع الزوائد جلد9 صفحہ262.

2425- أخرجه الطبرانی في الكبير رقم الحديث: 11497، والبزار جلد1 صفحہ249. انظر: مجمع الزوائد رقم

الحديث: 9612.

2426- انظر: مجمع الزوائد جلد1 صفحہ21.

ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

یہ حدیث ابی شیبہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو عاصم اکیلے ہیں۔

حضرت ابو بردہ بن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سواری کی پشت پر نماز اس طرح اس طرح اور اس طرح ہے (یعنی عملی طور پر کر کے دکھایا)۔

حضرت عمرو بن شرید اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مالدار آدمی کا نرم ہونا اس کی عزت اور سزا کو حلال و جائز بنا دیتا ہے۔

یہ حدیث شرید سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں وبرا اکیلے ہیں سفیان و بر سے حضرت سفیان نے اس کی تفسیر بیان کی ہے عرضہ سے مراد شکایت کرنا اور عقوبہ سے مراد اس کو روکنا ہے۔

عَاصِمٌ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مِشْرَحٍ أَوْ مِشْرَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا شَيْبَةَ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي شَيْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ

2427 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: نَا أَبُو بُرْدَةَ بْنُ أَبِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الصَّلَاةُ عَلَى ظَهْرِ الدَّابَّةِ هَكَذَا وَهَكَذَا وَهَكَذَا

2428 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ وَبْرِ بْنِ أَبِي ذَكِيْلَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْتُ الْوَاجِدُ يُجَلُّ عِرْضَهُ، وَعَقُوبَتَهُ

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الشَّرِيدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ وَبْرٌ، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ عَنْ وَبْرِ وَقَسَرَهُ سُفْيَانُ قَالَ: عِرْضُهُ أَنْ يَشْكُوهُ، وَعَقُوبَتُهُ حَبْسُهُ

2427- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 162 .

2428- أخرجه أبو داود: الأفضية جلد 3 صفحہ 312 رقم الحديث: 3628، والنسائي: البيوع جلد 7 صفحہ 278 (باب

مطل الغني) وابن ماجه: الصدقات جلد 2 صفحہ 811 رقم الحديث: 2427، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 474

رقم الحديث: 19475 .

حضرت عمرو بن شریدا اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے شعر سننے کی خواہش کی اس کے بعد فرمایا: کیا تم کو امیہ بن ابی صلت کے اشعار یاد ہیں میں نے سو اشعار سنائے جب ایک شعر ختم کر لیتا تو آپ فرماتے: رُک جاؤ! پھر حضور ﷺ نے فرمایا: قریب ہے کہ وہ اشعار ہی کی وجہ سے مسلمان ہو گیا ہو۔

2429 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: اسْتَشَدَّنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: هَلْ تَرَوِي مِنْ شِعْرِ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي الصَّلْتِ شَيْئًا؟، فَأَنْشَدْتُهُ مِائَةَ قَافِيَةٍ، فَجَعَلْتُ كُلَّمَا مَرَرْتُ عَلَى بَيْتٍ قَالَ: هِيَ نَمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَادَ أَنْ يُسَلِمَ فِي شِعْرِهِ

حضرت سراء بنت نبھان فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے ساجدہ الوداع کے موقع پر تم کیا جانتے ہو یہ کون سا دن ہے؟ حضرت سراء فرماتی ہیں: آج کے دن کو یوم الرؤس کہتے تھے صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول ﷺ زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: یہ ایام تشریق کے درمیان کا دن ہے پھر فرمایا: یہ کون سا شہر ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں! فرمایا: حرم کا شہر ہے پھر فرمایا: یقیناً اس سال کے بعد (اس مقام پر) تم سے ملاقات نہ ہوگی خبردار! تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر حرام ہیں اس دن اور اس شہر کی حرمت کی طرح یہاں تک کہ تم اپنے رب سے ملو اور تم سے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا خبردار! قریب والا دور والے کو پہنچا دے یہ پیغام۔ فرمایا: میں نے پہنچا دیا! جب ہم مدینہ آئے تو ہم ٹھوڑے ہی دن ٹھہرے تھے کہ آپ کا

2430 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ قَالَ: نَا رَبِيعَةَ بِنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حِصْنِ الْغَنَوِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سَرَاءُ ابْنَةُ نَبْهَانَ، وَكَانَتْ رَبَّةَ بَيْتٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: هَلْ تَدْرُونَ أَيَّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالَتْ: وَهُوَ الْيَوْمُ الَّذِي يَدْعُونَ يَوْمَ الرُّتُوسِ، قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: إِنَّ هَذَا أَوْسَطُ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ - قَالَ: هَلْ تَدْرُونَ أَيَّ بَلَدٍ هَذَا؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هَذَا مَشْعَرُ الْحَرَامِ، ثُمَّ قَالَ: إِنِّي لَعَلِّي لَا أَلْقَاكُمْ بَعْدَ عَامِي هَذَا، أَلَا وَإِنَّ دِمَانَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحَرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا، فِي بَلَدِكُمْ هَذَا، حَتَّى تَلْقُوا رَبَّكُمْ فَيَسْأَلَكُمْ عَنْ أَعْمَالِكُمْ، أَلَا فَلْيُبَلِّغُوا أَدْنَاكُمْ أَقْصَاكُمْ، أَلَا هَلْ بَلَغَتْ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ لَمْ نَلْبَثْ إِلَّا قَلِيلًا حَتَّى مَاتَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وصال ہو گیا۔

یہ حدیث براء بنت نبهان سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابو عاصم اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ عزوجل سے مانگتا نہیں ہے اللہ عزوجل اس سے ناراض ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابوصالح سے صرف ابولیح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم عطیہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک سریہ میں بھیجا، میں نے آپ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے ہوئے دعا کر رہے تھے: اے اللہ! مجھے موت نہ دینا یہاں تک کہ میں علی کو دیکھ لوں۔

یہ حدیث أم عطیہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو عاصم اکیلے ہیں۔

حضرت جناب بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَرَاءِ بِنْتِ نَهَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ

2431 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ

قَالَ: نَا أَبُو الْمَلِيحِ الْفَارِسِيُّ قَالَ: نَا أَبُو صَالِحِ الْخُوزَمِيُّ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَسْأَلُهُ عَزْرٌ وَجَلَّ يَعْصَبُ عَلَيْهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا أَبُو الْمَلِيحِ

2432 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي الْجَرَّاحِ قَالَ: حَدَّثَنِي جَابِرُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أُمِّ شَرَّاحِيلَ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ عَلِيًّا فِي سَرِيَّةٍ، فَرَأَيْتُهُ رَافِعًا يَدَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ لَا تُمَتِّنِي حَتَّى تَرِيَنِي عَلِيًّا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَاصِمٍ

2433 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ،

2431- أخرجه الترمذی: الدعاء جلد 5 صفحہ 456 رقم الحدیث: 3373، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 582 رقم

الحدیث: 9714 .

2432- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 643 رقم الحدیث: 3737، والطبرانی فی الکبیر جلد 24 صفحہ 168 .

2433- أخرجه مسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 454، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 385 رقم الحدیث: 18838

والطبرانی فی الکبیر جلد 2 صفحہ 158 رقم الحدیث: 1654 .

اللہ کے ذمہ میں ہے دیکھو! کہیں اللہ کا ذمہ تم پر غالب نہ آ جائے۔

عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصُّبْحَ كَانَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ، فَاَنْظُرْ لَا يَغْلِبَنَّكَ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے چھپنے لگوائے اس حالت میں کہ آپ حالت احرام میں تھے۔

2434 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ مُحْرِمٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا الْأَنْصَارِيُّ

یہ حدیث حبیب سے صرف انصاری ہی روایت کرتے ہیں۔

2435 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَاءٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنَبِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُكْسَرَ سِكَّةُ الْمُسْلِمِينَ الْجَائِزَةُ بَيْنَهُمْ إِلَّا مِنْ بَاسٍ، أَنْ يُكْسَرَ الدِّرْهَمُ، فَيُجْعَلَ فِضَّةً أَوْ يُكْسَرَ الدِّينَارُ فَيُجْعَلَ ذَهَبًا

حضرت علقمہ بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مسلمانوں کے سکے (کرنسی) توڑنے سے منع کیا جو ان میں رائج ہوں ہاں اگر ضرورت ہو کہ مثلاً درہم کو توڑ کر اس کو چاندی بنانا ہو یا دینار توڑ کر اس کا سونا بنانا ہو۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرْنَبِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ قُضَاءٍ

2436 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ

یہ حدیث عبد اللہ المرزنی سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں محمد بن قضاء اکیلے ہیں۔
حضرت عبد اللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ سے روایت

2434 - أخرجه البخاری: الطب جلد 10 صفحہ 157 رقم الحدیث: 5695-5694، وأبو داؤد: الصوم جلد 2

صفحہ 320 رقم الحدیث: 2373، والترمذی: الصوم جلد 3 صفحہ 137 رقم الحدیث: 775، وابن ماجه: الصيام

جلد 1 صفحہ 537 رقم الحدیث: 1682 .

2435 - أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحہ 269 رقم الحدیث: 3449، وابن ماجه: التجارات جلد 2 صفحہ 761 رقم

الحدیث: 2263، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 512 رقم الحدیث: 15463 .

2436 - أخرجه أبو داؤد: الترجل جلد 4 صفحہ 73 رقم الحدیث: 4159، والترمذی: اللباس جلد 4 صفحہ 234

ہے کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا مرد کا عورت کی اور عورت کا مرد کی مشابہت اختیار کرنے سے مگر کبھی ضرورت کے پیش نظر جائز ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ نکلے بارش مانگنے کے لیے۔ عرض کی: اے اللہ! جب ہم پر حضور ﷺ کے زمانہ میں قحط پڑتا تھا تو ہم تیزے نبی کا وسیلہ دیتے تھے اور ہم (اب) تیرے نبی کے چچا کا وسیلہ دیتے تھے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کی انگوٹھی پر تین سطریں لکھی ہوئی تھیں: ایک میں محمد ﷺ، دوسری میں رسول تیسری میں اللہ۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت سے پہلے فتنے ہوں گے اندھیری رات کے حصوں کی طرح، آدمی صبح کے وقت مؤمن ہوگا اور رات کو کافر لوگ (اپنے دین) کو دنیا کی حقیر ترین رقم کے بدلے دین فروخت کر دیں گے۔

قَالَ: نَاهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ التَّرْجُلِ إِلَّا غَبًّا

2437 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَاهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ النَّبِيِّ أَبِي، عَنِ ثَمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، أَنَّ عُمَرَ، خَرَجَ يَسْتَسْقِي، وَخَرَجَ بِالْعَبَّاسِ مَعَهُ يَسْتَسْقِي، فَيَقُولُ: اللَّهُمَّ إِنَّا كُنَّا إِذَا قَحِطْنَا عَلَىٰ عَهْدِ نَبِينَا تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِنَبِيِّكَ، اللَّهُمَّ وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّكَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2438 - وَبِهِ عَنْ ثَمَامَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ نَقُشُ خَاتَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَةَ أَسْطُرٍ: سَطْرٌ مُحَمَّدٌ، وَسَطْرٌ رَسُولٌ، وَسَطْرٌ اللَّهُ

2439 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَاهِشَامُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَاهِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَيْنَ يَدَيْ السَّاعَةِ فِتْنٌ كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، يَبِيعُ فِيهَا أَقْوَامٌ خَلَافَهُمْ بِعَرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا قَلِيلٍ

رقم الحديث: 1756، والنسائي: الزينة جلد 8 صفحہ 114 (باب الترجل غبا) وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 107

رقم الحديث: 16798 .

2437 - أخرجه البخاري: الاستسقاء جلد 2 صفحہ 574 رقم الحديث: 1010 .

2438 - أخرجه البخاري: الخمس جلد 6 صفحہ 244 رقم الحديث: 3106، والترمذي: اللباس جلد 4 صفحہ 230 رقم

الحديث: 1748 .

2439 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4 صفحہ 272-273 . وانظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 312 .

یہ حدیث نعمان سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے بھائی کے پاس آئے جو وہ کھانا دے اس کو کھائے اس سے مانگے نہ جو اس کو پینے کے لیے پانی دے وہ پئے اس سے مانگے نہ۔

یہ حدیث زید سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن حبش رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے پیری کا درخت کاٹا اللہ عزوجل اس کے سر کو جہنم میں جھکا دے گا یعنی حرم شریف کے پیری کا درخت کاٹنا مراد ہے۔

یہ حدیث عبداللہ بن حبش سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابن جریج اکیلے ہیں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے بناء کعبہ کی بنیاد کے متعلق وہ فرماتے ہیں کہ جب

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ النَّعْمَانِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُبَارَكٌ

2440 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا مُسْلِمٌ بِنُ خَالِدِ الزُّنَجِيِّ، عَنْ زَيْدِ
بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا
دَخَلَ أَحَدُكُمْ عَلَى أَخِيهِ، فَطَاعَمَهُ مِنْ طَعَامِهِ
فَلْيَأْكُلْ، وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ، وَإِنْ سَقَاهُ مِنْ شَرَابِهِ
فَلْيَشْرَبْ وَلَا يَسْأَلْ عَنْهُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

2441 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو
عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَلَيْمَانَ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِشَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَطَعَ
سِدْرَةَ صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ - يَعْنِي مِنْ سِدْرِ
الْحَرَمِ.

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِشَةَ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ

2442 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ
الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي

2440 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2 صفحہ 399، والحاکم فی مستدرکہ جلد 4 صفحہ 126 . انظر: مجمع

الزوائد جلد 5 صفحہ 48 .

2441 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 287 .

2442 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 232 .

انہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا دروازے سے داخل ہوتے ہوئے تو صحابہ کرام نے فرمایا: امین آیا ہے۔

هِنْدِي، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ عَرْعَرَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، فِي بِنَاءِ الْكَعْبَةِ قَالَ: لَمَّا رَأَوْا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ دَخَلَ مِنَ الْبَابِ، قَالُوا: قَدْ جَاءَ الْأَمِينُ

یہ حدیث داؤد سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا حَمَادٌ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے اور نہ اللہ عزوجل ان کی طرف قیامت کے دن نظر رحمت کرے گا، بہر حال وہ تین جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے وہ یہ ہیں: (۱) ماں باپ کا نافرمان (۲) دیوث جس کی عورت آوارہ پھرتی ہو (۳) وہ عورت جو بناؤ سنگھار مردوں کی طرح کرتی ہو، بہر حال وہ تین جن کی طرف اللہ عزوجل نظر رحمت نہیں کرے گا، وہ یہ ہیں: ماں باپ کا نافرمان، شرابی، دے کر احسان جتلانے والا۔

2443 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ يَسَارٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وَثَلَاثَةٌ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: فَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ: فَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالذَّيُّوثُ، وَالْمَرْأَةُ الْمُتَرَجِّلَةُ تَشْبَهُ بِالرِّجَالِ، وَأَمَّا الثَّلَاثَةُ الَّذِينَ لَا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَيْهِمْ: فَالْعَاقُ لِوَالِدَيْهِ، وَالْمُدْمِنُ الْخَمْرَ، وَالْمَنَانُ بِمَا أَعْطَى

یہ حدیث سالم سے صرف عبداللہ بن یسار الاعرج ہی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے میں عمر بن محمد العمری اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ الْأَعْرَجُ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعُمَرِيُّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوطیبہ نے حضور ﷺ کو پچھنا لگایا، اس کے بعد آپ کے پاس عیینہ بن حصن یا اقرع بن حابس

2444 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: حَجَمَ أَبُو

2443 - أخرجه النسائي: الزكاة جلد 5 صفحہ 60 (باب المنان بما أعطى) وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 182 رقم

الحديث: 6185 والطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 302 رقم الحديث: 13180 .

2444 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 94-95 .

آپ کے پاس آئے عرض کی: یہ کیا ہے؟ فرمایا: یہ پچھنا ہے یہ بہتر ہے اس سے جو تم دوالیتے ہو۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے پچھنا لگوایا حالت احرام میں کیونکہ آپ کے سر میں تکلیف تھی۔

یہ دونوں حدیثیں حمید سے صرف عبداللہ بن عمر العمری ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابی واقد اللیثی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس آتے جب آپ پر قرآن پاک سے کوئی شی نازل ہوتی، آپ ہم کو فرماتے: ہمارے لیے ایک دن ہے اللہ عزوجل فرماتا ہے: ہم مال اس لیے نازل فرمایا نماز قائم کرنے کے لیے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اگر انسان کے پاس ایک وادی ہو مال کی تو وہ چاہے کہ دوسری بھی ہو اگر اس کے پاس دو ہوں تو وہ چاہے گا کہ تیسری بھی ہو انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی اللہ تو بہ قبول کرتا ہے جس کی چاہتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ کو سیر کروائی گئی تو آپ نے صبح مکہ میں کی آپ علیحدہ پریشان تشریف فرماتے تھے آپ کے پاس اللہ کا دشمن ابو جہل آیا گویا وہ آپ سے مذاق کر رہا تھا کہ کیا آپ کے پاس کوئی شی ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں!

طَيِّبَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ عِيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ أَوْ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: هَذَا الْحَجُّمُ، وَهُوَ خَيْرٌ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ - 2445 - وَيَه أَن رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ مِنْ وَجِعٍ وَجَدَهُ فِي رَأْسِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْعَمْرِيُّ

2446 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُحَبَّبِ أَبِي هَمَّامِ الدَّلَّالِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي وَقْدِ اللَّيْثِيِّ قَالَ: كُنَّا نَأْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَإِذَا نَزَلَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنَ الْقُرْآنِ قَالَ لَنَا، فَقَالَ لَنَا يَوْمًا: قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: إِنَّا أَنْزَلْنَا الْمَالَ لِإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِتْيَاءِ الزَّكَاةِ، وَلَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادٍ مِنْ مَالٍ لَا يَبْتَغِي إِلَيْهِ الثَّانِي، وَلَوْ أَنَّ لَهُ الثَّانِي لَا يَبْتَغِي إِلَيْهِ الثَّلَاثُ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

2447 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْمُؤَدَّبِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: لَمَّا أُسْرِيَ بَنِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاصْبَحَ بِمَكَّةَ، جَلَسَ مُعْتَزِلًا حَزِينًا، فَاتَى عَلَيْهِ عَدُوُّ اللَّهِ أَبُو جَهْلٍ، فَقَالَ كَأَلْمُسْتَهْزِءِ: هَلْ

2446 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحہ 218-219 . انظر : مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 143 .

2447 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحہ 309 . انظر : مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 68 .

كَانَ مِنْ شَيْءٍ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَاذَا؟ قَالَ: أُسْرِيَ بِيَ
الَّيْلَةَ إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ قَالَ: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ
ظَهْرَيْنِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ - فَلَمْ يَرِهِ أَنَّهُ يُكَذِّبُهُ مَخَافَةَ أَنْ
دَعَا إِلَيْهِ قَوْمَهُ أَنْ يَجْحَدَهُ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: أَرَأَيْتَ
إِنْ دَعَوْتُ إِلَيْكَ قَوْمَكَ أَنْ حَدَّثْتَهُمْ بِمَا حَدَّثْتَنِي؟
قَالَ: نَعَمْ فَقَالَ أَبُو جَهْلٍ: حَدَّثْتَ قَوْمَكَ بِمَا
حَدَّثْتَنِي، فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ أُسْرِيَ بِيَ
الَّيْلَةَ؟ فَقَالُوا: إِلَى آيِنَ؟ قَالَ: إِلَى بَيْتِ الْمَقْدِسِ
قَالُوا: ثُمَّ أَصْبَحْتَ بَيْنَ أَظْهُرِنَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَمِنْ
مُصَفِّقٍ، وَمِنْ وَاصِعٍ يَدُهُ عَلَى رَأْسِهِ مُسْتَعِجِبًا
لِلْكَذِبِ، رَعَمَ، وَفِي الْقَوْمِ مَنْ قَدْ سَافَرَ إِلَى ذَلِكَ
الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: اتَّسَطِيعُ أَنْ تَنْعَتَ لَنَا الْمَسْجِدَ؟
قَالَ: نَعَمْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَعْتُهُ
لَهُمْ حَتَّى التَّبَسَّ عَلَيَّ بَعْضُ النَّعْتِ، فِجِيءَ
بِالْمَسْجِدِ وَأَنَا أَنْظُرُ إِلَيْهِ حَتَّى وُضِعَ دُونَ دَارِ
عَقِيلٍ، أَوْ دَارِ عِقَالٍ، فَجَعَلْتُ أُنَعِّتُهُ لَهُمْ وَأَنَا أَنْظُرُ
إِلَيْهِ فَقَالَ الْقَوْمُ: أَمَّا النَّعْتُ، وَاللَّهِ، فَقَدْ أَصَابَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَوْفٌ

2448 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْقَعْنَبِيُّ

قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ حُبَيْبِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

2448 - انظر: مجمع البحرين (3235).

ابو جہل نے کہا: وہ کیا ہے؟ فرمایا: وہ یہ ہے کہ مجھے بیت
المقدس تک رات کو سیر کروائی گئی پھر میں نے صبح
تمہارے درمیان کی ہے اس نے کہا: ٹھیک ہے۔ اس نے
کہا: اگر میں آپ کے پاس تیری قوم کو لے کر آؤں تو اُن
کو وہی بتانا جو مجھے بتایا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جی
ہاں! ابو جہل نے کہا: آپ اپنی قوم کو بتائیں جو مجھے بتایا
ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے اس رات سیر کروائی گئی
ہے انہوں نے کہا: کہاں تک؟ فرمایا: بیت المقدس تک
انہوں نے کہا: ہاں! پھر آپ نے صبح تو ہمارے درمیان
کی ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! ابو جہل نے تعجب
کرتے ہوئے اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیا، قوم میں ایک آدمی
تھا اس نے اُس مسجد تک سفر کیا ہوا تھا۔ اس نے کہا: کیا
آپ ہم کو مسجد کی تفصیل بتائیں گے؟ آپ نے فرمایا: جی
ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے اُن کو ساری تفصیل
بتائی یہاں تک کہ بعض اس کی صفت مجھ پر ملتیس ہو گئی
پھر اس کے بعد مسجد میرے سامنے رکھ دی گئی میں اس کی
طرف دیکھ رہا تھا، میں اُن کو بتاتا دیکھ دیکھ کر قوم نے
عرض کی: آپ نے درست حالت بتائی ہے۔

یہ حدیث عبداللہ بن عباس سے اسی سند سے
روایت ہے اُن سے روایت کرنے میں عوف اکیلے
ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی جنت والے کام کرتا
ہے ۷۰ سال تک اس کا خاتمہ جہنمی کام کرتے ہوئے ہوتا

ہے وہ جہنمی ہو جاتا ہے ایک بندہ جہنم والے کام کرتا ہے
۰۷ سال تک وہ عمل جنت والا کرتا ہے تو وہ جنتی ہو جاتا
ہے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ
الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمَ
لَهُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ
لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُخْتَمَ لَهُ بِعَمَلِ
أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُبَيْبٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

یہ حدیث خبیب سے صرف عبداللہ ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت ابی سلامہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے
ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں آدمی کو وصیت کرتا ہوں کہ وہ
اپنی ماں سے اچھا سلوک کرے وہ اپنے باپ سے اچھا
سلوک کرے اور اپنے غلاموں سے اچھا سلوک کرے
اگر اس نے اس کو تکلیف دی تو اس کو تکلیف دی جائے
گی۔

2449 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا شَيْبَانُ أَبُو مَعَاوِيَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عُرْفُطَةَ السُّلَمِيِّ، عَنْ
خِدَاشِ أَبِي سَلَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: أَوْصِي امْرَأًا بِأَمِّهِ، أَوْصِي امْرَأًا بِأَبِيهِ، أَوْصِي
امْرَأًا بِمَوْلَاهُ الَّذِي يَلِيهِ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ مِنْهُ أَذَاهُ
تُوذِيهِ

یہ حدیث خراش سے اسی سند سے روایت ہے ان
سے روایت کرنے میں منصور اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ خِدَاشِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس کسی کو ہدیہ دیا جائے وہاں
لوگ موجود ہوں وہ اس ہدیہ میں برابر کے شریک ہیں۔

2450 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ
زَيْدٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مِندَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ،
عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَهْدَيْتَ إِلَيْهِ هَدِيَّةً،
وَعِنْدَهُ قَوْمٌ، فَهَمَّ شُرَكَاءُوهُ فِيهَا

2449- أخرجه ابن ماجة: الأذب جلد 2 صفحہ 1206 رقم الحدیث: 3657، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 382 رقم

الحدیث: 18815، والحاكم فی المستدرک جلد 4 صفحہ 150، والطبرانی فی الکبیر جلد 4 صفحہ 219 رقم

الحدیث: 4184 .

2450- أخرجه الطبرانی فی الکبیر رقم الحدیث: 11183 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 151 .

یہ حدیث عمرو سے ابن جریج ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں مندل اکیلے ہیں ابن عباس سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ کی طرف ہجرت کی، ہم دروازے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے آپ نے دو آدمیوں سے سنا، وہ ایک آیت میں اختلاف کر رہے ہیں آپ ﷺ کی طرف نکلے تو غصہ آپ کے چہرے سے معلوم ہو رہا تھا، آپ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگ ہلاک ہی زیادہ اختلاف کرنے کی وجہ سے ہوئے۔

یہ حدیث عبداللہ بن رباح سے صرف ابو عمران الجونی ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حماد اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ سے اس چوہے کے متعلق پوچھا گیا جو جئے ہوئے گھی میں گر جائے، آپ نے فرمایا: جو اس کے ارد گرد لگا ہے اس کو پھینک دو پھر بقیہ کھا لو۔

یہ حدیث زہری سعید سے اور زہری سے صرف معمر اور معمر سے صرف یزید اور عبدالواحد بن زیاد ہی روایت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مِّنْدَلٌ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2451 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ قَالَ: كَتَبَ إِلَيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رِبَاحٍ، يُحَدِّثُنِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَفَعَدْنَا بِالْبَابِ، فَسَمِعَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ، خَرَجَ إِلَيْنَا يُعْرِفُ الْغَضَبُ فِي وَجْهِهِ، فَقَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ اخْتِلَافِهِمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رِبَاحٍ إِلَّا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَّادٌ

2452 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ فَارَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ جَامِدٍ، فَقَالَ: يُؤْخَذُ مَا تَحْتَهَا وَمَا حَوْلَهَا فَيَلْقَى، ثُمَّ يُؤْكَلُ الْبَقِيَّةُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ الْأَمْعَرِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا يَزِيدُ وَعَبْدُ الْوَّاحِدِ

2451- أخرجه مسلم: العلم جلد 4 صفحہ 2053، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 259 رقم الحديث: 6812 .

2452- أخرجه أبو داود: الأئمة جلد 3 صفحہ 363-364 رقم الحديث: 3842، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 312

بْنُ زِيَادٍ

کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رحمت صرف بد بخت سے لی جاتی ہے۔

2453 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي عُمَانَ، مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَنْزِعُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ شَقِيٍّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَيْبَانَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

یہ حدیث شیبان سے صرف عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے انہوں نے حضور ﷺ سے سنا تین آدمیوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: تین آدمی غار میں داخل ہوئے پہاڑ سے پتھر کا ایک ٹکڑا غار کے دروازے پر گرا (غار کا منہ بند ہو گیا) ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا: پتھر گر پڑا ہے اور اثر مٹ گیا ہے اور تمہارا مقام صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ سے اپنے ان اعمال کے وسیلہ سے دعا کرو جس پر تمہیں زیادہ بھروسہ ہے۔ پس ان میں سے ایک نے کہا: میرے والدین تھے میں ایک برتن میں ان کے لیے دودھ دھتا تھا پس جب میں ان کے پاس آتا تو وہ سوئے ہوئے تھے تو میں کھڑا ہو جایا کرتا تھا یہاں تک کہ وہ بذات خود جاگتے جب بھی جاگتے۔ میں نے ان کی عادت بدلنے کو ناپسند کیا پس جب وہ بذات خود جاگتے تو دودھ پیتے۔ اے اللہ! تو اس بات سے واقف

2454 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَرَجَ ثَلَاثَةٌ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ يَرْتَادُونَ لِأَهْلِيهِمْ، فَأَصَابَتْهُمْ السَّمَاءُ، فَلَجَسُوا إِلَى جَبَلٍ أَوْ إِلَى كَهْفٍ، فَوَقَعَ عَلَيْهِمْ حَجَرٌ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ: وَقَعَ الْحَجَرُ، وَعَفَا الْأَثَرُ، وَلَا يَعْلَمُ مَكَانَكُمْ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، ادْعُوا بِأَوْثِقِ أَعْمَالِكُمْ، فَقَالَ أَحَدُهُمْ: كَانَ لِي وَالِدَانِ، فَكُنْتُ أَحْلَبُ لَهُمَا فِي إِنْاءٍ، فَإِذَا آتَيْتُهُمَا وَهُمَا نَائِمَانِ قُمْتُ قَائِمًا حَتَّى يَسْتَيْقِظَا مِنِّي اسْتَيْقِظَا، وَكَرِهْتُ أَنْ تَدُورَ سِنَّهُمَا فِي رُئُوسِهِمَا، فَإِذَا اسْتَيْقِظَا شَرِبَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءً رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ

2453 - أخرجه أبو داود: الأدب جلد 4 صفحہ 287 رقم الحديث: 4942، والترمذی: البر والصلة جلد 4 صفحہ 323 رقم

الحديث: 1923، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 582 رقم الحديث: 9715 .

2454 - انظر: مجمع البحرين (2830) .

عَنَّا، فَرَزَالَ ثُلُثُ الْحَجْرِ، وَقَالَ الْآخَرُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَتْ امْرَأَةٌ تُعْجِبُنِي، فَأَرَدْتُهَا، فَأَبَتْ أَنْ تَمَكِّنَنِي مِنْ نَفْسِهَا حَتَّى جَعَلْتُ لَهَا جُعْلًا، فَلَمَّا أَخَذْتُ جُعْلَهَا، وَاسْتَقَرَّتْ نَفْسُهَا تَرَكْتُهَا، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ فَافْرُجْ عَنَّا، فَرَزَالَ ثُلُثًا الْحَجْرِ، وَقَالَ الثَّالِثُ: اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي اسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا، يَعْمَلُ يَوْمًا، فَعَمِلَ، فَجَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَأَعْطَيْتُهُ، فَلَمْ يَأْخُذْهُ، وَتَسَخَطَهُ، فَرَفَرْتُهُ عَلَيْهِ حَتَّى صَارَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ، ثُمَّ جَاءَ يَطْلُبُ أَجْرَهُ، فَقُلْتُ: خُذْ هَذَا كُلَّهُ، وَلَوْ شِئْتَ لَمْ أُعْطِهِ إِلَّا أَجْرَهُ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ إِنِّي إِنَّمَا فَعَلْتُ ذَلِكَ رَجَاءَ رَحْمَتِكَ وَخَشْيَةَ عَذَابِكَ، فَافْرُجْ عَنَّا، فَرَزَالَ ثُلُثُ الْحَجْرِ، وَخَرَجُوا يَتَمَاشُونَ

ہے کہ میں نے تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے ڈر سے یہ کام کیا۔ اس کو ہم سے دور کر! پھر پتھر کا تہائی حصہ ہٹ گیا۔ دوسرے نے کہا: اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا وہ عمل کہ ایک عورت نے مجھے خوش کیا، میں نے اس سے بُرا ارادہ کیا، اس نے مجھے اپنے اوپر قدرت دینے سے انکار کیا حتیٰ کہ میں نے کئی پاڑے پیلے پس جب وہ میرے دام میں آگئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ یہ تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے ڈر سے تھا تو اس مصیبت کو ٹال دے۔ تیسرے نے کہا: میں نے ایک مزدور رکھا تا کہ دن کو کام کرے، پس اس نے کام کیا تو وہ اپنی مزدوری لینے کے لیے آیا تو میں نے اسے دے دی۔ پس وہ نہ لیتا تھا اور ناراض ہوا، پس میں نے مزدوری زیادہ کی یہاں تک کہ تمام مال سے ہوگئی۔ پھر وہ مانگنے کے لیے آیا تو میں نے کہا: یہ سب کچھ لے لے اور اگر میں چاہتا تو اسے صرف اس کی مزدوری دیتا۔ اے اللہ! اگر تیرے نزدیک میرا یہ کام تیری رحمت کی امید اور تیرے عذاب کے ڈر سے تھا تو اس پتھر کو ہم سے دور کر دے! تو پتھر کا بقیہ تہائی حصہ بھی ہٹ گیا اور وہ چلتے ہوئے نکل گئے۔

یہ حدیث قتادہ سعید بن ابی الحسن سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی ضرورتیں چھپا کر مدد طلب کیا کرو کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کیا جاتا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ إِلَّا عِمْرَانَ

2455 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ

سَلَامٍ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَعِينُوا عَلَيَّ انْجَاحِ
الْحَوَائِجِ بِالْكَتْمَانِ، فَإِنَّ كُلَّ ذِي نِعْمَةٍ مَحْسُودٌ
لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ

یہ حدیث معاذ سے صرف اسی سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سعید اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی اپنی اونٹنی چراتا تھا اُحد کی طرف اسے عارضہ لاحق ہوا اس نے اس کو پتھر سے ذبح کر دیا اس کے بعد وہ حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے اس کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اس کو کھا لو۔ حضرت جریر فرماتے ہیں: میں نے ولید سے کہا: وتمد لوہا کا یا لکڑی کا تھا؟ فرمایا: لکڑی کا۔

2456 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ
بُنْ حَرْبٍ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ زَيْدَ
بُنَ اسْلَمَ فَحَدَّثَنِي، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَرْعَى نَاقَةً لَهُ فِي قَبْلِ
أُحُدٍ، فَعَرَضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتْدِهِ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: كُلَّهَا قَالَ
جَرِيرٌ: قُلْتُ لِرَزِيدٍ: الْوَتْدُ مِنْ حَدِيدٍ أَوْ خَشَبٍ؟ قَالَ:
مِنْ خَشَبٍ

یہ حدیث زید سے صرف جریر ہی روایت کرتے ہیں یہ حدیث حبان بن ہلال، جریر بن حازم، وہ ایوب السخثانی سے، وہ زید بن اسلم۔ حضرت جریر فرماتے ہیں: میں زید بن اسلم سے ملا مجھے انہوں نے یہ حدیث بیان کی۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ
جَرِيرٍ وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ
جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ
اسْلَمَ، قَالَ جَرِيرٌ: ثُمَّ لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ اسْلَمَ، فَحَدَّثَنِي
بِهِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ حضور ﷺ اپنے گھر میں کوئی تصویر دیکھتے تو اس کو مٹا دیتے تھے۔ اس حدیث کو حضرت عائشہ سے صرف حضرت عمران روایت کرتے ہیں۔

2457 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي
كَثِيرٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَتْرُكُ فِي بَيْتِهِ شَيْئًا فِيهِ
تَصَالِيْبٌ إِلَّا قَضَبَهُ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ

2456- أخرجه النسائي: الضحايا جلد7 صفحہ198 (باب اباحة الذبح بالعود) .

2457- أخرجه البخاري: اللباس جلد10 صفحہ398 رقم الحديث: 5952، وأبو داود: اللباس جلد4 صفحہ71 رقم

الحديث: 4151، وأحمد: المسند جلد6 صفحہ263 رقم الحديث: 26050 .

عَائِشَةَ اِلَّا عِمْرَانَ

2458 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْقَعْنَبِيُّ

قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَطَاءٍ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ جَابِرِ بْنِ عَتِيكٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا حَدَّثَ الرَّجُلُ بِحَدِيثٍ، ثُمَّ التَّفَتَ فِيهِ
أَمَانَةٌ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما سے روایت
ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کوئی آدمی گفتگو کرنے
پھر اس کی طرف متوجہ ہو وہ امانت ہے۔

یہ حدیث جابر بن عبد اللہ سے صرف اسی سند سے
روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابن ابی ذنب
اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي ذَنْبٍ

2459 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدَ التَّغْلِبِيُّ، عَنْ سَعْدِ
بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ شَرِبَ فِي آنِيَةِ الْفِضَّةِ فَإِنَّمَا يُجْرَجُ فِي
بَطْنِهِ نَارًا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جو چاندی کے برتن میں پیتا ہے وہ
اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتا ہے۔

یہ حدیث سالم، حضرت عائشہ سے اور سالم سے
صرف سعد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے
میں عمران اکیلے ہیں۔

لَمْ يُرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ اِلَّا
سَعْدُ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے

2460 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

2458 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 269 رقم الحديث: 4868، والترمذی: البر والصلوة جلد 4 صفحہ 341 رقم

الحديث: 1959، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 463 رقم الحديث: 15072 .

2459 - أخرجه ابن ماجه: الأشربة جلد 2 صفحہ 1130 رقم الحديث: 3415، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 109 رقم

الحديث: 24716 .

2460 - أخرجه الحاكم في المستدرک جلد 1 صفحہ 347 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 307 .

حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ مؤمن پر پسینہ ظاہر نہیں ہوتا ہے مگر اس سے اللہ عزوجل ایک گناہ ڈور کرتا ہے اور اس کے لیے ایک نیکی لکھتا ہے اور ایک درجہ اس کے لیے بلند کرتا ہے۔

یہ حدیث حضرت عائشہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں عمران اکیلا ہے۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو بکبری کی دُستی سب سے زیادہ پسند تھی اور ہم خیال کرتے تھے کہ یہود نے اسی لیے اس میں زہر ملایا تھا۔

ابو اسحاق سے صرف زہیر ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔

یہ حدیث مستلم سے صرف حبان ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں مالک اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور

بُن رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عِمْرَانُ بْنُ يَزِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا ضَرَبَ عَلَيَّ مُؤْمِنٌ عِرْقًا قَطُّ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ عَنْهُ بِهِ خَطِيئَةً، وَكَتَبَ لَهُ حَسَنَةً، وَرَفَعَ لَهُ دَرَجَةً

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عِمْرَانُ

2461 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: اَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عِيَاضٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: أَحَبُّ الْعُرَاقِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذِرَاعُ الشَّاةِ وَكُنَّا نَرَى أَنَّ الْيَهُودَ هُمُ الَّذِينَ سَمَوْهُ فِيهِ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا زُهَيْرُ 2462 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ زَيْدِ الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا مُسْتَلِمٌ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُسْتَلِمٍ إِلَّا حِبَّانُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَالِكُ

2463 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

2461 - أخرجه أبو داود: الأئمة جلد 3 صفحہ 349 رقم الحديث: 3780-3781، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 511

رقم الحديث: 3732 .

2462 - أخرجه ابن ماجه: المقلمة جلد 1 صفحہ 81 رقم الحديث: 224 . انظر: كشف الخفاء جلد 2 صفحہ 56 رقم الحديث: 1665 .

2463 - انظر: مجمع البحرين (2952) .

ﷺ نے فرمایا: جو کسی پر احسان کرے اس کو اس کا بدلہ دے اگر بدلہ دینے کی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کا ذکر کرے اگر اس نے اس کا ذکر کیا اس نے اس کا شکریہ ادا کیا پیٹ بھرنے والا اس چیز سے جس کو پانا اس کے لیے مشکل ہے۔ جھوٹے کپڑے پہننے والے کی طرح ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معمر بن عبد اللہ العدوی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ ذخیرہ اندوزی صرف گناہ گار ہی کرے گا یعنی یہ گناہ ہے۔

یہ حدیث مرتبی سے صرف ابو عمر الحوضی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا زمین کو کرائے پر دینے سے۔

عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَابْرَاهِيمُ بْنُ حَمِيدِ الطَّوِيلِ، قَالَا: نَا صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَوْلَى مَعْرُوفًا فَلْيَكْفِءْ بِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَلْيَذْكُرْهُ، فَإِنْ ذَكَرَهُ فَقَدْ شَكَرَهُ، وَالْمُتَشَبِعُ بِمَا لَمْ يَنْلُ كَلَابِسُ ثَوْبِي زُورٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحُ

2464 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ

عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا مُرْجَى بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَدَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَحْتَكِرُ إِلَّا خَاطِيءٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرْجَى إِلَّا أَبُو عُمَرَ الْحَوْضِيُّ

2465 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَادِ الشُّعَيْبِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرِي الْأَرْضِ

2464 - أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحہ 269 رقم الحديث: 3447، والترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 558 رقم

الحديث: 1267، وابن ماجه: التجارات جلد 2 صفحہ 728 رقم الحديث: 2154، والدارمی: البيوع جلد 2

صفحہ 323 رقم الحديث: 2543، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 553 رقم الحديث: 15764-15767 .

2465 - أخرجه البخاری: المغازی جلد 7 صفحہ 371 رقم الحديث: 4012-4013، ومسلم: البيوع جلد 3

صفحہ 1183 .

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ مجھے حضور ﷺ نے منع کیا اس سے جو میرے پاس نہیں ہے اس کو فروخت کرنے سے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے پچھنا لگوا یا اور اس کی اجرت بھی دی اگر پچھنا لگوانا برا ہوتا تو آپ اس کو اجرت نہ دیتے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ مدینہ اور مکہ کے درمیان حالت سفر میں نماز قصر کرتے تھے (یعنی دو رکعت ادا کرتے تھے) اور آپ کو ڈر صرف اللہ سے ہوتا تھا۔

حضرت محمد سے روایت ہے کہ ایک جنازہ حضرت ابن عباس اور حسن بن علی رضی اللہ عنہم کے پاس سے گزرا ان میں ایک کھڑا ہوا اور دوسرا بیٹھا رہا کھڑے ہونے والے نے بیٹھے والے سے کہا: کیا حضور ﷺ کھڑے نہیں ہوتے تھے؟ بیٹھے والے نے کہا: کیوں نہیں! آپ بیٹھے بھی رہتے تھے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت

2466 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، أَنَّ حَكِيمَ بْنَ حِزَامٍ قَالَ: نَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أبيعَ مَا لَيْسَ عِنْدِي

2467 - وَعَنْ مُحَمَّدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَآجِرَهُ، وَلَوْ كَانَ خَبِيثًا لَمْ يُعْطِهِ

2468 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْضِرُ الصَّلَاةَ فِيمَا بَيْنَ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، لَا يَخَافُ إِلَّا اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ

2469 - وَعَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ جِنَازَةً، مَرَّتْ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، وَالْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، فَقَامَ أَحَدُهُمَا، وَقَعَدَ الْآخَرُ، فَقَالَ الْقَائِمُ لِلْقَاعِدِ: الْيَسَّ قَدْ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: بَلَى، وَقَعَدَ

2470 - وَعَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ

2466- أخرجه الترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 525 رقم الحديث: 1233، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 491 رقم الحديث: 15319 .

2467- أخرجه البخاری: الاجارة جلد 4 صفحہ 536 رقم الحديث: 2279، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1205 أخرجه البيهقي في الكبرى جلد 9 صفحہ 568 رقم الحديث: 19516 .

2468- أخرجه الترمذی: الصلاة جلد 2 صفحہ 431 رقم الحديث: 547، والنسائي: تقصير الصلاة جلد 3 صفحہ 96، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 461 رقم الحديث: 3333 .

2469- أخرجه النسائي: الجنائز جلد 4 صفحہ 38 (باب الرخصة في ترك القيام) .

2470- أخرجه البخاری: التوحيد جلد 13 صفحہ 545 رقم الحديث: 7562، ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحہ 744 .

ہے کہ حضور ﷺ نے ایک قوم کا ذکر کیا (فرمایا): وہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے پھر واپس لوٹ کر اس میں نہیں آئیں گے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور ﷺ کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے (یعنی نفل نماز) جب کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تو رکوع بھی کھڑے ہو کر کرتے تھے، جب بیٹھ کر نماز پڑھتے تو بیٹھ کر رکوع کرتے تھے۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ حلال اور حرام واضح ہیں ان کے درمیان ایسے امور ہیں جو مشکوک ہیں میں تمہارے لیے اس کی مثال بیان کرتا ہوں کہ بے شک اللہ کی چراگاہ ہے اور اللہ کی چراگاہ وہ ہے جو اللہ نے حرام کیا ہے، جو چراگاہ کے ارد گرد چراتا ہے تو قریب ہے کہ اس میں چلا جائے گا۔

حضرت عبیدہ سلمانی فرماتے ہیں کہ کیا میں تجھے اُس چیز سے آگاہ نہ کروں جس کی خبر مجھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دی؟ فرمایا: اُن میں ایک ناقص اور چھوٹے

الْخُدْرِيِّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ قَوْمًا يَقْرَأُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، ثُمَّ لَا يَعُودُونَ فِيهِ

2471- وَعَنْ مُحَمَّدٍ، أَنَّ عَائِشَةَ، حَدَّثَتْ:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَلِّي قَائِمًا وَقَاعِدًا، فَإِذَا صَلَّى قَائِمًا رَكَعَ قَائِمًا، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا رَكَعَ قَاعِدًا

2472- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَادٍ الشُّعَيْثِيُّ، قَالَا: نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ الشُّعَيْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَإِنَّ بَيْنَ ذَلِكَ أُمُورًا مُشْتَبِهَةً، وَسَاصِرِبٌ لَكُمْ فِي ذَلِكَ مَثَلًا: إِنَّ اللَّهَ حَمَى حِمَى، وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَا حَرَّمَ، وَإِنَّهُ مَنْ يَرَعَ حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُخَالِطَهُ

2473- حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنُ حَمَادٍ الشُّعَيْثِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ عَوْنٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنِ عَبِيدَةَ السَّلْمَانِيِّ قَالَ: الْآ

2471- أخرجه مسلم: صلاة لامسافرين جلد 1 صفحہ 504، وأبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 249 رقم الحديث: 955 .

2472- أخرجه البخاری: الايمان جلد 1 صفحہ 153 رقم الحديث: 52، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1219-1220 .

2473- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2 صفحہ 747، وأبو داؤد: السنة جلد 4 صفحہ 243 رقم الحديث: 4763، وابن ماجه:

المقدمة جلد 1 صفحہ 59 رقم الحديث: 167 .

ہاتھوں والا ہے یا ناقص ہاتھوں والا ہے۔ فرمایا: اگر آپ لوگ پریشان نہ ہوں تو میں تمہیں اُس وعدہ سے آگاہ کروں جو اللہ تعالیٰ نے اُن لوگوں سے فرمایا جنہوں نے محمد ﷺ کی زبان پر اُن لوگوں سے جہاد کیا۔ ہم نے عرض کی: (اے علی!) آپ نے بذات خود اسے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے؟ فرمایا: رب کعبہ کی قسم! ہاں! یہاں تک کہ آپ نے یہ بات تین بار کہی۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے سامنے یہ آیت تلاوت کرتے تھے: جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ مقرر کرتا ہے اس کو ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ہے اور جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے آپ اس کو بار بار پڑھنے لگے یہاں تک کہ میں رونے لگا پھر فرمایا: اے ابوذر! وہ وقت کیا ہوگا جب تو مدینہ سے نکالا جائے گا؟ میں نے عرض کی: میں کوشش کروں گا اور چھوڑوں گا پھر آپ چلے اور میں بھی چلا میں حرم کی کبوتری میں ایک کبوتری تھا آپ نے فرمایا: تو کیا کرے گا جب آپ کو مکہ سے نکالا جائے گا۔ میں نے عرض کی: میں کوشش کروں گا اور چھوڑوں گا۔ شام کی طرف اور مقدس زمین کی طرف (بیت المقدس)۔ آپ نے فرمایا: تو تیری کیا حالت ہوگی تو کیا کرے گا جب آپ کو شام سے نکالا جائے گا؟ میں نے عرض کی: اس وقت (میں کیا کروں) اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ

أَتَيْتَكَ إِلَى مَا نَبَأَنِي عَلِيٌّ؟ قَالَ: فِيهِمْ مُوَدَّنُ الْيَدِ، أَوْ مُشَدَّنُ الْيَدِ، أَوْ مُخَدَّجُ الْيَدِ، كَوَلَا أَنْ تَبْطُرُوا لِأَنْبَاتِكُمْ مَا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَهُمْ عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قُلْنَا: أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: إِي وَرَبِّ الْكُعْبَةِ، حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا

2474 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَّادٍ الشَّعْبِيُّ قَالَ: نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ قَالَ: قَالَ أَبُو ذَرٍّ: كَانَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتْلُو عَلَيَّ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) (الطلاق: 3) فَجَعَلَ يُعِيدُهَا عَلَيَّ حَتَّى نَعِسْتُ. ثُمَّ قَالَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، كَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الْمَدِينَةِ؟ قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالذَّعَةِ، أَنْتَلِقُ فَأَنْتَلِقُ، فَأَكُونُ حَمَامَةً مِنْ حَمَامَةِ الْحَرَمِ قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنْ مَكَّةَ؟ قُلْتُ: إِلَى السَّعَةِ وَالذَّعَةِ، إِلَى الشَّامِ وَالْأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ قَالَ: فَكَيْفَ تَصْنَعُ إِذَا أُخْرِجْتَ مِنَ الشَّامِ؟ قُلْتُ: إِذَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ أَضَعُ سَيْفِي عَلَى عَاتِقِي قَالَ: أَوْ خَيْرٌ مِنْ ذَلِكَ تَسْمَعُ وَتُطِيعُ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا

مبعوث کیا ہے، میں اپنی تلوار اپنے کندھے پر رکھوں گا، آپ نے فرمایا: کیا تو اس سے بہتر نہیں کرے گا، تو اس اور اطاعت کر، اگرچہ حبشی غلام ہی ہو۔

حضرت عبداللہ بن شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا حضور ﷺ چاشت کی نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! مگر جب سفر سے واپس آتے، میں نے عرض کی: کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس کے بعد جب لوگوں کا رش ہوتا، میں نے عرض کی: کیا آپ سورتیں ملاتے تھے؟ فرمایا: مفصل، میں نے عرض کی: کیا آپ مکمل ماہ کے روزے رکھتے تھے؟ آپ نے فرمایا: میں نہیں جانتی کہ آپ پورا مہینہ روزے رکھتے ہوں سوائے رمضان کے، تمام ماہ افطار بھی نہیں کرتے تھے سوائے رمضان کے یہاں تک کہ اُس سے حصہ پاتے۔

حضرت مجن بن ادراع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے کسی کام کے لیے بھیجا، پھر مجھے کوئی بات پیش آئی اس حال میں کہ میں مدینہ کے راستے میں تھا، آپ نے میرا ہاتھ پکڑا، ہم چلنے لگے یہاں تک کہ ہم اُحد پہاڑ پر چڑھے، آپ مدینہ شریف کی طرف متوجہ ہوئے، اس کے بعد فرمایا: ہلاکت اس کی ماں کے لیے! جس بستی کے رہنے والے اُسے چھوڑ دیں گے جیسے پکا ہوا پھل درخت کو، میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! اس

2475 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَادٍ قَالَ: نَا كَهْمَسٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الضُّحَى؟ قَالَتْ: لَا إِلَّا أَنْ يَجِيءَ مِنْ مَعِيهِ قُلْتُ: أَكَانَ يُصَلِّي جَالِسًا؟ قَالَتْ: نَعَمْ، بَعْدَ مَا حَطَّمَهُ النَّاسُ قُلْتُ: أَكَانَ يَقْرَأُ السُّورَةَ؟ قَالَتْ: الْمُقْصَلُ قُلْتُ: أَكَانَ يَصُومُ شَهْرًا كُلَّهُ؟ قَالَتْ: مَا عَلِمْتُه صَامَ شَهْرًا كُلَّهُ إِلَّا رَمَضَانَ، وَلَا أَفْطَرَ شَهْرًا كُلَّهُ حَتَّى يُصِيبَ مِنْهُ غَيْرَ رَمَضَانَ

2476 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ، عَنْ

مُجَنَّ بْنِ الْأَدْرَعِ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَاجَّتِيهِ، ثُمَّ عَرَضَ لِي وَأَنَا خَارِجٌ فِي طَرِيقِ الْمَدِينَةِ، فَأَخَذَ بِيَدِي، فَانْطَلَقْنَا حَتَّى صَعَدْنَا إِلَى أُحُدٍ، فَأَقْبَلَ عَلَيَّ الْمَدِينَةَ، فَقَالَ: وَيْلَ أُمَّهَا، قَرِيبَةٌ يَدْعُهَا أَهْلُهَا كَأَنِّي مَا تَكُونُ قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ يَا كُلُّ ثَمَرَتِهَا؟ قَالَ: عَافِيَةُ الطَّيْرِ وَالسَّبَاعِ، وَلَا يَدْخُلُهَا الدَّجَالُ، كُلَّمَا أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَهَا تَلَقَّاهُ

2475 - أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 192 رقم الحديث: 25439، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 496

والنسائی: الصيام جلد 4 صفحہ 124 (باب ذكر اختلاف الفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه)

2476 - أخرجه أحمد: المسند جلد 5 صفحہ 41 رقم الحديث: 20370

کے پھل کون کھائے گا؟ فرمایا: پرندے اور درندے اس میں دجال داخل نہیں ہوگا جب بھی داخل ہونے کا ارادہ کرے گا اس کی ہر گلی میں فرشتہ ہوگا وہ اس کو روکے گا پھر آئے گا یہاں تک کہ جب مسجد کے دروازے کے پاس آئے گا تو ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہوگا آپ نے فرمایا: وہ اُنس سے سچی بات کرے گا میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! یہ فلاں آدمی ہے جو مدینہ شریف میں سب سے زیادہ نماز پڑھنے والا ہے آپ نے فرمایا: اُسے مت سنانا ورنہ تو اُسے ہلاک کر دے گا۔

حضرت ابو نضرہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو سعید الخدری سے کہا: ہمیں لکھواؤ! فرمایا: ہم تمہیں کیوں لکھوائیں؟ ہم اس کو ہرگز قرآن نہیں بتائیں گے۔ لیکن ہم سے لو! جس طرح ہم حضور ﷺ سے حدیث سیکھتے تھے۔ حضرت ابو سعید فرماتے تھے: حدیث بیان کرو بے شک حدیث ایک دوسرے کو یاد کرواتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے بیان کرنا کفر ہے۔

یہ حدیث کہمس سے صرف شعیث ہی بیان کرتے

بِكُلِّ نَقَبٍ مِنْ نِقَابِهَا مَلَكٌ، فَصَدَّهٗ ثُمَّ اَقْبَلَ، حَتَّى اِذَا كُنَّا بِبَابِ الْمَسْجِدِ اِذَا رَجُلٌ يُصَلِّي، فَقَالَ: يَقُوْلُهُ صَادِقًا فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ هَذَا فُلَانٌ اَكْثَرُ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ صَلَاةً، فَقَالَ: لَا تُسْمِعُهُ فَتُهْلِكُهُ

2477 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ: أَكْتَبْنَا قَالَ: لِمَ نَكْتُبُكُمْ؟ وَلَنْ نَجْعَلَهُ قُرْآنًا، وَلَكِنْ خُذُوا عَنَّا كَمَا كُنَّا نَأْخُذُ عَنْ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ أَبُو سَعِيدٍ يَقُولُ: تَحَدَّثُوا، فَإِنَّ الْحَدِيثَ يُذَكِّرُ بَعْضُهُ بَعْضًا

2478 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا كَهْمَسُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ: رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَهْمَسٍ إِلَّا الشُّعَيْثِيُّ

2477- انظر: مجمع البحرين (212).

2478- أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4 صفحہ 199 رقم الحدیث: 4603 وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 401 رقم

الحدیث: 8009 .

ہیں۔

حضرت غثیف بن حارث رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے عرض کی: کیا حضور ﷺ رات کے اول حصے یا آخر حصہ میں نماز وتر پڑھتے تھے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بسا اوقات آپ رات کے اول حصے اور بسا اوقات رات کے آخر حصے میں وتر پڑھتے تھے میں نے کہا: اللہ بڑا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی۔ میں نے عرض کیا: جب آپ پر غسل فرض ہوتا تو آپ رات کے اول حصے یا رات کے آخر میں غسل کرتے تھے؟ فرمایا: آپ بسا اوقات رات کے اول حصے اور بسا اوقات رات کے آخری حصے میں غسل کرتے تھے۔ میں نے کہا: اللہ بڑا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی ہے میں نے عرض کی: کیا (نوافل میں) قرأت جبراً یا آہستہ کرتے تھے؟ آپ نے فرمایا: بسا اوقات جبراً اور بسا اوقات آہستہ پڑھتے تھے میں نے کہا: اللہ بڑا ہے تمام خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اس دین میں آسانی بنائی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہم کو عاشراء کے روزے رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

2479 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا كُثَيْبٌ، عَنْ بُرْدِ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نُسَيْبٍ، عَنْ غُصَيْفِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُوتِرُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رَبَّمَا أُوْتِرَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَرَبَّمَا أُوْتِرَ مِنْ آخِرِهِ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: أَكَانَ إِذَا أَصَابَتْهُ الْجَنَابَةُ يَغْتَسِلُ مِنْ أَوَّلِ اللَّيْلِ، أَوْ مِنْ آخِرِهِ؟ قَالَتْ: رَبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ أَوَّلِهِ، وَرَبَّمَا اغْتَسَلَ مِنْ آخِرِهِ. قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً قُلْتُ: أَفَكَانَ يَجْهَرُ بِقِرَائَتِهِ فِي صَلَاتِهِ أَوْ يُخَافُ؟ قَالَتْ: رَبَّمَا جَهَرَ، وَرَبَّمَا خَافَ، قُلْتُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي الْأَمْرِ سَعَةً

2480 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ فَصَالَةَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَوْمِ عَاشُورَاءَ

2479- أخرجه أبو داود: الطهارة جلد 1 صفحہ 56-57 رقم الحديث: 226 وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 82-83 رقم

الحديث: 24507 .

2480- أخرجه الإمام أحمد في مسنده جلد 3 صفحہ 340-348 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 188 .

یہ حدیث ابو زبیر سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں معاذ اکیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بعض اشعار دانائی پر مبنی ہوتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذٌ

2481 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ

حَمَّادٍ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الشَّعْرِ حِكْمَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

2482 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

الْحُمَّى مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، فَاطْفِئُوهَا بِالْمَاءِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةَ إِلَّا الْحَجَبِيُّ

2483 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرِ الْهَدَلِيُّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ عَلَى قَوْمٍ قَدْ نَصَبُوا حِمَامًا حَيًّا، وَهُمْ يَرْمُونَهُ، فَقَالَ:

هَذِهِ الْمَجْتَمَةُ لَا يَحِلُّ أَكْلُهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ إِلَّا مُسْلِمٌ

یہ حدیث اعمش سے صرف ابو عوانہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یحییٰ اکیلے ہیں۔
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بخار جہنم کی تپش سے ہے اس کو پانی سے بجھاؤ۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف جحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ایک قوم پر نکلے انہوں نے زندہ کبوتر کو باندھا ہوا تھا وہ اس پر نشانہ بازی کر رہے تھے آپ نے فرمایا: اس باندھے ہوئے کا کھانا جائز نہیں ہے۔

یہ حدیث ابوبکر سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

2481- انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 126 .

2482- أخرجه البخاری: الطب جلد 10 صفحہ 184 رقم الحدیث: 5725، ومسلم: السلام جلد 4 صفحہ 1732 .

2483- أخرجه الطبرانی فی الکبیر جلد 11 صفحہ 322 رقم الحدیث: 11876 .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک بالشت کسی کی زمین لی اللہ عزوجل اس کے گلے میں ستر زمینوں کا طوق ڈالے گا۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: میں نے جنت میں جھانکا، میں نے وہاں رہنے والے زیادہ کمزور اور فقیر لوگ دیکھے، میں نے جہنم میں جھانکا، وہاں رہنے والے دیکھے تو زیادہ تر عورتیں تھیں۔

یہ حدیث یزید بن عبد اللہ سے صرف ضحاک بن یسار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہرماس بن زیادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اس حالت میں کہ میں بچہ تھا، میں آپ کے سامنے ہوا، میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تا کہ میں آپ کی بیعت کروں، آپ نے واپس کر دیا اور میری بیعت نہیں کی۔

یہ حدیث ہرماس سے صرف عکرمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

2484 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا حَرْبُ بْنُ شَدَّادٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَخَذَ قَيْدَ شَيْبَرٍ مِنَ الْأَرْضِ طَوَّقَهُ اللَّهُ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

2485 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عَمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ الشَّيْخِيرِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَطْلَعْتُ فِي الْجَنَّةِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا الضُّعَفَاءَ وَالْفُقَرَاءَ، وَأَطْلَعْتُ فِي النَّارِ، فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَاءَ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ

2486 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، عَنِ الْهَرْمَاسِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا غُلَامٌ، فَغَدَوْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذْتُ بِيَدِهِ لِيُبَايِعَنِي، فَرَدَّهَا، وَلَمْ يُبَايِعَنِي

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْهَرْمَاسِ إِلَّا عِكْرِمَةُ

2484 - أخرجه البخاری: بدء الخلق جلد6 صفحہ338 رقم الحدیث: 3195؛ ومسلم: المساقاة جلد3 صفحہ1231 .

2485 - أخرجه البخاری فی بدء الخلق جلد6 صفحہ318؛ والترمذی فی أبواب جہنم جلد4 صفحہ115 .

2486 - أخرجه النسائی: البيعة جلد7 صفحہ135 (باب بيعة الغلام) .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چاشت کی نماز مجھ پر فرض ہے اور یہی تمہارے لیے سنت ہے۔

یہ حدیث عکرمہ سے صرف ابو جناب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرة رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: ایک جوان نبی کریم ﷺ کی خدمت کیا کرتا تھا اور اپنی ضروریات میں کم وقت لگاتا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے کسی ضرورت کا سوال کرو! تو اُس نے عرض کی: میرے لیے جنت کی دعا کیجئے! راوی کا بیان ہے کہ آپ ﷺ نے سر اٹھا کر سانس لی اور کہا: ٹھیک ہے! لیکن سجدوں کی زیادتی سے میری مدد کرنا۔

اور اسی راوی سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے تین (بچے) دفن کیے ان پر صبر بھی کیا ثواب کی نیت سے اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کی: (اگر) دو ہوں؟ آپ نے فرمایا: جس نے دو دفن کیے اور ان پر صبر کیا اور صبر حاصل کیا اس کے لیے بھی جنت واجب ہوگی۔ حضرت اُم ایمن رضی اللہ عنہا نے عرض کی: ایک؟ آپ خاموش ہو گئے یا رُک گئے پھر فرمایا: اے اُم ایمن!

2487 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مِندَلُّ، عَنْ أَبِي جَنَابٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَضْحَى عَلَى فَرِيضَةٍ، وَهُوَ عَلَيْكُمْ سُنَّةٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا أَبُو جَنَابٍ

2488 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا نَاصِحُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ شَابًّا يَخْدُمُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَخْفُ فِي حَوَائِجِهِ، فَقَالَ: سَلْنِي حَاجَةً. فَقَالَ: ادْعُ لِي بِالْحَبَّةِ قَالَ: فَرَفَعَ رَأْسَهُ فَتَنَفَسَ، وَقَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنْ أَعْنِي بِكَثْرَةِ السُّجُودِ

2489 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ دَفَنَ ثَلَاثَةً، فَصَبَرَ عَلَيْهِمْ، وَاحْتَسَبَهُمْ، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: أَوْ اثْنَيْنِ؟ فَقَالَ: مَنْ دَفَنَ اثْنَيْنِ، فَصَبَرَ عَلَيْهِمَا، وَاحْتَسَبَهُمَا، وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقَالَتْ أُمُّ أَيْمَنَ: وَوَاحِدًا؟ فَسَكَتَ وَأَمْسَكَ، ثُمَّ قَالَ: يَا أُمَّ أَيْمَنَ، مَنْ دَفَنَ وَاحِدًا فَصَبَرَ عَلَيْهِ وَاحْتَسَبَ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ

2487- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحه 260 رقم الحديث: 11674 .

2488- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 2 صفحه 245 رقم الحديث: 2029 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 252 .

2489- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 2 صفحه 273 رقم الحديث: 2030 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 31 .

جس نے ایک بھی ذن کیا، اس پر صبر کیا اور ثواب حاصل کیا اس کے لیے جنت واجب ہوگئی۔

یہ دونوں حدیثیں سماک سے صرف ناصح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کھانے والوں کے پاس سے گزرے آپ نے اچھا کھانا دیکھا، آپ نے اپنا دست مبارک اس میں داخل کیا تو اس کے نیچے روئی گندم تھی آپ نے فرمایا: اس کو علیجہ فروخت کرو اور اس کو علیجہ فروخت کرو، جس نے ملاوٹ کی، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے۔

یہ حدیث نافع سے صرف ابو معشر روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جنازہ لایا گیا، حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے ساتھی پر قرض ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا: جی ہاں! حضور ﷺ نے فرمایا: تم اپنے دوست کا جنازہ پڑھو! ایک آدمی نے عرض کی: اس کا قرض میں ادا کروں گا! اس کے بعد حضور ﷺ نے اس کا جنازہ پڑھایا۔

یہ حدیث ابو نضر سے صرف عبداللہ بن عمر ہی

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سِمَاكِ إِلَّا نَاصِحٌ

2490 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الْعَزِيزِ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصْحَابِ الطَّعَامِ فَرَأَى طَعَامًا حَسَنًا، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهِ، فَإِذَا تَحْتَهُ طَعَامٌ رَدِيٌّ، قَالَ: بَعْ ذَا عَلَى حِدَةٍ وَذَا عَلَى حِدَةٍ، مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا أَبُو مَعْشَرٍ

2491 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْقَعْنَبِيُّ

قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَالِمِ أَبِي النَّضْرِ، عَنِ ابْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أُتِيَ بِجِنَازَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ، فَقَالَ رَجُلٌ: هُوَ عَلَيَّ، فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي النَّضْرِ إِلَّا عَبْدُ

2490- أخرجه الدارمی: البيوع جلد 2 صفحہ 323 رقم الحدیث: 2541، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 69 رقم

الحدیث: 5112. انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 81.

2491- أخرجه الترمذی: الجنائز جلد 3 صفحہ 372 رقم الحدیث: 1069، والنسائی: الجنائز جلد 4 صفحہ 52 (باب

الصلاة علی من علیہ دین) وابن ماجه: الصدقات جلد 2 صفحہ 804 رقم الحدیث: 2407، والدارمی: البيوع

جلد 2 صفحہ 341 رقم الحدیث: 2592، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 350 رقم الحدیث: 22604.

اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ

روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تقویٰ کے معادن سے یہ ہے، تیرا سیکھنا یہ ہے کہ جان لے اس کو جس کا علم نہیں ہے کمی کرنا جس کو معلوم ہو کہ اس کا ذراہ کم ہے، علم آدمی سے بے رغبتی کرتا ہے، اس کو کم نفع کا پتا بھی نہیں ہوتا ہے جس کا اس کو علم ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابو زبیر سے صرف یاسین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جب تم دیکھو تعریف کرنے والوں کو (منہ پر) تو ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔

یہ حدیث عطاء سے صرف علی بن حکم ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حمادا کیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قدر یہ اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت نہ کرو اگر وہ مر جائیں تو ان کے جنازہ میں شرکت نہ کرو۔

2492 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْمِسْوَرُ

بُنْ عَيْسَى قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ يَاسِينَ الزِّيَّاتِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ مَعَادِنِ التَّقْوَى تَعَلَّمُكَ إِلَى مَا قَدْ عَلِمْتَ مَا لَمْ تَعْلَمْ، وَالتَّقْصِيرُ فِيمَا قَدْ عَلِمْتَ قِلَّةَ الزِّيَادَةِ فِيهِ، وَإِنَّمَا يُزْهِدُ الرَّجُلَ فِي عِلْمٍ مَا لَمْ يَعْلَمْ قِلَّةَ الْإِنْتِفَاعِ بِمَا قَدْ عَلِمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا يَاسِينَ

2493 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ

الضَّرِيرُ، وَسَلِيمَانُ بْنُ حَرْبٍ، قَالَا: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ الْحَكَمِ الْبُنَائِيَّ، أَخْبَرَهُمْ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الْمَدَّاحِينَ فَاحْثُوا فِي وُجُوهِهِمُ التُّرَابَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْحَكَمِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَادُ

2494 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بُنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: نَا أَبُو حَازِمٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْقَدْرِيَّةُ مَجُوسٌ

2492- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 139 .

2493- انظر: مجمع البحرين (3175) .

2494- انظر: مجمع البحرين (3210) .

هَذِهِ الْأُمَّةُ، إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ

یہ حدیث ابو حازم سے صرف زکریا ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا زَكْرِيَّا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم انہم سرہ استعمال کیا کرو سوتے وقت کیونکہ یہ پلکوں کے بال اگاتا ہے اور نگاہ کو تیز کرتا ہے۔

2495 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا أَبُو بَكْرٍ الْهَدَلِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالْإِثْمِدِ عِنْدَ الرَّقَادِ، فَإِنَّهُ يُنْبِتُ الشَّعْرَ، وَيَجْلُو الْبَصَرَ

یہ حدیث ابوبکر سے صرف مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا مُسْلِمٌ

حضرت زید بن خالد الجعفی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے پوچھا راستے پر گری ہوئی شی کے متعلق؟ آپ نے فرمایا: ڈاٹ/ بندھن اور تھیلی لوگوں سے پوچھو (اُن سے پوچھنا وہ جو واقعی بتا دے تو سمجھ جا کہ اس کا مال ہے اس کو دے دے۔ لغات الحدیث) پھر ایک سال اس کا اعلان کر اگر اس کا مالک آئے اور وہ اس کی تعداد اور تھیلی کو پہچان لے تو اس کو دے دو ورنہ یعنی اگر وہ نہ آئے تو تیرا ہے۔

2496 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى الْمُنْبَعِثِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اللَّقْطَةِ؟ فَقَالَ: اعْرِفْ وَعَانَهَا وَوَكَّانَهَا، ثُمَّ عَرَّفَهَا عَامًّا، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَعَرَفَ عَدَدَهَا، وَوَكَّانَهَا، فَادْفَعَهَا إِلَيْهِ وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ

یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا حَمَادٌ

2495- أخرجه ابن ماجه: الطب جلد2 صفحہ 1156 رقم الحديث: 3496

2496- أخرجه البخارى: العلم جلد 1 صفحہ 225 رقم الحديث: 91' ومسلم: اللقطة جلد 3 صفحہ 1349' وأحمد:

المسند جلد4 صفحہ 142 رقم الحديث: 17039

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بندہ ہمیشہ بھلائی پر رہتا ہے جب تک جلدی نہ کرے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! جلدی کرنے سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ کہنا کہ میں نے دعا کی اور میری دعا قبول نہیں ہوئی۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ابوہلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: احتیاط بھی تقدیر سے بچا نہیں سکتی ہے دعا نفع دیتی ہے اس مصیبت سے جو نازل ہو چکی ہے یا ابھی نازل نہیں ہوئی، بے شک دعا آزمائش کو مل جاتی ہے دونوں ایک دوسرے سے جلدی بنی کرتی رہیں گی قیامت کے دن تک۔

یہ حدیث ہشام سے صرف عطف ہی روایت کرتے ہیں اور عطف سے صرف زکریا اور اس کو روایت کرنے میں حجتی اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب نماز سے فارغ ہوتے تھے پھر اپنی پیشانی پر دایاں ہاتھ پھیلتے تھے پھر کہتے تھے: اللہ

2497 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ بْنَ حَرْبٍ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَزَالُ الْعَبْدُ بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْتَعْجِلُ؟ قَالَ: يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَلَمْ يُسْتَجِبْ لِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبُو هَلَالٍ

2498 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ مَنْظُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَّافُ الشَّامِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُغْنِي حَذْرٌ مِنْ قَدَرٍ، وَالِدُّعَاءُ يَنْفَعُ مِمَّا نَزَلَ، وَمَا لَمْ يَنْزِلْ، وَإِنَّ الدُّعَاءَ لَيَلْقَى الْبَلَاءَ، فَيَعْتَلِجَانِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَطَّافٌ، وَلَا عَنْ عَطَّافٍ، إِلَّا زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَجَبِيُّ

2499 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا سَلَامُ الطَّوِيلُ، عَنْ زَيْدِ الْعَمِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:

2497 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 3 صفحہ 193-210، وأبو يعلى جلد 5 صفحہ 248، والبزار جلد 4

صفحہ 37-38 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 150 .

2498 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 149 .

2499 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 113 .

کے نام سے جس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، وہ رحمن رحیم ہے، اے اللہ! مجھ سے غم اور پریشانی دُور فرما دے۔

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَضَى صَلَاتَهُ مَسَحَ جَبْهَتَهُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْغَمَّ وَالْحَزْنَ ؛ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا زَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَامٌ

یہ حدیث معاویہ سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں سلام اکیلا ہے۔

حضرت أم المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگر میں لیلة القدر کو پالوں، میں اللہ سے کیا مانگوں؟ آپ نے فرمایا: تُو اللہ سے عافیت مانگنا۔

2500 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الصَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ الرَّاسِبِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ أَنَّهَا قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ وَافَقْتُ لَيْلَةَ الْقَدْرِ مَا أَسْأَلُ اللَّهَ؟ قَالَ: سَلِيهِ الْعَافِيَةَ

یہ حدیث ابوہلال سے صرف ابو عمر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هَلَالٍ إِلَّا أَبُو عُمَرَ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ تبارک و تعالیٰ کے سیر کرنے والے فرشتے ہیں جو اترتے ہیں اور زمین میں ذکر کرنے والوں کی مجلسوں پر ٹھہر جاتے ہیں۔ پس صبح و شام اللہ کا ذکر کرو اور (بہانے بہانے سے) اپنے آپ کو اللہ کا ذکر یاد دلاؤ، جس کو پسند ہو کہ وہ اللہ کے ہاں اپنا مقام دیکھے کہ وہ کیسا ہے، وہ دیکھے اللہ کا اس کے ہاں کتنا مقام ہے بے شک اللہ عزوجل بندے کو وہی مقام دیتا ہے جتنا وہ اللہ عزوجل کو اپنے ہاں مقام دیتا ہے۔

2501 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الصَّرِيرُ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفْضَلِ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عُفْرَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ خَالِدِ بْنِ صَفْوَانَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لِلَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى سَرَايَا مِنْ الْمَلَائِكَةِ تَحِلُّ وَتَقِفُ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ فِي الْأَرْضِ، فَأَعْدُوا وَرُحُوا فِي ذِكْرِ اللَّهِ، وَذَكِّرُوا اللَّهَ بِأَنْفُسِكُمْ، مَنْ أَحَبَّ أَنْ يَعْلَمَ مَنْزِلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنْزِلَةُ اللَّهِ عِنْدَهُ، فَإِنَّ

2500 - أخرجه الترمذی: الدعوات جلد 5 صفحہ 534 رقم الحدیث: 3514، وابن ماجه: الدعاء جلد 2 صفحہ 1265 رقم

الحدیث: 3850، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 192 رقم الحدیث: 25438 .

2501 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 80 .

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ الْعَبْدَ مِنْهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ مِنْ نَفْسِهِ
لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ

یہ حدیث جابر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو
روایت کرنے میں عمر اکیلے ہیں۔

2502 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَائِشَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: نَا صَالِحُ
الْمُرَيْثِيُّ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ
عُمَارَ بَيُوتِ اللَّهِ هُمْ أَهْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں نے حضور ﷺ سے سنا
فرماتے ہوئے کہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے ہی
اللہ والے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا صَالِحُ

یہ حدیث ثابت سے صرف صالح ہی روایت کرتے
ہیں۔

2503 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِيٍّ،
عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا مَعَ الدَّجَالِ مِنْهُ، إِنَّ مَعَهُ نَارًا
تُحْرِقُ، وَنَهْرَ مَاءٍ بَارِدٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ فَلَا يَهْلِكَنَّ بِهِ،
لِيُغَمِّضَ عَيْنِيهِ، وَلِيَقَعَ فِي الْآبِي يَرَاهَا نَارًا، فَإِنَّهَا لَهُمْ
مَاءٌ بَارِدٌ .

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ
فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں جانتا ہوں جو
دجال کے پاس ہوگا، اس کے پاس جلانے والی آگ ہو
گی اور ٹھنڈے پانی کی نہر ہوگی، جو اس کو پائے گا اس کو
اس کے ذریعے ہلاک نہیں کرے گا اُسے چاہیے کہ
آنکھیں بند کر کے اُس میں داخل ہو جائے جسے وہ آگ
دیکھ رہا ہے کیونکہ وہ اُن کے لیے ٹھنڈا پانی ہوگا۔

2504 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ
بْنُ الْمُنْهَالِ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَجِيحِ الْمَكِّيُّ قَالَ:
نَا أَبُو سِنَانٍ، وَكَيْسَ، بِضَرَّارٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ وَهْبٍ،
عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سِتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الْجِنِّ، وَعَوْرَاتِ بَنِي

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت
ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنوں (شیطانوں) کی
آنکھوں کے درمیان اور انسان کی شرمگاہ کے درمیان
پردہ یہ ہے کہ وہ کپڑے پہنتے وقت بسم اللہ کہہ لیں۔

2502- أخرجه البزار جلد 1 صفحہ 217 . انظر: مجمع الزوائد رقم الحديث: 2612 .

2503- أخرجه مسلم: الفتن جلد 4 صفحہ 2249 وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 451 رقم الحديث: 23341 .

2504- انظر: مجمع البحرين (341) .

آدَمَ إِذَا وَضَعُوا ثِيَابَهُمْ أَنْ يَقُولُوا: بِسْمِ اللَّهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا حَجَّاجٌ

یہ حدیث ابراہیم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابو قلاب یونس بن جبیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا اس آدمی کے متعلق جو اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے، اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: تو عبد اللہ بن عمر کو پچھتا ہے؟ اس نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی، اس کے بعد حضرت عمر نے حضور ﷺ سے پوچھا اس کے متعلق تو آپ نے رجوع کرنے کا حکم دیا۔ میں نے کہا: کیا اس کو طلاق شمار کیا تھا؟ حضرت ابن عمر نے فرمایا: جی ہاں! کیا آپ نے دیکھا نہیں ان کا عجز اور ناتجہی۔

یہ حدیث سلمہ سے صرف حماد ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جو مریض کی عیادت کرتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا ہوتا ہے جب اس مریض کے پاس بیٹھتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں ڈوبا رہتا ہے اللہ عزوجل ستر ہزار فرشتوں کو اس کا وکیل بناتا ہے جو اس کے لیے شام تک

2505 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ

بُنْ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، وَسَلَمَةَ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي غَلَابٍ يُونُسُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ، عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَالَ: تَعْرِفُ عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ؟ فَإِنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ، فَسَأَلَ عُمَرَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُرَاجِعَهَا، قُلْتُ: أَيَحْتَسِبُ بِهَا؟ فَقَالَ: نَعَمْ، أَرَأَيْتَ إِنْ عَجَزَ وَاسْتَحَمَقَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا حَمَّادٌ

2506 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بُنْ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا مُضْعَبُ بْنُ سَوَّارٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ بَرِيمٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ عَادَ مَرِيضًا خَاصًّا فِي الرَّحْمَةِ، فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَهُ غَمْرَتُهُ، وَوَكَّلَ اللَّهُ بِهِ سَبْعِينَ أَلْفًا مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ

2505 - أخرجه البخاری: الطلاق جلد 9 صفحہ 269 رقم الحدیث: 2558، ومسلم: الطلاق جلد 2 صفحہ 1096، وأبو

داؤد: الطلاق جلد 2 صفحہ 262 رقم الحدیث: 2184، والترمذی: الطلاق جلد 3 صفحہ 469 رقم

الحدیث: 1175.

2506 - أخرجه ابن ماجه: الجنائز جلد 1 صفحہ 463 رقم الحدیث: 1442.

حَتَّى يُمَسِيَ

دعا کرتے رہتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف مصعب ہی روایت

مُضْعَبٌ

کرتے ہیں۔

2507 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ

بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ

ایک آدمی سمندر میں کشتی پر شراب فروخت کرتا تھا، وہ

عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي

شراب میں پانی بھی ملا دیتا تھا اس کے ساتھ کشتی میں

هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ يَبِيعُ الْخَمْرَ فِي سَفِينَةٍ فِي

بندر تھا، بندر تھیلا پکڑ کر پردے کی لکڑی پر چڑھ گیا، ایک

الْبَحْرِ، وَكَانَ يَشُوبُهَا بِالْمَاءِ، وَكَانَ مَعَهُ فِي

دینار کشتی میں ڈالنے لگا، ایک دینار پانی میں ڈالنے لگا

السَّفِينَةِ قِرْدٌ، فَأَخَذَ الْقِرْدُ الْكَيْسَ، فَصَعِدَ بِهِ

یہاں تک کہ اُس کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا۔

الدَّقْلَ، فَجَعَلَ يُكْفِءُ دِينَارًا فِي السَّفِينَةِ، وَدِينَارًا

فِي الْمَاءِ، حَتَّى قَسَمَهُ نِصْفَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي صَالِحٍ إِلَّا

یہ حدیث ابوصالح سے صرف اسحاق ہی روایت

إِسْحَاقُ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَادٌ

کرتے ہیں، اُن سے روایت کرنے میں حمادا کیلے ہیں۔

فائدہ: مذکورہ بالا روایت میں شراب کا ذکر ہے، لیکن مولانا وحید الزمان نے لغات الحدیث میں صفحہ ۳۳۳ جلد ۱ مطبوعہ

نعمانی کتب خانہ میں لکھا حیات الحیوان کے حوالہ سے کہ وہ آدمی دودھ میں پانی ڈالتا تھا یہ زیادہ انسب ہے لیکن دونوں میں تطبیق

ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے یہ شراب کی حرمت نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہو۔ سیالکوٹی غفرلہ

2508 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ

حضرت نوح بن حکیم قاری قرآن تھے وہ ایک

الْمَدِينِيِّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ:

آدمی سے روایت کرتے ہیں، اس کو داؤد کہا جاتا تھا، وہ ام

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ: حَدَّثَنِي

حبیبہ بنت ابی سفیان کی اولاد سے تھے وہ لیلیٰ بنت قانف

نُوحُ بْنُ حَكِيمٍ، وَكَانَ قَارِنًا لِلْقُرْآنِ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ

الثقفہ سے روایت کرتے ہیں، وہ فرماتی ہیں: میں ام کلثوم

لَهُ دَاوُدُ، وَلَدَتْهُ أُمُّ حَبِيبَةَ بِنْتُ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ كَيْلَى

بنت رسول اللہ ﷺ کو غسل دینے میں شریک تھی، حضور

بِنْتِ قَانِفِ الثَّقَفِيَّةِ قَالَتْ: كُنْتُ مِمَّنْ غَسَلَ أُمَّ

ﷺ نے جو چیز سب سے پہلے ہم کو دی وہ حقہ

2507 - أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحہ 409 رقم الحديث: 8075 .

2508 - أخرجه أبو داود: الجنائز جلد 3 صفحہ 196 رقم الحديث: 3157، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 410 رقم

الحديث: 27202 .

(ازار بند) تھا پھر چادر پھر اوڑھنی پھر ملخصہ (بڑی چادر) پھر بڑے کپڑے میں لپیٹ دیا گیا۔

كُلُّوْمِ بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَمَّا اَوَّلَ مَا اَعْطَانَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحِقَاءَ، ثُمَّ الدَّرْعُ، ثُمَّ الْخِمَارُ، ثُمَّ الْمَلْحَفَةُ، ثُمَّ اُدْرِجَتْ فِي الثَّوْبِ الْاَكْبَرِ

یہ حدیث لیلی بنت قانف سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں اسحق اکیلے ہیں۔

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ لَيْلَى بِنْتِ قَانِفٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ اِسْحَاقَ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! تو

2509 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ: نا النَّضْرُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ الْجَلِيّ، عَنْ اَبِي حَمْرَةَ الثَّمَالِيّ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا فَاطِمَةُ قَوْمِي فَاشْهَدِي اُصْحِيَّتَكَ، فَاِنَّهُ يُغْفَرُ لَكَ بِكُلِّ قَطْرَةٍ مِنْ دِمَها كُلِّ ذَنْبٍ عَمِلْتِيهِ، وَقَوْلِي: اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لَا شَرِيكَ لَهُ، وَبِذَلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ فَقَالَ عِمْرَانُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، هَذَا لَكَ وِلَا هَلِ بَيْتِكَ خَاصَّةً، فَاَهْلُ ذَلِكَ اَنْتُمْ، اَمْ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً؟ قَالَ: بَلِ لِلْمُسْلِمِيْنَ عَامَّةً

کھڑی ہو اور اپنی قربانی کا مشاہدہ کر کیونکہ اس کے خون کا قطرہ گرنے سے پہلے تیرے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے جو تو نے کیے اور تو پڑھ: بے شک میری نماز میری قربانی، میری زندگی، میری موت تمام کائنات کے پالنے والے اللہ کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اس کا مجھے حکم دیا گیا، میں سب سے پہلے جھکنے والا ہوں۔ حضرت عمران نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ آپ اور آپ کی آل کے لیے خاص ہے یا عام مسلمانوں کے لیے بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: بلکہ تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو حَمْرَةَ

یہ حدیث عمران بن حصین سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو حمزہ اکیلے ہیں۔

2510 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيْرٍ قَالَ: نا عَبَّادُ بْنُ كَثِيْرٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نا أَبُو

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا

2509 - اخرجہ الطبرانی فی الکبیر جلد 18 صفحہ 239 رقم الحدیث: 600، والحاکم فی مستدرک جلد 4 صفحہ 222 والبیہقی فی الکبری جلد 9 صفحہ 283. انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 20.

2510 - اخرجہ الترمذی: الأدب جلد 5 صفحہ 113 رقم الحدیث: 2801، والحاکم فی المستدرک جلد 4 صفحہ 288.

ہو وہ حمام میں اپنا حلیہ داخل نہ کرے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ حمام میں داخل نہ ہو مگر تہ بند کے ساتھ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ ایسے دسترخوان پر نہ بیٹھے جس میں شراب پلائی جاتی ہو۔

الرُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ حَلِيلَتَهُ الْحَمَامَ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ فَلَا يُدْخِلُ الْحَمَامَ إِلَّا بِمَنْزَرٍ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ وَالْآخِرِ فَلَا يَقْعُدَنَّ عَلَى مَائِدَةٍ يُشْرَبُ عَلَيْهَا الْخَمْرُ

یہ حدیث عباد سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَادٍ إِلَّا حَجَّاجٌ

حضرت قیس بن ابی حازم سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے سنا منبر پر خطبہ دیتے ہوئے آپ فرما رہے تھے: اے لوگو! تم یہ آیت پڑھتے ہو: اے ایمان والو! تم پر اپنی اصلاح لازم ہے جو گمراہ ہے وہ تم کو نقصان نہیں دے گا، جب تم سیدھی راہ پر ہو اور میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے فرماتے ہوئے کہ لوگ جب بُرائی دیکھیں اس کو نہ روکیں تو قریب ہے اللہ کا عذاب ان سب کو آئے۔

2511 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجٌ

بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ، وَهُوَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ) (المائدة: 105)، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا مُنْكَرًا فَلَمْ يَغَيِّرُوا يَوْشِكُ أَنْ يَعْصَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ

یہ حدیث مالک سے صرف حجاج بن نصیر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا حَجَّاجٌ بْنُ

نَصِيرٍ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ

2512 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

2511 - أخرجه أبو داؤد: الملاحم جلد 4 صفحہ 120 رقم الحديث: 4338، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 256 رقم

الحديث: 3057، وابن ماجه: الفتن جلد 2 صفحہ 1327 رقم الحديث: 4005، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 3

رقم الحديث: 1.

2512 - أخرجه البخاری: الجنائز جلد 3 صفحہ 242 رقم الحديث: 1335، والترمذی: الجنائز جلد 3 صفحہ 336

حضور ﷺ نماز جنازہ میں سورہ فاتحہ پڑھتے تھے۔

الضَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو شَيْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ،
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يَقْرَأُ عَلَى الْجَنَائِزِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ إِلَّا أَبُو شَيْبَةَ

یہ حدیث حکم سے صرف ابو شیبہ ہی روایت کرتے
ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ کے پاس ایک جنازہ گزرا، صحابہ کرام نے
اس کی تعریف کی، آپ نے فرمایا: واجب ہو گئی، دوسرا
جنازہ گزرا تو صحابہ کرام نے اس کی بُرائی بیان کی تو آپ
نے فرمایا: واجب ہو گئی، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کیا
واجب ہو گئی؟ آپ نے فرمایا: تم زمین میں اللہ کے گواہ
ہو، اگر تم چاہو اچھائی کرو، اگر چاہو بُرائی بیان کرو۔
یہ حدیث عبد اللہ بن عمر سے صرف قعنبی ہی روایت
کرتے ہیں۔

2513 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْقَعْنَبِيُّ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مُرَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِجِنَازَةٍ فَاتَّوْنَا عَلَيْهِ خَيْرًا، فَقَالَ: وَجِبَتْ نَمَّ
مُرَّ بِجِنَازَةٍ أُخْرَى، فَاتَّيْنَا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ: وَجِبَتْ
فَقِيلَ: مَا وَجِبَتْ؟ قَالَ: أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي
الْأَرْضِ، إِنْ شِئْتُمْ خَيْرًا، وَإِنْ شِئْتُمْ شَرًّا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا
الْقَعْنَبِيُّ

حضرت ضحاک بن قیس فہری، حضور ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جب کوئی آدمی کسی
قوم کے پاس آئے، اس کو خوش آمدید کہے، ان کو خوش
آمدید کہا جائے گا، جب وہ اپنے رب سے ملیں گے، جب
کوئی آدمی کسی قوم کے پاس آئے، وہ کہے: تیرے لیے
کوئی بھلائی نہیں، جب وہ اپنے رب سے ملیں گے تو ان

2514 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ
الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ
الْجُرَيْرِيُّ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ،
عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسِ الْفَهْرِيِّ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا آتَى الرَّجُلُ الْقَوْمَ، فَقَالُوا:
مَرْحَبًا، فَمَرَّ حَبَّابٌ بِهِ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ، وَإِذَا آتَى الرَّجُلُ

رقم الحديث: 1026، وابن ماجه: الجنائز جلد 1 صفحہ 479 رقم الحديث: 1495 .

2513 - أخرجه أبو داود: الجنائز جلد 3 صفحہ 215 رقم الحديث: 3233، والنسائي: الجنائز جلد 4 صفحہ 41 (باب

الثناء) وابن ماجه: الجنائز جلد 1 صفحہ 478 رقم الحديث: 1492 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 7 .

2514 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 8 صفحہ 358، والحاكم في مستدرک جلد 3 صفحہ 525 . انظر: مجمع الزوائد

جلد 10 صفحہ 274-275 .

الْقَوْمَ، فَقَالُوا: لَقَطًا، فَلَقَطًا لَهُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ
 لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ
 إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ
2515 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ
 اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا رِبِيعَةُ بْنُ كَثُومٍ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ
 مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ يُكْنَى أَبُو أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ: كُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَى
 بِجَنَازَةٍ، فَأَتَى النَّاسُ عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَجَبَتْ ثُمَّ أَتَى بِأُخْرَى، فَكَانَ
 النَّاسُ نَالُوا مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 وَجَبَتْ فَقَالَ أَصْحَابُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 أَتَى بِفُلَانٍ، فَقَالَ: وَجَبَتْ ثُمَّ أَتَى بِفُلَانٍ، فَقَالَ:
 وَجَبَتْ فَسَمِعَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَقَالَ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ عُمَرُ: بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، أَتَى
 بِفُلَانٍ، فَأَتَى النَّاسُ عَلَيْهِ كَثِيرًا، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ ثُمَّ
 أَتَى بِفُلَانٍ، فَأَتَى النَّاسُ عَلَيْهِ شَرًّا، فَقُلْتُ: وَجَبَتْ
 فَقَالَ: أَتَى بِأَخِيكُمْ فَشَهِدْتُمْ بِمَا شَهِدْتُمْ، فَوَجَبَتْ
 شَهِادَتُكُمْ، ثُمَّ أَتَى بِأَخِيكُمْ فُلَانٍ، فَشَهِدْتُمْ بِمَا
 شَهِدْتُمْ، فَوَجَبَتْ شَهِادَتُكُمْ، أَنْتُمْ شُهَدَاءُ اللَّهِ فِي
 الْأَرْضِ، بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ

کے لیے کوئی بھلائی نہیں ہوگی۔

یہ حدیث ضحاک بن قیس سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں حماد بن سلمہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس تھے آپ کے پاس سے جنازہ گزرا صحابہ کرام نے اس کی تعریف کی اچھائی بیان کی حضور ﷺ نے فرمایا: واجب ہوگئی پھر دوسرا جنازہ گزرا تو لوگوں نے اس کی بُرائی بیان کی تو حضور ﷺ نے فرمایا: واجب ہوگئی۔ صحابہ کرام نے عرض کی: فلان کا جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی پھر فلان کا جنازہ آیا تو آپ نے فرمایا کہ واجب ہو گئی۔ حضور ﷺ نے ان سب کی بات سنی پھر آپ نے فرمایا: یہ کیا ہوا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں! فلان کا جنازہ آیا تو صحابہ کرام نے اس کی بڑی تعریف کی آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی پھر فلان کا جنازہ آیا تو صحابہ کرام نے اس کی بُرائی بیان کی آپ نے فرمایا: واجب ہوگئی آپ نے فرمایا: تمہارے بھائی کا جنازہ آیا تم نے جو گواہی دی اس کے لیے واجب ہوگئی تمہاری گواہی کے مطابق پھر فلان بھائی کا جنازہ آیا تم نے جو گواہی دی تمہاری گواہی کے مطابق واجب ہوگئی تم ایک دوسرے پر اللہ کے گواہ ہو زمین پر۔

یہ حدیث ابویوب المدنی سے صرف ربیعہ بن کثوم بن جبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْمَدَنِيِّ
 إِلَّا رِبِيعَةُ بْنُ كَثُومٍ بْنِ جَبْرِ

حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں ان میں شامل تھا جن پر اُحد کے دن اونگھ طاری ہوئی تھی۔

2516 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ قَالَ: كُنْتُ فِيمَنْ صُبَّ عَلَيْهِ النَّعَاسُ يَوْمَ أُحُدٍ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی کو جنت میں اتنی اتنی عورتوں کی طاقت دی جائے گی، عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کتنی طاقت؟ آپ نے فرمایا: سوا آدمیوں کے برابر طاقت دی جائے گی۔

2517 - وَبِهِ عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُعْطَى الرَّجُلُ فِي الْجَنَّةِ قُوَّةَ كَذَا وَكَذَا مِنَ النِّسَاءِ. قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَيُطَبَّقُ ذَلِكَ؟ قَالَ: يُعْطَى قُوَّةَ مِائَةٍ

حضرت انس رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: کوئی بندہ ایسا نہیں ہے مگر اس کے تین دوست ہوں گے، بہر حال ایک وہ دوست ہے جو کہے: جو تو خرچ کرے وہ تیرے لیے ہے، جو روکے رکھے وہ تیرے لیے نہیں ہے، یہ اس کا مال ہے۔ دوسرا وہ دوست جو کہے: میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو بادشاہ کے دروازے پر آئے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا، یہ اس کے اہل اور اس کا عمدہ ہے، تیسرا وہ جو کہے: میں تیرے ساتھ ہوں، جب تو داخل ہوگا، جب تو نکلے گا، یہ اس کا عمل ہے، پس وہ کہے گا: اگر تو مجھ پر تینوں سے زیادہ آسان ہے۔

2518 - وَبِهِ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ إِلَّا وَلَهُ ثَلَاثَةٌ أَحِبَّاءٍ، فَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: مَا أَنْفَقْتُ فَلكَ، وَمَا أَمْسَكْتُ فَلَيْسَ لَكَ، فَذَاكَ مَالُهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ، فَإِذَا آتَيْتَ بَابَ الْمَلِكِ تَرَكْتُكَ، فَذَاكَ أَهْلُهُ وَحَشْمُهُ، وَأَمَّا خَلِيلٌ، فَيَقُولُ: أَنَا مَعَكَ حَيْثُ دَخَلْتَ، وَحَيْثُ خَرَجْتَ، فَذَاكَ عَمَلُهُ، فَيَقُولُ: إِنْ كُنْتُ لَأَهْوَنَ الثَّلَاثَةِ عَلَيَّ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور

2519 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

2516 - أخرجه البخاری: المغازی جلد 7 صفحہ 422 رقم الحدیث: 4068، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 229 رقم

الحدیث: 3008، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 38 رقم الحدیث: 16363.

2517 - أخرجه الترمذی: صفة الجنة جلد 4 صفحہ 677 رقم الحدیث: 2536.

2518 - أخرجه الحاكم في مستدرک جلد 1 صفحہ 74. انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 125.

2519 - أخرجه البخاری: بدء الخلق جلد 6 صفحہ 368 رقم الحدیث: 3251، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 400

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجَنَّةِ شَجْرَةً يَسِيرُ الرَّاكِبُ فِي ظِلِّهَا مِائَةَ عَامٍ، لَا يَقْطَعُهَا

ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک درخت ہے اس کے سایہ میں سوار ایک سو سال تک چلتا رہے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ

یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے۔

2520 - عَنْ قَتَادَةَ الْأَعْمَرَانِ وَعَنْ عِمْرَانَ،

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ

یہ حدیث قتادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں، وہ محمد بن زیاد سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

2521 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ

مَرْزُوقٍ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ مَا دَامَ فِي مُصَلَّاهُ الَّذِي صَلَّى فِيهِ مَا لَمْ يُحَدِّثْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی نماز ہی میں ہوتا ہے جب تک اس جگہ بیٹھا رہتا ہے جس جگہ اس نے نماز پڑھی ہو اور جب تک بے وضو نہ ہو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَكْرِ إِلَّا عِمْرَانُ

یہ حدیث بکر سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں۔

2522 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو

قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي مَيْمُونَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: لیلۃ القدر کی ۲۷ یا ۲۹ کو فرشتے زمین میں ستاروں کی تعداد سے زیادہ ہوتے

رقم الحدیث: 3293، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 201 رقم الحدیث: 12683 .

2520 - أخرجه البخاری: التفسیر جلد 8 صفحہ 495 رقم الحدیث: 4881، ومسلم: الجنة وصفة نعيمها جلد 4 صفحہ 2175 .

2521 - أخرجه البخاری: الوضوء جلد 1 صفحہ 338 رقم الحدیث: 176، ومسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 459 .

2522 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 2 صفحہ 519، والبزار جلد 1 صفحہ 384 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 178-179 .

قَالَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ: لَيْلَةٌ سَابِعَةٌ أَوْ تَاسِعَةٌ وَعِشْرِينَ؛
إِنَّ الْمَلَائِكَةَ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ فِي الْأَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ
عَدَدِ النُّجُومِ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے
روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل کے
ہاں دعا سے زیادہ کوئی معزز نہیں ہے۔

2523 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ
مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ
عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنَ الدَّعَاءِ

حضرت عیاض بن حمار الجاشعی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ حضور ﷺ کو ہدیہ دیا گیا، آپ نے فرمایا:
کیا تو مسلمان ہے؟ میں نے عرض کی: نہیں! آپ نے
فرمایا: مجھے منع کیا گیا ہے مشرکوں کے ہدیہ قبول کرنے
سے، آپ نے واپس کر دیا۔

2524 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ الْمَجَاشِعِيِّ قَالَ:
أَهْدَيْتُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَدِيَّةً،
فَقَالَ لِي: أَسَلَمْتَ؟ قَالَ: لَا فَقَالَ: إِنِّي نَهَيْتُ عَنْ
زَبَدِ الْمُشْرِكِينَ فَرَدَّهَا

حضرت عیاض بن حمار الجاشعی رضی اللہ عنہ سے
روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: دوگالیاں دینے
والے جو دونوں کہتے ہیں گناہ ابتداء کرنے والا ہے، مگر یہ
ہے کہ اگر مظلوم بھی حد سے زیادہ تجاوز کرے تو اس پر بھی
گناہ ہے۔

2525 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْتَبَانِ مَا قَالَا، فَهُوَ عَلَى الْبَادِي، إِلَّا
أَنْ يَعْتَدِيَ الْمَظْلُومُ

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

2526 - وَبِهِ عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ قَالَ:

2523- أخرجه الترمذی: الدعوات جلد 5 صفحہ 455 رقم الحدیث: 3370، وابن ماجه: الدعاء جلد 2 صفحہ 1258 رقم
الحدیث: 3829، وأحمد: التمسند جلد 2 صفحہ 481 رقم الحدیث: 8769 .

2524- أخرجه أبو داؤد: الخراج جلد 3 صفحہ 170 رقم الحدیث: 3057، والترمذی: السير جلد 4 صفحہ 150 رقم

الحدیث: 1577، والطبرانی فی الکبیر جلد 17 صفحہ 364 رقم الحدیث: 999 .

2525- انظر: مجمع البحرين (3130) .

2526- انظر: مجمع البحرين (3131) .

کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی گالی دیتا ہے میں اس کو گالی دوں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: دو گالیاں دینے والے دونوں شیطان ہوتے ہیں ایک دوسرے کو الزام دینے والے ہیں دونوں جھوٹ بولتے ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے یمن کی طرف نظر کی، عرض کی: اے اللہ! ان کے دلوں کو (ہماری) طرف پلٹ دے ہمارے صاع اور مد میں برکت دے۔

حضرت معاویہ اللیشی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ صبح کرتے ہیں بھوک کی حالت میں اللہ کی جانب سے اُن کے پاس رزق آتا ہے وہ اس کے بعد مشرک ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فلاں فلاں ستارے نے ہم پر بارش برسائی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بُرے اعمال کرنے سے بچو کیونکہ ایک آدمی کے نامہ اعمال میں جمع ہوتے رہتے ہیں یہاں تک کہ اس کو ہلاک کر دیتے ہیں، حضور ﷺ نے ان کی مثال بیان فرمائی جس طرح کوئی قوم ایک جنگل میں اترے قوم کام کرنے کے لیے آئی، ایک آدمی اس طرف سے آیا، ایک آدمی آیا عوید کے ساتھ یہاں

قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يَسْتُنِي، فَاسْبُهُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْتَبَانِ شَيْطَانَانِ، يَتَهَاتَرَانِ وَيَتَكَادِبَانِ

2527 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ إِلَى قَبْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ، وَبَارِكْ لَنَا فِي صَاعِنَا وَمُدِّنَا

2528 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ نَصْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ اللَّيْثِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحُ النَّاسُ مُجَدِّبِينَ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ بِرِزْقٍ مِنْ عِنْدِهِ، فَيُصْبِحُوا مُشْرِكِينَ، يَقُولُونَ: مُطِرْنَا بِنُورٍ كَذَا وَكَذَا

2529 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ رَبِّهِ، عَنْ أَبِي عِيَاضٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَيَاكُمْ وَمُحَقَّرَاتِ الْأَعْمَالِ، فَإِنَّهِنَّ يَجْتَمِعْنَ عَلَى الرَّجُلِ حَتَّى يُهْلِكُنَّهُ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَرَبَ لَهُنَّ مَثَلًا كَمَثَلِ قَوْمٍ نَزَلُوا بِأَرْضِ قَلَاةٍ، فَحَضَرَ صَنِيعُ الْقَوْمِ، فَجَعَلَ الرَّجُلُ يَجِيءُ بِكَذَا، وَالرَّجُلُ يَجِيءُ

2527- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 726 رقم الحدیث: 3934، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 220 رقم

الحدیث: 21665، والطبرانی فی الکبیر جلد 5 صفحہ 116 رقم الحدیث: 4789 .

2528- أخرجه الطبرانی فی الکبیر جلد 19 صفحہ 430، والبزار جلد 1 صفحہ 318، والامام أحمد فی مسنده جلد 3

صفحہ 429 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 215 .

2529- انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 192 .

تک کہ جم غفیر اکٹھا ہو گیا پھر انہوں نے آگ جلائی اس آگ نے جلا کر رکھ دیا جو اس میں ڈالا گیا تھا۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ خطبہ ان کلمات کے ساتھ پڑھتے تھے: تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہم اس سے مدد طلب کرتے ہیں اس سے بخشش طلب کرتے ہیں ہم اللہ سے اپنے نفس کی شرارت سے پناہ مانگتے ہیں جس کو اللہ گمراہ کرے اس کو ہدایت دینے والا کوئی نہیں میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ہدایت پاتا ہے جو ان دونوں کی نافرمانی کرتا ہے وہ اپنے آپ کو ہی نقصان دیتا ہے اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔

یہ تمام احادیث قتادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ کو جب کسی قوم سے خوف ہوتا تو آپ یہ دعا کرتے: اے اللہ! ہم تجھے ان کے مقابلہ میں کرتے ہیں اور ہم ان کی شرارتوں سے پناہ مانگتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک اینٹ سونے کی اور ایک چاندی کی ہے۔

بِالْعَوِيدِ، حَتَّى جَمَعُوا مِنْ ذَلِكَ سَوَادًا كَثِيرًا، ثُمَّ أَجْبُوا نَارًا، فَانْصَبَتْ مَا قُذِفَ فِيهَا

2530 - وَبِهِ: قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي الْخُطْبَةِ: الْحَمْدُ لِلَّهِ نَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، مِنْ يَهْدِيهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، مِنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشِدَ، وَمَنْ يَعْصِهِمَا فإِنَّمَا يَضُرُّ نَفْسَهُ، وَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانَ

2531 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ

مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَافَ قَوْمًا قَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُورِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُورِهِمْ

2532 - وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ زِيَادٍ

الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْجَنَّةُ لَبَنَةٌ مِنْ ذَهَبٍ، وَلَبَنَةٌ مِنْ فِضَّةٍ

2530 - أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 286 رقم الحديث: 1097 .

2532 - أخرجه البزار جلد 4 صفحہ 190 . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 399 .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل نے حضرت ایوب علیہ السلام کو عافیت دی تو ان پر سونے کی ٹڈیوں کی بارش ہوئی آپ اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے کپڑے میں ڈالنے لگے آپ سے کہا گیا: اے ایوب! کیا آپ سیر نہیں ہوئے ہیں؟ حضرت ایوب نے عرض کی: تیری رحمت سے کون سیر ہوتا ہے۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ہمام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل نے کوئی بیماری نازل نہیں فرمائی مگر اس کی دواء بھی نازل فرمائی ہے جان لیا جس نے جان لیا، جاہل رہا جو اس سے جاہل رہا، مگر سام کی کوئی دواء نہیں ہے، عرض کی گئی: سام کیا ہے؟ فرمایا: موت۔

یہ حدیث عطاء بن ابوسعید سے اور عطاء سے صرف شیب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ام سلیم کے پاس آتے تھے ان سے ملنے کے لیے، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا آپ کے لیے کوئی شی بنانے کے لیے کوئی شی صاف کر رہی تھیں، میرا

2533 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عَافَى اللَّهُ أَيُّوبَ أَمَطَرَ عَلَيْهِ جَرَادًا مِنْ ذَهَبٍ، فَجَعَلَ يَأْخُذُهُ بِيَدِهِ وَيَجْعَلُهُ فِي ثَوْبِهِ، فَقِيلَ لَهُ: يَا أَيُّوبُ، أَمَا تَشْبَعُ؟ فَقَالَ: وَمَنْ يَشْبَعُ مِنْ رَحْمَتِكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هَمَامٌ

2534 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا شَيْبُ بْنُ شَيْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ دَاءٍ إِلَّا أَنْزَلَ لَهُ دَوَاءً، عَلِمَهُ مَنْ عَلِمَهُ، وَجَهَلَهُ مَنْ جَهَلَهُ إِلَّا السَّامَ قِيلَ: وَمَا السَّامُ؟ قَالَ: الْمَوْتُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ إِلَّا شَيْبُ

2535 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا رَبِيعُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ أَبِي سَبْرَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْجَارُودَ بْنَ أَبِي سَبْرَةَ يَقُولُ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى

2533- أخرجه الحاكم في المستدرک جلد 2 صفحہ 582 . انظر: الدر المنثور جلد 4 صفحہ 334 .

2534- أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 36 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 87 .

2535- أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 231 رقم الحديث: 12962، والبيهقي في الكبرى جلد 10 صفحہ 418 رقم

الحديث: 21167 .

ایک چھوٹا بھائی تھا اس کی کنیت ابوعمیر تھی، حضور ﷺ ایک دن آئے آپ نے فرمایا: اے ام سلیم! میں آپ کے لخت جگر کو پریشان دیکھ رہا ہوں؟ حضرت ام سلیم نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کی چڑیا مر گئی ہے جس کے ساتھ یہ کھیلتا تھا، حضور ﷺ فرمانے لگے: اے ابوعمیر! آپ کی چڑیا کو کیا ہوا؟

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي أُمَّ سَلِيمٍ يَزُورُهَا، فَتَحْفَهُ بِالشَّيْءِ تَصْنَعُهُ لَهُ، وَآخَ لِي صَغِيرٌ يَكْنِي: أَبَا عُمَيْرٍ، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ، فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلِيمٍ، مَا لِي أَرَى ابْنِكَ خَائِرَ النَّفْسِ؟ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَاتَتْ صَعْوَتُهُ الَّتِي كَانَتْ يَلْعَبُ بِهَا. فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النُّغَيْرُ؟

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ جب سفر کی حالت میں ہوتے اور آپ کا ارادہ نفل پڑھنے کا ہوتا تو آپ اونٹنی کا منہ قبلہ کی طرف کرتے، اللہ اکبر کہتے پھر نماز پڑھتے جس طرف اس کا منہ ہوتا۔

2536 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي رِبْعِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْجَارُودِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ أَبِي الْحَجَّاجِ قَالَ: حَدَّثَنِي الْجَارُودُ بْنُ أَبِي سَبْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَافَرَ فَأَرَادَ أَنْ يَتَطَوَّعَ بِالصَّلَاةِ اسْتَقْبَلَ بِنَاقَتِهِ الْقِبْلَةَ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ صَلَّى حَيْثُ تَوَجَّهَتْ

یہ دونوں حدیثیں جارود سے اسی سند سے روایت ہیں، اُن سے روایت کرنے میں ربیع اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَانِ عَنِ الْجَارُودِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا رِبْعِيُّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قریش کی محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے، عرب والوں سے محبت ایمان ہے، ان سے بغض کفر ہے، جس نے عرب والوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔

2537 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: بِمَا مَعْقِلُ بْنُ مَالِكِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمَّازٍ، عَنِ ثَابِتٍ، عَنِ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حُبُّ قُرَيْشٍ إِيْمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، وَحُبُّ الْعَرَبِ إِيْمَانٌ، وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ، فَمَنْ أَحَبَّ الْعَرَبَ فَقَدْ أَحْبَبَنِي، وَمَنْ أَبْغَضَ الْعَرَبَ فَقَدْ أَبْغَضَنِي

2536- أخرجه أبو داود: الصلاة جلد 2 صفحہ 9 رقم الحديث: 1225، والدارقطني: سننه جلد 1 صفحہ 396 رقم

الحديث: 2، والبيهقي في الكبرى جلد 2 صفحہ 8 رقم الحديث: 2208.

2537- أخرجه ابونعيم في الحلية جلد 2 صفحہ 333. انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 92.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا الْهَيْثَمُ

یہ حدیث ثابت سے صرف ہیثم ہی روایت کرتے

ہیں۔

2538 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

الرَّحْمَنِ بْنِ حَمَادٍ الشَّعْبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَوْنٍ،
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي
الْعَشِيِّ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ سَلَّمَ، فَأَنْطَلَقَ إِلَى خَشْبِيَّةِ
مَعْرُوضَةٍ، وَخَرَجَ السَّرْعَانُ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا:
قَصُرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا
أَنْ يُكَلِّمَاهُ، وَفِي الْقَوْمِ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْسَيْتَ أَوْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ أَنْسَ،
وَلَمْ تَقْصُرِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَكَمَا يَقُولُ ذُو الْيَدَيْنِ؟ قَالُوا: نَعَمْ،
فَجَاءَ، فَصَلَّى مَا بَقِيَ عَلَيْهِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَكَبَّرَ وَسَجَدَ
كَسْجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ، وَرَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ كَبَّرَ وَسَجَدَ
كَسْجُودِهِ أَوْ أَطْوَلَ فَقِيلَ لَهُ: سَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَبِئْتُ أَنَّ
عِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ قَالَ: سَلَّمَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے مغرب یا عشاء کی دو رکعت نماز پڑھائی،
اس کے بعد سلام پھیر دیا، پھر آپ ایک کھڑی لکڑی کی
طرف چلے گئے، پھر جلدی سے مسجد کی طرف آئے، صحابہ
کرام گفتگو کر رہے تھے نماز میں کمی ہو گئی ہے، قوم میں
ابوبکر و عمر بھی موجود تھے دونوں گفتگو کرنے سے ڈرنے
لگے، قوم میں ایک آدمی تھا اس کو ذوالیدین کہا جاتا تھا۔
اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا بھلا دیئے گئے ہیں یا
نماز میں کمی ہوئی ہے؟ آپ نے فرمایا: نہ میں بھلایا گیا
ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا:
کیا ایسے ہی ہے جس طرح ذوالیدین کہہ رہا ہے؟ صحابہ
کرام نے عرض کی: جی ہاں! اس کے بعد حضور ﷺ
تشریف لائے، آپ نے نماز پڑھائی جو باقی رہ گئی تھی، پھر
سلام پھیرا، اس کے بعد اللہ اکبر کہا پھر نماز جیسا سجدہ کیا یا
اس سے کہا: کیا، اس کے بعد اپنا سر اٹھایا پھر اللہ اکبر کہا،
نماز جیسا سجدہ کیا یا اس سے کہا: کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی
اللہ عنہ سے عرض کی گئی: آپ نے سلام پھیرا تھا، فرمایا:
مجھے عمران بن حصین نے بتایا کہ آپ ﷺ نے سلام
پھیرا تھا۔

فائدہ: اس حدیث کی شرح مفسر قرآن شارح بخاری و مسلم بحر العلوم ماہر مسائل جدید و قدیم علامہ غلام رسول سعیدی دام

اللہ ظلہ اپنی مشہور زمانہ کتاب شرح مسلم میں فرماتے ہیں جلد نمبر ۲ صفحہ ۱۲۷۔

2539 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَرَعْرَةَ بْنِ الْبَرْنَدِ قَالَ: نَا فَصَّالُ بْنُ الزُّبَيْرِ بْنِ جَابِرِ
أَبُو مَهْنَدٍ الْغُدَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أَمَامَةَ صَدَىَّ بْنَ
عَجَلَانَ الْبَاهِلِيَّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اكْفُلُوا إِلَى بَيْتِ اكْفَلُ لَكُمْ بِالْجَنَّةِ:
إِذَا حَدَّثَ أَحَدُكُمْ فَلَا يَكْذِبْ، وَإِذَا وَعَدَ فَلَا
يُخْلِفْ، وَإِذَا أْتَمِنَ فَلَا يَخُنْ، وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ،
وَاحْفَظُوا أْفُرُوجَكُمْ، وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ

حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے چھ چیزوں کی ضمانت دو
میں تم کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جب تم میں کوئی بات
کرے تو جھوٹ نہ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی
نہ کرے، جب امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہ کرے، اپنی
نگاہوں کو نیچے رکھو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں
کو روکے رکھو (یعنی اس کے ذریعے قتل و غارت نہ کرو،
کسی حرام کردہ چیز پر ہاتھ نہ رکھو)۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ حضور ﷺ مختار کل ہیں اللہ عزوجل کی عطا سے۔ تبھی آپ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ یہ بھی
معلوم ہوا کہ حضور ﷺ جیسے چاہیں جنت عطا کریں۔

2540 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَدَ حَلَاوَةَ
الْإِيمَانِ: أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِمَّا
سِوَاهُمَا، وَأَنْ يَحِبَّ الْعَبْدَ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، وَأَنْ يُلْقَى
فِي النَّارِ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يَرْجَعَ إِلَى الْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ
أَنْقَذَهُ اللَّهُ مِنْهُ

حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس میں تین
چیزیں ہوں اس نے ایمان کی حلاوت پائی، وہ یہ ہیں: اللہ
اور اس کے رسول ﷺ دونوں ہر شئی سے بڑھ کر پیارے
ہوں، بندہ محبت نہ کرے مگر اللہ کی رضا کے لیے، جب اللہ
عزوجل نے اس کو کفر سے بچالیا تو وہ کفر کی طرف لوٹنے
کو ناپسند کرے۔

2541 - وَبِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا
قَلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَاللَّهِ، يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّمَا
هُمَا نَجْدَانِ: نَجْدٌ خَيْرٌ، وَنَجْدٌ شَرٌّ، فَمَا يَجْعَلُ نَجْدَ

حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان الباہلی فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے لوگو! اپنے رب کی طرف
آؤ، بے شک جو تھوڑا ہو اور کافی ہو بہتر ہے، جو زیادہ ہو اور
سستی والا ہو، اے لوگو! یہ دونوں مشقتیں ہیں، ایک قسم کی

2539- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد8 صفحہ262 رقم الحديث: 8018 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ304 .

2540- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد9 صفحہ80، والبخاری في الايمان جلد1 صفحہ77 رقم الحديث: 16، ومسلم في

الايمن جلد1 صفحہ69 .

2541- انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ259 .

الشَّرَّ أَحَبَّ إِلَيْكُمْ مِنْ نَجْدِ الْخَيْرِ؟

مخت و مشقت ہے اور بُرائی میں بھی مشقت ہوتی ہے۔
کیا کوئی بُرائی کی مشقت کو بھلائی کی مشقت سے تمہارے
لیے زیادہ پسندیدہ بناتا ہے؟

حضرت ابوامامہ صدی بن عجلان الباہلی فرماتے ہیں
کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ اے
لوگو! جہنم کی آگ سے بچو! اگرچہ کھجور کا آدھا حصہ دے کر
صدقہ اللہ کی راہ میں۔

حضرت ابوامامہ صدی بن عجلان الباہلی فرماتے ہیں
کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! مسلمان کون
ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان سے دوسرے مسلمان
محفوظ رہیں۔ یہ تمام احادیث ابوامامہ سے اسی سند سے
روایت ہے اس کو روایت کرنے میں فضال اکیلے ہیں۔

حضرت عطاء رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں
نے یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سنی
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش
کرے گا کہ تیسری بھی ہو (سونے کی وادی) انسان کا
پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی، اللہ عزوجل جس کی چاہتا
ہے تو بہ قبول کرتا ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضور ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنائی، آپ نے اس کو

2542 - وَبِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا النَّارَ وَكَلُوا
بِشِقِّ تَمْرَةٍ

2543 - وَبِهِ قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا
الْمُسْلِمُ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ لَا
تُرَوَى هَذِهِ الْأَحَادِيثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهَا فَضَالٌ

2544 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ
قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَطَاءٌ، أَنَّهُ
سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ لَابْنَ آدَمَ وَادِيَيْنِ مِنْ ذَهَبٍ
لَا تَبْتَغِي إِلَيْهِمَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا
التُّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

2545 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو
عَاصِمٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ

2542- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 8 صفحہ 313 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 109 .

2543- أخرجه الطبرانی في الكبير رقم الحديث: 8021 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 59 .

2544- أخرجه البخاری: الرقاق جلد 11 صفحہ 257 رقم الحديث: 6436، ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحہ 725 .

2545- أخرجه البزار جلد 3 صفحہ 377 . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 155-156 .

تین دن تک پہنا، صحابہ کرام بھی سونے کی انگوٹھی بنانے لگے، آپ نے اُتار کر پھینک دی اور چاندی کی انگوٹھی بنائی، اس میں نقش کروایا: محمد رسول اللہ، وہ آپ کے دست مبارک میں وصال تک تھی اور اس کے بعد حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں وصال تک تھی، اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں وصال تک رہی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں چھ سال تک رہی، جب خط کثرت سے لکھے جانے لگے تو آپ نے انصار کے ایک آدمی کو دے دی، وہ اس کے ساتھ مہر لگاتا تھا۔ وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے کنویں کے پاس آیا تو وہ مہر کنویں میں گر گئی، اس کو تلاش کیا گیا لیکن وہ ملی نہیں، اس کے بعد دوسری چاندی کی مہر بنائی، اس میں لکھا گیا: محمد رسول اللہ۔

عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَفَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ فِي أَصْحَابِهِ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ فَكَانَ فِي يَدِهِ حَتَّى مَاتَ وَفِي يَدِ أَبِي بَكْرٍ، حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُمَرَ، حَتَّى مَاتَ، وَفِي يَدِ عُثْمَانَ سِتِّ سِنِينَ، فَلَمَّا كَثُرَتْ عَلَيْهِ الْكُتُبُ دَفَعَهُ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَخْتِمُ بِهِ، فَاتَى قَلْبِيًّا لِعُثْمَانَ، فَسَقَطَ فِيهَا، فَالْتَمَسُوهُ فَلَمْ يَوْجَدْ، فَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنَقَشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنانے سے منع کیا۔

2546 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْلِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ خَاتِمِ الذَّهَبِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا شُعْبَةُ

یہ حدیث قتادہ سے صرف شعبہ ہی روایت کرتے ہیں۔

2547 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِبُصَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ: حُجِّي وَاشْتَرِي طِي: أَنَّ مَحَلِّي

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت بضاعہ بنت زبیر رضی اللہ عنہا کو فرمایا: حج کرو اور مجھ سے شرط لگاؤ کہ مجھے قحط سالی نے روکا ہوا ہے۔

حَيْثُ حَبَسْتَنِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِشَامٌ

یہ حدیث ابو زبیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

2548 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ مجھے پسندیدہ لوگوں نے بتایا ان میں سب سے زیادہ پسندیدہ مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا فجر کے بعد (نوافل نماز) پڑھنے سے یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

الصَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ الرَّاسِبِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ رُفَيْعِ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَجُلٌ مَرَضِيُونَ، فِيهِمْ عُمَرُ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَعَنْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ

یہ حدیث ابو ہلال سے صرف ابو عمر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هَلَالٍ إِلَّا أَبُو عُمَرَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے تلبیہ پڑھا جس وقت آپ اونٹنی پر سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔

2549 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَثْمَانُ بْنُ

الْهَيْثَمِ قَالَ: نَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: حَدَّثَنِي صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهَلَ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ نَاقَتُهُ

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ فجر کے دن تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ عقبہ کو کتکریاں ماریں۔

2550 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ

بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ التَّمِيمِيَّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ

2548- أخرجه البخاری: 1 للمواقیت جلد 2 صفحہ 69 رقم الحدیث: 581، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 566 .

2549- أخرجه البخاری: الحج جلد 3 صفحہ 482 رقم الحدیث: 1552، ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 845 .

2550- أخرجه البخاری جلد 3 صفحہ 622 رقم الحدیث: 1686-1687، ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 931، وأبو

داؤد: المناسک جلد 2 صفحہ 168 رقم الحدیث: 1815، وابن ماجه: المناسک جلد 1 صفحہ 1011 رقم

عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ

یہ حدیث قیس سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَيْسٍ إِلَّا حَمَادٌ

حضرت عمرو بن حتم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی دوسرے آدمی کو اس کے خون پر امن دے اس کے بعد وہ اس کو قتل کر دے تو قاتل مقتول سے بری ہوگا۔

2551 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو الْقَاسِمِ الْكُلَيْبِيُّ قَالَ: نَا زَائِدَةُ بِنُ قَدَامَةَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ رِفَاعَةَ الْقُتَيْبَانِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَمَّنَ رَجُلٌ رَجُلًا عَلَى دَمِهِ فَقَتَلَهُ إِلَّا كَانَ الْقَاتِلُ بَرِيئًا مِنَ الْمَقْتُولِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک سیر مال چوری کرنے پر چور کا ہاتھ کاٹا۔ راوی حدیث فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس سے کہا: اس کی قیمت کتنی بنتی ہے؟ فرمایا: پانچ درہم۔

2552 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا أَبُو هِلَالٍ قَالَ: نَا قَنَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنٍّ قُلْتُ لِأَنَسٍ: كَمْ ثَمَنُهُ؟ قَالَ: خَمْسَةَ دَرَاهِمٍ

ابو ہلال فرماتے ہیں: سعید بن ابی عروبہ میرے علاوہ دوسری روایت کرتے ہیں فرمایا: یہ ابی بکر ہیں میں ہشام بن ابی عبد اللہ سے ملا وہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں۔

قَالَ أَبُو هِلَالٍ: يُخَالِفُنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، فَقَالَ: هُوَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ، فَلَقِيْتُ هِشَامَ بْنَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ فَقَالَ: هُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت معز بن مالک کو تین مرتبہ واپس کیا۔

2553 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سَلَامٍ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي أَبِزَى، عَنْ أَبِي

2551- أخرجه أحمد: المسند جلد5 صفحه265 رقم الحديث: 22006

2553- أخرجه الإمام أحمد في مسنده جلد1 صفحه8، والبزار جلد2 صفحه217. انظر: مجمع الزوائد جلد6

بَكَرٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَدَّ مَا عَزَبَ بَنُ
مَالِكٍ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

یہ حدیث ابوبکر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو
روایت کرنے میں جابر الجعفی اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ جَابِرُ الْجُعْفِيُّ

2554 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ
حضرت ماعز رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ کے پاس آئے اور
زنا کا اقرار کیا، حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: ہو سکتا ہے تو
نے بوسہ لیا ہو یا گلے ملے ہو یا چھوا ہو؟ حضرت ماعز نے
عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: تو نے ایسے ایسے کیا ہے؟
آپ ﷺ نے کنایہ نہیں کیا۔ عرض کی: ہاں! آپ نے
پھر ان کو رجم کرنے کا حکم دیا تو رجم کی گئی۔

بُنْ حَرْبٍ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ، عَنْ يَعْلَى بْنِ
حَكِيمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ مَاعِزًا، اتَى
النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَقْرَبَ بِالزَّيْنَاءِ، فَقَالَ لَهُ
النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعَلَّكَ قَبَلْتَ أَوْ
عَمَزْتَ، أَوْ لَمَسْتَ؟ قَالَ: لَا. قَالَ: فَفَعَلْتَ كَذَا
وَكَذَا؟، لَا يُكْبِي قَالَ: نَعَمْ. فَأَمَرَ بِهِ، فَرُجِمَ

یہ حدیث یعلیٰ سے صرف جریر ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَعْلَى إِلَّا جَرِيرٌ

2555 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ

حضرت ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی
رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ کے پاس حضور ﷺ کی
طرف سے قرآن کے علاوہ اور بھی کوئی چیز ہے؟ حضرت
علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! اس ذات کی قسم جس نے
دانہ کو پھاڑا اور دانہ کو اگایا، اللہ عزوجل نے اس کتاب کی
سمجھ عطا کی ہے اور جو صحیفہ میں ہے۔ میں نے عرض کی:
صحیفہ میں کیا ہے؟ فرمایا: دیت کے احکامات اور قیدیوں کو
آزاد کرنے کے متعلق اور یہ کہ مسلمان کو کافر کے بدلے

بُنْ بَشَّارِ الرَّمَادِيِّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ قَالَ: نَا مُطَرِّفٌ،
وَاسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي
جُحَيْفَةَ قَالَ: سَأَلْتُ عَلِيًّا: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ سِوَى الْقُرْآنِ؟
فَقَالَ: لَا، وَالَّذِي فَلَقَ الْحَبَّةَ، وَبَرَأَ النَّسَمَةَ إِلَّا أَنْ
يُعْطَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهُمَا فِي كِتَابِهِ، أَوْ مَا فِي
الصَّحِيفَةِ، قُلْتُ: وَمَا فِي الصَّحِيفَةِ؟ قَالَ: الْعَقْلُ،

2554- أخرجه البخاری: الحدود جلد 12 صفحہ 138 رقم الحدیث: 6824، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 353 رقم

الحدیث: 2437.

2555- أخرجه البخاری: الجهاد جلد 6 صفحہ 193 رقم الحدیث: 3047، والنسائی: القسامة جلد 8 صفحہ 20 (باب

سقوط القود من المسلم للكافر) وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 99 رقم الحدیث: 601.

قتل نہ کرنا۔

یہ حدیث اسماعیل سے صرف سفیان بن عیینہ ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں رمادی اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے عرفہ کے دن میدانِ عرفات میں روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث عکرمہ سے صرف مہدی ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں حوشب اکیلے ہیں۔

حضرت ام جری رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں: جب عرب میں کوئی آدمی مرجاتا تو ان پر سختی ہوتی، عرض کی گئی: اے ام جری! کیا وجہ تھی جب عرب سے کوئی مرجاتا تو آپ پر سختی ہوتی؟ فرمایا: میں نے اپنے آقا سے سنا فرماتے ہوئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے قریب ہونے کی نشانی عرب کا ہلاک ہونا ہے۔ حضرت محمد بن رزین فرماتے ہیں: ان کے آقا طلحہ بن مالک تھے۔

یہ حدیث طلحہ بن مالک سے اسی سند سے روایت

وَفَكَكَ الْأَسِيرَ، وَأَنْ لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا سَفْيَانُ
بْنُ عُيَيْنَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الرَّمَادِيُّ

2556 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ

بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَوْشَبُ بْنُ عَقِيلٍ، عَنْ مَهْدِيِّ
الْهَجْرِيِّ قَالَ: نَا عِكْرِمَةَ قَالَ: نَا أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ
عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عِكْرِمَةَ إِلَّا مَهْدِيُّ،
تَفَرَّدَ بِهِ حَوْشَبُ

2557 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ

بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي رَزِينٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أُمِّي قَالَتْ: كَانَتْ أُمُّ الْحَرِيرِ إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ
الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْهَا، فَقِيلَ لَهَا: يَا أُمَّ الْحَرِيرِ مَا لَكَ
إِذَا مَاتَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ اشْتَدَّ عَلَيْكَ؟ فَقَالَتْ:
سَمِعْتُ مَوْلَايَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ أَقْرَابِ السَّاعَةِ هَلَاكُ الْعَرَبِ
قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ رَزِينٍ: وَكَانَ مَوْلَاهَا طَلْحَةَ بْنُ
مَالِكٍ

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَالِكٍ إِلَّا

2556 - أخرجه أبو داؤد: الصوم جلد 2 صفحہ 338 رقم الحديث: 2440، وابن ماجه: الصيام جلد 1 صفحہ 551 رقم

الحديث: 1732، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 406 رقم الحديث: 8051 .

2557 - أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 724 رقم الحديث: 3929، والطبرانی فی الكبير جلد 8 صفحہ 309 رقم

الحديث: 8159 .

بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ

ہے اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن حرب اکیلے ہیں۔

2558 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عِصْمَةَ

بُنْ سُلَيْمَانَ الْخَزَّازُ قَالَ: نَا شَرِيكَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِلَبَنٍ يَوْمَ عَرَفَةَ، فَشَرِبَ، وَسَقَى الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس لایا گیا عرفہ کے دن دودھ آپ نے خود بھی نوش کیا اور اسے اپنی دائیں والوں کو (لنگر) پیش کیا۔

لَمْ يَرَوْهَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا شَرِيكَ

یہ حدیث جابر سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

2559 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَارِمُ أَبُو

النُّعْمَانَ قَالَ: نَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: جَاءَ ابْنًا مَلِيكَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أُمَّنَا كَانَتْ تَحْفَظُ عَلَى الْبُعْلِ، وَتُكْرِمُ الضَّيْفَ، وَقَدْ مَاتَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَأَيْنَ أُمَّنَا؟ قَالَ: أُمَّكُمَا فِي النَّارِ، فَقَامَا، وَقَدْ شَقَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمَا، فَدَعَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَجَعَا، فَقَالَ: أُمِّي مَعَ أُمَّكُمَا فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُنَافِقِينَ: وَمَا يَغْنِي هَذَا عَنْ أُمِّهِ شَيْئًا، وَنَحْنُ نَطَأُ عَقَبِيَّهِ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، شَابَّ لَمْ أَرِ رَجُلًا كَانَ أَكْثَرَ سُؤَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيْنَ أَبُوكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَبِّي عَزَّ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ملیکہ کے بیٹے حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے دونوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہماری ماں اپنے شوہر کا بڑا خیال کرتی تھیں اور مہمان نوازی کرتی تھیں وہ زمانہ جاہلیت میں فوت ہو گئی تھیں آپ بتائیں کہ ہماری ماں کہاں ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہاری ماں جہنم میں ہے دونوں بیٹے کھڑے ہوئے اس حال میں کہ دونوں پر یہ بات دشوار گزری آپ نے دونوں کو بلایا دونوں واپس آئے تو آپ نے فرمایا: ہماری ماں تمہاری ماں کے ساتھ۔ منافقوں میں سے ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے کہا: یہ اپنی ماں کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا اور ہم کو پیچھے سے کھینچتا ہے؟ انصار میں سے ایک نوجوان نے کہا: میں نے اس آدمی سے بڑا آپ ﷺ سے زیادہ سوال کرتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کے ابو

2559 - أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحہ 517 رقم الحدیث: 3786، والطبرانی فی الکبیر جلد 10 صفحہ 80 رقم

الحدیث: 10017-10018. انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 364-365.

جان کہاں ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے دونوں کے متعلق پوچھا، بے شک میں مقام محمود پر کھڑا ہونے والا ہوں۔

یہ حدیث ابو وائل سے صرف عثمان ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں صعق اکیلے ہیں۔

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا: زیتون اور ورس ذات جب (یہ ایک بیماری ہے) کے لیے مقرر کرتے ہوئے۔ حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ اس کو اس جانب داغا جاتا جس جانب اس کو تکلیف ہوتی۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے معاذ اکیلے ہیں۔

حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں: میں نے دو غلام خریدے وہ دونوں بھائی تھے میں نے ان میں سے ایک کو فروخت کرنے اور دوسرے کو روکے رکھنے کا ارادہ کیا تو مجھے حضور ﷺ نے منع کیا، آپ نے فرمایا: دونوں کو فروخت کرو یا دونوں کو رکھ لو۔

وَجَلَّ لَهُمَا، وَإِنِّي لَقَائِمُ الْمَقَامِ الْمَحْمُودِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي وَإِئِلِّ إِلَّا عُثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّعْقُ

2560 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مَيْمُونِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: سَمِعْتُ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْعَتُ الزَّيْتُ وَالْوَرْسَ مِنْ ذَاتِ الْجَنْبِ قَالَ قَتَادَةُ: يُلْدُّ بِهِ مِنْ جَانِبِهِ الَّذِي يَشْتَكِيهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُهُ مَعَاذٌ

2561 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ

عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا مَرْجَى بْنُ رَجَاءٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَرَزَمِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ ابْنِ أَبِي كَيْلَى، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: اشْتَرَيْتُ غُلَامَيْنِ أَخَوَيْنِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَ، أَحَدَهُمَا وَأَمْسِكَ الْآخَرَ، فَهَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: بَعْهُمَا جَمِيعًا أَوْ أَمْسِكُهُمَا جَمِيعًا

2560 - أخرجه الترمذی: الطب جلد 4 صفحہ 407 رقم الحدیث: 2078، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 455 رقم

الحدیث: 19348 .

2561 - أخرجه الترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 571 رقم الحدیث: 1284، وابن ماجه: البيوع جلد 2 صفحہ 755 رقم

الحدیث: 2249، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 122 رقم الحدیث: 763 .

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُرَجِّئٍ إِلَّا الْحَوْضِيُّ

2562 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ

عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا الضَّحَّاكُ بْنُ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي نَمِيمَةَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِي مُوسَى، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ ضَيَّقَ اللَّهُ عَلَيْهِ جَهَنَّمَ هَكَذَا وَضَمَّ أَصَابِعُهُ عَلَى تِسْعِينَ

2563 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ

عَوْذِ اللَّهِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَوْفٌ، عَنْ أَبِي الصِّدِّيقِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتٍ فِيهِ نَفَرٌ مِنْ قُرَيْشٍ، فَأَخَذَ بَعْضَادَتِي الْبَابِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ فِي الْبَيْتِ إِلَّا قُرَيْشِي؟ قَالُوا: لَا، إِلَّا ابْنُ أُخْتٍ لَنَا، فَقَالَ: ابْنُ أُخْتِ الْقَوْمِ مِنْهُمْ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَزَالُ فِي قُرَيْشٍ، مَا إِذَا اسْتَرْحِمُوا رَحِمُوا، وَإِذَا حَكَمُوا عَدَلُوا، وَإِذَا قَسَمُوا أَقْسَطُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا مُعَاذُ بْنُ

عَوْذِ اللَّهِ، وَلَا يَرَوِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

یہ حدیث مرتبی سے صرف حوضی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے صوم دھر (ہمیشہ روزے) رکھے اس پر اللہ عزوجل جہنم اس طرح تنگ کر دے گا اور آپ نے اپنی انگلیوں کو نوے پر ملایا۔

حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ خانہ کعبہ میں کھڑے ہوئے وہاں قریش کا گروہ تھا آپ نے دروازے کی چوکھٹ کو پکڑا پھر فرمایا: حرم کعبہ میں صرف قریش ہیں انہوں نے کہا: نہیں! مگر ایک ہماری بہن کا بیٹا ہے آپ نے فرمایا: بہن کا بیٹا قوم میں شامل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا: یہ حکومت قریش ہی میں رہے گی جب تک ان سے رحم طلب کیا جائے گا تو وہ رحم کریں گے جب فیصلہ کریں گے تو انصاف کریں گے جب کوئی چیز بانٹیں گے تو انصاف کریں گے جو ایسے نہیں کرے گا اس پر اللہ اور اس کے فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس سے فرض و نفل قبول نہیں ہوں گے۔

یہ حدیث عوف سے صرف معاذ بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں اور ابو سعید سے یہ صرف اسی سند سے روایت ہے۔

2564 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ أَمْرٌ فِي مَالِهَا إِذَا مَلَكَ زَوْجُهَا عَصَمَتَهَا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا حَمَادُ

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے بذات خود روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت کے لیے جائز نہیں ہے شوہر کے مال کو (تقسیم کرے) جب شوہر نے اس کی حفاظت کے لیے آپ مالک بنایا ہے۔

یہ حدیث داؤد سے صرف حماد ہی روایت کرتے

ہیں۔

2565 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وَكَلْتِ الْيَهَاءِ، وَإِنْ أُعْطِيَتْهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أَعْنَتْ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَكُفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَأَتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ

حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت عبدالرحمن بن سمرہ سے فرمایا: حکومت لینے کا سوال نہ کرنا اگر مانگنے سے دی گئی تو تجھے اس کے سپرد کر دیا جائے گا۔ اگر بغیر مانگے دی گئی تو تیری اس حوالہ سے مدد کی جائے گی جب تو کسی چیز پر قسم اٹھائے پھر اس کے کرنے میں بہتری دیکھے تو اپنی قسم کا کفارہ ادا کر اور اس کو اختیار کر جو تیرے لیے بہتر ہے۔

2566 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ، عَنْ زُبَيْدِ الْيَامِسِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ فِي يَوْمٍ عَاشُورَاءَ، وَبَيْنَ يَدَيْهِ قِصْعَةٌ مِنْ ثُرَيْدٍ، فَدَخَلَ

حضرت قیس بن سکن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا عاشوراء کے دن آپ کے آگے ٹرید کا پیالہ پڑا ہوا تھا، حضرت اشعث بن قیس داخل ہوئے، حضرت ابن مسعود نے فرمایا: ایا بوجھ! آؤ کھانا کھاؤ! حضرت اشعث

2564 - أخرجه أبو داود: البيوع جلد 3 صفحہ 291 رقم الحديث: 3546، والنسائي: العمري جلد 6 صفحہ 236 (باب

عطية المرأة بغير اذن زوجها) وابن ماجه: الهبات جلد 2 صفحہ 798 رقم الحديث: 2388، وأحمد: المسند

جلد 2 صفحہ 295 رقم الحديث: 7075 .

2565 - أخرجه البخاري: الأحكام جلد 13 صفحہ 132-133 رقم الحديث: 7147، ومسلم: الأيمان جلد 3

صفحہ 1273-1274 .

2566 - أخرجه مسلم: الصيام جلد 2 صفحہ 794، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 549 رقم الحديث: 4023 .

نے عرض کی: کیا آپ اس دن روزہ نہیں رکھتے تھے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا: ہم رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہونے سے پہلے یہ روزہ رکھتے تھے جب رمضان کے روزوں کا حکم نازل ہوا ہم اس کے روزے رکھنے لگے اور اس کے علاوہ کوچھوڑ دیا۔

حضرت یحییٰ بن ہند بن حارثہ اپنے چچا اسماء بن حارثہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے بھیجا آپ نے فرمایا: تم اپنی قوم کے پاس جاؤ ان کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دو یعنی عاشوراء کے دن کا۔ میں نے عرض کی: میں خیال کرتا ہوں کہ انہوں نے کھانا کھالیا ہے آپ نے فرمایا: ان کو حکم دو کہ جو دن باقی ہے اتنا روزہ رکھ لو۔

حضرت علیہ بنت الکمیت العکلیہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ صفیہ سے سنا وہ بیان کرتی ہیں کہ امۃ اللہ بنت زینہ سے وہ اپنی والدہ سے جو حضور ﷺ کی خادمہ تھیں فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی والدہ زینہ سے سنا وہ فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ عاشوراء کے دن کا احترام کرتے یہاں تک کہ آپ اپنے بچوں اور فاطمہ کے دودھ پیتے بچوں کو بلاتے تھے اس سے فرماتے ان کی ماؤں کو ان کو رات تک دودھ نہ پلاؤ ان کے منہ میں تھوک ڈالو ان کے لیے تھوک ہی کافی ہوتا تھا۔

الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ، فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى الْغَدَايَا يَا أَبَا مُحَمَّدٍ، فَقَالَ: أَوْ مَا صُمْتُمْ هَذَا الْيَوْمَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كُنَّا نَصُومُهُ قَبْلَ أَنْ يَنْزِلَ رَمَضَانُ، فَلَمَّا نَزَلَ رَمَضَانُ صُمْنَاهُ، وَتَرَكْنَا مَا سِوَاهُ

2567 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ هِنْدِ بْنِ حَارِثَةَ، عَنْ عَمِّهِ أَسْمَاءَ بْنِ حَارِثَةَ قَالَ: بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَنْتَ قَوْمَكَ، فَمَرَّهُمْ فَلْيَصُومُوا هَذَا الْيَوْمَ يَعْنِي يَوْمَ عَاشُورَاءَ، قُلْتُ: إِنِّي لَا أُرَانِي أَصِيرُ إِلَيْهِمْ إِلَّا وَقَدْ طَعِمُوا قَالَ: فَمَرَّهُمْ، فَلْيَصُومُوا بَقِيَّةَ يَوْمِهِمْ

2568 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمٌ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيَّةُ بِنْتُ الْكَمَيْتِ الْعَتَكِيَّةُ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّي مُنِيَّةَ تَحَدِّثُ، عَنْ أُمِّهِ اللَّهِ ابْنَةِ رُزَيْنَةَ، وَكَانَتْ أُمُّهَا خَادِمًا لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَتْ: سَمِعْتُ أُمِّي رُزَيْنَةَ تَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعْظِمُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، حَتَّى إِنْ كَانَ كِيدَعُوا بِصَبْيَانِهِ وَصَبْيَانِ فَاطِمَةَ الْمَرَاضِعِ، فَيَقُولُ لَأُمَّهَاتِهِمْ: لَا تَرْضَعُوهُمْ إِلَى اللَّيْلِ وَتَبْفُلُ فِي أَفْوَاهِهِمْ، فَكَانَ رِيقُهُ يُجْرِي نَهُمْ

2567- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 1 صفحه 296 رقم الحديث: 869. انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 188.

2568- انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحه 189.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اللہ عزوجل کے اس ارشاد 'لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر' کی تفسیر کرتے ہیں کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو حضور ﷺ کے زمانہ میں بیماری اور بھوک اور امراض کی وجہ سے جہاد نہیں کر سکتے تھے اور دوسرے تندرست تھے بیماروں کا عذر زیادہ تھا تندرستوں سے۔

یہ حدیث ابو نضرہ سے صرف ابو عقیل الدورقی، بشیر بن عقبہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جہنی کی بیٹی نے بتایا کہ حضور ﷺ نے ایک قوم کو دیکھا اس نے تلوار سونتی ہوئی تھی آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی لعنت اس پر جو یہ کر رہے ہیں کیا میں نے ان کو ایسے کرنے سے منع نہیں کیا۔

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حنین کے دن دیکھا ایسی کالی شی کمبل کی طرح زمین و آسمان کے درمیان جب وہ زمین کی طرف بھیجی گئی وہ زمین میں ذرہ ذرہ ہو کر پھیل گئی اور مشرکین شکست کھا گئے۔

2569 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا يَاسِينَ بْنَ حَمَادٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ) (النساء: 95) قَالَ: هُمْ قَوْمٌ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَغْزُونَ مَعَهُ لِاسْقَامٍ وَأَوْجَاعٍ وَأَمْرَاضٍ، وَآخَرُونَ أَصْحَاءَ، فَكَانَ الْمَرْضَى أَعْدَرَ مِنَ الْأَصْحَاءِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ إِلَّا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ: بِشِيرِ بْنِ عَقْبَةَ

2570 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ فَصَّالَةَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ بَنَةَ الْجُهَيْنِيِّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى قَوْمًا يَتَبَاعَطُونَ سَيْفًا مَسْلُورًا فَقَالَ: لَعْنَةُ اللَّهِ مَنْ فَعَلَ هَذَا، أَلَمْ أَنَّهُ عَنْ هَذَا؟

2571 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ ابْنِ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ يَقُولُ: رَأَيْتُ يَوْمَ حُنَيْنٍ شَيْئًا أَسْوَدَ مِثْلَ الْبَجَادِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فَلَمَّا دَفَعَ إِلَى الْأَرْضِ فَشَا فِي الْأَرْضِ دَرًّا، وَأَنْهَزَمَ الْمُشْرِكُونَ

2569- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 12 .

2570- أخرجه الطبرانی في الكبير رقم الحديث: 1612، والامام أحمد في مسنده بنحوه جلد 3 صفحہ 347 . انظر:

مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 294 .

2571- انظر: مجمع البحرين (2787) .

یہ حدیث جبر بن مطعم سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں محمد بن اسحاق اکیلے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ حضرت بلال کے پاس داخل ہوئے آپ نے حضرت بلال کے پاس کھجور کا ایک ڈھیر پایا آپ نے فرمایا: بلال یہ کیا ہے؟ حضرت بلال نے عرض کی: یہ کھجوریں ہیں جو میں نے آپ کے لیے رکھی ہوئی ہیں آپ نے فرمایا: اے بلال! تیرے لیے ہلاکت ہو! کیا تو اس بات سے خوف نہیں کرتا کہ تیرے لیے جہنم سے بخار ہو اے بلال! اس کو خرچ کر دو عرش والے سے کمی کا خوف نہ رکھنا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ابو القاسم ﷺ نے تین چیزوں کی وصیت کی میں نے ان کو ہمیشہ نہیں چھوڑا ہے (وہ تین چیزیں یہ ہیں): ہر ماہ تین روزے رکھنے کی جمعہ کے دن غسل کرنے کی اور وتر پڑھے بغیر نہ سونے کی۔

یہ حدیث ابن عون سے صرف بکار بن محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن شبل سے روایت ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قرآن پڑھو جب تم قرآن پڑھو تو اس میں زیادتی نہ کرو اس میں

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ
2572 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا بَكَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّيْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى بِلَالٍ، فَوَجَدَ عِنْدَهُ صَبْرًا مِنْ تَمْرٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا يَا بِلَالُ؟ فَقَالَ: تَمْرًا أَذْخَرْتُهُ لَكَ فَقَالَ: وَيْحَكَ يَا بِلَالُ، أَمَا تَخَافُ أَنْ يَكُونَ لَهُ بُخَارٌ فِي النَّارِ؟ أَنْفِقْ يَا بِلَالُ، وَلَا تَخْشَ مِنْ ذِي الْعَرْشِ أَقْلًا

2573 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: ثَلَاثٌ أَوْصَانِي بِهِنَّ خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، لَا أَدْعُهُنَّ أَبَدًا: صَوْمُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَأَنْ لَا أَنَامَ إِلَّا عَلَى رِئْرِ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا بَكَارُ بْنُ مُحَمَّدٍ

2574 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍ الصَّرِيرُ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا أَيُّوبُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي رَاشِدٍ الْخُبْرَانِيِّ، عَنْ

2572 - أخرجه البزار جلد4 صفحہ 251 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ 244 .

2573 - وأخرجه النسائي: الصيام جلد4 صفحہ 187 (باب صوم ثلاثة أيام من الشهر) وأحمد: المسند جلد2 صفحہ 636

رقم الحديث: 1283 .

2574 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد3 صفحہ 444 . انظر: مجمع الزوائد جلد4 صفحہ 98 .

خیانت نہ کرو! اس سے بے وفائی نہ کرو! اس کو کھانے کا ذریعہ نہ بناؤ! اور فرمایا: عورتیں جہنم والی ہیں۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا وہ ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں نہیں ہیں؟ آپ نے ذکر کیا: یہ شوہروں کے حقوق کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے حقوق ضائع کرتی ہیں۔

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ شَيْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَفْرَتُوا الْقُرْآنَ، فَإِذَا قَرَأْتُمُوهُ فَلَا تَسْتَكْثِرُوا بِهِ، وَلَا تَغْلُوا فِيهِ، وَلَا تَجْفُوا عَنْهُ، وَلَا تَأْكُلُوا بِهِ وَقَالَ: إِنَّ النِّسَاءَ هُمُ أَهْلُ النَّارِ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَسَنَ أُمَّهَاتِنَا وَأَخَوَاتِنَا وَبَنَاتِنَا؟ فَذَكَرَ كُفْرَهُنَّ لِحَقِّ الزَّوْجِ، وَتَضْيِعَهُنَّ لِحَقِّهِ

یہ حدیث ایوب سے صرف وہیب ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا وَهَيْبٌ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا گناہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: کسی کو اللہ عزوجل کے مد مقابل ٹھہرانا حالانکہ تجھے اس نے پیدا کیا ہے۔ میں نے عرض کی: اس کے بعد کون؟ آپ نے فرمایا: اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کرنا کہ وہ تیرے ساتھ کھائے گی۔ میں نے عرض کی: اس کے بعد کون بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا: اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کرنا پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی: وہ لوگ جو اللہ عزوجل کے ساتھ دوسرے خدا کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ اور نہ وہ زنا کرتے ہیں۔

2575 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيرٍ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَاصِلِ الْأَحْدَبِ، عَنْ أَبِي وَإِلِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شَرْحِبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الذَّنْبِ أَعْظَمُ؟ قَالَ: أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلْقَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةً أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ. قُلْتُ: ثُمَّ أَيُّ؟ قَالَ: أَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ، ثُمَّ تَلَا: (وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ) (الفرقان: 68)

یہ حدیث سفیان سے واصل نے اور سفیان سے صرف محمد بن کثیر اور عبدالرحمن بن معدنی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ وَاصِلِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ حضور ﷺ کے ساتھ نماز پڑھتے تھے پھر واپس آتے اور اپنی قوم کو نماز پڑھاتے تھے۔

2576 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ، كَانَ يُصَلِّي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ يَجِيءُ فَيُصَلِّي بِقَوْمِهِ

یہ حدیث ہشام سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَجَّاجُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس پسندیدہ مرد موجود تھے ان سب میں مجھے پسندیدہ حضرت عمر تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں روزہ رکھنے سے منع کیا۔

2577 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: شَهِدَ عِنْدِي رَجَالٌ مَرَضِيُونَ، وَأَرْضَاهُمْ عِنْدِي عُمَرُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ صِيَامِ يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ

یہ حدیث قتادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے وہ ماں باپ جو جاہلیت میں فوت ہو گئے ان پر فخر نہ کرو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے بھونرے (کالے رنگ کے کیڑے) کا اپنی ناک کو (کسی پہاڑ سے) لڑھکانا

2578 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نَصِيرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَفْتَحِرُوا بِأَبَائِكُمُ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَمَا يُدْخِرُ جُنْعَلُ بِأَنْفِهِ خَيْرٌ

2576 - أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 532 رقم الحدیث: 6106، ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحہ 340، وأبو

داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 160 رقم الحدیث: 599-600، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 378 رقم الحدیث:

. 14137

2577 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 207

2578 - انظر: مجمع البحرين (3105) .

تمہارے اُن آباء سے بہتر ہے جو زمانہ جاہلیت میں مر گئے۔

یہ حدیث ایوب سے ہشام، حسن بن ابی جعفر اور حسن الغافلانی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالہ بن صامت رضی اللہ عنہ، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ اس کی بنیاد مضبوط ہو اور اس کے درجات بلند ہوں، اس کو چاہیے کہ جس نے اس پر ظلم کیا اس کو معاف کرے اس کو دے جو اس کو نہ دے، جو تعلق توڑے اس سے تعلق جوڑے۔

یہ حدیث موسیٰ سے صرف ابوامیہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں حجاج اکیلے ہیں اور یہ حدیث ابی بن کعب سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں آیا اس حال میں کہ حضور ﷺ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ان میں عمر بن خطاب بھی تھے وہاں آخری گفتگو کا حصہ میں نے سنا، وہ یہ تھا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے عصر سے پہلے چار رکعت پڑھیں، اس کو جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، میں نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اس طرح اشارہ کیا یہ حدیث عمدہ ہے۔ مجھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جو حدیث اس سے پہلے والی ہے وہ اس سے

مِنْ آبَائِكُمْ الَّذِينَ مَاتُوا فِي الْجَاهِلِيَّةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا هِشَامٌ، وَالْحَسَنُ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، وَالْحَسَنُ الْقَافِلَانِيُّ

2579 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ

بُنْ نَصِيرٍ قَالَ: نَا أَبُو أُمِيَّةَ بِنُ يَعْلَى الثَّقَفِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَبْدِ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُشْرَفَ لَهُ بُنْيَانٌ، وَيُرْفَعَ لَهُ دَرَجَاتٌ، فَلْيَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَهُ، وَيُعْطِ مَنْ حَرَمَهُ، وَيَصِلْ مَنْ قَطَعَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا أَبُو أُمِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ، وَلَا يُرَوَى عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2580 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ

بُنْ نَصِيرٍ قَالَ: نَا الْيَمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِيَّةَ، أَنَّ مُجَاهِدًا أَخْبَرَهُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: جِئْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدٌ فِي أَنَاسٍ مِنْ أَصْحَابِهِ، فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَأَذْرَكْتُ آخِرَ الْحَدِيثِ، وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الْعَصْرِ لَمْ تَمْسَهُ النَّارُ فَقُلْتُ بِيَدِي هَكَذَا، يُحَرِّكُ بِيَدِهِ: إِنَّ هَذَا

2579- انظر: مجمع البحرين (2921) .

2580- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 25 .

بھی عمدہ ہے۔ میں نے عرض کی: اے ابن خطاب! وہ بھی سناؤ! حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم کو حضور ﷺ نے بیان کیا کہ جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔

یہ حدیث عبد اللہ بن عمروؓ حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں اور حضرت عمر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں حجاج اکیلے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل پسند کرتا ہے رخصت پر عمل کرنے کو جس طرح پسند کرتا ہے عزیمت پر عمل کرنے کو پسند کرتا ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے مرفوعاً معمر اور مسکین بن بکیر الحرانی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حنظلہ بن القری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں: میں حضرت عمر کے وفد میں شامل تھا ایک آدمی دوسرے سے پوچھتا: آپ کس سے ہیں اور کیا نام ہے؟ یہاں تک مجھ تک پہنچے آپ نے فرمایا: آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے عرض کی: میں حنظلہ عنزہ قبیلے کا فرد ہوں اس نے مشرق کی طرف اشارہ کیا، اپنی انگلیاں کھولیں اور کہا: میں نے حضور

حَدِيثٌ جَيِّدٌ فَقَالَ لِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَمَا قَاتَكَ مِنْ صَدْرِ الْحَدِيثِ أَجْوَدُ وَأَجْوَدُ، قُلْتُ: يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَهَاتِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ: مَنْ شَهِدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَجَّاجٌ

2581 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ أَنْ تَعْمَلَ رُخْصَهُ كَمَا يُحِبُّ أَنْ تَعْمَلَ عَزَائِمَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ مَرْفُوعًا عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا مَعْمَرٌ وَمِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ الْحَرَّانِيُّ

2582 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْحَسَنِ الْعَنْزِيِّ قَالَ: نَا أَبُو غَاصِرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْعَنْزِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمِي غُضْبَانُ بْنُ حَنْظَلَةَ، عَنْ أَبِيهِ حَنْظَلَةَ بْنِ نَعِيمِ الْعَنْزِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي مَنٍّ وَقَدْ عَلَى عُمَرَ، فَجَعَلَ يَسْأَلُ رَجُلًا رَجُلًا: مِمَّنْ أَنْتَ؟ وَمَنْ أَنْتَ؟ حَتَّى انْتَهَى إِلَيَّ، فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ وَمَنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: أَنَا حَنْظَلَةُ مِنْ عَنْزَةَ، فَأَوْمَأَ نَحْوًا

2581- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 10 صفحه 103 رقم الحديث: 10030 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3

صفحة 165 .

2582- انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 54 .

ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: عنزه ادھر سے ہی ایک قبیلہ ہے جس پر بغاوت کی جائے گی لیکن وہ منصور اور فاتح ہوں گے۔

یہ حدیث عمر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو غافرہ اکیلے ہیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے اس وقت کے علاوہ جس وقت آپ کے پاس آتے تھے حضور ﷺ آپ کی طرف کھڑے ہوئے فرمایا: اے جبریل! مجھے کیا ہے کہ آپ کا رنگ بدلہ ہوا دیکھ رہا ہوں؟ حضرت جبریل نے عرض کی: میں آپ کے پاس نہیں آیا یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے جہنم کے کھولنے کا حکم دیا حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبریل! مجھے جہنم کی صفت بتائیں اور میرے لیے جہنم کی حالت بتائیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: بے شک اللہ عزوجل نے جہنم کے متعلق حکم دیا کہ اس کو ایک ہزار سال جلایا گیا یہاں تک کہ وہ سفید ہوگئی پھر حکم دیا اس میں ایک ہزار سال آگ جلائی جائے یہاں تک کہ وہ سرخ ہوگئی پھر حکم دیا اس میں ایک ہزار سال تک جلائی جائے یہاں تک کہ کالی ہوگئی وہ کالی ہوگئی اندھیرا ہی اندھیرا ہے اس میں روشنی نہیں ہوگی وہ بجھے گی نہیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے سوئی کے سوراخ کے برابر جہنم سے کھولا جائے تو جو زمین میں ہیں وہ سارے کے سارے اس کی گرمی میں جل جائیں اس ذات کی

الْمَشْرِقِ، وَفَرَجَ أَصَابِعُهُ، وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَنزَةٌ حَتَّىٰ مِنْ هَاهُنَا، مَبِغِيٌّ عَلَيْهِمْ، مَنْصُورُونَ لَمْ يَرَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو غَاظِرَةَ

2583 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ مَرْوَانَ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا سَلَامَ الطَّوِيلِ، عَنِ الْأَجَلِحِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: جَاءَ جَبْرِيلُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِينٍ غَيْرِ حِينِهِ الَّذِي كَانَ يَأْتِيهِ فِيهِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا جَبْرِيلُ مَا لِي أَرَاكَ مُتَغَيَّرَ اللَّوْنُ؟ فَقَالَ: مَا جِئْتُكَ حَتَّىٰ أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِمَفَاتِيحِ النَّارِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا جَبْرِيلُ، صِفْ لِي النَّارَ، وَأَنْعَثْ لِي جَهَنَّمَ فَقَالَ جَبْرِيلُ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ أَمَرَ بِجَهَنَّمَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّىٰ أَبْيَضَتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّىٰ أَحْمَرَتْ، ثُمَّ أَمَرَ فَأَوْقَدَ عَلَيْهَا أَلْفَ عَامٍ حَتَّىٰ اسْوَدَّتْ، فَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلَمَةٌ لَا يُضِيءُ شَرْرُهَا، وَلَا يُطْفَأُ لَهَبُهَا، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَوْ أَنَّ قَدْرَ نَفْبِ إِبْرَةٍ فُتِحَ مِنْ جَهَنَّمَ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ ثَوْبًا مِنْ ثِيَابِ النَّارِ عُلِقَ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَمَاتَ مَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْ حَرِّهِ،

وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ خَازِنًا مِنْ خَزَنَةِ جَهَنَّمَ
 بَرَزَ إِلَىٰ أَهْلِ الدُّنْيَا، فَنظَرُوا إِلَيْهِ لَمَاتَ مَنْ فِي
 الْأَرْضِ كُلُّهُمْ مِنْ قُبْحِ وَجْهِهِ وَمِنْ نَتْنِ رِيحِهِ،
 وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَوْ أَنَّ حَلْقَةً مِنْ حَلْقَةِ سِلْسِلَةِ
 أَهْلِ النَّارِ الَّتِي نَعَتَ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ وَضَعَتْ عَلَىٰ
 جِبَالِ الدُّنْيَا لَارْفَضَتْ، وَمَا تَقَارَبَتْ حَتَّىٰ تَنْتَهِيَ إِلَىٰ
 الْأَرْضِ السُّفْلَىٰ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: حَسْبِي يَا جِبْرِيلُ لَا يَنْصَدُعُ قَلْبِي، فَأَمُوتُ
 قَالَ: فَنظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَىٰ
 جِبْرِيلَ وَهُوَ يَبْكِي، فَقَالَ: تَبْكِي يَا جِبْرِيلُ وَأَنْتَ مِنْ
 اللَّهِ بِالْمَكَانِ الَّذِي أَنْتَ بِهِ؟ قَالَ: وَمَا لِي لَا أَبْكِي؟
 أَنَا أَحَقُّ بِالْبُكَاءِ لَعَلِّي أَنْ أَكُونَ فِي عِلْمِ اللَّهِ عَلَىٰ
 غَيْرِ الْحَالِ الَّتِي أَنَا عَلَيْهَا، وَمَا أَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَىٰ
 بِمِثْلِ مَا أُبْتَلَىٰ بِهِ إِبْلِيسُ، فَقَدْ كَانَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ،
 وَمَا يَدْرِي لَعَلِّي أُبْتَلَىٰ بِمِثْلِ مَا أُبْتَلَىٰ بِهِ هَارُوتُ
 وَمَارُوتُ قَالَ: فَبَكَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ، وَبَكَى جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فَمَا زَالَا يَبْكِيَانِ
 حَتَّىٰ نُودِيََا: أَنْ يَا جِبْرِيلُ وَيَا مُحَمَّدُ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ
 وَجَلَّ قَدْ أَمَّنَكُمْ أَنْ تَعْصِيَاهُ، فَارْتَفَعَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ
 السَّلَامُ، وَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،
 فَمَرَّ بِقَوْمٍ مِنَ الْأَنْصَارِ يَصْحَكُونَ وَيَلْعَبُونَ، فَقَالَ:
 لِمَ تَصْحَكُونَ وَوَرَأَيْتُمْ جَهَنَّمَ؟ فَلَوْ تَعَلَّمُونَ مَا أَعْلَمُ
 لَصَحَّحْتُمْ قَلِيلًا، وَلَكَيْتُمْ كَثِيرًا، وَلَمَا أَسْغَمْتُ الطَّعَامَ
 وَالشَّرَابَ، وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى الصُّعَدَاتِ تَجَارُونَ إِلَىٰ

قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو بھیجا ہے! اگر جہنم کے
 کپڑوں میں سے ایک کپڑا زمین و آسمان کے درمیان لٹکا
 دیا جائے تو اس کی گرمی کے سبب تمام زمین والے مر
 جائیں اور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ
 بھیجا! اگر جہنم کا خازن دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہو اور وہ
 سارے اس کی طرف دیکھیں جو زمین میں موجود ہوں، تو
 زمین والے سارے کے سارے اس کی بدبو اور بد صورتی
 سے مرجائیں اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے
 ساتھ بھیجا ہے! اگر جہنم کی زنجیروں میں سے ایک زنجیر
 جس کی صفت حضور ﷺ نے بیان کی ہے اس کو پہاڑ پر
 رکھا جائے تو وہ ذرہ ذرہ ہو جائے یہاں تک کہ زمین تک
 ختم ہو جائے گی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے جبریل!
 بس کرو میرا دل پھٹ نہ جائے میں اس حال میں وصال
 نہ کر جاؤں۔ حضور ﷺ نے جبریل کی طرف دیکھا،
 آپ رو رہے ہیں آپ نے فرمایا: اے جبریل! آپ رو
 رہے ہیں حالانکہ اللہ کے ہاں آپ کا بڑا مقام ہے مجھے کیا
 ہوا کہ میں نہ روؤں؟ ہو سکتا ہے میں اللہ کے علم میں اس
 حالت میں نہ ہوں جس پر میں ہوں، میں نہیں جانتا ہوں
 کہ مجھے ابلیس کی طرح نہ آزمایا جائے، مجھے نہیں معلوم کہ
 مجھے ہاروت و ماروت کی طرح آزمایا نہ جائے۔ اس کے
 بعد حضور ﷺ اور جبریل علیہ السلام رو پڑے دونوں
 مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ دونوں کو آواز دی: اے
 جبریل! اے محمد! بے شک اللہ عزوجل نے دونوں کو اس
 سے امن دیا ہے کہ تم دونوں کسی نافرمانی میں مبتلا کیے

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَنُودِيَ: يَا مُحَمَّدُ، لَا تَقْنَطُ عِبَادِي،
 إِنَّمَا بَعَثْتُكَ مُبَسِّرًا، وَلَمْ أَبْعَثْكَ مُعَسِّرًا، فَقَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَدِّدُوا وَقَارِبُوا

جاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام اٹھے، حضور ﷺ نکلے
 آپ کا گزر ایک قوم کے پاس سے ہوا، وہ ہنس رہے ہیں
 اور کھیل رہے ہیں، آپ نے فرمایا: کیا تم ہنس رہے ہو
 تمہارے پیچھے جہنم ہے، اگر تم جان لو جو میں جانتا ہوں تو تم
 تھوڑا ہنسو اور زیادہ روؤ، تم کھانا پینا چھوڑ دیتے، تم
 وادیوں کی طرف نکل جاتے، اللہ عزوجل سے پناہ مانگتے۔
 آواز دی گئی: اے محمد! میرے بندوں کو مایوس نہ کرو، میں
 نے آپ کو آسانی کرنے کے لیے بھیجا ہے اور مشکلات
 کے لیے نہیں بھیجا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: نزدیکی چاہو
 میانہ روی اختیار کرو۔

یہ حدیث حضرت عمر سے اسی سند سے روایت ہے
 اس کو روایت کرنے میں سلام اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم نے
 عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم منیٰ میں آپ کے لیے کوئی
 شئی نہ بنا سکیں تاکہ آپ اس سے سایہ حاصل کریں؟ آپ
 نے فرمایا: اے عائشہ! منیٰ میں جو پہلے جائے وہی اس
 کے ٹھہرنے کی جگہ ہے۔

یہ حدیث ابراہیم سے صرف اسرائیل ہی روایت
 کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ بن طلحہ اپنے والد سے روایت کرتے

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَامٌ

2584 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْحَكَمُ

بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
 الْمُهَاجِرِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ
 عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَتَّخِذُ لَكَ
 بِيَمِينِي شَيْئًا فَتَسْتَضِلَّ فِيهِ؟ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّمَا مَنِي
 مَنَاخُ مَنْ سَبَقَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا إِسْرَائِيلَ

2585 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْحَكَمُ

2584 - أخرجه أبو داود: المناسك جلد 2 صفحہ 219 رقم الحديث: 2019، والترمذی: الحج جلد 3 صفحہ 219 رقم

الحديث: 881، وابن ماجه: المناسك جلد 2 صفحہ 1000 رقم الحديث: 3007، والدارمی: المناسك جلد 2

صفحہ 100 رقم الحديث: 1937، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 230-231 رقم الحديث: 25773.

2585 - أخرجه النسائي: السهو جلد 3 صفحہ 41 (باب نوع آخر).

ہیں کہ ہم نے عرض کی: ہم کو علم ہے کہ کس طرح ہم آپ پر سلام بھیجیں؟ آپ پر درود کیسے بھیجیں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو "اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک علی محمد الی آخرہ"۔

قَالَ: نَا اسْرَائِيْلُ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مَوْهَبٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْنَا: قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ السَّلَامُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

یہ حدیث طلحہ سے صرف عثمان بن عبد اللہ بن موهب ہی روایت کرتے ہیں اور عثمان سے صرف اسرائیل اور شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ طَلْحَةَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَوْهَبٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا اسْرَائِيلُ وَشَرِيكٌ

حضرت عون بن ابی حنیفہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ ہمارے نبی ﷺ کے بعد حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما افضل ہیں۔

2586 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ يَحْيَى الْأَشْنَانِيُّ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ: خَيْرُنَا بَعْدَ نَبِيِّنَا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں آپ کو وہی ہدیہ نہ دوں جو میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے میں نے عرض کی: کیوں نہیں! حضرت کعب نے فرمایا: ایک آدمی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! ہم آپ پر سلام بھیجتے ہیں اس کو ہم علم ہے آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو "اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد الی آخرہ"۔

2587 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: أَلَا أُهْدِي لَكَ هَدِيَّةً سَمِعْتَهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ عَلِمْنَا السَّلَامَ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ

2586 - أخرجه البخاری: فضائل الصحابة جلد 7 صفحہ 24 رقم الحدیث: 3671 وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 159

رقم الحدیث: 1058 .

2587 - أخرجه البخاری: أحاديث الأنبياء جلد 6 صفحہ 469 رقم الحدیث: 3370 ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحہ 305 .

وَالِ مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ
مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا
بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ

2588 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ

يَحْيَىٰ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدِ الْخُرَّاسَانِيُّ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ: بَيْنَمَا
نَحْنُ نَمْشِي مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذْ أَبْصَرَ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ، فَقَالَ: عَلَىٰ مَا اجْتَمَعَ
هَؤُلَاءِ؟ قِيلَ: عَلَىٰ قَبْرِ يَحْفَرُونَهُ قَالَ: فَفَزِعَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَدَرَ بَيْنَ أَصْحَابِهِ مُسْرِعًا
حَتَّىٰ انْتَهَىٰ إِلَى الْقَبْرِ، فَحَنَىٰ عَلَيْهِ، وَاسْتَقْبَلَ مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ، فَبَكَى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّىٰ بَلَ الثَّرَىٰ
مِنْ دُمُوعِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا، فَقَالَ: إِخْوَانِي، لِمَثَلِ
هَذَا الْيَوْمِ فَأَعْدُوا

لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْبَرَاءِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَاقِدِ

2589 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَارِمُ أَبُو

النُّعْمَانِ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَ: نَا الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ:
كُنَّا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ لَبِثُوا حَتَّىٰ يَرَوْهُ سَاجِدًا قَدْ
وَضَعَ جَبْهَتَهُ بِالْأَرْضِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَرِيرِ إِلَّا عَارِمُ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے اچانک
آپ نے لوگوں کی ایک جماعت دیکھی آپ نے فرمایا:
یہ سارے کس پر جمع ہیں؟ عرض کی گئی: ایک قبر کھود رہے
ہیں اس کے بعد حضور ﷺ پریشان ہوئے آپ نے
اس پر مٹی ڈالی اور اپنے ہاتھ قبلہ رخ کیے آپ رو پڑے
یہاں تک کہ زمین آنسوؤں سے تر ہوگئی پھر ہماری طرف
متوجہ ہوئے آپ نے فرمایا: میرے بھائیو! اس کی مثل
ہمارے ساتھ ہونا ہے اس کے لیے تیاری کرو۔

یہ حدیث براء سے اسی سند سے مروی ہے اس کو
روایت کرنے میں عبد اللہ بن واقد اکیلے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت

ہے کہ ہم حضور ﷺ کے زمانہ میں جب رکوع سے اٹھتے
تھے تو ہم ٹھہرے رہتے تھے یہاں تک کہ آپ کو سجدہ کی
حالت میں دیکھ نہ لیتے کہ آپ نے اپنی پیشانی زمین پر
رکھ لی ہے۔

یہ حدیث جریر سے صرف عارم ہی روایت کرتے

2588- أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 360-361 رقم الحديث: 18626 .

2589- أخرجه البخاری: الأذان جلد 2 صفحہ 345 رقم الحديث: 811، ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحہ 345 .

ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کو دودھ والا جانور دیا یا دودھ پینے کے لیے دیا یا جس نے اندھے آدمی کو راستہ دکھایا، اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، جس نے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير دس مرتبہ پڑھا، اس کے لیے بھی ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے، حضور ﷺ ہمارے کندھے اور ہمارے سینے برابر کرتے تھے اور فرماتے: اپنی صفیں ٹیڑھی نہ کرو ورنہ تمہارے دل ٹیڑھے ہو جائیں گے، بے شک اللہ عزوجل اور اسکے فرشتے اس کے لیے رحمت بھیجتے ہیں جو پہلی صف میں شریک ہوتے ہیں۔

یہ حدیث زبید سے صرف جریر ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے پوچھا: لوگوں میں افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا: میرے صحابہ، پھر جو میرے صحابہ سے ملے، پھر میرے صحابہ کے ملنے والے سے ملے، پھر ایسے لوگ آئیں گے جو گواہی دینے میں بڑی جلدی کریں گے، ان میں ایک قسم کی گواہی اور دوسرا گواہی کی

2590 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَارِمُ أَبُو

النُّعْمَانِ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ حَارِثٍ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مَصْرَفٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْسَجَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَنَعَ مَبِيحَةَ وَرِقٍ أَوْ سَقَى لَبَنًا، أَوْ أَهْدَى زِقَاقًا، كَانَ عِدْلُ رَقَبَةٍ، وَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، عَشْرَ مَرَّاتٍ، كَانَ لَهُ عِدْلُ رَقَبَةٍ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِينَا يَمْسُحُ عَوَاتِقَنَا وَصُدُورَنَا وَيَقُولُ: لَا تَخْتَلِفْ صُفُوفَكُمْ فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَمَلَائِكَتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصُّفُوفِ الْأُولِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زُبَيْدٍ إِلَّا جَرِيرٌ

2591 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا شَيْبَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُيَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ النَّاسِ خَيْرٌ؟ قَالَ: قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ تَسْبِقُ شَهَادَةُ أَحَدِهِمْ يَمِينَهُ، وَيَمِينُهُ

2590 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 4 صفحہ 285، والحاكم في مستدرکہ جلد 1 صفحہ 501. انظر: مجمع

الزوائد جلد 10 صفحہ 88.

2591 - أخرجه البخاری: الأيمان والنذور جلد 11 صفحہ 552 رقم الحديث: 6658، ومسلم: فضائل الصحابة جلد 4

صفحہ 1963.

شَهَادَتُهُ

قسم دے گا۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بھوکے کو کھانا کھلاؤ، مریض کی عیادت کرو قیدی کو آزاد کراؤ۔

2592 - وَبِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اطعموا الجائع، وعودوا المريض، وفكوا العاني

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر ایک کے ساتھ اس کا ساتھی جن ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: آپ کے ساتھ بھی؟ آپ نے فرمایا: میرے ساتھ بھی لیکن اللہ عزوجل نے میری مدد کی اس کے حوالہ سے وہ مجھ پر اسلام لایا ہے وہ مجھے صرف بھلائی کے لیے عرض کرتا ہے۔

2593 - وَبِهِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ إِلَّا وَكَلَّ بِهِ قَرِينُهُ مِنَ الْجَنِّ، قَالُوا: وَإِيَّاهُ؟ قَالَ: وَإِيَّايَ، وَلَكِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ آعَانِي عَلَيْهِ فَاسَلَّمَ، فَلَا يَأْمُرُنِي إِلَّا بِخَيْرٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جبریل نے میرا ہاتھ پکڑا مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہو گی۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی: میں پسند کرتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوتا جس وقت آپ نے دیکھا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: تو میری امت سے جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔

2594 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عِمْرَانَ بْنَ مَيْسَرَةَ الْأَدَمِيَّ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنَ حَرْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الدَّلَانِيُّ، عَنْ أَبِي يَحْيَى، مَوْلَى آلِ جَعْدَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ جَبْرِيلُ بِيَدِي، فَأَرَانِي بَابَ الْجَنَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ مِنْهُ أُمَّتِي فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ مَعَكَ حَتَّى أَرَاهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّكَ أَوَّلُ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي

2592 - أخرجه البخاری: الجهاد جلد 6 صفحہ 193 رقم الحديث: 3046، وأبو داؤد: الجنائز جلد 3 صفحہ 183 رقم

الحديث: 3105، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 481 رقم الحديث: 19536 .

2593 - أخرجه مسلم: المنافقين جلد 4 صفحہ 2167، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 520 رقم الحديث: 3801 .

2594 - أخرجه الحاكم في المستدرک جلد 3 صفحہ 73 .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دینار اور درہم کے لالچی آدمی کے لیے ہلاکت ہے، ہلاکت ہے خمیصہ (دھاری دار سرخ یا سیاہ کپڑے) والے کے لیے اگر اسکو دیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اگر نہ دیا جائے تو ناراض ہوتا ہے خوشخبری ماس کے لیے جو گھوڑے کی لگام پکڑے اللہ کی راہ میں اس کے بال بکھرے ہوئے ہوں اس کے قدم غبار آلود ہوں اگر وہ حفاظت میں ہوتا ہے تو وہ حفاظت کرتا ہے جب وہ چلتا ہے تو وہ چلنے میں ہوتا ہے اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو اس کی سفارش مانی نہیں جاتی، اگر اجازت مانگے تو اس کو اجازت نہیں دی جاتی۔

حضرت مطر بن عکام رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی آدمی کے لیے کسی جگہ مرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو وہاں اس کے لیے کام رکھ دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی کا باجماعت نماز ادا کرنا اکیلے نماز ادا کرنے سے پچیس گنا نماز کے ثواب

2595 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ، تَعَسَّ عَبْدُ الدِّرْهِمِ، تَعَسَّ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ، إِنْ أُعْطِيَ رِضَى، وَإِنْ مَنَعَ سَخِطَ، تَعَسَّ وَانْتَكَسَ، وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَقَشَ، طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَشَعَتْ رَأْسُهُ، مُغْبِرَةً قَدَمَاهُ، وَإِنْ كَانَتْ الْحِرَاسَةُ كَانَتْ فِي الْحِرَاسَةِ، وَإِنْ كَانَتْ السَّاقَةُ كَانَتْ فِي السَّاقَةِ، إِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفَّعْ، وَإِنْ اسْتَادَنَ لَمْ يُؤَدَّنْ لَهُ

2596 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبَّادُ بْنُ مُوسَى أَبُو عُقْبَةَ الْأَزْرَقِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ مَطَرِ بْنِ عُكَّامٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَضَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِرَجُلٍ أَنْ يَمُوتَ بِأَرْضٍ جَعَلَ لَهُ فِيهَا حَاجَةً

2597 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ: نَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا قَتَادَةُ، عَنْ مُورِّقِ الْعِجْلِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

2595 - أخرجه البخاري: الجهاد جلد 6 صفحہ 95 رقم الحديث: 2887، والبيهقي في الكبرى جلد 9 صفحہ 268 رقم

الحديث: 18498.

2596 - أخرجه الترمذي: القدر جلد 4 صفحہ 452 رقم الحديث: 2146، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 269 رقم

الحديث: 22043.

2597 - أخرجه الطبراني في الكبير جلد 10 صفحہ 127 رقم الحديث: 10098، والامام أحمد في مسنده جلد 1

صفحہ 376.

مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي جَمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى صَلَاتِهِ خَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُرِّقٍ إِلَّا هَمَامٌ

یہ حدیث قتادہ سے وہ موروق سے اور قتادہ سے صرف ہمام ہی روایت کرتے ہیں۔

2598 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ، فَقَالَ: إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَأَشَارَتْ إِلَى السَّمَاءِ، فَقَالَتْ: اللَّهُ، فَقَالَ: فَمَنْ أَنَا؟ فَقَالَتْ: رَسُولُهُ، وَأَوْمَأَتْ بِيَدِهَا إِلَى الْأَرْضِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقَهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا کالی لونڈی لے کر، اس نے عرض کی: مجھ پر مؤمنہ لونڈی واجب ہوئی ہے۔ حضور ﷺ نے اس لونڈی کو فرمایا: تیرا رب کون ہے؟ اس نے اشارہ کیا آسمان کی طرف، اس نے عرض کی: اللہ میرا رب ہے، آپ نے فرمایا: میں کون ہوں؟ اس نے عرض کی: آپ اس کے رسول ہیں اور اس نے اشارہ کیا اپنے ہاتھ کے ساتھ زمین کی طرف، حضور ﷺ نے اس آدمی کو فرمایا: اس کو آزاد کرو یہ مؤمنہ ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْنِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ

یہ حدیث عون سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں۔

2599 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ مُسْلِمِ الْأَعْمُورِ، عَنْ حَبَّةِ الْعُرَيْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلِ الثُّومِ، وَقَالَ: لَوْلَا أَنَّ الْمَلَكَ يَنْزِلُ عَلَيَّ لَأَكَلْتُهُ

حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ہم کو لہسن کھانے کا حکم دیا اور فرمایا: اگر فرشتہ نہ آتا (ہوتا میرے پاس) میں ضرور اس کو کھاتا۔

2600 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ میں ابو طلحہ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا خیبر

بْنِ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

میں لڑائی بڑی سخت تھی، میں نے حضور ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: اللہ بڑا ہے، خیبر فتح ہو گیا، خیبر ویران ہوا، ہم جب کسی قوم کے میدان میں نازل ہوتے ہیں تو وہ دن ان کے لیے بہت بُرا ہوتا ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں رہنے والوں کو سخت قحط اور بھوک کا سامنا کرنا پڑا، حضور ﷺ منبر پر تشریف فرما ہوئے، آپ نے جمعہ کے دن خطبہ دیا، کچھ لوگ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مال ہلاک ہو گئے اور ہم کو اپنے اوپر ہلاکت کا خوف ہے اور بھاؤ بڑھ گیا ہے اور بارش نہیں برس رہی ہے، اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر بارش برسے! حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان پر میں نے ذرہ برابر بھی بادل نہیں دیکھے، آپ ﷺ نے اپنے ہاتھ کشادہ کیے، آپ نے دعا فرمائی: اللہ کی قسم! آپ نے اپنے ہاتھ نیچے نہیں کیے یہاں تک کہ بادل چاروں طرف سے آئے، پھر برسنے لگے پھر سات دن تک برستے رہے یہاں تک کہ اللہ کی قسم! ایک نوجوان آدمی شدتِ بارش کی وجہ سے اپنے گھر واپس آتا تو وہ بھگا ہوتا تھا، جب دوسرا جمعہ آیا تو نبی کریم ﷺ نے خطبہ دیا، کچھ لوگ مسجد میں کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! گھر گرنے شروع ہو گئے ہیں اور راستے بند ہو گئے ہیں، اللہ سے دعا کریں کہ ہم سے روک لے۔ میں نے رسول اللہ ﷺ کو تبسم فرماتے ہوئے

أَنَّسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كُنْتُ رَدِيفَ أَبِي طَلْحَةَ بِخَيْبَرَ، وَقَدْ اشْتَدَّ الْقِتَالُ، فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُ أَكْبَرُ، فَتَحَتْ خَيْبَرُ، خَرِبَتْ خَيْبَرُ، إِنَّا إِذَا نَزَلْنَا بِسَاحَةِ قَوْمٍ فَسَاءَ صَبَاحُ الْمُنْدَرِينَ

2601 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَصَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةِ قَحْطٌ وَمَجَاعَةٌ شَدِيدَةٌ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ، فَخَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَامَ نَاسٌ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلَكَتِ الْأَمْوَالُ، وَخَشِينَا الْهَلَاكَ عَلَى أَنْفُسِنَا، وَعَلَى السُّعُرِ، وَقَحَطَ الْمَطَرُ، أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَسْقِينَا، قَالَ أَنَسٌ: وَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ بَيَضَاءٍ، فَمَدَّ يَدَهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا، فَوَاللَّهِ مَا ضَمَّ إِلَيْهِ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ السَّحَابَ يَجِيءُ مِنْ هَاهُنَا وَمِنْ هَاهُنَا، وَصَارَتْ رُكَّامًا، ثُمَّ سَأَلْتُ سَبْعَةَ أَيَّامٍ، حَتَّى وَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ الشَّابَّ لِيَهُمُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ مِنْ شِدَّةِ الْمَطَرِ، فَلَمَّا كَانَتِ الْجُمُعَةُ الْأُخْرَى، وَخَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَامَ نَاسٌ مِنَ الْمَسْجِدِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، تَهَدَّمَتِ الْبُيُوتُ، وَانْقَطَعَتِ الطَّرِيقُ، أَدْعُ اللَّهُ أَنْ يَحْبِسَهَا عَنَّا، فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّمَ، فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَقَالَ: حَوَالَيْنَا وَلَا عَلَيْنَا قَالَ أَنَسٌ: فَمَا أَرَى فِي السَّمَاءِ مِنْ خَضِرَاءٍ، فَلَا وَاللَّهِ، مَا قَبِضَ يَدَهُ حَتَّى رَأَيْتُ السَّمَاءَ تَتَقَطَّعُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا عَنِ الْمَدِينَةِ،

فَأَصْبَحَتْ وَإِنَّ مَا حَوْلَهَا كَوْزٌ

دیکھا آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، آپ نے عرض کی: اے اللہ! ہمارے اردگرد برس! ہم پر نہ برس! حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آسمان میں تروتازگی میں سے کوئی چیز نہیں دیکھی اللہ کی قسم! آپ نے اپنے ہاتھ نہیں سمیٹے یہاں تک کہ آسمان سے مدینہ شریف کے اندر بارش نہیں برس رہی تھی، پس آسمان صاف ہو گیا اور اس کے اردگرد بارش برس رہی تھی۔

یہ دونوں حدیثیں عمران القطان سے صرف عبد اللہ بن رجا ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عرب کے ایک قبیلہ فراعنہ کے ایک آدمی کی طرف کسی کو بھیجا کہ اس کو میرے پاس بلانا (وہ آدمی واپس آیا) عرض کی: یا رسول اللہ! وہ اس سے بے پرواہ ہے، آپ نے فرمایا: اس کے پاس جاؤ! اس کو بلا کر لاؤ، وہ اُس کے پاس آیا، اس نے کہا: آپ کو رسول اللہ ﷺ بلا رہے ہیں، تو اُس نے کہا: اللہ کا رسول اور وہ اللہ کیا ہے؟ کیا وہ سونے کا چاندی یا پیتل کا بنا ہوا ہے؟ وہ آدمی دوبار رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں واپس آیا، اس نے آپ کو بتایا، عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اس سے بے پرواہ ہے۔ آپ نے فرمایا: دوبارہ واپس جاؤ، اس کو بلا کر لاؤ، وہ آدمی اس کے پاس آیا، اس نے دوبارہ پہلی والی بات کہی، وہ آدمی حضور ﷺ کی طرف آیا، آپ کو بتایا، آپ ﷺ نے فرمایا: دوبارہ جاؤ، اس کو بلا کر لاؤ! وہ آدمی تیسری بار اس کے پاس لوٹ کر

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَانِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

2602 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ قَالَ: نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّةً رَجُلًا إِلَى رَجُلٍ مِنْ فِرَاعِنَةَ الْعَرَبِ، أَنْ ادْعُهُ لِي، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ اعْتَمَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: اذْهَبْ إِلَيْهِ، فَادْعُهُ، فَاتَاهُ، فَقَالَ لَهُ: يَدْعُوكَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ؟ أَمِنْ ذَهَبٍ هُوَ، أَوْ مِنْ فِضَّةٍ، أَوْ مِنْ نَحَاسٍ؟ فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَهُ، وَقَالَ: قَدْ أَخْبَرْتُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنَّهُ اعْتَمَى مِنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَادْعُهُ فَاتَاهُ فَاعَادَ عَلَيْهِ الْقَوْلَ الْأَوَّلَ، فَاعَادَ عَلَيْهِ مِثْلَ جَوَابِهِ الْأَوَّلِ، فَرَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرَهُ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَيْهِ، فَادْعُهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ الثَّلَاثَةَ، فَبَيْنَمَا هُمَا يَتَرَا جَعَانَ الْكَلَامِ بَيْنَهُمَا إِذْ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

گیا تو اس اثناء میں کہ وہ دونوں باتیں کر رہے تھے جب اللہ تعالیٰ نے اس کے سر کے اوپر ایک بادل بھیجا جو گر جا اور اس میں سے بجلی ظاہر ہوئی۔ اس بجلی میں سے ایک کڑک نے اس کے سر کو کچل کے رکھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی: اللہ تعالیٰ بجلیاں بھیجتا ہے اور ان کے ساتھ جس کو چاہتا ہے مصیبت کا شکار کرتا ہے جبکہ وہ لوگ اللہ کے بارے مجادلہ کر رہے ہوتے ہیں اور اللہ سخت عذاب والا ہے۔

اس حدیث کو ثابت سے صرف علی بن ابی یسار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن ایک صحیفہ لایا جائے گا اس پر مہر لگی ہوگی اس کو اللہ عزوجل کے سامنے رکھا جائے گا اللہ عزوجل فرمائے گا: اس کو پھینک دو اور اس دوسرے کی طرف متوجہ ہو فرشتے عرض کریں گے: تیری عزت کی قسم! ہم نے صرف بھلائی ہی دیکھی ہے اللہ عزوجل فرمائے گا: یہ کام میری رضا کے لیے نہیں کیا گیا میں آج وہی عمل قبول کروں گا جو میری رضا کے لیے کیا ہوگا۔

یہ حدیث ابو عمران سے صرف حارث بن عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم عبد اللہ بنت ملقمام اپنے والد ملقمام

بِسَحَابَةٍ حِيَالَ رَأْسِهِ، فَرَعَدَتْ وَأَبْرَقَتْ، وَوَقَعَ مِنْهَا صَاعِقَةٌ ذَهَبَتْ بِقَاحِفِ رَأْسِهِ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ) (الرعد: 13)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ أَبِي سَارَةَ

2603 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدِ أَبِي قَدَامَةَ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوتَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَصُحْفٍ مُخْتَمَةٍ، فَتُنْصَبُ بَيْنَ يَدَيْ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، فَيَقُولُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: أَلْقُوا هَذِهِ، وَاقْبَلُوا هَذِهِ، فَتَقُولُ الْمَلَائِكَةُ: وَعِزَّتْكَ مَا رَأَيْنَا إِلَّا خَيْرًا، فَيَقُولُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ هَذَا كَانَ لِغَيْرِ وَجْهِ، وَإِنِّي لَا أَقْبَلُ الْيَوْمَ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا ابْتِغَى بِهِ وَجْهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ عَبِيدِ

2604 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبِيدِ

2603- أخرجه البزار جلد4 صفحہ 157 . انظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحہ 353 .

2604- انظر: مجمع البحرين (2909) .

سے روایت کرتے ہیں اور ان کے والد تلب سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مہمان نوازی تین دن ہے جو اس سے زیادہ ہو وہ صدقہ ہے۔

یہ حدیث تلب سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں غالب بن حجرہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں گم شدہ شی کا اعلان کر رہا ہے تو تم کہو: وہ شی نہ ملے اور جب تم دیکھو کہ کوئی آدمی مسجد میں کاروبار کر رہا ہے تو تم کہو: اللہ عزوجل تیری تجارت میں نفع نہ دے۔

یہ حدیث یزید بن خصیفہ سے سند متصل کے ساتھ روایت نہیں کی گئی ہے مگر الدر اور دی کے لحاظ سے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم کو خطبہ دیا فرمایا: جس میں امانت نہیں اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے جس میں وعدہ کی پاسداری نہیں ہے اس کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔

حضرت یوسف بن عبد الحمید فرماتے ہیں کہ میں

اللَّهُ الْكَثِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّقَاشِيُّ قَالَ: نَا غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ عَبْدِ اللَّهِ ابْنَةُ مَلْقَامٍ، عَنْ أَبِيهَا مَلْقَامٍ، عَنْ جَدِّهِ التَّلْبِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ

لَا يَرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ التَّلْبِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ غَالِبُ بْنُ حَجْرَةَ

2605 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ خُصَيْفَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا رَأَيْتُمُ الرَّجُلَ يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ، فُولُوا: لَا وَجَدْتُمْ، وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ يَبِيعُ فِي الْمَسْجِدِ، فقولوا: لَا أَرَبَعَ اللَّهُ تِجَارَتَكَ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَزِيدِ بْنِ خُصَيْفَةَ، مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ، إِلَّا الدَّرَّاورِدِيُّ

2606 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا أَبُو هَالَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا قَالَ: لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ، وَلَا دِينَ لِمَنْ لَا عَهْدَ لَهُ

2607 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

2606 - أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 166 رقم الحديث: 12392. انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 101.

2607 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 176.

حضرت ثوبان جو حضور ﷺ کے غلام ہیں اُن سے ملا ہم کو بیان کیا کہ حضور ﷺ نے اپنے خاندان کے لوگوں کو بلوایا آپ نے حضرت علی و فاطمہ رضی اللہ عنہما کا ذکر کیا ان دونوں کے علاوہ اور کا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کی اہل بیت سے نہیں ہوں؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! تم شامل ہو اہل بیت میں جب تک کسی بند دروازے پر کھڑے نہ ہو اور کسی امیر کے پاس مانگنے کے لیے نہ جاؤ۔

یہ حدیث طریف سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے حوالہ سے کوئی شی پائی، حضرت صفیہ نے مجھے کہا: کیا آپ رسول اللہ ﷺ کو خوش کریں گی (میں) اپنی باری کا دن آپ کو دیتی ہوں؟ میں نے ایک اوڑھنی کو زیب تن کیا جو میرے پاس زعفران سے رنگی ہوئی تھی میں نے اس پر پانی چھڑک دیا پھر میں آئی، میں حضور ﷺ کے قریب بیٹھ گئی، آپ نے مجھے فرمایا: مجھ سے دُور چلی جاؤ آج آپ کی باری کا دن تو نہیں ہے؟ میں نے عرض کی: یہ اللہ کا فضل ہے جسے چاہے عطا کرنے میں نے آپ کو سارے معاملہ کی خبر دی تو آپ حضرت صفیہ سے راضی ہو گئے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ایک سفر میں تھے ہم آپ کے ساتھ تھے تو

بُنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ حَارِثٍ قَالَ: حَدَّثَنِي طَرِيفُ بْنُ عَيْسَى الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ قَالَ: لَقِيتُ ثُوبَانَ، مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثَنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا لِأَهْلِهِ، فَذَكَرَ عَلِيًّا وَفَاطِمَةَ وَغَيْرَهُمَا . فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ: مِنْ أَهْلِ الْبَيْتِ أَنَا؟ قَالَ: نَعَمْ، مَا لَمْ تَقُمْ عَلَيَّ بِبَابِ سُدَّةٍ، أَوْ تَأْتِي أَمِيرًا تَسْأَلُهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَرِيفِ إِلَّا خَالِدٌ

2608 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: وَجَدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ صَفِيَّةَ فِي شَيْءٍ، فَقَالَتْ لِي صَفِيَّةُ: هَلْ لَكَ أَنْ تُرَضِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكَ يَوْمِي؟ فَلَبِسْتُ خِمَارًا لِي كَانَ مَضْبُوعًا بِزَعْفَرَانٍ، وَنَضَخْتُهُ بِمَاءٍ، ثُمَّ جِئْتُ فَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّهُ لَيْسَ بِيَوْمِكَ فَقُلْتُ: ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ، وَأَخْبَرْتُهُ الْخَبَرَ، فَرَضِيَ عَنْهَا

2609 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ

2608 - أخرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1 صفحہ 634 رقم الحديث: 1973، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 162 .

2609 - انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 326 .

حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کا اونٹ تھک گیا، آپ کے ساتھ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بھی تھیں، ان کے پاس زیادہ سواری تھی، حضور ﷺ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا سے فرمایا: صفیہ کا اونٹ تھک گیا، اگر آپ اس کو اپنا اونٹ دے دیں، حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے عرض کی: میں اس یہودیہ کو دوں؟ حضور ﷺ غصہ ہوئے آپ نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا کے ساتھ ذی الحجہ کے چند (یا) محرم صفر اور ربیع الثانی کے چند ان کو چھوڑے رکھا یہاں تک کہ آپ نے اپنا سامان اور چارپائی اٹھالی، میں نے گمان کیا کہ آپ کو ان سے کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لحاظ سے ایک دن بیٹھے ہوئے تھے دوپہر کے وقت، ایک سایہ دیکھا آپ آ رہے ہیں، آپ نے اپنی چارپائی اور سامان واپس رکھ دیا۔

یہ دونوں حدیثیں ثابت سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی سے تین دن سے زیادہ لائق رہے۔

یہ حدیث اسماعیل سے صرف ابو شہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

سُمَيَّةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَنَحْنُ مَعَهُ، فَأَعْتَلَّ بَعِيرٌ لِصَفِيَّةَ، وَكَانَ مَعَ زَيْنَبَ فَضُلُّ ظَهْرِ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ بَعِيرَ صَفِيَّةَ قَدْ أَعْتَلَّ، فَلَوْ أَعْطَيْتَهَا بَعِيرًا لَكَ، فَقَالَتْ: أَنَا أُعْطِي هَذِهِ الْيَهُودِيَّةَ؟ فَغَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَجَرَهَا بِقِيَّةِ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمِ وَصَفَرٍ، وَإِيَّامًا مِنْ شَهْرِ رَبِيعِ الْأَوَّلِ، حَتَّى رَفَعَتْ مَتَاعَهَا وَسَرِيرَهَا، فَظَنَّتْ أَنَّهُ لَا حَاجَةَ لَهُ فِيهَا، فَبَيْنَمَا هِيَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدَةٌ بِنِصْفِ النَّهَارِ، رَأَتْ ظِلَّهُ قَدْ أَقْبَلَ فَأَعَادَتْ سَرِيرَهَا وَمَتَاعَهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلْمَةَ

2610 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو شَهَابِ الْخَنَّاطُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا أَبُو شَهَابٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قرآن نازل ہوا اس میں یہ آیت تھی کہ حرمتِ رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے گردن یا پانچ گھونٹ دودھ پینے سے۔

یہ حدیث عبدالرحمن بن قاسم سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ایک یہ نہ کہے: میرا نفس پلید ہو گیا ہے، لیکن یہ کہے کہ میرا دل سخت ہو گیا ہے۔

اس حدیث کو ہشام سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حسن اور ابراہیم بن علاء الغنوی دونوں فرماتے ہیں: عقبہ بن غزوآن کے بصرہ والے خطبہ کے متعلق: خبر دار دنیا اپنے ختم ہونے کی بات کر رہی ہے اور پیٹھ پھیر کر پلٹنے والی ہے، اس دنیا سے صرف اتنا ہی باقی رہ گیا ہے جتنا برتن میں کوئی شی باقی رہ جاتی ہے جسے تم پھینک دیتے ہو تمہارا اس دنیا سے پلٹنا ضروری ہے تم

2611 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بَنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَائِشَةَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: نَزَلَ الْقُرْآنُ: أَنَّهُ لَا يُحْرَمُ إِلَّا عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَعْلُومَاتٍ أَوْ خَمْسُ مَعْلُومَاتٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا حَمَادٌ

2612 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَقُولَنَّ أَحَدُكُمْ: حَبِثْتُ نَفْسِي، وَلَكِنْ لِيَقُلْ: لَقِسْتُ نَفْسِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا حَجَّاجُ

2613 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ اِبْرَاهِيمِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ، وَابْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْغَنَوِيُّ، قَالَا: فِي حُطْبَةِ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ بِالْبَصْرَةِ: أَلَا إِنَّ الدُّنْيَا قَدْ اذْنَتْ بَصْرُمٍ وَوَلَّتْ حَذَاءً، أَلَا وَلَمْ يَبْقَ مِنْهَا إِلَّا صُبَابَةٌ كَصُبَابَةِ اِلْنَاءِ يَصُبُّهَا أَحَدُكُمْ، أَلَا وَانْكُمُ

2611 - أخرجه مسلم: الرضاع جلد 2 صفحہ 1075، وأبو داؤد: النكاح جلد 3 صفحہ 230 رقم الحديث: 2062

والنسائي: النكاح جلد 6 صفحہ 83 (باب القدر الذي يحرم من الرضاعة) ومالك في الموطأ: الرضاع جلد 2

صفحہ 608 رقم الحديث: 17، والدارمي: النكاح جلد 2 صفحہ 209 رقم الحديث: 2253 .

2612 - أخرجه البخاري: الأدب جلد 10 صفحہ 579 رقم الحديث: 6179، ومسلم: الألفاظ جلد 4 صفحہ 1765 .

2613 - أخرجه مسلم: الزهد جلد 4 صفحہ 2278، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 214 رقم الحديث: 17588 .

اس حالت میں دنیا سے جاؤ کہ تم نیکیاں ہی نیکیاں لے کر جاؤ، خبردار! میں ان سات افراد میں ساتواں تھا جو حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہمارے پاس صرف درخت کے پتے تھے یہاں تک کہ درختوں کے پتے کھا کھا کر ہماری باچھیں پھٹ گئیں، ہم نے اس حال میں صبح کی کہ میں سے ایک امیر تھا اور میں نے اپنے آپ کو دیکھا۔ میں نے دیکھا میں ان میں ساتواں تھا، ہم کو ایک چادر ملی، ہم نے آدھی آدھی کر کے آپس میں لے لی، خبردار! اس سے عجیب بات یہ ہے کہ ایک بڑا پتھر جہنم میں گرایا گیا، ستر سال پہلے وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ خبردار! اس سے بھی تعجب والی بات ہے کہ جنت ایک حد سے دوسری حد تک چالیس دن تک چلتے رہنے کی مسافت جتنا فاصلہ ہے اس لیے ایک دن ایسا ضرور آئے گا کہ یہ رش سے بھر جائے گا۔

یہ حدیث یزید بن ابراہیم سے صرف سہل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک دیہات کے آدمی نے رسول اللہ ﷺ سے رات کی نماز کے متعلق پوچھا: آپ نے اپنی انگلی مبارک سے اس طرح اشارہ کیا، فرمایا: دو دو رکعتیں ہیں اور ایک رکعت ساتھ ملا کر وتر کر لیا کرو۔

مُتَّقِلُونَ مِنْهَا لَا مَحَالَةَ، فَانْتَقِلُوا بِخَيْرٍ مَا بَحَضَرْتُمْ، أَلَا وَقَدْ كُنْتُ سَابِعَ سَبْعَةٍ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَنَا طَعَامٌ إِلَّا وَرَقُ الشَّجَرِ، حَتَّى قَرِحَتْ أَشْدَافُنَا، وَقَدْ أَصْبَحْنَا وَمَا مِنَّا إِلَّا أَمِيرٌ، وَقَدْ رَأَيْتَنِي وَسَبْعَةً أَصْبْنَا بُرْدَةً فَشَقَقْنَاهَا بَيْنَنَا، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنَّ الصَّخْرَةَ الْعَظِيمَةَ لَتَطْرُحُ فِي جَهَنَّمَ، فَتَهْوِي سَبْعِينَ خَرِيفًا لَا تَبْلُغُ قَعْرَهَا، أَلَا وَإِنَّ مِنَ الْعَجَبِ أَنَّ مَا بَيْنَ مِصْرَاعَيْنِ مِنْ مَصَارِيعِ الْجَنَّةِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، وَكِلَيْتَيْنِ عَلَيْهِ يَوْمٌ وَهُوَ كَطِيطِ الزَّرْحَامِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا سَهْلٌ

2614 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

كَثِيرِ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا هَمَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَفِيقٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ؟ فَقَالَ بِأَصْبَعِهِ هَكَذَا: مَثْنَى مَثْنَى، وَالْوَتْرُ رَكْعَةٌ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ

2614- أخرجه البخارى: الصلاة جلد 1 صفحہ 669 رقم الحديث: 472، ومسلم: المسافرين جلد 1 صفحہ 516، وأبو

داؤد: الصلاة جلد 2 صفحہ 63 رقم الحديث: 1421.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فتح مکہ والے سال کعبہ شریف کا طواف کیا اپنی سواری پر اور حجر اسود کو استلام کیا چھڑی کے ساتھ۔

2615 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَّاورِدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: طَافَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ الْفَتْحِ بِالْبَيْتِ عَلَى رَاحِلَتِهِ يَسْتَلِمُ الرَّكْنَ بِمِخْبَتِهِ

یہ حدیث ہشام سے صرف الدر اور دی ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا الدَّرَّاورِدِيُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عید کی نماز پڑھائی بغیر اذان اور اقامت کے پھر نماز کے بعد خطبہ دیا پھر آپ عورتوں کے پاس آئے آپ کے ساتھ حضرت بلال رضی اللہ عنہ بھی تھے آپ ان کے پاس رُکے ان کو صدقہ دینے پر ترغیب دلائی ان عورتوں نے اپنی انگوٹھیاں اور ہار حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے کپڑے میں ڈالنا شروع کیے یہاں تک کہ کپڑا بھر گیا۔

2616 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمْرٍو الضَّرِيرُ قَالَ: أَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلَّى الْعِيدَ بِغَيْرِ آذَانٍ وَلَا إِقَامَةٍ، ثُمَّ خَطَبَ بَعْدَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ أَتَى النِّسَاءَ وَمَعَهُ بِلَالٌ، فَوَقَفَ عَلَيْهِنَّ وَحَثَّهِنَّ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَكَمَّ مِنْ خَاتِمٍ وَقِلَادَةٍ قَدْ أُلْقِيَ فِي تَوْبِ بِلَالٍ، حَتَّى مَلَأَ تَوْبَهُ

یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے صرف ابو عوانہ ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابو عمر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَمْرٍو

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو مظلوماً مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل کیا جانے پر شہادت کا ثواب ملتا ہے۔

2617 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: أَنَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

2615 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 247 .

2616 - أخرجه البخاری: التفسیر جلد 8 صفحہ 506 رقم الحدیث: 4895، ومسلم: العیدین جلد 2 صفحہ 602 .

2617 - أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 147 رقم الحدیث: 2480، ومسلم: الأیمان جلد 1 صفحہ 124 .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَتَلَ الْمُؤْمِنِ مَظْلُومًا
دُونَ مَا لِهٖ شَهَادَةٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: تم میں کوئی بھی اپنے پڑوسی کو منع نہ کرنے
اس کو گاڈراپنی دیوار میں رکھنے سے۔

2618 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا
يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ
الْأَمْعَمَرِ

یہ حدیث زہری سے وہ سعید سے اور زہری سے
صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حطان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے آپ کے
پاس قاضی بننے کا ذکر کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے
فرمایا: میں نے رسول اللہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ
قیامت کے دن عادل قاضی کو لایا جائے گا، اس کو سخت
حساب میں ڈالا جائے گا، وہ خواہش کرے گا کہ وہ کبھی بھی
دو آدمیوں کے درمیان کھجور کا فیصلہ کرنے کے لیے بھی
قاضی نہ بنتا۔

2619 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ
الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ سَرِّجٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حِطَّانٍ قَالَ: دَخَلْنَا
عَلَى عَائِشَةَ، فَذَكَرُوا الْقَضَاءَ، فَقَالَتْ عَائِشَةُ:
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّهُ
يُوتَى بِالْقَاضِي الْعَدْلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَلْقَى مِنْ شِدَّةِ
الْحِسَابِ مَا يَتَمَنَّى أَنْ يَكُونَ قَضَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فِي
تَمْرَةٍ قَطُّ

یہ حدیث حضرت عائشہ سے صرف اسی سند سے
روایت کی گئی ہے، اس کو روایت کرنے میں عمرو بن علاء
اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْعَلَاءِ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مرفوعاً روایت

2620 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ

2618 - أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 131 رقم الحدیث: 2463، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1230 .

2619 - انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 195 .

2620 - أخرجه مسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 100، وأبو داؤد: الجنائز جلد 3 صفحہ 190 رقم الحدیث: 3130

والنسائی: الجنائز جلد 4 صفحہ 17 (باب السلق) وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 503 رقم الحدیث: 19712 .

کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا: اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے جو گریبان پھاڑے اور بال نوچے اور کپڑے پھاڑے۔

یہ حدیث عبد الملک سے صرف ابو عوانہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: یہ دن عاشوراء کا ہے اس دن روزہ رکھا کرو کیونکہ حضور ﷺ ہم کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیتے تھے۔

یہ حدیث مزیدہ سے صرف عبد اللہ بن میسرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ صبح کی نماز میں دعائے قنوت سے منع کرتے تھے۔

یہ حدیث أم سلمہ سے اسی سند سے روایت کی گئی ہے ان سے روایت کرنے میں محمد بن یعلیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت قبیصہ بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر ایسے حکمران مسلط ہوں

الضَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ جِرَاشٍ، عَنْ أَبِي مُوسَى، رَفَعَهُ قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَقَ، وَحَرَقَ، وَسَلَقَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا أَبُو عَوَانَةَ

2621 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا أَبُو لَيْلَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ، عَنْ أُمِّهِ، أَنَّ أَبَا مُوسَى قَالَ: يَوْمَ عَاشُورَاءَ: صُومُوا هَذَا الْيَوْمَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا بِصَوْمِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَزِيدَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَيْسَرَةَ

2622 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارِ الرَّمَادِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُنْبُورٌ قَالَ: نَا عَنبَسَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقُنُوتِ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى

2623 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا عَمَّارٌ أَبُو هَاشِمٍ، صَاحِبُ

2621- أخرجه البخارى: الصوم جلد4 صفحه287 رقم الحديث: 2005، ومسلم: الصيام جلد2 صفحه796 .

2622- أخرجه ابن ماجه: الاقامة جلد1 صفحه393 رقم الحديث: 1242، والدارقطنى: سننه جلد2 صفحه38 رقم

الحديث: 5 .

2623- أخرجه ابو داود: الصلاة جلد1 صفحه115 رقم الحديث: 434، والطبرانى فى الكبير جلد18 صفحه375 .

گے جو نماز وقت پر ادا نہیں کریں گے گناہ ان پر ہوگا تمہارے لیے وقت پر ادا کرنے کا ثواب ملے گا جو تم نماز ان کے ساتھ پڑھنا جو بھی تمہارے لیے نماز پڑھائے۔

الرَّعْفَرَانِ، عَنْ صَالِحِ بْنِ عَبِيدٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكُونُ عَلَيْكُمْ أَمْرَاءُ يُؤَخَّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِفِهَا، فَهِيَ لَكُمْ وَعَلَيْهِمْ، فَصَلُّوا مَعَهُمْ مَا صَلُّوا لَكُمْ الصَّلَاةَ

یہ حدیث قبیسہ بن وقاص اللیشی سے صرف اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابوہاشم اکیسے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ وَقَاصٍ اللَّيْثِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو هَاشِمٍ

حضرت ابو مسلم الحجازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! رات کا کون سا حصہ آپ کو زیادہ پسند ہے کہ میں اس میں دو رکعت نفل ادا کروں؟ آپ نے فرمایا: آدھی رات کے وقت اور اس وقت پڑھنے والے بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں۔

2624 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا الْمَهَاجِرُ أَبُو مَخْلَدٍ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الشَّخِيرِ، عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَدَامِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا ذَرٍّ يَقُولُ: قُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَيُّ اللَّيْلِ أَحَبُّ إِلَيْكَ إِنْ قُضِيَ لِي أَنْ أَصَلِّيَ فِيهِ رَكَعَتَيْنِ؟ قَالَ: نِصْفُ اللَّيْلِ، وَقَلِيلٌ فَاعِلُهُ

یہ حدیث ابو مسلم سے صرف ابو العلاء ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں مہاجر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مُسْلِمٍ إِلَّا أَبُو الْعَلَاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْمَهَاجِرُ

حضرت عبد اللہ بن ابی الہکی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پہلو میں نماز پڑھی جب نماز پڑھ لی تو آپ نے اپنا ہاتھ میری ران پر مارا فرمایا: کیا میں آپ کو نماز کی التحیات نہ سکھاؤں جس طرح رسول اللہ ﷺ ہم کو سکھاتے تھے؟ آپ نے یہ کلمات پڑھے: تمام قولی مالی بذنی عبادتیں اللہ کے لیے

2625 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَابِي الْمَكِّيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ إِلَى جَنْبِ ابْنِ عُمَرَ، فَلَمَّا صَلَّى ضَرَبَ بِيَدِهِ عَلَيَّ فَنَحَدِي، فَقَالَ: أَلَا أَعَلِمُكَ تَحِيَّةَ الصَّلَاةِ كَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعَلِّمُنَا؟ فَتَلَا هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ:

2624- أخرجه البيهقي في الكبرى جلد3 صفحه6 رقم الحديث: 4664 .

2625- انظر: مجمع الزوائد جلد2 صفحه147 .

ہیں اے غیب کی خبریں دینے والے نبی! آپ پر سلام اور اللہ کی رحمت اور برکت ہو ہم پر سلام اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور محمد اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ابان ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سہل اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ نے فرمایا: نماز وقت پر قائم کرنا۔

یہ حدیث واصل سے صرف مہدی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن میں ایک وقت ایسا ہوتا ہے جو کوئی مسلمان اس کو پالیتا ہے تو اس وقت اللہ سے کوئی بھلائی مانگتا ہے تو اللہ اس کو عطا کرتا ہے۔

یہ حدیث ہمام سے صرف عبداللہ بن رجاء ہی روایت کرتے ہیں۔

التَّحِيَّاتُ الصَّلَوَاتُ الطَّيِّبَاتُ لِلَّهِ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ، وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا ابْنُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَهْلٌ

2626 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ قَالَ: أَنَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي وَإِلِ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِقَامَةُ الصَّلَاةِ لَوْ قُتِلَتْهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا مَهْدِيُّ

2627 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا هَمَّامٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ فِي الْجُمُعَةِ لَسَاعَةً لَا يُؤَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللَّهَ خَيْرًا إِلَّا أَعْطَاهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَمَّامٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

2626- أخرجه البخاری: التوحيد جلد13 صفحہ519 رقم الحديث: 7534، ومسلم: الايمان جلد1 صفحہ90

2627- أخرجه البخاری: الجمعة جلد2 صفحہ482 رقم الحديث: 935، ومسلم: الجمعة جلد2 صفحہ583

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب رات کا کھانا حاضر ہو اور نماز کے لیے اقامت پڑھی جائے (اور تمہیں سخت بھوک لگی ہو) تو کھانا پہلے کھالیا کرو۔

یہ حدیث سماک سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میرے پاس تشریف لائے میں آپ کے پاس گیا، میں نے آپ کو حالت نماز میں پایا، آپ نے اپنا سر مبارک باندھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: اے فضل! میرا ہاتھ پکڑنا! میں نے آپ کا ہاتھ پکڑا یہاں تک کہ آپ منبر کے پاس آئے، آپ منبر پر جلوہ افروز ہوئے، پھر مجھے فرمایا: لوگوں کو بلانے کے لیے اعلان کرو! میں نے لوگوں کے بلانے کے لیے اعلان کیا، لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے، آپ نے اللہ کی حمد اور ثناء کی، پھر فرمایا: اے لوگو! میں تمہارے اندر موجود ہوں، تم اپنے حقوق مجھ سے لے لو، جس کو میں نے پشت پر مارا ہے یہ میری پشت حاضر ہے وہ اس سے بدلہ لے لے، جس کو میں نے گالی دی ہو وہ گالی میں بدلہ لے لے، جس کا میں نے مال لیا ہے یہ میرا مال ہے وہ اس سے لے لے، کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میں رسول اللہ ﷺ سے ڈرتا ہوں، بے شک یہ میری طبیعت نہیں ہے نہ میری شان ہے، مجھے پسند وہ ہے جو مجھ سے اپنا

2628 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا سَلِيمَانَ بِنُ حَرْبٍ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا حَضَرَ الْعِشَاءُ وَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَأَبْدُونَا بِالْعِشَاءِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ إِلَّا حَمَّادٌ

2629 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نَا مَعْنُ بْنُ عَيْسَى الْقَزَّازُ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ ثُمَّ السَّمْعِيُّ النَّخَعِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجْتُ إِلَيْهِ، فَوَجَدْتُهُ مَوْعُوگًا، قَدْ عَصَبَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: خُذْ بِيَدِي يَا فَضْلُ فَأَخَذْتُ بِيَدِهِ حَتَّى انْتَهَى إِلَى الْمِنْبَرِ، فَجَلَسَ عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِي: صِخْ فِي النَّاسِ فَصِخْتُ فِي النَّاسِ، فَاجْتَمَعُوا إِلَيْهِ، فَحَمِدَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّهُ قَدْ دَنَى مِنِّي حُقُوقٌ مِنْ بَيْنِ أَظْهَرِكُمْ، فَمَنْ كُنْتُ جَلَدْتُ لَهُ ظَهْرًا فَهَذَا ظَهْرِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ شَتَمْتُ لَهُ عِرْضًا فَهَذَا عِرْضِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ، وَمَنْ كُنْتُ أَخَذْتُ لَهُ مَالًا، فَهَذَا مَالِي فَلْيَسْتَقِدْ مِنْهُ وَلَا يَقُولَنَّ رَجُلٌ: إِنِّي

2628 - أخرجه البخاری: الأُطعمة جلد 9 صفحہ 497 رقم الحدیث: 5463، ومسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 392 .

2629 - أخرجه الطبرانی فی الكبير جلد 18 صفحہ 280 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 28-29 .

حق لے لے یا مجھے معاف کر دے، میں اللہ سے ملوں اس حالت میں کہ میں اپنے نفس کو خوش پاؤں، خبردار میں اپنے آپ سے کسی کو بے پروا نہیں پاتا ہوں، میں تمہارے اندر کئی مرتبہ کھڑا ہوا ہوں، پھر آپ منبر سے نیچے اترے۔ آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی، پھر دوبارہ منبر پر تشریف فرما ہوئے، دوبارہ اس کے علاوہ والی بات دُہرائی۔ پھر فرمایا: اے لوگو! جس کے پاس کسی کی کوئی شی ہو وہ اس کو واپس کر دے وہ ترک دنیا کی رسوائی ہے، خبردار دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے بہتر ہے۔ آپ کے سامنے ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے آپ کے ذمہ تین درہم ہیں، آپ نے فرمایا: ہم کہنے والے کو جھوٹا بھی نہیں کہتے ہیں اور نہ اس پر قسم لیتے ہیں، آپ میرے پاس کیسے آئے۔ میں نے عرض کی: آپ کو وہ دن یاد ہے کہ آپ کے پاس سے ایک سائل گزرا، آپ نے مجھے حکم دیا تھا تو میں نے اس کو تین درہم دیئے تھے؟ آپ نے فرمایا: اے فضل! اس کو دے دو! پھر دوسرا آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ذمے آپ کے تین درہم ہیں، میں نے اللہ کی راہ میں خیانت کی تھی، آپ نے فرمایا: تُو نے خیانت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کی: میں محتاج تھا، آپ نے فرمایا: اے فضل! اس سے لے لو! پھر حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے جس کسی کو خوف ہو اپنے اوپر کسی شی کا وہ کھڑا ہو، میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں بہت جھوٹا ہوں اور منافق ہوں اور نیند

أَخْشَى الشُّحْنَاءَ مِنْ قَبْلِ رَسُولِ اللَّهِ، أَلَا وَإِنَّ الشُّحْنَاءَ لَيَسَتْ مِنْ طَبِيعَتِي، وَلَا مِنْ شَأْنِي، أَلَا وَإِنَّ أَحَبَّكُمْ إِلَيَّ مَنْ أَخَذَ حَقًّا إِنْ كَانَ، أَوْ حَلَّلَنِي فَلَقِيتُ اللَّهَ وَأَنَا طَيِّبُ النَّفْسِ، أَلَا وَإِنِّي لَا أَرَى ذَلِكَ بِمُعْجَبٍ عَنِّي حَتَّى أَقُومَ فِيكُمْ مِرَارًا ثُمَّ نَزَلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى الظُّهْرَ، ثُمَّ عَادَ إِلَى الْمِنْبَرِ، فَعَادَ إِلَى مَقَالَتِهِ فِي الشُّحْنَاءِ وَغَيْرِهَا، ثُمَّ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، مَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ فَلْيُرِدْهُ، وَلَا يَقُولْ: فَضُوحُ الدُّنْيَا، أَلَا وَإِنَّ فَضُوحَ الدُّنْيَا خَيْرٌ مِنْ فَضُوحِ الْأَجْرَةِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي عِنْدَكَ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ، فَقَالَ: أَمَا إِنَّا لَا نَكْذِبُ قَائِلًا، وَلَا نَسْتَحْلِفُهُ عَلَى يَمِينٍ، فَلِمَ صَارَتْ لَكَ عِنْدِي؟ قَالَ: تَذَكَّرْتُ يَوْمَ مَرِّ بَكَ السَّائِلِ فَأَمَرْتَنِي، فَدَفَعْتُ إِلَيْهِ ثَلَاثَةَ دَرَاهِمَ؟ قَالَ: اذْفَعْهَا إِلَيْهِ يَا فَضْلُ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ آخَرَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عِنْدِي ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ، كُنْتُ غَلَلْتُهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: وَلِمَ غَلَلْتُهَا؟ قَالَ: كُنْتُ إِلَيْهَا مُحْتَاجًا قَالَ: خُذْهَا مِنْهُ يَا فَضْلُ، ثُمَّ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ خَشِيَ مِنْكُمْ شَيْئًا فَلْيَقُمْ أَدْعُ لَهُ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَكَذَّابٌ وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ، وَإِنِّي لَنُومٌ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ صِدْقًا وَإِيمَانًا، وَأَذْهَبْ عَنْهُ النَّوْمَ إِذَا أَرَادَ ثُمَّ قَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَكَذَّابٌ، وَإِنِّي لَمُنَافِقٌ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ مِنَ الْأَشْيَاءِ إِلَّا وَقَدْ آتَيْتُهُ، فَقَالَ عُمَرُ: يَا هَذَا، فَضَحْتَ نَفْسَكَ،

بہت زیادہ آتی ہے آپ نے دعا فرمائی: اے اللہ! اس کو سچائی اور ایمان کی توفیق دے اور اس سے نیند دور کر دے جب یہ ارادہ کرے۔ پھر ایک اور آدمی کھڑا ہوا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں بہت جھوٹا اور منافق آدمی ہوں مجھے ہر شئی دی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے فلاں! تو اپنے آپ کو رسوا کر رہا ہے آپ نے فرمایا: اے عمر! چھوڑ دو! دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے اے اللہ! اس کو سچائی اور ایمان دے اس کو نیکی کی توفیق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بات کی حضور ﷺ نے فرمایا: عمر میرے ساتھ ہے میں عمر کے ساتھ ہوں میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہو گا جہاں بھی ہوں گے۔

یہ حدیث فضل سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں حارث بن عبد الملک اکیلے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میت دفن کر کے واپس آنے والوں کے جوتوں کی آواز سنتی ہے اگر وہ میت ایمان والی ہوتی ہے تو نماز اس کے سر کے پاس اور زکوٰۃ دائیں جانب روزہ بائیں جانب صدقہ اور نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ اچھائی سے پیش آنا اس کے پاؤں کی جانب سے منکر نکیر سر کی جانب سے آئیں گے نماز کہے گی: میری طرف سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے وہ دائیں جانب سے آئیں گے تو زکوٰۃ کہے گی: میری طرف سے داخل ہونے

فَقَالَ: مَهْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، فَضُوحُ الدُّنْيَا أَيْسَرُ مِنْ فَضُوحِ الْآخِرَةِ، اللَّهُمَّ ارْزُقْهُ صِدْقًا وَإِيمَانًا، وَصَيِّرْ أَمْرَهُ إِلَى خَيْرٍ، فَتَكَلَّمَ عُمَرُ بِكَلِمَةٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُمَرُ مَعِيَ وَأَنَا مَعَ عُمَرَ، وَالْحَقُّ بَعْدِي مَعَ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْفَضْلِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

2630 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُلْقَمَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، إِنَّهُ لَيَسْمَعُ خَفَقَ نَعَالِهِمْ حِينَ يُوَلُّونَ عَنْهُ، فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلَاةُ عِنْدَ رَأْسِهِ، وَالزَّكَاةُ عَنْ يَمِينِهِ، وَالصَّوْمُ عَنْ شِمَالِهِ، وَفَعَلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَيُوتَى مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَتَقُولُ الصَّلَاةُ: لَيْسَ قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيُوتَى عَنْ يَمِينِهِ، فَتَقُولُ الزَّكَاةُ: لَيْسَ

کی جگہ نہیں ہے پھر وہ پاؤں کی جانب سے آئیں گے تو صدقات نیکیاں اور لوگوں کے ساتھ اچھائیاں کہیں گی: میرے پاس سے داخل ہونے کی جگہ نہیں ہے۔ اس میت کو کہا جائے گا: بیٹھ جا! وہ بیٹھے گا تو اس کو ایسے محسوس ہوگا کہ سورج غروب ہو رہا ہے اس کو پوچھا جائے گا: تو اس اعلیٰ درجے والے آدمی کے متعلق کیا کہتا تھا جو تم میں تھے یعنی نبی کریم ﷺ۔ وہ جواباً کہے گا: میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی اور آپ کی اتباع کی۔ اس کو کہا جائے گا: تو نے سچ کہا ہے اس پر تو زندہ رہا ہے اور اس پر تیرا وصال ہوا ہے اور اگر اللہ نے چاہا اس پر اٹھایا جائے گا۔ اس کی قبر کو تاحدنگاہ کشادہ کیا جائے گا اس لیے اللہ عزوجل نے ارشاد فرمایا: اللہ عزوجل ایمان والوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے پڑھنے سے دنیا و آخرت کی زندگی میں ثابت قدم رکھے گا۔ کہا جائے گا: اس کے سامنے جہنم کا ایک دروازہ کھولو! اس کے لیے جہنم کا ایک دروازہ کھول دیا جائے گا اس کو کہا جائے گا: اگر تو اللہ کی نافرمانی کرتا تو تیرا یہ مقام ہونا تھا جو اللہ نے تیار کیا ہے وہ تیرے لیے ہے اور اس کی خوشی اور زیادہ ہو جائے گی اس کی جلد لونا دی جائے گی جس سے شروع ہوئی تھی اس کی روح پرندہ کے پیٹ میں رکھ دی جائے گی وہ پرندہ جنت کے درخت میں لٹکا ہوا ہوگا۔ بہر حال کافر نکیرین اس کے سر کی جانب سے آئیں گے اس کے سر کے پاس کسی شے کو نہیں

مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُوتَى عَنْ شِمَالِهِ، فَيَقُولُ الصَّوْمُ: لَيْسَ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، ثُمَّ يُوتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ، فَيَقُولُ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ وَالْمَعْرُوفِ وَالْإِحْسَانِ إِلَى النَّاسِ: لَيْسَ مِنْ قِبَلِي مَدْخَلٌ، فَيَقَالُ لَهُ: اجْلِسْ، فَيَجْلِسُ وَقَدْ مَثَلَتْ لَهُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوبِ، فَيَقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: أَشْهَدُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ جَاءَنَا بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا، فَصَدَّقْنَا وَاتَّبَعْنَا، فَيَقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، وَعَلَى هَذَا حَيْثُ، وَعَلَى هَذَا مِثٌ، وَعَلَيْهِ تُبْعَثُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيَفْسَحُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، فَذَلِكَ قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (يُبَيِّنُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ) (ابراهيم: 27) فَيَقَالُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابٌ إِلَى النَّارِ، فَيَقَالُ: هَذَا كَانَ مَنَزِلَكَ لَوْ عَصَيْتَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، فَيَزِدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، وَيُقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ لَهُ، فَيَقَالُ: هَذَا مَنَزِلَكَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، فَيَزِدَادُ غِبْطَةً وَسُرُورًا، فَيَعَادُ الْجِلْدُ إِلَى مَا بَدَأَ مِنْهُ، وَتُجْعَلُ رُوحُهُ فِي نَسَمِ طَيْرٍ تَعْلُقُ فِي شَجَرِ الْجَنَّةِ، وَأَمَّا الْكَافِرُ، فَيُوتَى فِي قَبْرِهِ مِنْ قِبَلِ رَأْسِهِ، فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، فَيُوتَى مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَلَا يُوجَدُ شَيْءٌ، فَيَجْلِسُ خَائِفًا مَرْعُوبًا، فَيَقَالُ لَهُ: مَا تَقُولُ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ فِيكُمْ؟ وَمَا تَشْهَدُ بِهِ؟ فَلَا يَهْتَدِي لِاسْمِهِ، فَيَقَالُ: مُحَمَّدٌ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ: سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا، فَقُلْتُ كَمَا قَالُوا، فَيَقَالُ لَهُ: صَدَقْتَ، عَلَى هَذَا حَيِّتْ، وَعَلَيْهِ مِتْ، وَعَلَيْهِ تَبَعْتُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ، فَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرَهُ حَتَّى تَخْتَلِفَ أَضْلَاعُهُ، فَذَلِكَ قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا) (طه: 124) فَيَقَالُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ إِلَى الْجَنَّةِ، فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا كَانَ مَنَزِلَكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ لَوْ أَنْتَ أَطَعْتَهُ، فَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا، ثُمَّ يَقَالُ لَهُ: افْتَحُوا لَهُ بَابًا إِلَى النَّارِ، فَيَفْتَحُ لَهُ بَابَ إِلَيْهَا، فَيَقَالُ لَهُ: هَذَا مَنَزِلَكَ وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لَكَ، فَيَزِدَادُ حَسْرَةً وَثُبُورًا قَالَ أَبُو عُمَرَ: قُلْتُ لِحَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ: كَانَ هَذَا مِنْ أَهْلِ الْقَبْلَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ أَبُو عُمَرَ: كَأَنَّهُ يَشْهَدُ بِهَذِهِ الشَّهَادَةِ عَلَى غَيْرِ يَقِينٍ يَرْجِعُ إِلَى قَلْبِهِ، كَانَ يَسْمَعُ النَّاسَ يَقُولُونَ شَيْئًا فَيَقُولُهُ

پائیں گے اس کے پاؤں کی جانب سے آئیں گے اس طرف بھی کوئی شے نہیں پائیں گے وہ بیٹھا ہوگا خوف کی حالت میں رعب اس پر طاری ہوگا اس کو کہا جائے گا: تُو اس آدمی کے متعلق کیا کہتا تھا جو تم میں موجود تھے تو ان کے متعلق کیا گواہی دیتا تھا؟ اس کو آپ کے نام نامی کی طرف راہنمائی نہیں کی جائے گی اس کو کہا جائے گا: یہ محمد ﷺ ہیں وہ کہے گا: میں نے لوگوں کو سنا وہ کوئی بات کہتے تھے میں بھی وہی کہتا تھا جو وہ کہتے تھے اس کو کہا جائے گا: تُو یہ سچ کہتا ہے اس پر تو نے زندگی گزاری ہے اور اس پر مرا ہے اس پر اگر اللہ نے چاہا اٹھائے جاوے گا اس کی قبر کو تنگ کیا جائے گا یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ادھر ادھر ہو جائیں گی۔ اللہ عزوجل کے ارشاد کا بھی مطلب یہی ہے: جو میرے ذکر سے کنارہ کشی کرے گا اس کے لیے زندگی تنگ کی جائے گی۔ کہا جائے گا: اس کے سامنے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے! اس کو کہا جائے گا: یہ تیرا مقام ہونا تھا جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا تھا اگر تُو اس کی اطاعت کرتا۔ اس کی حسرت اور افسوس میں اور اضافہ ہوگا۔ پھر اس کے لیے کہا جائے گا: اس کے لیے جہنم کا دروازہ کھول دیا جائے! اس کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا آگ کی طرف اس کو کہا جائے گا: یہ تیرا مقام ہے جو اللہ نے تیرے لیے تیار کیا ہے اس کی حسرت اور افسوس میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ ابو عمر فرماتے ہیں: میں نے حماد بن سلمہ سے عرض کی: یہ آدمی بھی اہل قبلہ سے ہوگا؟ فرمایا: جی ہاں!

یہ محمد بن عمر سے اس سند سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت کرتے ہیں ان سے یہ روایت کرنے میں ابو عمر ضریر اکیلے ہیں۔

حضرت ابو طفیل عامر بن وائلہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہم کو کوفہ میں خطبہ دیتے تھے فرماتے: بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد بخت تھا نیک بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت تھا۔ حضرت حذیفہ بن اسید رسول اللہ ﷺ کے صحابہ میں سے ایک نے اس پر تعجب کیا کہ نیک بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں نیک بخت تھا اور بد بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں بد بخت تھا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: اے حذیفہ! آپ کو اس بات سے کیوں تعجب ہو رہا ہے؟ پھر فرمایا: کیا آپ کو اس سے اچھی بات نہ بتاؤں؟ پھر مرفوعاً حدیث بیان کی فرمایا: اللہ عزوجل جب اپنے حکم سے کسی شی کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ایک فرشتہ رحم میں مقرر کر دیتا ہے وہ عرض کرتا ہے: اے رب! اس کی زندگی؟ آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے وہ فرشتہ لکھتا ہے اس کی زندگی پھر وہ فرشتہ عرض کرتا ہے: بد بخت یا نیک بخت؟ آپ کا رب فیصلہ کرتا ہے اور فرشتہ اس کو لکھتا ہے پھر ایسے ہی ہوتا ہے نہ زیادہ ہوتا ہے نہ کم ہوتا ہے۔

یہ حدیث ربیعہ سے مرفوعاً مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو
بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَمْرٍو
الضَّرِيرُ

2631 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ
إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا رَبِيعَةُ بْنُ كَلْثُومِ بْنِ جَبْرِ قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ عَامِرِ بْنِ وَائِلَةَ قَالَ:
كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَخْطُبُنَا بِالْكُوفَةِ، فَيَقُولُ:
الشَّقِيُّ مَنْ شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالسَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي
بَطْنِ أُمِّهِ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ أَسِيدٍ، رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَجَبًا مِنْ أَمْرِ هَذَا،
يَقُولُ: السَّعِيدُ مَنْ سَعَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ، وَالشَّقِيُّ مَنْ
شَقِيَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: يَا حُذَيْفَةُ، وَمَا
يُعْجِبُكَ مِنْ هَذَا؟ ثُمَّ قَالَ: أَلَا أَحَدَيْتُكَ بِالشِّفَاءِ مِنْ
ذَاكَ؟ ثُمَّ رَفَعَ الْحَدِيثَ، فَقَالَ: إِنَّ مَلَكًا مَوْكَلًا
بِالرَّحِمِ، إِذَا أَرَادَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ يَخْلُقَ شَيْئًا يَأْذِنُ
اللَّهُ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ اجْلُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ وَيَكْتُبُ
الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: يَا رَبِّ رِزْقُهُ، فَيَقْضِي رَبُّكَ
وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، ثُمَّ يَقُولُ: شَقِيٌّ أَمْ سَعِيدٌ؟ فَيَقْضِي
رَبُّكَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ، فَيَكُونُ كَذَلِكَ، مَا زَادَ وَمَا
نَقَصَ

لَمْ يَرَفْعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ إِلَّا مُسْلِمٌ

2632 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمٌ

2631- آخر جہ مسلم: القدر جلد 4 صفحہ 2037، والطبرانی فی الکبیر جلد 3 صفحہ 176 رقم الحدیث: 3040 .

2632- تقدم تخریجہ .

ﷺ نے مجھ سے تین چیزوں کے کرنے کا وعدہ لیا: (۱) جمعہ کے دن غسل کرنے کا (۲) سونے سے پہلے وتر پڑھ لینے کا اور (۳) ہر ماہ تین روزے رکھنے کا۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: جب انہیں یہ بات پہنچی کہ مکہ میں ایک ہستی نبی بن کر تشریف لائی ہے تو انہوں نے اپنے بھائی کو بھیجا اور کہا: جاؤ! اور جا کر میرے پاس ان کی خبر لے کر آؤ اور جو کچھ ان سے سنو صحیح صحیح بتاؤ۔ آپ کے بھائی گئے یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ کے کلام کو ساعت کیا پھر لوٹ کر واپس حضرت ابوذر کے پاس آئے اور آ کر بتایا کہ وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور بُرائی سے منع کرتے ہیں اور اچھے اخلاق اپنانے کی تلقین فرماتے ہیں۔ پس حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: آپ نے میری تشفی نہیں کی۔ پس آپ نے اپنا جھولا اٹھایا جس میں ان کا پانی اور زور ابراہیم تھا۔ پھر چلتے ہوئے مکہ آئے۔ علیحدگی میں کسی سے کچھ پوچھنا چاہتے تھے اور رسول کریم ﷺ سے نہیں ملے۔ پس مسجد میں داخل ہو کر گھومنے لگے یہاں تک کہ وہیں شام ہو گئی، پس جب اندھیرا چھا رہا تھا تو حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ آپ کے پاس سے گزرے انہوں نے فرمایا: کون آدمی ہے؟ آپ نے جواب دیا: بنی غفار کا ایک فرد ہوں۔ فرمایا: گھر چلو! پس آپ ان کے ساتھ چلے حتیٰ کہ دونوں میں سے کسی ایک نے بھی اپنے ساتھی سے کسی چیز

قَالَ: نَارِ رِبْعَةَ بْنِ كَثُومٍ، أَنَّهُ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: عَهَدَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَالْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ، وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

2633 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ قَالَ: نَا الْمُثَنَّى بْنُ سَعِيدِ الْقَصِيرِ قَالَ: نَا أَبُو جَمْرَةَ، أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُدْوِ اسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّ رَجُلًا، خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ نَبِيُّ، بَعَثَ أَخَاهُ، فَقَالَ: انْطَلِقْ حَتَّى تَأْتِيَنِي بِخَبْرِهِ، وَمَا تَسْمَعُ مِنْهُ، فَانْطَلِقْ أَخُوهُ حَتَّى سَمِعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيَّ أَبِي ذَرٍّ، فَاخْبَرَهُ أَنَّهُ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ، وَيَأْمُرُ بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: مَا شَفَيْتَنِي، فَاخْذُ شِنَةَ فِيهَا مَأْوُهُ وَزَادَهُ، ثُمَّ انْطَلِقْ حَتَّى آتِيَ مَكَّةَ، فَفَرِّقْ أَنْ يَسْأَلَ أَحَدًا عَنْ شَيْءٍ، وَلَمْ يَلْقَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَجَالَ بِهِ حَتَّى أَمْسَى، فَلَمَّا أَعْتَمَ، مَرَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: مَنِ الرَّجُلُ؟ قَالَ: رَجُلٌ مِنْ غِفَارٍ قَالَ: فَانْطَلِقْ إِلَى الْمَنْزِلِ، فَانْطَلِقْ مَعَهُ، لَا يَسْأَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ عَنْ شَيْءٍ، فَلَمَّا أَصْبَحَ غَدَا أَبُو ذَرٍّ فِي الطَّلَبِ، فَلَمَّا أَمْسَى نَامَ فِي الْمَسْجِدِ، فَمَرَّ بِهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، فَقَالَ: أَنْ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْرِفَ مَنْزِلَهُ، فَلَمَّا كَانَ الْيَوْمَ الثَّلَاثُ

کے بارے کوئی سوال نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو حضرت ابوذر پھر اپنے مقصد کی تلاش میں ہو گئے، پس جب شام ہوئی تو آپ مسجد میں ہی سو گئے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا: آدمی کے لیے اپنے گھر کو پہچاننے کی گھڑی قریب آگئی ہے۔ پس جب تیسرا دن آیا تو آپ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے قریب ہوئے اور کہا: اگر وہ ان سے کوئی بات کہیں تو ان پر ضروری ہوگا کہ وہ اس کو چھپائیں اور اپنے تک محدود رکھیں۔ پس آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا: انہیں یہ بات پتا چلی ہے کہ مکہ میں ایک ہستی نبی بن کر تشریف لائی ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو حقیقت حال معلوم کرنے کے لیے بھیجا لیکن وہ میرے پاس کوئی شافی خبر نہ لاسکا تو میں بذات خود آیا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: میں آگے آگے چلتا ہوں اور میرے پیچھے پیچھے آجائیں۔ اگر میں تم پر خوف والی کوئی چیز دیکھوں گا تو کھڑا ہو جاؤں گا۔ اس طرح گویا میں پانی اوپر سے نیچے بہا رہا ہوں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ چلے اور حضرت ابوذر بھی ان کے قدموں کے نشانات پر چل پڑے یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آ گئے۔ انہوں نے رسول کریم ﷺ کو خبر دی اور سماعت کا شرف حاصل کیا تو اسلام لائے۔ پھر عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے کوئی خاص حکم ارشاد فرمائیں! آپ نے فرمایا: اپنی قوم کی طرف واپس چلے جائیں اوور وہیں رہیں یہاں تک کہ تیرے پاس ہماری خبر پہنچ

أَخَذَ عَلِيٌّ عَلِيًّا لَيْسَ تَرَى بِأَمْرِهِ لَيْسَ تَرَى عَلَيْهِ، وَلَيْكُتَمَنَّ عَنْهُ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ بَلَّغَهُ أَنَّ رَجُلًا خَرَجَ بِمَكَّةَ يَزْعُمُ أَنَّهُ يَرَى، فَبَعَثْتُ أَخِي، فَلَمْ يَأْتِنِي مَا يَشْفِينِي، فَجِئْتُهُ بِنَفْسِي، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: إِنِّي عَادِي، فَاتَّبَعْنِي، فَإِنِّي إِذَا رَأَيْتُ مَا أَخَافُ عَلَيْكَ فَمَتَّ كَاتِبِي أَهْرِيقَ الْمَاءِ، فَعَدَا عَلِيٌّ وَعَدَا أَبُو ذَرٍّ عَلِيَّ أَثَرَهُ، حَتَّى دَخَلَ عَلِيٌّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَدَخَلَ أَبُو ذَرٍّ عَلِيَّ أَثَرَهُ، فَأَخْبَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَسَمِعَ مِنْهُ، فَاسْلَمَ، ثُمَّ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرِّنِي بِأَمْرِكَ، فَقَالَ: ارْجِعْ إِلَى قَوْمِكَ حَتَّى يَأْتِيكَ خَبْرِي، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا رَجَعْتُ حَتَّى أَصْرَحَ بِالْإِسْلَامِ، فَعَدَا إِلَى الْمَسْجِدِ، فَقَامَ يَصْرُخُ بِأَعْلَى صَوْتِهِ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَقَالَ الْمُشْرِكُونَ: صَبَا الرَّجُلُ، ثُمَّ قَامُوا إِلَيْهِ فَضْرَبُوهُ حَتَّى سَقَطَ، فَمَرَّ بِهِ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ: قَتَلْتُمُ الرَّجُلَ يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ، أَنْتُمْ تَجَارُ، وَطَرِيقُكُمْ عَلَى غِفَارٍ أَفْتَرِيذُونَ أَنْ يُقَطَعَ الطَّرِيقُ؟ فَكَفُّوا عَنْهُ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ عَادَ لِمَقَالَتِهِ، فَوَكَّبُوا عَلَيْهِ، فَضْرَبُوهُ حَتَّى سَقَطَ، فَمَرَّ بِهِ الْعَبَّاسُ، فَكَتَبَ عَلَيْهِ، وَقَالَ لَهُمْ مِثْلَ مَا قَالَ بِالْأَمْسِ، فَكَفُّوا عَنْهُ، فَهَذَا كَانَ بُدْوُ إِسْلَامِ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

جائے۔ پس آپ نے کہا: قسم ہے میں اس وقت تک واپس نہ جاؤں گا جب تک میں اپنے اسلام کا واضح اعلان نہ کر لوں! صبح ہوئی تو مسجد حرام میں گئے اور کھڑے ہو کر بباگ دہل کہا: اشهد ان لا الا اله الله وان محمداً عبده ورسوله تو مشرکین نے سن کر کہا: یہ آدمی ب دین ہو گیا ہے۔ پھر آپ کی طرف آئے اور مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ مار کی تاب نہ لا کر گر پڑے تو آپ کے پاس سے حضرت عباس بن عبدالمطلب گزرے وہ آپ پر سایہ فگن ہو گئے اور فرمایا: اے قریشیو! تم آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو تم تو تاجر ہو اور تمہارا راستہ بنو غفار قبیلے کے پاس سے گزرتا ہے، کیا تم اپنا راستہ بند کروانا چاہتے ہو، پس اس سے ہاتھ روک لو۔ پس جب اگلی صبح ہوئی تو آپ نے پھر اعلان فرمایا، وہ پھر جھپٹے، پس انہوں نے آپ کو مارا یہاں تک کہ آپ گر گئے۔ حضرت عباس پاس سے گزرے اور دیکھ کر رُکے اور ان پر جھک گئے۔ سو یہ ہے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کے اسلام کی ابتداء۔

حضرت ابی جمرہ سے اس حدیث کو جناب ثنی ہی روایت کرتے ہیں اور ثنی سے عبدالرحمن بن مہدی اور عمرو بن حکام روایت کرتے ہیں۔

حضرت زبیر بن عوام یا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور ﷺ ہم کو خطبہ دیتے تھے ہمیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاتے یہاں تک کہ ہم آپ کے چہرے سے پہچان لیتے تھے ایسے محسوس ہوتا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ إِلَّا الْمُشَنَّى، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمُشَنَّى إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، وَعَمْرُو بْنُ حَكَّامٍ

2634 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَبَّاجُ بْنُ نُصَيْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنِ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ، أَوْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

کہ کسی آدمی سے آپ اس کے حملہ سے ڈرا رہے ہیں آپ جب حضرت جبریل علیہ السلام سے گفتگو کر رہے ہوتے تو آپ کھل کر تبسم نہیں کرتے تھے یہاں تک کہ حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس سے چلے جاتے۔

یہ حدیث ابوزبیر سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے عزل کے متعلق پوچھا گیا، آپ نے فرمایا: تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس کے کرنے کا لیکن جس روح نے آنا ہے وہ آ کر ہی رہے گی۔

یہ حدیث زہری، عبید اللہ سے اور زہری سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں اور ان سے مالک بن انس روایت کرتے ہیں۔ زہری کے ساتھی عبداللہ ابن محیریز سے اور وہ حضرت ابوسعید سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ دائیں اور بائیں جانب سلام پھیرتے تھے۔

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبْنَا، فَيَذَكِّرُنَا بِأَيَّامِ اللَّهِ حَتَّى نَعْرِفَ ذَلِكَ فِي وَجْهِهِ، كَأَنَّهُ رَجُلٌ يَخَافُ أَنْ يُصَبِّحَهُمُ الْأَمْرُ غُدْوَةً، وَكَانَ إِذَا كَانَ حَدِيثَ عَهْدٍ بِجِبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا يَتَّبِعُ ضَاحِكًا حَتَّى يَرْفَعَ عَنْهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا هِشَامٌ

2635 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عُمَرَ

الضَّرِيرُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْعَزْلِ قَالَ: لَا عَلَيْكُمْ أَنْ لَا تَفْعَلُوهُ فَإِنَّمَا هُوَ الْقَدْرُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ وَرَوَاهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَأَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ

2636 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ

إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ

2635 - أخرجه البخارى: القدر جلد 11 صفحہ 502 رقم الحديث: 6603، ومسلم: النكاح جلد 2 صفحہ 1062 .

2636 - أخرجه أبو داود: الصلاة جلد 1 صفحہ 260 رقم الحديث: 996، والترمذى: الصلاة جلد 2 صفحہ 89 رقم

الحديث: 295، وابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحہ 396 رقم الحديث: 914، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 553

رقم الحديث: 4054 .

وَعَنْ يَسَارِهِ

یہ حدیث حماد سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔

حضرت ابو زین العقیلی فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے پاک ہی کھاتی ہے اور پاک ہی نکالتی ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف حجاج اور مؤمل بن اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ دائیں جانب سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے بائیں جانب سلام پھیرتے تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہتے تھے تو سلام پھیرتے وقت آپ کے رخسار مبارک دکھائی دیتے تھے۔

ابراہیم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں ہشام حجاج سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ

2637 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ

بُنْ نَصِيرٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ عَدُسٍ، عَنْ عَمِّهِ أَبِي رَزِينِ الْعُقَيْلِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الْمُؤْمِنِ مَثَلُ النَّحْلَةِ، لَا تَأْكُلُ إِلَّا طَيِّبًا، وَلَا تَضَعُ إِلَّا طَيِّبًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجُ وَمُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ

2638 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا حَجَّاجُ

بُنْ نَصِيرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَسْلِمُ عَنْ يَمِينِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَعَنْ يَسَارِهِ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَبْدُو لَهُمْ صَفْحَتَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامٌ

2639 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

2637 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 298 .

2638 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 10 صفحہ 125 رقم الحديث: 10181 .

2639 - أخرجه الترمذی: الصلاة جلد 2 صفحہ 160 رقم الحديث: 337، وابن ماجه: اقامة الصلاة جلد 1 صفحہ 305 رقم

الحديث: 947، والدارمی: الصلاة جلد 1 صفحہ 368 رقم الحديث: 1415، وأحمد: المسند جلد 1

صفحہ 287-288 رقم الحديث: 1896 .

حضرت فضل مجھ سے عمر میں بڑے تھے آپ مجھے اپنے پیچھے سوار کرتے میں اپنے دونوں ہاتھوں سے آپ کو پکڑتا تھا میں اور میرا بھائی آپ کے پیچھے سوار ہوئے گدھی پر ہم حضور ﷺ کے پاس پہنچے آپ لوگوں کو مقام عرفات میں نماز پڑھا رہے تھے ہم آپ کے پاس آ گئے اترے نیچے سواری سے ہم نے نماز پڑھی اور ہم نے اپنے آگے گدھی چھوڑ دی چرنے کے لیے آپ نے اپنی نماز نہیں توڑی۔

یہ حدیث حکم مجاہد سے اور حکم سے صرف اسماعیل بن مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک کمبل اور پیالہ فروخت کرنے کے لیے لوگوں کو بلایا ایک آدمی نے اس کا دام ایک درہم لگایا دوسرے نے دو درہم لگائے آپ نے دو درہم دینے والے کے ہاتھ فروخت کیا۔

یہ حدیث حضرت انس سے صرف ابوبکر ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں اخضر اکیلے ہیں۔

فائدہ: امام طبرانی نے یہ حدیث مختصر نقل کی ہے جبکہ ترمذی ابوداؤد ابن ماجہ میں روایت اس طرح ہے کہ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اس نے آپ سے سوال کیا آپ نے اس کو فرمایا: تیرے پاس گھر میں کوئی شے ہے اس نے عرض کی: ایک کمبل اور ایک پیالہ ہے کمبل اپنے اوپر لے لیتا ہوں آپ نے فرمایا: دونوں کو لے کر میرے پاس آؤ وہ دونوں لے کر آپ کے پاس آیا آپ نے فرمایا: اس کو کون خریدے گا؟ ایک صحابی نے ایک درہم دام لگایا دوسرے نے دو درہم لگائے ایک دو درہم

عَبْدُ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ أَكْبَرَ مِنِّي، فَكَانَ يُرْدِينِي، فَكُنْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَارْتَدَفْتُ أَنَا وَآخِي عَلَى حِمَارَةٍ، فَانْتَهَيْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ بِعَرَفَةَ، فَزَلْنَا بَيْنَ يَدَيْهِ، وَدَخَلْنَا فَصَلَّيْنَا وَتَرَكْنَاهَا تَرَعَى بَيْنَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يَقْطَعْ صَلَاتَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ، عَنِ مُجَاهِدٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2640 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا الْأَخْضَرُ بْنُ عَجَلَانَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ الْحَنْفِيُّ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَادَى عَلَى حِلسٍ وَقَدَحٍ، فِيمَنْ يَزِيدُ، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ دِرْهَمًا، وَأَعْطَاهُ آخَرُ دِرْهَمَيْنِ، فَبَاعَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أَنَسِ إِلَّا أَبُو بَكْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَخْضَرُ

والے کو دے دیا فرمایا: ایک درہم اپنے کھانے کے لیے اور ایک درہم کی کلباڑی لے کر آؤ، وہ کلباڑی لے کر آیا، آپ نے اپنے دست مبارک سے اس کو دستہ ڈالا فرمایا: جاؤ! اس کے ساتھ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، اس کو بازار میں فروخت کرو، خود بھی اس کی کمائی کھاؤ اور صدقہ بھی کرو، یہ اس سے بہتر ہے کہ ٹو مانگے تو تجھے دیا جائے یا نہ دیا جائے۔ (سنن ابن ماجہ صفحہ ۳۴ مترجم علامہ عبدالحکیم اختر شاہ جہا پوری، مطبوعہ فریدک نال، لاہور) غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی

حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے بھائی کا ناحق ایک لقمہ بھی کھایا، اللہ عزوجل اس کی مثل اس کو جہنم کی آگ سے کھلائے گا۔

یہ حدیث مستورد سے صرف اسی سند سے روایت ہے اور وقاص سے صرف سلیمان ہی روایت کرتے ہیں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند دیکھ کر عید کرو۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر دھوکہ باز کے لیے قیامت کے دن جھنڈا لگایا جائے گا، جس کی وجہ سے اس کا دھوکہ باز ہونا پچھانا جائے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

2641 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ بِأَخِيهِ أَكَلَهُ أَطْعَمَهُ اللَّهُ مِثْلَهَا مِنْ نَارِ جَهَنَّمَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ

2642 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صُومُوا لِرُؤْيَيْتِهِ، وَأَفْطَرُوا لِرُؤْيَيْتِهِ

2643 - وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ لِكُلِّ غَادِرٍ لَوَاءً يَوْمَ الْقِيَامَةِ، يُعْرَفُ بِغَدْرَتِهِ

2644 - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ

2641 - أخرجه أبو داود: الأدب جلد 4 صفحہ 271 رقم الحديث: 4881، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 280 رقم

الحديث: 18034 .

2642 - أخرجه البخاری: الصوم جلد 4 صفحہ 143 رقم الحديث: 1906، ومسلم: الصيام جلد 2 صفحہ 759 .

2643 - أخرجه البخاری: الجزية جلد 6 صفحہ 327 رقم الحديث: 3188، ومسلم: الجهاد جلد 3 صفحہ 1360 .

2644 - أخرجه الطبرانی في الدعاء رقم الحديث: 95612 .

ﷺ نے فرمایا: جس نے یہ کلمات ”اعوذ بکلمات الاتامات من شر ما خلق“ سورج غروب ہونے کے وقت پڑھ لیے، اس کو اس رات کوئی شی نقصان نہیں دے گی۔

یہ حدیث محمد بن رفاعہ سے صرف ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی دونوں جرابوں پر مسح کیا۔

یہ حدیث ابو قیس سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے سونے کی انگوٹھی بنائی، اس کو تین دن تک پہنا، تو صحابہ کرام نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنالیں، آپ نے اس کو پھینک دیا اور آپ نے چاندی کی انگوٹھی بنائی، اس میں نقش یہ تھا: محمد رسول اللہ۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف ابو عاصم ہی روایت کرتے ہیں۔

بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَالَ حِينَ تَغِيْبُ الشَّمْسُ: أَعُوذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّهُ فِي كَلْبَتِهِ شَيْءٌ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

2645 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو

عَاصِمٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرْحَبِيلَ، عَنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى جُورِيِّهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قَيْسٍ إِلَّا سُفْيَانُ

2646 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو عَاصِمٍ

قَالَ: نَا الْمُغِيرَةَ بْنَ زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ، فَلَبَسَهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَفَشَتْ خَوَاتِيمُ الذَّهَبِ، فَرَمَى بِهِ، وَاتَّخَذَ خَاتَمًا مِنْ وَرِقٍ، وَنُقِشَ فِيهِ: مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا أَبُو عَاصِمٍ

2645- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1 صفحہ 40 رقم الحديث: 159، والترمذی: الطهارة جلد 1 صفحہ 167 رقم

الحديث: 99، وابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحہ 185 رقم الحديث: 559، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 309

رقم الحديث: 18234 .

2646- أخرجه البخاری: اللباس جلد 10 صفحہ 330 رقم الحديث: 5866، ومسلم: اللباس جلد 3 صفحہ 1656 .

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے چھوڑیں، میں صاحب کی گردن اڑا دوں کیونکہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا: اے عمر بن خطاب! آپ کو معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے بدروالوں پر توجہ فرمائی ہے اور فرمایا: تم جو چاہو عمل کرو، میں نے تم کو بخش دیا ہے۔

یہ حدیث ابو زمیل، حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں اور ابن عباس، حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں، اس سند سے ابو زمیل سے روایت کرنے میں عکرمہ اکیلے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے گھروں کے دروازے کے پاس، ہم کو آپ حدیث بیان کر رہے تھے، اچانک حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما آئے، ان دونوں کے ساتھ لوگوں کی ایک جماعت تھی، کچھ وہ ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے اور کچھ ایک دوسرے کی باتوں کا جواب دے رہے تھے، انہوں نے حضور ﷺ کو دیکھا وہ خاموش ہو گئے، آپ نے فرمایا: تم کیا گفتگو کر رہے تھے جو میں ابھی سن رہا تھا؟ تم ایک دوسرے کو جواب دے رہے تھے؟ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! حضرت ابو بکر کا خیال ہے کہ

2647 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو حَدَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا عِكْرِمَةَ بْنَ عَمَّارٍ، عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ بِسْمَاكِ بْنِ الْوَلِيدِ الْحَنْفِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، دَعَيْتِي أَضْرِبَ عُنُقَ حَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ، فَقَدْ كَفَرَ. قَالَ: وَمَا يَذْرُوكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ، لَعَلَّ اللَّهَ أَطْلَعَ عَلَيَّ أَهْلَ بَدْرٍ فَقَالَ: اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ، فَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي زُمَيْلٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عُمَرَ الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عِكْرِمَةُ

2648 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى زُبَيْرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الصُّبْحِ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُنَا عَلَى بَابِ الْحُجْرَاتِ إِذْ أَقْبَلَ أَبُو بَكْرٍ وَعَمْرٌ وَمَعَهُمَا فَنَامَ مِنَ النَّاسِ، يُجَاوِبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَيَرُدُّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَلَمَّا رَأَوْا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَكَنُوا، فَقَالَ: مَا كَلَامٌ سَمِعْتُهُ أَنْفَاءً، جَاوَبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَيَرُدُّ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، زَعَمَ أَبُو بَكْرٍ أَنَّ الْحَسَنَاتِ مِنَ اللَّهِ وَالسَّيِّئَاتِ

2647 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 306-307

2648 - انظر: مجمع البحرين (3220)

مِنَ الْعِبَادِ، وَقَالَ عُمَرُ: السَّيِّئَاتُ وَالْحَسَنَاتُ مِنَ اللَّهِ، فَتَابَعَ هَذَا قَوْمٌ، وَتَابَعَ هَذَا قَوْمٌ، فَاجَابَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، وَرَدَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَالْتَفَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: كَيْفَ قُلْتُمْ؟ فَقَالَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ، وَالْتَفَتَ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ قَوْلُهُ الْأَوَّلُ، فَقَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا أَقْضِيَنَّ بَيْنَكُمْ بِقَضَاءِ اسْرَافِيلَ بَيْنَ جَبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ فَتَعَاظَمَ ذَلِكَ فِي أَنْفُسِ النَّاسِ، وَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَقَدْ تَكَلَّمْتَ فِي هَذَا جَبْرِيلُ؟ فَقَالَ: ائِى وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهَمَّا أَوَّلَ خَلْقِي اللَّهُ تَكَلَّمَ فِيهِ، فَقَالَ مِيكَائِيلُ بِقَوْلِ أَبِي بَكْرٍ، وَقَالَ جَبْرِيلُ بِقَوْلِ عُمَرَ، فَقَالَ جَبْرِيلُ لِمِيكَائِيلَ: اِنَّا مَتَى نَخْتَلِفُ أَهْلَ السَّمَاءِ يَخْتَلِفُ أَهْلَ الْأَرْضِ، فَلَنْتَحَاكَمَ إِلَى اسْرَافِيلَ، فَتَحَاكَمَا إِلَيْهِ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا بِحَقِيقَةِ الْقَدْرِ، خَيْرِهِ وَشَرِّهِ، حُلُوهُ وَمَرُّهُ، كُلُّهُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَإِنِّي قَاضٍ بَيْنَكُمْ ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَ: يَا أَبَا بَكْرٍ، إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَوْ أَرَادَ أَنْ لَا يُعْصَى لَمْ يَخْلُقْ إِبْلِيسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: صَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

نیکیاں اللہ کی طرف سے ہیں اور بُرائیاں بندوں کی طرف سے ہیں اور حضرت عمر کا خیال ہے کہ نیکیاں اور بُرائیاں اللہ کی جانب سے ہیں، کچھ لوگ حضرت ابوبکر کی اتباع کرتے ہیں اور کچھ حضرت عمر کی اتباع کرتے ہیں، ان میں بعض کو جواب دیتے ہیں اور بعض بعض کی بات کو رد کرتے ہیں۔ حضور ﷺ حضرت ابوبکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا: آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابوبکر نے پہلی والی بات عرض کی، آپ ﷺ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! میں تمہارے درمیان فیصلہ کروں گا جو حضرت اسرافیل علیہ السلام نے حضرت جبریل اور میکائیل کے درمیان کیا ہے، لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس مسئلہ میں حضرت جبریل نے بات کی ہے؟ آپ نے فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ دونوں پہلے ہیں جن کو اللہ عزوجل نے اس مسئلہ میں گفتگو کے لیے پیدا کیا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام حضرت ابوبکر والی بات کہتے ہیں، حضرت جبریل عمروالی بات کہتے ہیں، حضرت جبریل نے حضرت میکائیل سے کہا: ہم جب آسمان والے اختلاف کرتے ہیں تو زمین والے بھی اختلاف کرتے ہیں، ہم اس کا فیصلہ حضرت اسرافیل سے کرواتے ہیں۔ دونوں اپنا فیصلہ کروانے کے لیے حضرت میکائیل علیہ السلام کے پاس گئے، حضرت میکائیل علیہ السلام دونوں کے درمیان فیصلہ کیا تقدیر کی حقیقت کے ساتھ، تقدیر کے اچھا اور بُرا اور

بیٹھا اور کڑوا ہونا سب اللہ کی جانب سے ہیں، میں بھی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہوں، پھر آپ حضرت ابو بکر کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا: اے ابو بکر! بے شک اللہ عزوجل اگر ارادہ کرتا کہ اس کی کوئی نافرمانی نہ کرے تو ابلیس کو پیدا نہ کرتا، حضرت ابو بکر نے عرض کی: اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا۔

یہ حدیث مقاتل سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں اور عمر سے روایت کرنے میں محمد بن یعلیٰ اکیلے ہیں۔ حضرت قاسم فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو پانچ چیزیں نہ سکھاؤں! مساکین کی محبت، مساکین کے قریب رہنے کی اور تم اپنے نیچے درجہ والے آدمی کو دیکھو جو تم سے بڑا ہے مال میں اس کی طرف نہ دیکھو صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ پیچھے ہو، حق بات کہو اگرچہ وہ کڑوی کیوں نہ ہو اور کثرت سے لاحول والا قوتہ الا باللہ پڑھو۔

یہ حدیث ابو حصین سے صرف جریر اور جریر سے صرف ابواسامہ ہی روایت کرتے ہیں۔ احمد بن عمر سے روایت کرنے میں ابواسامہ اکیلے ہیں۔ امام طبرانی فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ یہ حدیث ابو حصین سے روایت کرتے ہیں قاسم بن خمیرہ۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُقَاتِلٍ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْلَى

2649 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ

الْوَكَيْعِيُّ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا اَبُو اَسَامَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ اَيُّوبَ قَالَ: نَا اَبُو حَصِيْنِ الْاَسَدِيُّ، عَنِ الْقَاسِمِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا سَعِيْدِ الْخُدْرِيَّ يَقُوْلُ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اَعْلَمُكُمْ خَمْسًا؟: حُبَّ الْمَسَاكِيْنِ وَالذُّنُوْبَ مِنْهُمْ، وَاَنْظُرُوْا اِلَى مَنْ هُوَ اَسْفَلَ مِنْكُمْ، وَلَا تَنْظُرُوْا اِلَى مَنْ فَوْقَكُمْ، وَصَلُّوْا الرَّحِمَ وَاِنْ اَذْبَرْتُمْ، وَقُوْلُوْا الْحَقَّ وَاِنْ كَانَ مُرًّا، وَاكْثِرُوْا مِنْ قَوْلِ: لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي حَصِيْنِ اِلَّا جَرِيْرًا، وَلَا عَنْ جَرِيْرٍ اِلَّا اَبُو اَسَامَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ اَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ، وَاَحْسَبُ الْقَاسِمَ الَّذِي رَوَى عَنْهُ اَبُو حَصِيْنٍ هَذَا الْحَدِيثَ الْقَاسِمَ بْنَ مُخَيْمِرَةَ

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا تم شدہ اونٹ کے متعلق؟ آپ نے فرمایا: آپ کو اس سے کیا واسطہ؟ اس کا پانی اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ درخت کے پتے کھالیتا ہے اور پانی پینے کے لیے خود چلا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا مالک اس کے پاس آ جائے پھر آپ سے تم شدہ بکری کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: وہ تیری یا تیرے بھائی کی ہے یا بھیڑیا کے لیے ہے اور پہاڑ پر جانوروں کے باڑہ کے بارے سوال کیا گیا تو فرمایا: یہ اس پر ہے اس کی مثل اور دوہری مصیبتیں۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن حارث بن مصطلق فرماتے ہیں: زیاد نے حضور ﷺ کی ازواج کی طرف مال دے کر بھیجا کسی کو اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو ترجیح دی پس قاصد حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے معذرت کرنے لگے۔ پس آپ فرماتی ہیں: ہم سے معذرت زیاد نے کی ہے، تحقیق ان کو فضیلت دیا کرتے تھے اور ان کا فضیلت دینا ہم پر زیاد سے بھی زیادہ بھاری تھا۔ وہ خود رسول کریم ﷺ تھے۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف قیس اور قیس سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں، وکج ان سے روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

2650 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ اللّٰحِقِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوِلَ عَنْ ضَاآَلَةِ الْاِبْلِ فَقَالَ: مَا لَكَ وَكَلْهَا؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحَدَاؤُهَا، تَاْكُلُ الشَّجَرَ، وَتَرُدُّ الْمَاءَ حَتّٰى يَأْتِيَهَا رَبُّهَا ثُمَّ سُوِلَ عَنْ ضَاآَلَةِ الْغَنَمِ، فَقَالَ: لَكَ اَوْ لَا خِيكَ اَوْ لِلذَّنْبِ وَسُوِلَ عَنْ حَرِيْسَةِ الْجَبَلِ، فَقَالَ: هِيَ عَلَيْهِ، وَمِثْلَهَا، وَجَلَدَاتٌ نَكَالٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُبَيْدِ اللّٰهِ اِلَّا حَمَّادٌ

2651 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نا اَبِي قَالَ: نا يَحْيٰى بْنُ اَدَمَ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيْعِ، عَنْ مُغِيْرَةَ، عَنْ الشُّعَيْبِيِّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُصْطَلِقِ قَالَ: بَعَثَ زِيَادٌ اِلٰى اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَالٍ، وَفَضَلَ عَائِشَةَ، فَجَعَلَ الرَّسُوْلُ يَعْتَدِرُ اِلٰى اُمِّ سَلَمَةَ، فَقَالَتْ: يَعْتَدِرُ الْبِنَا زِيَادٌ؟ لَقَدْ كَانَ يُفْضِلُهَا مَنْ كَانَ اَعْظَمَ عَلَيْنَا تَفْضِيْلًا مِنْ زِيَادٍ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مُغِيْرَةَ اِلَّا قَيْسٌ، وَلا عَنْ قَيْسٍ اِلَّا يَحْيٰى، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَكِيْعِيُّ

حضرت ام سلمہ یا حضرت زینب یا حضور ﷺ کی کسی زوجہ سے روایت ہے کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کی بکری مرگئی، حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ نے فرمایا: آپ کھال کو دباغت دے کر فائدہ کیوں نہیں اٹھا لیتیں؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کیسے اس سے فائدہ اٹھائیں! یہ تو مردار ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کا چڑا پاک ہو جائے گا دباغت دینے کے ساتھ۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں یحییٰ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ فجر کی سنتوں میں اتنی مختصر قرأت کرتے تھے یہاں تک کہ میں خیال کرتی کہ آپ نے صرف سورہ فاتحہ پڑھی ہے۔ حضرت ابومعاویہ فرماتے ہیں کہ پھر ہم حضرت سعد کے پاس آئے، انہوں نے ہم کو محمد بن عبدالرحمن کے حوالہ سے حدیث بیان کی، انہوں نے حضرت عمرہ سے انہوں نے حضرت عائشہ سے۔

یہ حدیث یحییٰ اپنے بھائی سعد سے روایت کرتے ہیں اور یحییٰ سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں: حیض

2652 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا يَحْيَىٰ بْنُ اَيُّوبَ الْمُقَابِرِيُّ قَالَ: نَا عَبَادُ بْنُ عَبَّادِ الْمُهَلَّبِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ اَبِي قَيْسِ الْاَوْدِيِّ، عَنْ هُرَيْلِ بْنِ شُرْحَيْلٍ، عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ، اَوْ زَيْنَبَ، اَوْ غَيْرِهِمَا مِنْ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اَنْ مَيْمُونَةَ مَاتَتْ لَهَا شَاةٌ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا بَاهَابَهَا؟ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، كَيْفَ نَسْتَمْتَعُ بِهَا، وَهِيَ مَيْتَةٌ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: طَهِّرُوهُ الْاَدِيمَ دِبَاغَهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ اِلَّا عَبَادٌ تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَىٰ

2653 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا اَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خازِمٍ، عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ اَخِيهِ سَعْدِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: اِنْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَخْفُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، حَتَّى اَقُولَ قَرَأَ فِيهِمَا: بِاَمِّ الْكِتَابِ؟ قَالَ اَبُو مُعَاوِيَةَ: ثُمَّ اَتَيْنَا سَعْدًا، فَحَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَىٰ، عَنْ اَخِيهِ سَعْدِ اِلَّا اَبُو مُعَاوِيَةَ

2654 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ

2652 - أخرجه الدارقطني: سننه جلد 1 صفحه 48 رقم الحديث: 22 .

2653 - أخرجه البخاری: التهجد جلد 3 صفحه 55-56 .

2654 - أخرجه البخاری: الحج جلد 3 صفحه 685-686 رقم الحديث: 1760-1761، والدارمی: المناسك

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُخِّصَ لِلْحَائِضِ أَنْ تَتَفَرَّ، إِذَا حَاضَتْ قَالَ: وَسَمِعْنَا ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ فِي أَوَّلِ أَمْرِهِ: إِنَّهَا لَا تَتَفَرُّ، ثُمَّ قَالَ: لَتَتَفَرَّ، إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَخِّصَ لَهَا أَنْ تَتَفَرَّ

والی عورت کے لیے عید کے دن دعا میں شریک ہونے کی رخصت ہے اور حضرت عطاء فرماتے ہیں: ہم نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ان کے پہلے حکم میں سنا فرماتے ہوئے کہ نہ نکلیں پھر فرمایا: نکلیں کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے نکلنے کا حکم دیا تھا۔

2655 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا اَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِيْنٍ، عَنِ مُسْلِمِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ رَجُلٍ يُدْعَى لَهُ: هُرْمُزُ، عَنْ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الذَّهَبِ بِالدَّهَبِ، وَالْفِضَّةِ بِالْفِضَّةِ، وَالْبُرِّ بِالْبُرِّ، وَالشَّعِيرِ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرِ بِالتَّمْرِ، وَالْمِلْحِ بِالْمِلْحِ، اِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، وَيَبْعُوا الْبُرَّ بِالشَّعِيرِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا يَصْلُحُ نَيْسِنَةٌ، وَيَبْعُوا الذَّهَبَ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شِئْتُمْ، وَلَا يَصْلُحُ نَيْسِنَةٌ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے سونا کو سونے اور چاندی کو چاندی گندم کو گندم جو کو جو، کھجور کو کھجور نمک کو نمک کے بدلہ فروخت کرنے سے منع کیا مگر برابر برابر طور جائز قرار دیا فروخت کرنے کو گندم کو جو کے بدلے فروخت کرو جیسے تم چاہو ادھار جائز نہیں سونے کو چاندی کے بدلے فروخت کرو جیسے چاہو ادھار جائز نہیں ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ هُرْمُزِ اِلَّا مُؤَمَّلُ

یہ حدیث ایوب، محمد سے وہ مسلم سے وہ ہرمز سے اور ایوب سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

2656 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک

جلد 2 صفحہ 99 رقم الحدیث: 1933 .

2655 - أخرجه مسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1210، وأبو داؤد: البيوع جلد 4 صفحہ 245 رقم الحدیث: 3349

والترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 532 رقم الحدیث: 1240، والنسائی: البيوع جلد 7 صفحہ 240 (باب بيع البر

بالبر).

2656 - أخرجه ابن ماجة: المقدمة جلد 1 صفحہ 74 رقم الحدیث: 204، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 683 رقم

الحدیث: 10759 .

آدمی نے سوال کیا اس حالت میں کہ حضور ﷺ تشریف فرما تھے ایک آدمی نے اس کو دیا پھر لوگ بھی دینے لگے آپ ﷺ نے فرمایا: جس نے اچھا طریقہ شروع کیا اس کے بعد لوگ اس اچھے کام کو کریں اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جو انہوں نے اس کے بعد کیا ہے کرنے والوں کے ثواب میں کوئی کمی نہیں آئے گی جس نے بُرا طریقہ شروع کیا جو اس کے بعد وہ بُرا کام لوگ کریں گے اس شروع کرنے کو گناہ ملے گا کرنے والوں کے گناہ میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔

قَالَ: نَا مُؤْمَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ وَالنَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسًا، فَأَعْطَاهُ رَجُلٌ، ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَنَّ خَيْرًا فَاسْتَنَّ بِهِ مَنْ بَعْدَهُ، كَانَ لَهُ أَجْرٌ، وَمِثْلُ أَجْرٍ مَنِ اسْتَنَّ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ، مَنْ غَيْرَ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ سَنَّ شَرًّا، كَانَ عَلَيْهِ وَزْرُهُ، وَمِنْ أَوْزَارٍ مَنْ تَبِعَهُ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْئًا

یہ حدیث حماد ایوب سے وہ محمد سے وہ حضرت ابو ہریرہ سے اور حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔ سلیمان بن حرب وغیرہ حماد بن زید سے وہ ایوب سے وہ محمد وہ ابو عبیدہ بن حذیفہ سے مقطوعاً روایت کرتے ہیں اس حدیث کو عبدالوارث بن سعید ایوب سے وہ محمد سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جس طرح کہ مؤمل حماد سے روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا مُؤْمَلٌ وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ وَغَيْرُهُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ حُذَيْفَةَ، مَقْطُوعًا، وَقَدْ رَوَاهُ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، كَمَا رَوَاهُ مُؤْمَلٌ، عَنْ حَمَادٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کریم ابن کریم ابن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔

2657 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُؤْمَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكَرِيمُ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ ابْنُ الْكَرِيمِ: يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ

یہ حدیث عطاء سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں، حماد سے روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کی طرح کوئی سورت نازل نہیں ہوئی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا حَمَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

2658 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللّٰهِ بَنُ مُحَمَّدِ ابْنُ عَائِشَةَ التَّيْمِيَّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بَنُ مُسْلِمٍ، عَنْ اِسْمَاعِيْلَ بَنِ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بَنِ اَبِي حَازِمٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَقَدْ اُنزِلَ عَلَيَّ اَيَاتٌ لَمْ يُنَزَلْ عَلَيَّ مِثْلَهُنَّ: الْمَعْوِذَتَيْنِ

یہ حدیث عطاء سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔ اسماعیل، قیس سے، وہ ابو مسعود اور اسماعیل سے صرف عبدالعزیز ہی روایت کرتے ہیں اور عبدالعزیز سے صرف ابن عائشہ روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔ سفیان اور کچھ لوگ اسماعیل سے، وہ قیس سے، وہ عقبہ بن عامر الجہنی سے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ عَنْ قَيْسٍ، عَنْ اَبِي مَسْعُوْدٍ، اِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ عَائِشَةَ وَرَوَاهُ سَفِيَانٌ وَالنَّاسُ عَنْ اِسْمَاعِيْلَ، عَنْ قَيْسٍ، عَنْ عُقْبَةَ بَنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شادی کرو کیونکہ ہم سے بہتر نے ہم سے زیادہ شادیاں کی تھیں۔

2659 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بَنُ اِسْمَاعِيْلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بَنُ زَيْدٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ سَعِيْدِ بَنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: تَزَوَّجْ، فَاِنَّ خَيْرَنَا كَانْ اَكْثَرْنَا نِسَاءً

یہ حدیث ایوب سے حماد روایت کرتے ہیں اور حماد سے مؤمل روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ اِلَّا حَمَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

2660 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

2658 - انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 152 .

2659 - أخرجه البخاری: النکاح جلد 9 صفحہ 15 رقم الحدیث: 5069 .

2660 - أخرجه البخاری: البيوع جلد 4 صفحہ 380 رقم الحدیث: 2102، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1204 .

ابوطیب نے حضور ﷺ کو پچھنا لگوا یا، آپ نے مزدوری کے طور پر ان کو ایک صاع کھجوریں دیں، اس کے گھر والوں نے بات کی، اس کو ٹیکس میں رکھا گیا۔

یہ حدیث ثابت سے حمار روایت کرتے ہیں اور حمار سے مؤمل روایت کرتے ہیں۔

حضرت محارب بن دثار فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت جابر بن عبد اللہ سے سنا فرماتے ہوئے کہ حضرت معاذ نے مؤذن کو اقامت پڑھتے ہوئے سنا، جس وقت نماز کے لیے اقامت پڑھی گئی وہ انصاری داخل ہوئے اور حضرت معاذ کے ساتھ نماز شروع کی، حضرت معاذ نے قرأت میں سورۃ البقرہ پڑھی اور اس کے علاوہ پڑھی جب نوجوان انصاری نے دیکھا اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چھوڑ دی اور خود اپنی نماز پڑھنا الگ شروع کی۔ حضرت معاذ نے فرمایا: میں ضرور اس بات کا ذکر حضور ﷺ کی بارگاہ میں کروں گا جو انصاری نے کیا ہے۔ انصاری حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا، عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے حضرت معاذ کے پیچھے نماز شروع کی تھی، حضرت معاذ نے سورۃ بقرہ شروع کی میں نے اپنی نماز شروع کر دی اور معاذ کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دی، اس وقت حضرت معاذ آئے، آپ نے فرمایا: اے معاذ! کیا آپ لوگوں کو فتنہ میں ڈالنا چاہتے ہیں؟ آپ والشمس وضحاها واللیل اذا یغشی ان دونوں جیسی سورتیں کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں۔

مُؤْمَلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ، وَكَلَّمَ أَهْلَهُ، فَوَضَعُوا لَهُ مِنْ خَرَاجِهِ لَمْ يَبْرُو هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا حَمَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤْمَلٌ

2661 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَقْبَلَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ بِنَاضِحِينَ، فَبَادَرَ يَعْْلِفُهُمَا اللَّيْلَ، فَسَمِعَ مُؤَذِّنَ مُعَاذٍ حِينَ أَقَامَ الصَّلَاةَ، فَدَخَلَ وَافْتَتَحَ الصَّلَاةَ مَعَ مُعَاذٍ، فَقَرَأَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَمَا عَدَا أَنْ رَأَى ذَلِكَ الْفَتَى، فَأَقْبَلَ عَلَى صَلَاتِهِ وَتَرَكَ مُعَاذًا، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَا ذُكْرَانَ مَا صَنَعَ الْأَنْصَارِيُّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ الْأَنْصَارِيُّ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي دَخَلْتُ مَعَ مُعَاذٍ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، فَافْتَتَحَ سُورَةَ الْبَقَرَةِ، فَأَقْبَلْتُ عَلَى صَلَاتِي، وَتَرَكَتُ مُعَاذًا، إِذْ دَخَلَ مُعَاذٌ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَا مُعَاذُ، أَفَتَانَ أَفْتَانَ؟ أَقْرَأَ بِالشَّمْسِ وَضَحَاهَا، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَنَحْوَهُمَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ إِلَّا وَهَبٌ

2662 - وَبِهِ نَا مُحَمَّدُ بْنُ قَيْسٍ الْأَسَدِيُّ،

عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي حَثْمَةَ قَالَ: قَتَلْتُ يَهُودَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بِخَيْبَرَ، فَاتَى أَوْلِيَاؤُهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمٌ يُقَالُ لَهُمْ: الْأَحَارِصَةُ، فَلَمَّا انْتَهَوْا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَكَلَّمَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَكْبَرُ الْأَكْبَرُ فَقَالَ: لِيَشْهَدَ مِنْكُمْ خَمْسُونَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْشَهُدُ عَلَى مَا لَمْ نَرَ أَوْ نَرَضَى بِأَيْمَانِ يَهُودَ؟ وَاتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِابِلٍ، فَوَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ قَبْلِهِ بِمِائَةِ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ: فَرَأَيْتَهَا وَرَكَضْنِي مِنْهَا بَعِيرَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ إِلَّا

وَهَبٌ

2663 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ بْنُ

عُمَرَ الْمُؤَدَّبُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ

یہ حدیث محمد بن قیس سے صرف وہب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سہل بن ابی حثمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہودی نے ایک انصار کے آدمی کو خیمہ میں قتل کیا، مقتول کے اولیاء حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے ان کو احارصہ کہا جاتا تھا، جب حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے تو اس قوم میں سے ایک آدمی نے بات کی، حضور ﷺ نے فرمایا: بڑا آدمی بات کرے آپ نے فرمایا: تم میں سے پچاس آدمی گواہی دیں گے، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا ہم گواہی دیں اس پر کہ ہم نے تو دیکھا ہی نہیں ہے یا ہم یہود کے قسم پر راضی ہو جائیں! رسول اللہ ﷺ کے پاس اونٹ لائے گئے، حضور ﷺ نے خود اپنی جانب سے سو اونٹ بطور دیت کے دیئے۔ راوی حدیث سہل بن ابی حثمہ فرماتے ہیں: میں نے ان اونٹوں کو دیکھا، ان میں سے ایک اونٹی نے مجھے ٹانگ ماری۔

یہ حدیث محمد بن قیس سے صرف وہب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: علم سیکھنے سے آتا ہے اور بردباری بردباری کرنے سے آتی ہے، جو نیکی کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو

2662 - أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 552 رقم الحدیث: 6142-6143، ومسلم: القسامة جلد 3

صفحہ 1292، وأبو داؤد: الديات جلد 4 صفحہ 175 رقم الحدیث: 4520، والنسائی: القسامة جلد 8 صفحہ 7

(باب ذکر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر سهل فيه).

2663 - أخرجه أبو نعيم في الحلية جلد 5 صفحہ 174، والخطيب في تاريخ بغداد جلد 5 صفحہ 204. انظر: مجمع

الروائد جلد 1 صفحہ 131.

نیکی کی توفیق دے دیتا ہے جو برائی سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے تین چیزیں جس میں ہوں اس کے لیے بلند درجات نہ ہوں میں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے جنت نہیں ہے جو کاہنوں کے پاس جائے اور ستاروں کے ذریعے بارش طلب کرے یا سفر سے واپس آئے فال کے ذریعے۔

الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا الْعِلْمُ بِالتَّعَلُّمِ، وَإِنَّمَا الْحِلْمُ بِالتَّحَلُّمِ، مَنْ يَتَحَرَّى الْخَيْرَ يُعْطَهُ، وَمَنْ يَتَّقِ الشَّرَّ يُوقَهُ، ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ لَمْ يَسْكُنِ الدَّرَجَاتِ الْعُلَا، وَلَا أَقُولُ لَكُمْ الْجَنَّةَ: مَنْ تَكَهَّنَ، أَوْ اسْتَقَسَمَ، أَوْ رَدَّهُ مِنْ سَفَرٍ تَطِيرُ

یہ حدیث سفیان سے صرف محمد بن حسن ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ

حضرت عبدالرحمن بن ابی بکرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرے غصہ کی حالت میں۔

2664 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي بَكْرَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَقْضِي الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ وَهُوَ غَضْبَانٌ

یہ حدیث عطاء سے صرف حماد اور حماد سے صرف مؤمل اور مؤمل سے روایت کرنے میں وکیعی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا حَمَادٌ، وَلَا عَنْ حَمَادٍ إِلَّا مُؤَمَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَكَيْعِيُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حجر اسود اور مقام ابراہیم دونوں قیامت میں آئیں گے دونوں کی زبان اور دو ہونٹ ہوں گے دونوں یعنی ہونٹ اور زبان ابوتیس پہاڑ سے بڑی ہوں گی دونوں اپنے چومنے والے اور پیچھے نفل ادا کرنے والے کے متعلق گواہی دیں گے اور وعدہ پورا کریں گے۔

2665 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ غَسَّانِ الْمُرَبِّيُّ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّكْنُ وَالْمَقَامُ يَأْتِيَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهَمَّا لِسَانَ وَشَفَتَانِ اعْظَمُ مِنْ اَبِي قُبَيْسٍ، يَشْهَدَانِ لَكُمْ وَاَفَاهِمَا بِالْوَفَاءِ

2664- أخرجه البخاری: الأحكام جلد 13 صفحہ 146 رقم الحدیث: 7158، ومسلم: الأفضیة جلد 3 صفحہ 1342 .

2665 - أخرجه الطبرانی فی الكبير جلد 11 صفحہ 182 رقم الحدیث: 11432 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3

یہ حدیث ابن جریر سے صرف حارث بن عسان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اس حالت میں کہ آپ ایک درخت کے پاس لیٹے ہوئے تھے اور اپنا ہاتھ مبارک سر کے نیچے رکھا ہوا تھا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ ان لوگوں کے لیے بددعا نہیں کریں گے جن سے ہم کو خوف ہے کہ وہ ہم کو ہمارے دین سے پھرادیں گے۔ آپ نے اپنا چہرہ مبارک مجھ سے پھیر لیا، دوبارہ متوجہ ہوئے آپ نے تین مرتبہ مجھ سے اپنا چہرہ پھیر لیا، تین مرتبہ آپ سے عرض کی آپ نے اپنا چہرہ پھیر لیا، تیسری مرتبہ آپ بیٹھ گئے فرمایا: اے لوگو! اللہ سے ڈرو اور اللہ کی قسم! تم سے پہلے کوئی آدمی ایمان والا ہوتا اس کے سر پر آزار رکھا جاتا اور اس کے دو حصے کر دیئے جاتے تو وہ پھر بھی دین سے نہیں پھرتے تھے اللہ سے ڈرو! بے شک اللہ عزوجل تم کو فتح دے گا اور تمہارے لیے فتح دے گا۔

یہ حدیث مغیرہ سے صرف سلمہ اور سلمہ ان کے دونوں بیٹے محمد اور یحییٰ اور محمد بن سلمہ سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نجاشی فوت ہوئے تو حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے بھائی کے لیے بخشش مانگو! بعض صحابہ کرام نے عرض

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا الْحَارِثُ بْنُ عَسَانَ

2666 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا

الْأَزْرَقِيُّ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلْمَةَ بْنِ كَهْلِيلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيِّ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ، وَاضِعٌ يَدَهُ تَحْتَ رَأْسِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا تَدْعُو اللَّهَ عَلَيَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ الَّذِينَ قَدْ خَشِينَا أَنْ يَرُدُّوَنَا عَنْ دِينِنَا؟ فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّي، فَتَحَوَّلْتُ إِلَيْهِ، فَصَرَفَ وَجْهَهُ عَنِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ أَقُولُ لَهُ، فَيَصْرِفُ وَجْهَهُ عَنِّي، فَجَلَسَ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَوَاللَّهِ إِنْ كَانَ الرَّجُلُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ قَبْلَكُمْ لِيُوضِعَ الْمِنْشَارَ عَلَى رَأْسِهِ، فَيَشُقُّ بِأَثْنَيْنِ، مَا يَرْتَدُّ عَنْ دِينِهِ، اتَّقُوا اللَّهَ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاتِحٌ لَكُمْ وَمَصَانِعٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ إِلَّا سَلْمَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَلْمَةَ إِلَّا ابْنَاهُ مُحَمَّدٌ وَيَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلْمَةَ إِلَّا حَسَّانُ

2667 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا مَاتَ

2666 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 4 صفحہ 65-66 رقم الحديث: 3648 .

2667 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 422-423 .

کی: آپ ہم کو بخشش کے لیے حکم دیتے ہیں حالانکہ ان کا وصال حبشہ کی سرزمین پر ہوا ہے تو یہ آیت نازل ہوئی: اہل کتاب میں سے کچھ اللہ پر اور قرآن پر ایمان رکھتے ہیں۔

النَّجَاشِيُّ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْتَغْفِرُوا لِأَخِيكُمْ فَقَالَ بَعْضُ النَّاسِ: يَا مُرْنَا أَنْ نَسْتَغْفِرَ لَهُ وَقَدْ مَاتَ بَارِضَ الْحَبَشَةِ؟ فَزَلَّتْ: (وَأَنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ) (آل عمران: 199)

یہ حدیث حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا مُؤَمَّلًا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نماز کے لیے اقامت پڑھی جاتی تھی تو آپ اپنا چہرہ مبارک لوگوں کی طرف کرتے، فرماتے: سیدھے ہو جاؤ! دو مرتبہ فرماتے: کیونکہ میں تم کو اپنے پیچھے سے ایسے ہی دیکھتا ہوں جس طرح تم کو اپنے آگے سے دیکھتا ہوں۔

2668 - وَبِهِ عَنْ ثَابِتٍ، وَحَمِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا قَامَ فِي الصَّلَاةِ أَقْبَلَ عَلَيْهِمْ بِوَجْهِهِ، فَقَالَ: اسْتَوُوا مَرَّتَيْنِ إِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ خَلْفِي كَمَا أَرَاكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ

یہ حدیث حماد ثابت سے اور حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ، عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مُؤَمَّلًا

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب غسل جنابت کرتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پانی میں داخل کرنے سے پہلے پھر آپ پانی لیتے اس کو اپنے بائیں ہاتھ پر ڈالتے، اس سے اپنی شرمگاہ دھوتے پھر تین مرتبہ کلی کرتے اور ناک میں تین مرتبہ پانی ڈالتے اور چہرہ مبارک کو تین مرتبہ دھوتے اور دونوں کلائیوں کو تین مرتبہ دھوتے، پھر اپنے سر پر تین مرتبہ پانی ڈالتے، ایک مرتبہ جب غسل کر کے فارغ

2669 - وَبِهِ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَعَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اغْتَسَلَ مِنْ جَنَابَةٍ غَسَلَ كَفَيْهِ ثَلَاثًا قَبْلَ أَنْ يَغْمِسَهُمَا فِي الْمَاءِ، ثُمَّ أَخَذَ الْمَاءَ بِيَمِينِهِ فَيَصُبُّهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ يَغْسِلُ فَرْجَهُ، ثُمَّ يَمْضِي ثَلَاثًا، وَيَسْتَشْقِقُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، وَيَغْسِلُ ذِرَاعَيْهِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، ثُمَّ يَصُبُّ عَلَى رَأْسِهِ الْمَاءَ وَاحِدًا

2668 - أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 328 رقم الحديث: 13845

2669 - أخرجه البخاری: الغسل جلد 1 صفحہ 454 رقم الحديث: 272، ومسلم: الحيض جلد 1 صفحہ 253 والنسائي.

الطهارة جلد 1 صفحہ 111 (باب إعادة الجنب غسل يديه بعد إزالة الأذى عن جسده).

وَاحِدًا، فَإِذَا خَرَجَ مِنْ مُغْتَسَلِهِ غَسَلَ قَدَمَيْهِ

ہوتے تو اپنے قدم مبارک دھوتے تھے۔

2670 - وَبِهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا، حضور ﷺ سے اسی کی مثل حدیث روایت کرتی ہیں۔

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث حماد عطاء سے وہ عبدالرحمن سے اور حماد سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ، عَنْ عَطَاءٍ،

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأُمُوْمَلِّ

2671 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْأَزْرَقُ بْنُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عزوجل اس پر دس مرتبہ اپنی رحمت بھیجے گا۔

عَلِيِّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا يُوْسُفُ بْنُ

أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي

مَرْيَمَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً، صَلَّيْتُ عَلَيْهِ

بِهَا عَشْرًا

یہ حدیث یوسف سے صرف حسان ہی روایت کرتے ہیں اور حسان بن ابراہیم سے صرف ازرق بن علی اکیلے ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوْسُفَ إِلَّا حَسَّانُ،

تَفَرَّدَ بِهِ الْأَزْرَقُ بْنُ عَلِيٍّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں ایک میرے دروازے کے سامنے ہے دوسرا میرے دروازے کے ساتھ ہے یہ میرے پڑوس ہونے کے لحاظ سے قریب ہے میں ان دونوں میں سے کس سے ابتداء کروں؟ آپ نے فرمایا: جو تیرے دروازے کے سامنے ہے۔

2672 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ

مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: نَا عُوْبُدُ بْنُ أَبِي عِمْرَانَ

الْجَوْنِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ

الصَّامِتِ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ

لِي جَارَيْنِ، أَحَدُهُمَا قِبَالَةَ بَابِي، وَالْآخَرُ شَاسِعٌ عَنْ

بَابِي وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيَّ الْجَوَارِ، فَيَا بَيْهَمَا أَبَدًا؟ قَالَ:

الَّذِي قِبَالَةَ بَابِكَ

2670 - تقدم تخريجه .

2671 - وأخرجه النسائي: السهو جلد 3 صفحہ 42 (باب نوع آخر) . انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 166 .

2672 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 169 .

یہ حدیث عبود سے صرف بکر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْبِدٍ إِلَّا بَكْرٌ

حضرت ابوایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں جب آپ کے پاس آیا میں نے آپ کو ظہر سے پہلے چار رکعتوں کے ادا کرنے پر بھیجی کرتے ہوئے دیکھا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے آپ کو ظہر سے پہلے چار رکعت ادا کرنے پر بھیجی کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے فرمایا: اس وقت آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں وہ بند نہیں ہوتے ہیں یہاں تک کہ ظہر کی نماز ادا کر لی جائے میں پسند کرتا ہوں کہ میرے اعمال اس وقت بہتر بلند ہوں۔

2673 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى بِنُ اَيُّوبَ الْمَقَابِرِيِّ قَالَ: نَا عَبَادُ بِنُ عَبَادِ الْمُهَلَّبِيِّ، عَنِ الْمَسْعُودِيِّ، عَنِ عَبْدِ الْخَالِقِ، عَنِ اِبْرَاهِيمِ النَّخَعِيِّ، عَنِ سَهْمِ بْنِ مَنجَابٍ، عَنِ الْقُرْنَعِ الضَّبِّيِّ، عَنِ اَبِي اَيُّوبَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: لَمَّا نَزَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاَيْتُهُ يَدِيْمُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اِنِّي رَاَيْتُكَ تَدِيْمُ اَرْبَعًا قَبْلَ الظُّهْرِ، فَقَالَ: اِنَّهَا سَاعَةٌ فَتَفْتَحُ فِيْهَا اَبْوَابُ السَّمَاوٰٓءِ، فَلَا يُغْلَقُ مِنْهَا بَابٌ حَتّٰى يُصَلِّيَ الظُّهْرُ، فَاُحِبُّ اَنْ يُرْفَعَ لِيْ فِيْ تِلْكَ السَّاعَةِ خَيْرٌ

یہ حدیث عبدالخالق سے صرف مسعودی اور مسعودی سے صرف عباد ہی روایت کرتے ہیں اور عباد سے صرف یحییٰ اکیلے روایت کرنے والے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْخَالِقِ إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، وَلَا عَنِ الْمَسْعُودِيِّ إِلَّا عَبَادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: انگلیوں کا ضرور خلال کیا کرو ورنہ اُن کا جہنم کی آگ سے خلال کیا جائے گا۔

2674 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بِنُ فَرُوْخَ قَالَ: نَا اَبُو عَوَاْنَةَ، عَنِ اَبِي مَسْكِيْنٍ، عَنِ هُزَيْلِ بْنِ شَرْحِبِيْلٍ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَنْ تَنْتَهَكَنَّ الْاَصَابِعُ بِالظُّهْرِ، اَوْ لَنْ تَنْتَهَكَنَّهَا النَّارُ

یہ حدیث ابو عوانہ سے صرف شیبان ہی روایت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي عَوَاْنَةَ إِلَّا شَيْبَانُ

2673- أخرجه الطبرانی في الكبير رقم الحديث: 4031-4036، والامام أحمد في مسنده جلد 5 صفحہ 416. أخرجه

أبو داؤد جلد 2 صفحہ 3 رقم الحديث: 1270، وابن ماجه جلد 1 صفحہ 366 رقم الحديث: 1157. انظر

مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 222-223.

2674- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 239.

کرتے ہیں۔

حضرت زاذان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیمار ہوئے، آپ کی بیماری زیادہ ہوئی، آپ کے بیٹے اور گھر والے آپ کے پاس جمع ہوئے، آپ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ جو مکہ شریف سے پیدل چل کر حج کرے واپس آنے تک اس کے لیے ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تکیاں بھی حرم والیاں۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! حرم کی نیکیوں سے کیا مراد ہے؟ آپ نے فرمایا: ہر نیکی ہزار نیکیوں کے برابر ہے۔

یہ حدیث اسماعیل سے صرف عیسیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کوئی گناہ کیا اس پر ندامت کی، اللہ عزوجل اس کے گناہ کو معاف کر دے گا، اس کی بخشش مانگنے سے پہلے، جس پر اللہ نے کوئی نعمت کی اس نے یقین کیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ عزوجل اس کے لیے شکر کو لکھوائے گا، اس نعمت پر اللہ کی تعریف کرنے سے پہلے، جس کو اللہ عزوجل نے کپڑا پہنایا اس کو علم ہوا کہ یہ اللہ نے پہنایا ہے تو اس کا کپڑا گھٹنوں تک نہیں پہنچے گا یہاں تک کہ اللہ اس کو بخش دے گا۔

2675 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا مَنْصُوْرُ بْنُ

اَبِي مُزَاحِمٍ قَالَ: نَا عِيْسَى بْنُ سَوَادَةَ اَبُو الصَّبَاحِ النَّخَعِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيْلُ بْنُ اَبِي خَالِدٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ: تَجَرَّضَ اَبْنُ عَبَّاسٍ مَرَضَةً ثَقُلَ مِنْهَا، فَجَمَعَ اِلَيْهِ بَنِيهِ وَاَهْلَهُ، فَقَالَ: اِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَجَّ مِنْ مَكَّةَ مَا شِئًا، حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْهَا، فَلَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ سَبْعُ مِائَةِ حَسَنَةٍ مِنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ، فَقَالَ رَجُلٌ: وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ: كُلُّ حَسَنَةٍ مِنْهَا اَلْفُ حَسَنَةٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اِسْمَاعِيْلٍ اِلَّا عِيْسَى

2676 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ

مُحَمَّدِ الْقُرَشِيِّ قَالَ: نَا بَزِيْعُ اَبُو الْخَلِيْلِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَصَابَ ذَنْبًا فَنَدِمَ، غَفَرَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ ذَلِكَ الذَّنْبَ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَسْتَغْفِرَهُ، وَمَنْ اَنَعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ نِعْمَةً فَعَلِمَ اَنَّهَا مِنَ اللّٰهِ، كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ شُكْرَهَا مِنْ قَبْلِ اَنْ يَحْمَدَهُ عَلَيْهَا، وَمَنْ كَسَاهُ اللّٰهُ ثَوْبًا فَعَلِمَ اَنَّ اللّٰهُ هُوَ الَّذِي كَسَاهُ، لَمْ يَبْلُغِ الثَّوْبُ رُكْبَتَهُ حَتَّى يُغْفَرَ لَهُ

2675 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 105 رقم الحديث: 12606، والبزار جلد 2 صفحہ 25-26، وأبو نعیم

في أخبار أصبهان جلد 2 صفحہ 354، والحاكم جلد 1 صفحہ 460. وانظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 121.

2676 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 202.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا بَزِيعٌ

ہشام سے یہ حدیث صرف بزیع ہی روایت کرتے ہیں۔

2677 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ

حضرت مستورد بن شداد الفزازی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نیک لوگ چلے جائیں گے یہاں تک کہ ذلیل کمینے لوگ باقی رہ جائیں گے جس طرح خراب پھل ہوتا ہے اللہ عزوجل کو ایسے لوگوں کی کوئی پروا نہیں ہے۔

زُبَيْرٍ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ بِيَانٍ،
وَاسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ،
عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَادِ الْفَزَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَذْهَبُ الصَّالِحُونَ،
الْأَوَّلُ فَالْأَوَّلُ، حَتَّى لَا يَبْقَى إِلَّا حُثَالَةٌ كَحُثَالَةِ
الْقَمَرِ، لَا يُبَالِي اللَّهُ بِهِمْ

یہ حدیث اسماعیل بیان سے روایت کرتے ہیں اور بیان سے صرف اسماعیل بن مجالد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ بِيَانٍ
إِلَّا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو قاضی بنایا گیا وہ ایسے ہے جس طرح (جانور) بغیر چھری کے ذبح کیا جائے۔

2678 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبِي قَالَ: نَا
زَيْدُ بْنُ الْحَبَابِ أَبُو الْحُسَيْنِ الْعُكْلِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ
الثَّوْرِيُّ، عَنْ اِبِي عَبَّادٍ، عَنْ اَبِيهِ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ
اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

سفیان سے یہ حدیث صرف زید ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا زَيْدٌ
2679 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ

2677- انظر: مجمع الزوائد جلد 7 صفحہ 323-324 .

2678- أخرجه أبو داود: الأفضية جلد 3 صفحہ 297 رقم الحدیث: 3572، والترمذی: الأحكام جلد 3 صفحہ 605 رقم

الحدیث: 1325، وابن ماجه: الأحكام جلد 2 صفحہ 774 رقم الحدیث: 2308، وأحمد: المسند جلد 2

صفحہ 484 رقم الحدیث: 8798 .

2679- أخرجه البخاری: التوحيد جلد 13 صفحہ 527 رقم الحدیث: 7544، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 545

والنسائی: الافتتاح جلد 2 صفحہ 139 (باب تزيين القرآن بالصوت) وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 592 رقم

الحدیث: 9820-9819 .

ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے کسی نبی کو حکم نہیں دیا جیسا حکم اس نے خوبصورت آواز میں قرآن پڑھنے والے کو دیا اور اُس نے حضرت ابوموسیٰ اشعری کی قرأت سنی فرمایا: ابوموسیٰ کو آل داؤد کی آواز دی گئی ہے۔

یہ حدیث اسحاق سے صرف عبید اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ کو نماز پڑھائی، جب نماز پڑھ کر فارغ ہوئے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا: کیا تم بھی قرآن پڑھتے ہو (جبکہ) امام بھی قرأت کر رہا ہو پس وہ خاموش رہے پھر آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا کہنے والوں نے کہا: ہم ایسے کرتے ہیں آپ نے فرمایا: ایسے نہ کیا کرو تم میں سے کوئی آدمی سورہ فاتحہ اپنے دل کے اندر پڑھ لے۔

یہ حدیث ایوب سے صرف عبید اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: مسئلہ یہ ہے کہ امام کے پیچھے مطلقاً قرأت جائز نہیں ہے چاہے جہری یا سہری نماز ہو کیونکہ اللہ عزوجل کا ارشاد ہے: جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش ہو جاؤ اور غور سے سنو تا کہ تم پر رحم کیا جائے (القرآن) یہ ارشاد باری تعالیٰ مطلقاً کہ چاہے جہری نماز ہو یا سہری نماز ہو اور حضور ﷺ کا ارشاد مبارک ”قراءة الامام قرأت له“ کہ امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہے۔ حضرت علقمہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: مجھے امام کے پیچھے قرأت کرنے سے انکارے چبانا زیادہ پسند ہے۔

(موطأ امام محمد صفحہ ۱۰۰)

يُوسُفَ الزَّمِي قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ إِسْحَاقَ بِنِ رَاشِدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا إِذَنْ لِلَّهِ لِنَبِيِّ إِذْنَهُ لِرَجُلٍ حَسَنِ الصَّوْتِ بِالْقُرْآنِ وَسَمِعَ قِرَاءَةَ أَبِي مُوسَى، فَقَالَ: لَقَدْ أُوتِيَ هَذَا مِرْمَارًا مِنْ مَزَامِيرِ آلِ دَاوُدَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقِ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ

2680 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ:

نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِي، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى بِأَصْحَابِهِ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ أَقْبَلَ عَلَى الْقَوْمِ، فَقَالَ: اتَّقُرُونْ وَالْإِمَامُ يَقْرَأُ؟ فَسَكَتُوا، ثُمَّ قَالَهَا ثَلَاثًا، فَقَالَ قَائِلُونَ: إِنَّا لَنَفْعَلُ، فَقَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی نے زنا کا چار مرتبہ اقرار کیا، اس کو رجم کرنے کا حکم دیا گیا، وہ بھاگ گیا اس کو چھوڑ دیا گیا۔

یہ حدیث ابوسلمہ سے صرف حمید ہی روایت کرتے ہیں اور حمید سے صرف ابوبکر اکیلے ہیں روایت کرنے میں۔

حضرت عبداللہ بن حنظلہ بن راہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سود کا ایک درہم کا گناہ بڑا ہے اللہ کے ہاں چھتیس مرتبہ زنا کرنے سے۔

لیث سے یہ حدیث صرف عبید اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے شادی فرمائی حالت احرام میں۔

یہ حدیث خالد سے صرف وہیب ہی روایت کرتے ہیں۔

2681 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى بِنُ يُوْسُفَ الزَّمِيّ قَالَ: نَا اَبُو بَكْرٍ بِنُ عِيَّاشٍ، عَنْ حُمَيْدِ الْكِنْدِيِّ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا اعْتَرَفَ الرَّجُلُ بِالزَّنَا اَرْبَعَ مَرَّاتٍ، فَاَمَرَ بِهِ الرَّجْمُ، فَهَرَبَ، تَرَكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي سَلَمَةَ اِلَّا حُمَيْدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اَبُو بَكْرٍ

2682 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا يَحْيَى قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللهِ بِنُ عَمْرٍو، عَنْ كَيْثِ بِنِ اَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ ابْنِ اَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بِنِ حَنْظَلَةَ بِنِ الرَّاهِبِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دِرْهَمٌ مِنْ رَبًّا اَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ سِتِّ وَثَلَاثِينَ زَنِيَةً لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَيْثِ اِلَّا عُبَيْدُ اللهِ

2683 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بِنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بِنُ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ وَهُوَ مُحْرَمٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ اِلَّا وَهَيْبٌ

2681- انظر: مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ 270 .

2682- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 120 .

2683- أخرجه البخاری: المغازی جلد 7 صفحہ 581 رقم الحدیث: 4258، ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 1031 .

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ رہا ہوں، آپ وضو کرتے تو موزوں پر مسح کرتے تھے بول و برازی کی صورت میں لیکن نیند اور جنابت کی حالت میں آپ پاؤں کو دھوتے تھے۔

یہ حدیث حذیفہ بن ابی حذیفہ سے صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں زید اکیلے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ذر سے عرض کی: اگر نمازی کے آگے کجاہ کی طرح کوئی شی نہ ہو تو کوئی شی نماز توڑتی ہے؟ نمازی کے آگے سے گزرنے سے۔ فرمایا: عورت، کالا کتا اور گدھا آگے گزرنے سے۔ میں نے کہا: کالے کتے کا انتخاب کیوں کیا حالانکہ کتا تو سفید اور سرخ بھی ہوتا ہے؟ فرمایا: میں نے بھی رسول اللہ ﷺ سے پوچھا تھا جس طرح آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں آپ نے فرمایا: کالا کتا شیطان ہوتا ہے، یہ تین مرتبہ فرمایا۔

2684 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا زَيْدُ بَنُ الْحُبَابِ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بَنُ عُقْبَةَ بَنِ نَزَارِ الْعَبْسِيِّ، عَنْ حُدَيْفَةَ بَنِ اَبِي حُدَيْفَةَ الْاَزْدِيِّ، عَنْ صَفْوَانَ بَنِ عَسَالِ الْمُرَادِيِّ قَالَ: صَبَّتْ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَضْرِ وَالسَّفْرِ، فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ، مِنَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ، اِلَّا النَّوْمَ وَالْاَلَا الْجَنَابَةَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُدَيْفَةَ بَنِ اَبِي حُدَيْفَةَ اِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ

2685 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا اَزْهَرُ بَنُ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بَنِ هِلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ الصَّامِتِ قَالَ: قُلْتُ لِاَبِي ذَرٍّ: مَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ اِذَا لَمْ يَكُنْ بَيْنَ يَدَيْكَ مِثْلُ مُؤَخَّرَةِ الرَّحْلِ؟ قَالَ: الْمَرْأَةُ، وَالْحِمَارُ، وَالْكَلْبُ الْاَسْوَدُ. قُلْتُ: مَا شَأْنُ الْكَلْبِ الْاَسْوَدِ مِنَ الْاَبْيَضِ مِنَ الْاَحْمَرِ؟ فَقَالَ: سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَمَا سَأَلْتَنِي، فَقَالَ: اِنَّ الْاَسْوَدَ شَيْطَانٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ

2684 - أخرجه الترمذی: الطهارة جلد 1 صفحہ 159 رقم الحدیث: 96، والنسائی: الطهارة جلد 1 صفحہ 82 (باب الوضوء من الغائط) وابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحہ 161 رقم الحدیث: 478؛ وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 293 رقم الحدیث: 18115 .

2685 - أخرجه مسلم: الصلاة جلد 1 صفحہ 365، وأبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 184 رقم الحدیث: 702، والترمذی: الصلاة جلد 2 صفحہ 161 رقم الحدیث: 338، والنسائی: القبلة جلد 2 صفحہ 50 (باب ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع اذا لم يكن بين يدي المصلي سترة .

ہشام الدستوائی سے صرف ازہر ہی روایت کرتے ہیں، احمد بن عمرا کیلے روایت کرنے والے ہیں۔

حضرت ام حسانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ میرے گھر تشریف لائے آپ نے فرمایا: میں آپ کے گھر میں برکت نہیں دیکھ رہا ہوں، میں نے عرض کی: برکت سے مراد کیا ہے آپ کی؟ جس کے نہ ہونے کا میرے گھر میں کہہ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا: میں آپ کے گھر میں بکری نہیں دیکھ رہا ہوں۔

یہ حدیث یوسف سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں احمد بن عمرا کیلے ہیں۔

حضرت سالم البراء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عقبہ بن عمرو سے پوچھا حضور ﷺ کی نماز کے متعلق، حضرت عقبہ مسجد میں کھڑے ہوئے، تکبیر کہی، پھر رکوع کیا اپنے ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھا، انگلیاں نیچے رکھیں، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا، رکوع سے اٹھے یہاں تک کہ ہر عضو سیدھا ہو گیا پھر سجدہ کیا، اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے، دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں سے جدا رکھا، ہر عضو سیدھا رکھا، پھر بیٹھے یہاں تک کہ ہر عضو سیدھا ہو گیا، پھر سجدہ کیا یہاں تک کہ چار رکعتیں پڑھیں، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ إِلَّا أَزْهَرَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

2686 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

أَبُو مُعَاوِيَةَ، نَا يُوسُفُ بْنُ صُهَيْبٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ، عَنْ أُمِّ هَانَءِ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْتِي فَقَالَ: مَا لِي لَا أَرَى فِي بَيْتِكَ بَرَكَةً؟ قُلْتُ: وَمَا الْبَرَكَةُ الَّتِي أَنْكَرْتَ مِنْ بَيْتِي؟ قَالَ: لَا أَرَى فِيهِ شَاةً

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

2687 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي

قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ قَالَ: نَا مُفَضَّلُ بْنُ مَهْلَبٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَالِمِ الْبَرَاءِ قَالَ: سَأَلْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو، عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَامَ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَكَبَّرَ، ثُمَّ رَكَعَ وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَأَصَابِعَهُ اسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَافَى بِإِطْبَاقِهِ فَرَكَعَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ قَامَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى الْأَرْضِ، وَجَافَى بِإِطْبَاقِهِ وَسَجَدَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ جَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ سَجَدَ، حَتَّى صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، ثُمَّ قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2686- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 24 صفحہ 435. انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 69.

2687- أخرجه أبو داؤد: الصلاة جلد 1 صفحہ 226 رقم الحديث: 863.

يُصَلِّي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى

یہ حدیث مفصل سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے

ہیں۔

2688 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ

حضرت سالم اپنے والد ابن عمر سے روایت کرتے

ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رشک صرف دو آدمیوں کے متعلق جائز ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ عزوجل نے قرآن کا علم دیا، وہ دن و رات پڑھتا ہے ایک وہ آدمی جس کو اللہ نے مال دیا وہ دن و رات اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔

فَرُوخَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ: رَجُلٍ عَلَّمَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْقُرْآنَ، فَهُوَ يَقُومُ بِهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ، وَرَجُلٍ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مَالًا فَهُوَ يَنْفِقُهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَآنَاءَ النَّهَارِ

یہ حدیث اسماعیل سے صرف یحییٰ بن سعید

الانصاری اور یزید بن عیاض ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں یحییٰ اسماعیل بن عیاش اکیلے ہیں یزید سے شبان روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِسْمَاعِيلِ إِلَّا يَحْيَى

بْنُ سَعِيدِ الْاَنْصَارِيِّ، وَيَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ يَحْيَى اِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَاشٍ، وَعَنْ يَزِيدِ شَيْبَانَ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ (لوگوں) نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے اس کو لے کر شام کی طرف گئے ہیں، فرمایا: جب فتنہ آئے گا تو امن شام میں ہوگا۔

2689 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

مُؤَمَّلُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي قَلَابَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَامِ اَنْهُمْ اَخَذُوا عُمُودَ الْكِتَابِ فَعَمَدُوا بِهِيَ اِلَى الشَّامِ، فَاِذَا وَقَعَتِ الْفِتْنَةُ فَاَلَا مَنُ بِالشَّامِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر اور معمر سے صرف

محمد بن ثور ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں

مؤمل اکیلے ہیں۔

2688 - أخرجه البخارى: التوحيد جلد13 صفحه511 رقم الحديث: 7529، ومسلم: المسافرین جلد1 صفحه558 .

2689 - نظر: مجمع الزوائد جلد10 صفحه61 .

2690 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

يَحْيَى بنُ اَدَمَ قَالَ: نَا مَفْضَلُ بنُ مَهْلَهْلٍ، عَنِ الْعَلَاءِ
بِْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنِ اَبِيهِ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللّٰهِ بنُ
مَسْعُودٍ يُعَلِّمُ رَجُلًا التَّشَهُدَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ: اَشْهَدُ
اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،
فَقَالَ الرَّجُلُ: وَحَدُّهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ:
هُوَ كَذَلِكَ، وَلَكِنْ نَتَّهَى اِلَى مَا عَلِمْنَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بِنِ الْمُسَيَّبِ
اِلَّا مَفْضَلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى

2691 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مَفْضَلٌ، عَنِ بِيَانٍ، عَنِ

قَيْسٍ، عَنِ بِلَالٍ، اَنَّهُ اَبْصَرَ رَجُلًا يُصَلِّي لَا يُتِمُّ
الرُّكُوعَ وَلَا السُّجُودَ، فَقَالَ: لَوْ مَاتَ هَذَا لَمَاتَ
عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ عَيْسَى صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مَفْضَلٍ اِلَّا يَحْيَى

2692 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

مُؤَمَّلُ بنُ اِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا حَمَادُ بنُ سَلَمَةَ، عَنِ
عَلِيِّ بنِ زَيْدٍ، عَنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بنِ اَبِي عَمْرَةَ، عَنِ
اَبِي هُرَيْرَةَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
اطْلُبُوا اَوْ قَالَ: التَّمِسُوا، الْاَمَانَةَ فِي قُرَيْشٍ، فَاِنَّ
الْاَمِينَ مِنْ قُرَيْشٍ لَهُ فَضْلَانِ عَلَيَّ اَمِينَ مِنْ سِوَاهُمْ،

حضرت علاء بن مسیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ایک آدمی کو التحیات سکھاتے تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اس آدمی نے عرض کیا: و وحدہ لا شریک لہ۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا: ہے تو اس طرح لیکن ہم اپنے علم تک محدود ہیں۔

یہ حدیث علاء بن مسیب سے صرف مغفل ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں یحییٰ اکیلی ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا نماز پڑھتے ہوئے وہ رکوع اور سجود مکمل نہیں کر رہا تھا، میں نے کہا: اگر اس حالت میں مرے گا تو دین مصطفیٰ ﷺ کے علاوہ کسی اور پر مرے گا۔ اس حدیث کو مفضل سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تلاش کرو! قریش میں امانت کو بے شک امین لوگ قریش میں ہیں قریش کو دوسروں کے امین پر دو فضیلتیں حاصل ہیں اور قریش طاقتور کو دو فضیلتیں ہیں دوسرے قوی لوگوں پر۔

2691 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 1 صفحه 356 رقم الحديث: 1085 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحه 124 .

2692 - انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحه 28-29 .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے پاس مال نہ ہو وہ صدقہ کرنا چاہتا ہے وہ ایمان والے مرد اور عورتوں کے لیے بخشش کی دعا کرے اس کے لیے صدقہ ہو جائے گا۔

وَأَنَّ قَوِيَّ قُرَيْشٍ لَهُ فَضْلَانِ عَلَى قَوِيٍّ مِّنْ سِوَاهُمْ
2693 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ خُنَيْسٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَدِينِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَالٌ يَتَصَدَّقُ بِهِ، فَلَيْسَتْغْفِرَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، فَإِنَّهَا صَدَقَةٌ

یہ حدیث موسیٰ سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو روایت کرنے میں بکرا کیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا مُحَمَّدًا، تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رات کو نماز دو دو رکعتیں ہیں؛ جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا خوف ہو تو وہ ایک رکعت ساتھ ملا کر وتر کر لے۔

2694 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَعْفِيُّ، عَنْ زَائِدَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمْ الصُّبْحَ فَوَاحِدَةً تُؤْتِرُ لَهُ صَلَاتَهُ

زائدہ سے صرف حسین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت اسحاق بن سوید رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں ایک آدمی سے جس کو حبیب کہا جاتا ہے صحابہ رسول ﷺ میں سے ایک آدمی سے روایت کرتے ہیں خیال ہے کہ وہ عمار بن یاسر ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے گفتگو کی کسی کام کے لیے میں نے گفتگو کی تو میرے ہاتھوں پر زرد رنگ تھا آپ نے مجھے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَائِدَةَ إِلَّا حُسَيْنٌ
2695 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ: حَبِيبٌ، عَنْ رَجُلٍ، مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَاهُ: عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: كَلَّمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَاجَةٍ، فَكَلَّمْتُهُ وَعَلَى يَدَيَّ صُفْرَةٌ، فَقَالَ لِي: اذْهَبْ

2693- أخرجه الطبرانی في الدعاء رقم الحديث: 1849. انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 213.

2694- أخرجه البخاری: الوتر جلد 2 صفحہ 554 رقم الحديث: 990، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 516.

2695- أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 137 رقم الحديث: 17015. انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 158.

فرمایا: اسے دھو ڈالو! تین مرتبہ فرمایا، میں چلا اس کو دھونے کے لیے تو یہ لے کر، میں اس کے نشانات ختم کرنے کے لیے کوشش کرنے لگا، ناخنوں کے درمیان سے بھی میں لگا تار دھوتا رہا یہاں تک کہ اس کے نشان چلے گئے، پھر میں حضور ﷺ کے پاس آیا مجھے آپ نے فرمایا: اپنی ضرورت کا سوال کر، میں نے اپنی ضرورت بیان کی آپ سے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف مؤمل ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں احمد بن عمر اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اصحاب نے عرض کی: یا رسول اللہ! جب ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارے دل ڈر رہے ہوتے ہیں، جب ہم آپ کے پاس سے نکلتے ہیں تو ہم عورتوں میں مشغول ہو جاتے ہیں، ہم ایسے ایسے کرتے ہیں، اس وقت جس کو ہمارے دل ناپسند کرتے ہیں، آپ نے فرمایا: اگر ایسی ہی حالت پر رہو جس حالت میں میرے پاس ہوتے ہو تو تمہارے ساتھ ضرور فرشتے مصافحہ کرتے۔

یہ حدیث ثابت سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں مؤمل اکیلے ہیں۔

حضرت حماد مرفوعاً بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب نماز کے لیے اقامت کہی جائے تو تم میں سے کوئی نماز کے لیے آئے تو سکون سے آئے، جو رکعت

فَاغْسِلْ عَنْكَ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَانطَلَقْتُ بِيْمِنْشَفَةٍ ، فَجَعَلْتُ اتَّبَعُ بِهَا اَثَرَ الْخَلْقِ مِنْ بَيْنِ اَطْفَارِي ، اَغْسَلُهُ حَتَّى ذَهَبَ ، ثُمَّ اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لِي : سَلْ حَاجَتَكَ فَاَبْلَغْتُهَا اِيَّاهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ اِلَّا مُؤَمَّلًا ، تَفَرَّدَ بِهِ اَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو

2696 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ : نا اَبِي قَالَ : نا

مُؤَمَّلٌ قَالَ : نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : نا ثَابِتٌ ، عَنْ اَنَسٍ ، اَنَّ اَصْحَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا : يا رَسُولَ اللهِ ، اِنَّا اِذَا كُنَّا فَحَدَّثْتَنَا رَفَّتْ قُلُوبُنَا ، وَاِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ فَعَايْنَا النِّسَاءَ وَفَعَلْنَا وَفَعَلْنَا اَنَكْرُنَا قُلُوبَنَا فِي تِلْكَ السَّاعَةِ ، فَقَالَ : لَوْ تَدْرُمُونَ عَلَيَّ مَا تَكُونُونَ عَلَيْهِ عِنْدِي لَصَافَحْتَكُمْ الْمَلَائِكَةُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ اِلَّا حَمَّادٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلٌ

2697 - وَبِهِ عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ

اَنَسٍ ، قَالَ حَمَّادٌ : وَلَا اَعْلَمُهُ اِلَّا قَدْ رَفَعَهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِذَا اُقِيْمَتِ الصَّلَاةُ

2696- أخرجه البزار جلد4 صفحہ75، وأبو يعلى جلد5 صفحہ378، والامام أحمد في مسنده جلد3 صفحہ175 . انظر:

مجمع الزوائد جلد10 صفحہ311 .

2697- انظر: مجمع الزوائد جلد2 صفحہ34 .

فَلْيَمْسُ أَحَدُكُمْ عَلَى هَيْبَتِهِ، فَلْيَصِلْ مَا أَدْرَكَ،
وَلْيَقْضِ مَا سَبَقَ بِهِ

مل جائے وہ پڑھ لو جو رہ جائے وہ بعد میں ادا کر لو۔

2698 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

ازْهَرُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ اَبِي عَبْدِ اللّٰهِ
الدَّسْتَوَائِيُّ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: سَأَلَ النَّاسُ
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى اَلْحَفُوهُ
بِالْمَسْأَلَةِ، فَصَعِدَ الْمُنْبَرِ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ
شَيْءٍ اِلَّا بَيَّنَّتْهُ لَكُمْ فَجَعَلْتُ الْتَفْتُ يَمِينًا وَشِمَالًا،
فَارَى كُلَّ رَجُلٍ لَافًا رَاسَهُ فِي ثَوْبِهِ يَبْكِي قَالَ: فَاَنْشَأَ
رَجُلٌ، كَانَ اِذَا لَاحَى الرَّجَالَ دُعِيَ اِلَى غَيْرِ اَبِيهِ،
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، مَنْ اَبِي؟ قَالَ: اَبُوكَ حَذَافَةُ
فَقَامَ عَمْرُ فَقَالَ: رَضِينَا بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلَامِ دِينًا
وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا، نَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنْ غَضَبِ اللّٰهِ، وَغَضَبِ
رَسُولِهِ، وَمَنْ شَرَّ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَأَيْتُ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ مِثْلَ الْيَوْمِ،
اِنَّهُ صُورَتْ لِي الْجَنَّةُ وَالنَّارُ حَتَّى رَأَيْتُهُمَا دُونَ
الْحَاظِطِ وَكَانَ قَتَادَةُ، يَذْكُرُ عِنْدَ هَذَا الْحَدِيثِ هَذِهِ
الْآيَةَ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءٍ اِنْ
تُبَدَّلَ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ) (المائدة: 101)

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا یہاں تک کہ آپ سے سوال کرنے کے لیے لپٹنے لگے آپ منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ نے فرمایا: مجھ سے کسی شی کے متعلق مت پوچھو مگر از خود میں تمہارے لیے واضح کر دوں میں نے دائیں بائیں جانب دیکھا ہر آدمی اپنا سر ڈھانپ کر رہا تھا ایک آدمی بولا: لوگ اس کے نسب پر شک کرتے تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا: تیرا باپ حذیفہ ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے عرض کی: ہم اللہ کے رب اور اسلام کے دین اور محمد ﷺ کے نبی ہونے پر راضی ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول کے غصہ سے پناہ مانگتے ہیں اور بڑے فتنوں کے شر سے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: آج کے دن کی طرح میں نے اچھائی اور بُرائی میں کوئی دن نہیں دیکھا یہاں تک کہ میرے لیے جنت اور دوزخ اپنی اصلی شکل میں کر دی گئی یہاں تک کہ میں نے ان دونوں کو دیوار کے پیچھے دیکھ لیا۔ حضرت قتادہ اس حدیث کو ذکر کرتے وقت یہ آیت پڑھتے تھے: اے ایمان والو! اشیاء کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے نہ پوچھو اگر تمہارے لیے ظاہر کی گئیں تو تم کو بُرا لگے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ اِلَّا اَزْهَرُ، تَفَرَّدَ

یہ حدیث ہشام سے صرف ازہر ہی روایت کرتے

2698- أخرجه البخاری: الفتن جلد 13 صفحہ 47 رقم الحدیث: 7089، ومسلم: الفضائل جلد 4 صفحہ 1834، وأحمد:

المسند جلد 3 صفحہ 310 رقم الحدیث: 13673-13674

بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

ہیں اس کو روایت کرنے میں احمد بن عمر اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بسا اوقات میں رسول اللہ ﷺ کو دیکھتا نماز پڑھتے ہوئے گدھے آپ کے آگے چر رہے ہوتے تھے۔

2699 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا اسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورِ السَّلُوْلِيِّ قَالَ: نَا هُرَيْمُ بْنُ سُفْيَانَ، عَنْ لَيْثِ بْنِ اَبِي سُلَيْمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَبِّمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي الصَّلَاةَ، وَالْحُمْرُ تَعْتَرِكُ بَيْنَ يَدَيْهِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں سورج گرہن لگا، آپ نماز کیلئے کھڑے ہوئے، آپ نے لمبا قیام کیا اور لمبا رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں ایسے ہی کیا۔ حضرت عکرمہ فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ ﷺ کی ایک جانب تھا اور میں نے قرأت نہیں سنی۔

2700 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ اَبَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُسِفَتِ الشَّمْسُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَامَ اِلَى الصَّلَاةِ، فَقَامَ مَلِيًّا ثُمَّ رَكَعَ مَلِيًّا، ثُمَّ سَجَدَ، ثُمَّ اَعَادَ مِثْلَهَا قَالَ عِكْرِمَةُ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: فَكُنْتُ اِلَى جَانِبِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ اَسْمَعْ الْقِرَاةَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ کے آگے نیزہ گاڑ دیا گیا عرفات میں تاکہ آپ نماز ادا کریں، گدھے نیزہ کے آگے سے گزرتے تھے۔

2701 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رُكِّزَتِ الْعَنْزَةُ بَيْنَ يَدَيْ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ يُصَلِّي، وَالْحُمْرُ تَمُرُّ مِنْ وَّرَاءِ الْعَنْزَةِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا منبر پر اس گھڑی کا ذکر

2702 - وَعَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

2700 - أخرجه الامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحہ 293، والبيهقي في الكبرى جلد 3 صفحہ 335. انظر: مجمع الروائد

جلد 2 صفحہ 210.

2701 - أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحہ 319 رقم الحديث: 2179.

2702 - أخرجه البخاري: الجمعة جلد 2 صفحہ 482 رقم الحديث: 935، ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحہ 583.

کرتے ہوئے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے اپنی انگلی کے اشارے سے فرمایا: وہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔

یہ تمام احادیث حکم بن ابان سے صرف حفص بن عمر العدنی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ دو فرشتے جو قبر میں آتے ہیں ان کو منکر نکیر کہا جاتا ہے دونوں کا نام ہاروت اور ماروت ہے اور دونوں آسمانوں میں عزا اور عزیر ہیں۔

یہ حدیث عبداللہ بن کیسان سے صرف عیسیٰ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یعقوب اکیلے ہیں۔

حضرت ابولیح بن اسامہ الہذلی فرماتے ہیں کہ مجھے میرے باپ نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب امت میں سے کچھ لوگ گواہی دیں کسی کے متعلق ان کی تعداد چالیس سے زیادہ ہو تو اللہ عزوجل ان کی گواہی ان کے حق میں قبول کرے گا۔

یہ حدیث صالح سے صرف سوادہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن حجاج اکیلے ہیں۔

حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ میں عروہ بن زبیر کے

وَسَلَّمَ يَذْكُرُ السَّاعَةَ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ عَلَى الْمِنْبَرِ، يَقْلَلُهَا بِاصْبِعِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ اَبَانَ اِلَّا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْعَدَنِيُّ

2703 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

يَعْقُوبُ بْنُ اسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: اسْمُ الْمَلَائِكَةِ اللَّذِينَ يَأْتِيَانِ فِي الْقَبْرِ: مُنْكَرٌ وَنَكِيرٌ، وَكَانَ اسْمُ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَهُمَا فِي السَّمَاءِ: عَزْرًا وَعَزِيرًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَيْسَانَ اِلَّا عَيْسَى، تَفَرَّدَ بِهِ يَعْقُوبُ

2704 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا سَوَادَةُ بْنُ اَبِي الْاَسْوَدِ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ هَلَالٍ، عَنْ اَبِي الْمَلِيحِ بْنِ اَسَامَةَ الْهُذَلِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِذَا شَهِدَتْ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَمِ، وَهُمْ اَرْبَعُونَ رَجُلًا فَصَاعِدًا، اَجَازَ اللَّهُ شَهَادَتَهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ الْاَسْوَادَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

2705 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا

2703- انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 57 .

2704- انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 156 .

2705- أخرجه البخاری: العمرة جلد 3 صفحہ 701 رقم الحديث: 1775-1776، ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 917

ساتھ مسجد میں داخل ہوا تو حضرت ابن عمرؓ حضرت عائشہ کے حجرے کے ساتھ ٹیک لگائے ہوئے تھے اور لوگ چاشت کی نماز ادا کر رہے تھے عروہ نے آپ سے عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! یہ کون سی نماز ہے؟ فرمایا: بدعت ہے۔ حضرت عروہ نے آپ سے عرض کی: اے ابو عبد الرحمن! حضور ﷺ نے کتنے عمرے کیے ہیں؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: چار ان میں ایک رجب میں۔ ہم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے حجرے کے اندر سے سنا، آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو عبد الرحمن خیال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے چار عمرہ کیے ہیں ایک ان میں رجب میں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل ابو عبد الرحمن پر رحم کرے! وہ ہر عمرہ میں آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ نے رجب میں کوئی عمرہ بھی نہیں کیا ہے۔

حضرت ابن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابن ولیدہ کو زمعہ کی میراث دلوائی تھی کیونکہ وہ زمعہ کے بستر پر پیدا ہوئے تھے آپ نے سودہ سے فرمایا: تو اس سے پردہ کیا کر۔

یہ دونوں حدیثیں مفصل سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ بنی

يَحْيَى بْنِ آدَمَ، عَنْ مُفَضَّلِ بْنِ مَهْلَهٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: دَخَلْتُ مَعَ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا ابْنُ عُمَرَ مُسْتَبِدًّا إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَأَنَاسٌ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا هَذِهِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: بَدْعَةٌ، فَقَالَ لَهُ عُرْوَةُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْمَ اعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ: أَرْبَعٌ، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، وَسَمِعْنَا اسْتِنَانَ عَائِشَةَ فِي الْحُجْرَةِ، فَقَالَ لَهَا: إِنَّ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَزْعُمُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعًا، إِحْدَاهُنَّ فِي رَجَبٍ، فَقَالَتْ: يَرْحَمُ اللَّهُ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، مَا اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا وَهُوَ مَعَهُ، وَمَا اعْتَمَرَ فِي رَجَبٍ قَطُّ

2706 - وَبِهِ: عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ يُونُسَ

قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ جَعَلَ لَابْنِ وَلِيدَةَ زَمْعَةَ الْمِيرَاثَ؛ لِأَنَّهُ وُلِدَ عَلَى فِرَاشِ زَمْعَةَ، وَقَالَ لِسُودَةَ: أَمَا أَنْتِ فَاحْتَجِي مِنْهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُفَضَّلٍ إِلَّا يَحْيَى

2707 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 209 رقم الحديث: 6436 .

2706 - انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 18 .

2707 - انظر: مجمع البحرين (44) .

سعد بن بکر سے ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: السلام علیک! اے بنی عبدالمطلب کے بیٹے! حضور ﷺ نے جواباً اس کو فرمایا: وعلیک السلام! اس نے عرض کی: میں قبیلہ بنی سعد بن بکر آپ کے ماموؤں میں سے ایک آدمی ہوں میں اپنی قوم کا نمائندہ ہوں اور آپ کی طرف آیا ہوں میں کچھ آپ سے سوال کروں گا سخت آپ غصہ نہ کرنا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اے بنی سعد بن بکر کے بھائی! آپ پوچھیں! اس نے عرض کی: آپ کو اور آپ سے پہلے مخلوق اور آپ کے بعد پیدا ہونے والی مخلوق کس نے پیدا کی ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے! اس نے عرض کی: میں آپ کو قسم دیتا ہوں اس پر کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: سات زمینیں اور آسمان ان کے درمیان رزق جو جاری کیا وہ کس نے پیدا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ نے! اس نے عرض کی: میں آپ کو قسم دیتا ہوں کیا اللہ نے آپ کو بھیجا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی کتاب اور آپ کا نمائندہ ہم کو حکم دیتا ہے دن اور رات میں پانچ وقت کی نمازوں کو وقت پر ادا کرنے کا ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کیا آپ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی کتاب میں اور آپ کا نمائندہ ہم کو حکم دیتا ہے رمضان کے ماہ کے روزے رکھنا کا ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کیا آپ نے اس کو حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس

مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، وَمُوسَى بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الْفَرَاءِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا غُلَامَ بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ، فَقَالَ: إِنِّي رَجُلٌ مِنْ أَهْوَالِكَ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ، وَأَنَا رَسُولُ قَوْمِي إِلَيْكَ وَوَأَفِذُهُمْ، وَإِنِّي مُسَائِلُكَ فَمُسْتَدَّةٌ مَسَائِلِي إِيَّاكَ، وَمُنَاشِدُكَ، فَمُسْتَدَّةٌ مُنَاشِدَتِي إِيَّاكَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَلْ يَا أَخَا بَنِي سَعْدِ بْنِ بَكْرٍ. فَقَالَ: مَنْ خَلَقَكَ وَخَلَقَ مَنْ قَبْلَكَ وَمَنْ هُوَ مَخْلُوقٌ بَعْدَكَ؟ فَقَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهْوَأَ رَسَلُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ السَّبْعَ وَالْأَرْضِينَ السَّبْعَ، وَأَجْرَى بَيْنَهُنَّ الرِّزْقَ؟ قَالَ: اللَّهُ قَالَ: فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ، أَهْوَأَ رَسَلُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّا قَدْ وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرْتَنَا رُسُلَكَ أَنْ نُصَلِّيَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ خَمْسَ صَلَوَاتٍ لِمَوَاقِفِهَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهْوَأَ أَمْرَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرْتَنَا رُسُلَكَ أَنْ نَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهْوَأَ أَمْرَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَإِنَّا وَجَدْنَا فِي كِتَابِكَ وَأَمَرْتَنَا رُسُلَكَ أَنْ نَأْخُذَ مِنْ حَوَاشِي أَمُورِنَا، فَجَعَلْنَا فِي فَقْرَانَا، فَنَشَدْتُكَ بِذَلِكَ أَهْوَأَ أَمْرَكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: ثُمَّ قَالَ: أَمَّا الْخَامِسَةُ فَلَسْتُ بِسَائِلٍ

نے عرض کی: آپ پر نازل ہونے والی اور آپ کا نمائندہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم مال داروں سے مال لیں اس کو فقیر لوگوں کو دیں، ہم آپ کو قسم دیتے ہیں کیا آپ نے اس کا حکم دیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر اس نے کہا: پانچویں چیز بھی ہے میں اس کے متعلق آپ سے نہیں پوچھتا ہوں، میرے لیے اس میں کوئی نفع والی بات نہیں ہے، یعنی بے حیائی کے متعلق۔ پھر اس نے کہا: اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے میں خود بھی اس پر عمل کروں گا جو میری قوم میری اطاعت کرے گی ان کو بتاؤں گا۔ پھر وہ چلا گیا، حضور ﷺ مسکرائے یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں نظر آنے لگیں، آپ نے فرمایا: اگر سچ بولتا ہے تو یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے میرے دوست نے تین کاموں کی وصیت کی، میں ان کو نہیں چھوڑوں گا: (۱) وتر پڑھ کر سونے کی چاشت کی نماز کی اور ہر ماہ تین روزے رکھنے کی۔

یہ حدیث ابو زرہ سے صرف جریر ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو منع کرتا تھا قبروں کی زیارت کرنے سے اب زیارت کیا کرو، نامناسب کلمات

عَنْهَا، وَلَا أَرَبَ لِي فِيهَا، يَعْنِي: الْفَوَاحِشَ - ثُمَّ قَالَ: مَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، لَا عَمَلَنَّ بِهَا وَمَنْ أَطَاعَنِي مِنْ قَوْمِي، ثُمَّ رَجَعَ، فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، ثُمَّ قَالَ: لَئِنْ صَدَقَ لَيَدْخُلَنَّ الْجَنَّةَ بِهَا

2708 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: نَا جَرِيرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ: نَوْمٍ عَلَى وَتَرٍ، وَصَلَاةِ الضُّحَى، وَصِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ إِلَّا جَرِيرٌ

2709 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا

أَبُو بَيْحَيِّ الْحِمَّانِيُّ، عَنِ النَّضْرِ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

2708- أخرجه البخاری: التهجد جلد3 صفحہ68 رقم الحدیث: 1178، ومسلم: المسافرین جلد1 صفحہ499.

2709- أخرجه الطبرانی فی الكبير جلد11 صفحہ253 رقم الحدیث: 11653. انظر: مجمع الزوائد جلد3 صفحہ62.

نہ کہا کرؤ میں تم کو منع کرتا تھا قربانیوں کا گوشت تین دن سے زیادہ رکھنے سے اب کھایا بھی کرؤ رکھ بھی لیا کرؤ میں تم کو منع کرتا تھا دباہ، حنتم، مزفت، تقیر کے برتنوں میں پینے سے (یہ ان برتنوں کے نام ہیں جن میں شراب تیار کی جاتی تھی) نشہ آورشی نہ پیو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: نشہ آور سے کیا مراد ہے؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اے عمر! اس کو پیو جب نشہ دینے کا خوف ہو تو اس کو چھوڑ دو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے تم پر ایک نماز کا اضافہ کیا ہے وہ وتر ہیں۔

یہ دونوں حدیثیں نصر الخزاز سے صرف ابو یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے پیچھے نماز پڑھی، آپ کے پیچھے ایک عورت بھی تھی یہاں تک کہ اس کے بعد لوگ بھی آئے۔

یہ حدیث یونس سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آج کے منافقین ان منافقوں سے بدترین ہیں جو

وَسَلَّمَ قَالَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَرُورُواهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضَاحِيِّ بَعْدَ ثَلَاثٍ فَكُلُوا وَأَمِسُّوا، وَنَهَيْتُكُمْ أَنْ تَشْرَبُوا فِي الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالْمُزْقَتِ وَالنَّقِيرِ، فَاشْرَبُوا، وَلَا تَشْرَبُوا مُسْكِرًا فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْمُسْكِرُ؟ فَقَالَ: اشْرَبْهُ يَا عُمَرُ، فَإِذَا خَشِيتَهُ فَاتْرُكْهُ

2710- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ زَادَكُمْ صَلَاةً وَهِيَ الْوِتْرُ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ النَّصْرِ الْخَزَّازِ إِلَّا أَبُو يَحْيَى

2711- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ عُبَيْدٍ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي أَنَسٍ، أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَوَرَّأَهُ امْرَأَةٌ، حَتَّى جَاءَ النَّاسُ بَعْدَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2712- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرِو الْفُقَيْمِيِّ،

2710- أخرجه الدارقطني: سننه جلد 2 صفحہ 30 رقم الحديث: 2، والطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 253 رقم

الحديث: 11652. انظر: نصب الرأية للحافظ الزيلعي جلد 2 صفحہ 110.

2711- أخرجه البخاري: الصلاة جلد 1 صفحہ 582 رقم الحديث: 380، ومسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 457.

حضور ﷺ کے زمانہ میں تھے، وجہ یہ ہے کہ وہ منافقت کا ظہر نہیں کرتے تھے، آج کے اعلان کرتے ہیں اپنی منافقت کا۔

یہ حدیث حسن بن عمرو ابوداؤد، وہ ابن مسعود سے اور حسن بن عمرو سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔ عبد الواحد بن زیاد، حسن بن عمرو سے، وہ ابوداؤد سے، وہ حدیفہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ وہ ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے، جس دن رمضان کا روزہ رکھنے کے متعلق شک تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے لونڈی! اس کے لیے بستو بناؤ! حضرت مسروق نے عرض کی: میں روزہ رکھ حالت میں ہوں، آپ نے فرمایا: ایک مہینہ آنے سے پہلے رکھ رہے ہیں۔ میں نے عرض کی: میں نے مکمل شعبان کے روزے رکھے ہیں، آج کا دن بھی اسکی موافقت کے لیے ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: کچھ لوگ مہینہ آنے سے پہلے روزہ رکھتے ہیں اور حضور ﷺ پہلے روزہ رکھتے تھے اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔

یہ حدیث ابو کدینہ سے صرف ابوامامہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت فرزدق فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابوہریرہ

عَنْ أَبِي وَائِلٍ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: الْمُنَافِقُونَ الْيَوْمَ شَرُّ مِنَ الْمُنَافِقِينَ الَّذِينَ كَانُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَذَلِكَ بِأَنَّ أَوْلِيكَ اسْتَخَفُوا بِهِ، وَأَنَّ هَؤُلَاءِ أَعْلَنُوهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ. وَرَوَاهُ عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ

2713 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا اَبُو اَسَامَةَ، عَنْ اَبِي كُدَيْنَةَ يَحْيَى بْنِ الْمُهَلَّبِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ التَّمِيمِيِّ، عَنْ حِبَالِ بْنِ رُقَيْدَةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، اَنَّهُ دَخَلَ عَلَيَّ عَائِشَةَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَالَتْ: يَا جَارِيَةُ، خَوِّصِي لَهٗ سَوِيْقًا، فَقَالَ: اِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَتْ: تَقَدَّمَتِ الشَّهْرُ؟ فَقُلْتُ: لَا، وَلَكِنِّي صُمْتُ شَعْبَانَ كُلَّهُ، فَوَافَقَ ذَلِكَ هَذَا الْيَوْمَ، فَقَالَتْ: اِنْ نَاسًا كَانُوا يَتَقَدَّمُونَ الشَّهْرَ، فَيَصُومُونَ قَبْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَانزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ) (الحجرات: 1)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي كُدَيْنَةَ اِلَّا اَبُو اَسَامَةَ

2714 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: آپ کے دونوں پاؤں چھوٹے ہیں، اگر تو طاقت رکھتا ہے کہ کل قیامت کے دن ان کے لیے حوض کوثر پر جگہ ہو تو ضرور کر، میں نے عرض کی: وہ کیوں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: میرے حوض پر میری اُمت پیش کی جائے گی، وہ حوض اتنا بڑا ہوگا جتنا صنعا اور یثرب کا فاصلہ ہے۔

یہ حدیث فرزدق سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تک میں تم کو چھوڑے رکھوں مجھے بھی چھوڑے رکھو، تم سے پہلے لوگ اس لیے ہلاک ہوئے تھے کہ وہ اپنے انبیاء سے اختلاف کرتے تھے، جب میں تم کو کسی شی کا حکم دوں تو اس کو کرو، جب تم کو کسی شی سے منع کروں تو اس سے بچو، جتنی تم طاقت رکھتے ہو۔

ایوب سے یہ حدیث حماد اور حماد سے علی روایت کرتے ہیں۔ ہم سے ابراہیم بن احمد نے حدیث بیان کی ہے۔ میرے باپ نے ہمیں خبر دی، ہمیں جعفر بن عون نے بتایا۔ وہ فرماتے ہیں عمرو بن مرہ سے روایت کر کے مسغرنے ہمیں خبر دی۔

ابن عائشة قال: نا جويرية ابن اسماء قال: نا الصعق بن ثابت، عن الفرزدق قال: قال لي ابو هريرة: اراك صغير القدمين، فان استطعت ان يكون لهما غدا موضع عند الحوض فافعل قلت: وما ذاك؟ قال: سمعته يقول، يعني: النبي صلى الله عليه وسلم: ان لي حوضا ترد عليه امتي، كما بين صنعا ويثرب

لا يروى هذا الحديث عن الفرزدق الا بهذا الإسناد

2715 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نا عَلِيُّ بْنُ عُمَانَ اللَّاحِقِيُّ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ اَيُّوبَ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَمَّادُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَاِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتِلاَفُهُمْ عَلٰى اَنْبِيائِهِمْ، فَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَاتُّوهُ، وَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَاجْتَنِبُوهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ اَيُّوبَ اِلَّا حَمَّادُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَمَّادٍ اِلَّا عَلِيُّ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَحْمَدَ، نا اَبِي، نا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نا مِسْعَرٌ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ

حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے ہمیں اپنے نام بتائے، اُن میں سے جن کو ہم نے یاد کیا۔ پس آپ نے فرمایا: میں محمد و احمد ہوں، مقفی، نبی رحمت، نبی ملحمہ ہوں۔

اس حدیث کو مسعر سے جعفر ہی روایت کرتے ہیں اور جعفر سے وکیعی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے انصار کے ایک آدمی کی بیمار پرسی کی، جب اس کے گھر کے قریب ہوئے، آپ نے سنا وہ اپنے کمرہ میں کسی سے گفتگو کر رہا ہے، جب آپ نے اجازت مانگی اور داخل ہوئے تو آپ نے وہاں کسی کو نہیں دیکھا، حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے آپ کو سنا ہے آپ کسی دوسرے سے گفتگو کر رہے تھے اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں گھر میں داخل ہوا تو میں لوگوں کی گفتگو سے پریشان تھا، میرے پاس داخل ہونے والا داخل ہوا، میں نے اس کے بعد اس کی مجلس سے محترم شخص نہیں دیکھا، نہ اس جیسی اچھی گفتگو سنی، آپ نے فرمایا: وہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے، تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر وہ اللہ پر قسم اٹھالیں تو اللہ عزوجل اس کی قسم کو پورا کر دیتا ہے۔

یہ حدیث حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی سند سے روایت ہے اور اس حدیث کو محمد بن عبد الوہاب

2716 - عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: سَمَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفْسَهُ أَسْمَاءً، مِنْهَا مَا حَفِظْنَا، فَقَالَ: أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقْفَى، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ، وَنَبِيُّ الْمَلْحَمَةِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُسْعَرٍ إِلَّا جَعْفَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا الْوَكَيْعِيُّ

2717 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ الْبَغَوِيُّ قَالَ: نَامُ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ الْقُمَيْيُّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي الْمُغِيرَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: عَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَلَمَّا دَنَا مِنْ مَنْزِلِهِ سَمِعَهُ يَتَكَلَّمُ فِي الدَّاحِلِ، فَلَمَّا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ دَخَلَ فَلَمْ يَرَ أَحَدًا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَمِعْتُكَ تُكَلِّمُ غَيْرَكَ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَقَدْ دَخَلْتُ الدَّاحِلَ اغْتِمَامًا بِكَلَامِ النَّاسِ مِمَّا بِي مِنَ الْحُمَى، فَدَخَلَ عَلَيَّ دَاخِلٌ، مَا رَأَيْتُ رَجُلًا بَعْدَكَ قَطُّ أَكْرَمَ مَجْلِسًا، وَلَا أَحْسَنَ حَدِيثًا مِنْهُ قَالَ: ذَاكَ جِبْرِيلُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَإِنَّ مِنْكُمْ لِرَجُلًا لَوْ أَنَّ أَحَدَهُمْ يُقْسِمُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ لِأَبْرَةٍ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يَرَوْهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ

2716 - أخرجه مسلم: الفضائل جلد 4 صفحہ 1828، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 482 رقم الحديث: 19544.

2717 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 11 رقم الحديث: 12321، والبزار جلد 3 صفحہ 307. انظر: مجمع

الزوائد جلد 10 صفحہ 44.

ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میری گواہی پکڑ لی اور دوسرے کی گواہی چھوڑ دی۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف اُمیہ ہی روایت کرتے ہیں اور اُمیہ سے صرف اُمیہ اور موسیٰ بن محمد بن حیان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر کتے اُمتیوں میں سے کوئی اُمت نہ ہوتے تو میں ہر سخت سیاہ کتے کو مارنے کا حکم دیتا، خاص کتوں کو مارو کیونکہ وہ جنوں سے ہیں اور لعنت کیے ہوئے ہیں۔

عمارہ سے صرف عبد الملک ہی روایت کرتے ہیں اور عبد الملک بن خطاب سے صرف عبد اللہ بن فضل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

2718 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِيَّةُ بِنُ بَسْطَامٍ قَالَ: نَا اُمِيَّةُ بِنُ خَالِدِ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ: اَنَا عَلَّمْتُ ابْنَ سِيرِينَ التَّشْهَدَ، حَدَّثْتُهُ عَنْ اَبِي نَضْرَةَ، عَنْ اَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخَذَ تَشْهَدِي، وَتَرَكَ تَشْهَدَهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ اِلَّا اُمِيَّةُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اُمِيَّةَ اِلَّا اُمِيَّةُ وَمُوسَى بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَيَّانَ

2719 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْفَضْلِ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ الْخَطَّابِ بِنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بِنِ اَبِي بَكْرَةَ، عَنْ عُمَارَةَ بِنِ اَبِي حَفْصَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ لَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِنَ الْاُمَّمِ لَامْرَتْ بِقَتْلِ كُلِّ اَسْوَدَ بَهِيمٍ، فَاَقْتُلُوا الْمُعِينَةَ مِنَ الْكِلَابِ، فَاِنَّهَا الْمَلْعُونَةُ مِنَ الْجِنَّ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عُمَارَةَ اِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بِنُ الْفَضْلِ

2720 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ

2718 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 144 .

2719 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 394 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 46 .

2720 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 189 .

حضور ﷺ رمضان کے روزہ کے بعد کسی روزے کو اتنی فضیلت نہیں دیتے تھے جتنی عاشوراء کے دن کے روزے کو دیتے تھے۔

یہ حدیث یحییٰ سے صرف سعید اور سعید سے صرف محمد بن لواء ہی روایت کرتے ہیں، محمد بن عبد الرحمن اکیڈ محمد بن سواہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت فاطمہ سے افضل صرف آپ کے ابا جان کو دیکھتی ہوں۔ فرماتی ہیں: ان دونوں کے درمیان کوئی شی تھی، آپ نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ ان سے سوال کریں کیونکہ وہ جھوٹ نہیں بولتیں۔

حضرت عبید اللہ بن عدی بن الحیار رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ دو آدمی حضور ﷺ کے پاس آئے جتہ الوداع کے موقع پر دونوں نے صدقہ کا سوال کیا، آپ نے ان دونوں کو دیکھنے کے لیے آنکھ اٹھائی اور جھکائی، دونوں کو آپ نے طاقت دردیکھا، آپ نے فرمایا: اگر تم دونوں چاہو تو اس حوالہ سے میں تمہاری مدد کروں، اس میں مالدار اور طاقت ور کمانے والے کے لیے حصہ نہیں ہے۔

عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَتَوَخَّى فَضْلَ صَوْمِ يَوْمٍ عَلَى يَوْمٍ بَعْدَ رَمَضَانَ، إِلَّا يَوْمَ عَاشُورَاءَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

2721 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أُمِّيَةُ بْنُ

بِسْطَامٍ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: مَا رَأَيْتُ أَفْضَلَ مِنْ فَاطِمَةَ غَيْرِ أَبِيهَا. قَالَتْ: وَكَانَ بَيْنَهُمَا شَيْءٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَلْهَا، فَإِنَّهَا لَا تَكْذِبُ

2722 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ،

عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ بْنِ الْخِيَارِ، أَنَّ رَجُلَيْنِ آتَيَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حِجَّةِ الْوَدَاعِ يَسْأَلَانِهِ مِنَ الصَّدَقَةِ، فَرَفَعَ لَهُمَا بَصَرَهُ وَخَفَضَهُ، فَرَأَهُمَا رَجُلَيْنِ جَلْدَيْنِ، فَقَالَ: إِنْ شِئْتُمَا اعْتَكُمَا فِيهَا، وَلَا حَظَّ فِيهَا لِعَنِيِّ، وَلَا لِقَوِيِّ مُكْتَسِبٍ

2721 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 204

2722 - أخرجه أبو داود في الزكاة جلد 2 صفحہ 285 والنسائي في الزكاة جلد 5 صفحہ 99. انظر: مجمع الزوائد جلد 3

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو مدینہ میں اپنے پیچھے چھوڑ گئے لوگوں کو نماز پڑھانے کے لیے۔

یہ حدیث ہشام سے صرف حبیب ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا میں اپنے اونٹ پر سوار تھا میں نے آپ کو چاشت کی چھ رکعتیں پڑھتے ہوئے دیکھا۔

یہ حدیث حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معتمر اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے روزہ دار کیلئے بوسہ لینے اور پیچھنا لگوانے کی رخصت دی (بشرطیکہ وہ ضبط رکھتا ہو)۔

یہ حدیث حمید سے صرف معتمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے اسی کی

2723 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِّيَّةُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الْمَعْلَمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَخْلَفَ ابْنَ اُمِّ مَكْتُومٍ بِالْمَدِينَةِ يُصَلِّي بِالنَّاسِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ اِلَّا حَبِيبٌ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ

2724 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِّيَّةُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: اَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْرَضَ عَلَيْهِ بَعِيرًا لِي، فَرَأَيْتُهُ صَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ لَا يُرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

2725 - وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ فِي الْقُبْلَةِ، وَالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ اِلَّا مُعْتَمِرٌ

2726 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِّيَّةُ بْنُ

2723 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 68 .

2724 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 241 .

2725 - أخرجه البزار جلد 1 صفحہ 480 . انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 173 .

مثل روایت کرتے ہیں اور اس میں اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا: تم اپنے بچوں کو عذاب نہ دو تکلیف میں دبانے سے (عرب عورتوں کی عادت تھی کہ جب بچوں کا کوالٹک جاتا تو انگلی سے دبا کر اوپر کرتیں، حضور ﷺ نے اس سے منع کیا)۔

یہ حدیث حمید سے صرف عبدالوہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم هانئ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ (میرے) پاس آئے فتح کے دن آپ نے چاشت کی چھ رکعتیں ادا فرمائیں۔

یہ حدیث حمید سے صرف معتمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حکیم بن جبیر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سنا اس منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے کہ اس امت میں انبیاء کے بعد بہتر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، اگر میں چاہوں تو تیسرے کا نام لوں تو بے سکتا ہوں۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہما نے اپنا ہاتھ میری ران پر مارا اور فرمایا: مجھے بیان کیا سعید بن مسیب نے، حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا: تیرا مقام میرے لیے ایسے ہے جس طرح حضرت ہارون علیہ السلام کا مقام حضرت موسیٰ کے ہاں تھا۔

بِسْطَامٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مِثْلَهُ وَقَالَ: لَا تَعْدِبُوا صِبْيَانَكُمْ بِالْعَمَزِ مِنَ الْعَدِرَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ

2727 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أُمِّيَّةُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ حُمَيْدًا الطَّوِيلَ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ، أَنَّ أُمَّ هَانِءٍ حَدَّثَتْ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا زَمَنَ الْفَتْحِ فَصَلَّى الضُّحَى سِتَّ رَكَعَاتٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا مُعْتَمِرُ

2728 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أُمِّيَّةُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ جَبْرِ قَالَ: قُلْتُ لِعَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ: أَشْهَدُ عَلَى عَبْدِ خَيْرٍ أَنَّهُ حَدَّثَنِي أَنَّهُ، سَمِعَ عَلِيًّا يَقُولُ عَلَى هَذَا الْمَنْبَرِ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، وَقَالَ: لَوْ شِئْتُ لَسَمَّيْتُ ثَالِثًا فَضْرَبَ عَلِيٌّ بِنُ حُسَيْنٍ يَدَهُ عَلَى فِخْذِي وَقَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيْبِ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَاصٍ حَدَّثَنِي، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِعَلِيِّ: أَنْتَ مِنِّي بِمَنْزِلَةِ هَارُونَ مِنْ مُوسَى

یہ حدیث حضرت علی بن حسین سے صرف حکیم بن جبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کو خلفاء راشدین سے بڑی عقیدت و محبت تھی۔

حضرت عبداللہ بن وہب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہما نے ابن عمر سے فرمایا: جاؤ قاضی بن جاؤ! حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے امیر المؤمنین! آپ مجھے مصیبت میں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: جو قاضی ہو وہ جہالت کے ساتھ فیصلہ کرے تو وہ جہنمی ہے، جو قاضی عالم ہو وہ فیصلہ حق یا عدل سے کرے وہ مانگے تو اس کو بطور کفایت دیا جائے گا، میں اس ارشاد کے بعد کیا اس کی امید کر سکتا ہوں؟

یہ حدیث ابن عمر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معتمرا کیلے ہیں۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے کعب بن عجرہ! جب آپ پر ایسے حکمران مسلط ہوں جو ان کے پاس جانے ان کے جھوٹ کی تصدیق کرے اور ان کے ظلم پر ان کی مدد کرے اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے، میں ان سے نہیں ہوں وہ میرے حوض پر نہیں آئیں گے جو ان کے پاس گیا ان کے جھوٹ کی تصدیق نہیں کی اور ان کے ظلم پر ان کی مدد نہیں

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ إِلَّا حَكِيمُ بْنُ جَبْرِ

2729 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِيَّةُ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عَثْمَانَ قَالَ لِبْنِ عُمَرَ: اذْهَبْ فَاذْهَبْ فَاذْهَبْ، فَقَالَ: اَوْتُعَفِيَنِي يَا اَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَاِنِّي سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ كَانَ قَاضِيًا فَقَضَى بِجَهْلٍ كَانَ مِنْ اَهْلِ النَّارِ، وَمَنْ كَانَ قَاضِيًا عَالِمًا فَقَضَى بِحَقٍّ اَوْ بَعْدَلٍ، سَالَ النَّفْلَتُ كَفَافًا فَمَا اَرْجُو مِنْهُ بَعْدَ هَذَا؟

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

2730 - وَبِهِ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي جَمِيلَةَ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِذَا كَانَ عَلَيْكَ أَمْرًا مِنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ فَصَدَّقْتَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَلَا أَنَا مِنْهُ، وَلَا يَرُدُّ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ دَخَلَ عَلَيْهِمْ، فَلَمْ يُصَدِّقْتَهُمْ

2729- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 351، والامام أحمد في مسنده جلد 1 صفحہ 66. انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 196.

2730- انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 233-234.

کی وہ مجھ سے ہیں میں اُن سے ہوں۔ اے کعب بن عجرہ! جنت میں کوئی گوشت نہ خون جائے جو حرام سے تیار ہوا ہے ہر وہ گوشت اور خون جو حرام سے بنا ہے ایسے کے لیے جہنم زیادہ مناسب ہے۔ اے کعب بن عجرہ! دو طرح کے لوگ صبح و شام کرتے ہیں ایک صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غلامی سے آزاد کرواتا ہے وہ آزاد ہو جاتا ہے دوسرا صبح کرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے اے کعب بن عجرہ! نماز دلیل ہے روزہ ڈھال ہے صدقہ گناہوں کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح آگ لوہے سے زنگ دور کرتی ہے۔

یہ حدیث ابوبکر بن بشیر سے صرف عبدالملک ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں معتمر اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی نابالغی کی حالت میں حج کرنے پھر بالغ ہو تو اس کے ذمہ دوبارہ حج ہے جو کوئی دیہاتی حج کرے پھر وہ ہجرت کرے تو اس کے ذمہ دوسری مرتبہ حج ہے جو کوئی غلام حج کرے اس کے ذمہ ہے کہ وہ دوبارہ حج کرے۔

یہ حدیث شعبہ سے مرفوعاً یزید ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں محمد بن سقال اکیلے ہیں۔

بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعْنَهُمْ عَلَى ظَلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ وَلَا دَمٌ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ، كُلُّ لَحْمٍ وَدَمٍ نَبْتًا مِنْ سُحْتٍ فَالنَّارُ أَوْلَىٰ بِهِ يَا كَعْبُ بْنُ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ وَرَائِحَانِ، فَغَادٍ فِي فَكَأِكَ رَقِيَّتِهِ فَمُعْتَقُهَا، وَغَادٍ فَمُوبِقُهَا يَا كَعْبُ، الصَّلَاةُ بُرْهَانٌ، وَالصَّوْمُ جَنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُذْهِبُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يَذْهَبُ الْجَلِيدُ عَلَى الصَّفَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ بَشِيرٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

2731 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمِنْهَالِ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْتَ عَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا أَعْرَابِيٍّ حَجَّ ثُمَّ هَاجَرَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَى، وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ عَتَقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حِجَّةً أُخْرَى

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ مَرْفُوعًا إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس دن پانی کم تھا اس دن ہماری تعداد ایک ہزار چار سو تھی، حضور ﷺ نے پانی کا ایک پیالہ منگوا یا اس میں اپنی ہتھیلی رکھی، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، صحابہ کرام نے غسل کیا اور وضو کیا اور پیا بھی۔

2732 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: كُنَّا أَلْفًا وَأَرْبَعِمِائَةٍ يَعْْنِي: يَوْمَ عَزَّ الْمَاءُ، فَدَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِصْأَةٍ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ فِيهَا كَفَّهُ، فَجَعَلَ الْمَاءُ يَفُورُ مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِهِ، فَأَعْتَسَلُوا وَتَوَضَّؤُوا وَشَرَبُوا

یہ حدیث اعمش سے صرف قیس ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا قَيْسٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ظہر سے پہلے چار رکعت ادا کرنے کا ثواب اتنا ہے جتنا عشاء کے بعد ادا کرنا ہے اور عشاء کے بعد چار ادا کرنا اس کا ثواب لیلۃ القدر جتنا ہے۔

2733 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَرَّرُ بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُمَيْرِ بْنِ أَبِي الْعِزَّارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَرْبَعٌ قَبْلَ الظُّهْرِ كَعَدْلِهِنَّ بَعْدَ الْعِشَاءِ، وَأَرْبَعٌ بَعْدَ الْعِشَاءِ كَعَدْلِهِنَّ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ

یہ حدیث محمد بن مجاہد سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا يَحْيَى

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے لعنت فرمائی شراب بنانے، نچوڑنے، نچروانے، فروخت اور

2734 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ الْقَمِيُّ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

2732 - أخرجه البخاری: الأشربة جلد 10 صفحہ 104 رقم الحدیث: 5639، والبیہقی فی دلائل النبوة جلد 4 صفحہ 117.

2733 - انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 233.

2734 - أخرجه أبو داؤد: الأشربة جلد 3 صفحہ 324 رقم الحدیث: 3674، وابن ماجہ: الأشربة جلد 2 صفحہ 1121 رقم الحدیث: 3380، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 36 رقم الحدیث: 4786.

خریدنے اٹھانے اٹھوانے پلانے اور پینے اور اس کی
کما کی کھانے والوں پر۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَعَنَ الْخَمْرَ
لِعَيْنِهَا، وَعَاصِرَهَا وَمُعْتَصِرَهَا وَبَانِعَهَا وَمُشْتَرِبَهَا،
وَحَامِلَهَا وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ، وَسَاقِيَهَا وَشَارِبَهَا،
وَأَكَلَ ثَمَنَهَا

یہ حدیث لیث سے صرف یعقوب ہی روایت
کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا يَعْقُوبُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کسی کے برتن میں
کھسی گر جائے تو وہ اس کو ڈبو لے کیونکہ اس کے ایک پر
میں بیماری دوسرے میں شفاء ہے۔

2735 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ
أَبُو مَالِكِ الْجَنَبِيِّ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُثَنَّى، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ
أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ، فَإِنَّ فِي أَحَدِ جَنَاحَيْهِ سُمًّا
وَالْآخَرَ شِفَاءً

یہ حدیث عباد سے صرف عمرو ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبَادٍ إِلَّا عَمْرُو

حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول
اللہ! میں نے بکری کو پکڑا زنج کرنے کے لیے مجھے اس پر
رحم آیا آپ نے فرمایا: اگر تو بکری پر رحم کرتا ہے تو اللہ تجھ
پر رحم کرے۔

2736 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ قَالَ: نَا عَدِيُّ بْنُ الْفَضْلِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ
عُبَيْدٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَأَخُذُ الشَّاةَ لِأَذْبَحَهَا فَأَرْحَمُهَا،
فَقَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا رَحِمَكَ اللَّهُ

یہ حدیث یونس سے صرف عدی ہی روایت کرتے
ہیں، یونس بن عبید سے صرف علی بن جعد ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَدِيُّ،
تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل اس دین کی مدد کرے گا ایسی قوم کے ساتھ جن کا کوئی تعلق دین سے نہیں ہوگا۔

یہ حدیث ایوب سے صرف عباد اور معمر بن راشد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عباد سے ریحان اکیلی ہیں یہ معمر سے رباح بن زید اکیلی روایت کرتے ہیں۔

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کافر مسلمان کا اور مسلمان کافر کا وارث نہیں ہے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف حصین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب عورت اپنے شوہر کے مال سے اجاڑنے کی نیت کے علاوہ صدقہ کرے اس کے لیے اور اس کے شوہر کے لیے ثواب ہے کمانے والے اور حفاظت کرنے والے کے لیے بھی ثواب ہے۔

2737 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ

الْمَدِيْنِيِّ قَالَ: نَا رَيْحَانُ بْنُ سَعِيْدٍ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ مَنْصُوْرٍ، عَنْ اَيُّوبَ، عَنْ اَبِي قَلَابَةَ، عَنْ اَنْسِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ سَيُوَيِّدُ هَذَا الدِّيْنَ بِاَقْوَامٍ لَا خَلَقَ لَهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ اَيُّوبَ اِلَّا عَبَّادٌ وَمَعْمَرُ بْنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَنْ عَبَّادٍ: رَيْحَانٌ، وَعَنْ مَعْمَرٍ: رَبَّاحُ بْنُ زَيْدٍ

2738 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ

مُبَحَّمَدِ بْنِ عَرَعْرَةَ قَالَ: نَا حُصَيْنُ بْنُ نَمِيْرٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ حُسَيْنٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ اَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَرِثُ الْكَاْفِرُ الْمُسْلِمَ، وَلَا الْمُسْلِمُ الْكَاْفِرَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا حُصَيْنٌ

2739 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ

فَرُوْخٍ قَالَ: نَا جَبْرِیْرُ بْنُ حَازِمٍ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوْقٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا تَصَدَّقْتَ الْمَرْأَةَ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا غَيْرَ مُفْسِدَةً، فَلَهَا اَجْرُهَا،

2737- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 305 .

2738- أخرجه البخاری: الفرائض جلد 12 صفحہ 51 رقم الحدیث: 6764، ومسلم: الفرائض جلد 3 صفحہ 1233 .

2739- أخرجه البخاری: الزکاة جلد 3 صفحہ 355 رقم الحدیث: 1437، ومسلم: الزکاة جلد 2 صفحہ 710 .

وَلَزَوْجَهَا اَجْرُ مَا اَكْتَسَبَ، وَلِلْحَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ

یہ حدیث اعمش، ابوخی سے اور اعمش سے صرف
جزیر ہی روایت کرتے ہیں اس حدیث کو اعمش سے
سفیان ثوری اور اعمش، ابووائل سے وہ مسروق سے وہ
حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
الضُّحَى الْأَجْرِيُّ وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَغَيْرُهُ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ
عَائِشَةَ

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اس سے وضو کرو آگ نے جس کا
رنگ بدل دیا ہو۔

2740 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: تَوَضَّؤْا مِمَّا غَيَّرَتِ النَّارُ لَوْنَهُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي
مُوسَى الْأَمْبَارِكِ

یہ حدیث حسن ابو موسیٰ سے اور حسن سے مبارک ہی
روایت کرتے ہیں۔

فائدہ: وضو سے مراد لغوی وضو ہے ہاتھ دھونا اور کلی کرنا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے ایک حیوان کی بیج دوسرے حیوان کے بدلے
ایک کی دو کے بدلے ادھار بیج سے بیع کیا مگر نقد میں کوئی
حرج نہیں ہے۔

2741 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ قَالَ: نَا بَحْرُ بْنُ كَنْبِزِ السَّقَاءِ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ، اِثْنَيْنِ
بِوَاحِدٍ نَسِيئَةً، وَلَمْ يَرَّ بِهِ بَأْسًا يَدًا بِيَدٍ

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: بچہ جب کھانا نہ کھاتا ہو تو اس کے پیشاب
پر پانی بہا دیا جائے اگر بچی ہو تو اس کے پیشاب کو دھویا
جائے۔

2742 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْأَزْدِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ
سُلَيْمَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

2740 - انظر: مجمع البحرين (436) .

2741 - أخرجه الترمذی: البيوع جلد 3 صفحہ 530 رقم الحدیث: 1238، وابن ماجه: التجارات جلد 2 صفحہ 763 رقم

الحدیث: 2271، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 381 رقم الحدیث: 14342 .

2742 - انظر: مجمع البحرين (510) .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كَانَ الْغُلَامُ لَمْ يَطْعَمِ الطَّعَامَ صَبَّ
عَلَى بَوْلِهِ، وَإِذَا كَانَتْ الْجَارِيَةُ غُسِلَ غَسْلَةً
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ أُمِّهِ إِلَّا
إِسْمَاعِيلَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحِيمِ

یہ حدیث حسن اپنی والدہ سے روایت کرتے ہیں
اور حسن سے صرف اسماعیل اور اسماعیل سے عبدالرحیم ہی
روایت کرتے ہیں۔

2743 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمَّارُ بْنُ
هَارُونَ قَالَ: نَا أَبُو هَلَالٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ
الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا بُوعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَاقْتُلُوا
الْأَحَدَ مِنْهُمَا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جب دو خلیفوں کی بیعت کی جائے تو
ان میں سے جو بدعت والا ہے اس کو مار دو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا أَبُو هَلَالٍ

یہ حدیث قتادہ سے صرف ابو ہلال ہی روایت
کرتے ہیں۔

2744 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ
أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ: نَا صَالِحُ الْمُرِّي، عَنْ بَكْرِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا لَبَّى قَالَ: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ
لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الْحَمْدَ
وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ جب تلبیہ پڑھتے تھے تو اس طرح پڑھتے تھے:
”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ ان
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك“۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ الْأَسَدِيِّ

یہ حدیث صالح سے صرف سعید ہی روایت کرتے
ہیں۔

2745 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم حضور

2743- انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 201 .

2744- أخرجه البخاری: الحج جلد 3 صفحہ 477 رقم الحديث: 1549، مسلم: الحج جلد 2 صفحہ 842 .

2745- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3 صفحہ 1590، وأبو داؤد: الأشربة جلد 3 صفحہ 333 رقم الحديث: 3711

والترمذی: الأشربة جلد 4 صفحہ 296 رقم الحديث: 1871 .

ﷺ کے لیے ایک مشکیزے میں نبیذ بناتی تھیں، اس کو اوپر سے باندھتی تھیں، اس کو لٹکا دیا جاتا تھا، ہم صبح نبیذ بناتیں آپ رات کو پیتے اور رات کو بناتے تو آپ صبح کو پیتے تھے۔

یہ حدیث یونس سے صرف عبد الوہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ بدر کے دن ایک خیمہ میں تھے آپ نے دعا کی: اے اللہ! تجھ سے تیرے معاہدہ اور وعدہ کے مطابق سوال کرتے ہیں، اے اللہ! اگر تو چاہے تو تیری آج کے دن کے بعد عبادت نہ کی جائے۔ حضرت ابو بکر نے آپ کے ہاتھ کو پکڑ لیا، عرض کی: یا رسول اللہ! بس کریں! آپ نے اپنے رب کے سامنے بہت عاجزی کی ہے۔ آپ کے زرہ اوپر لپٹی ہوئی تھی، آپ نے اپنا ہاتھ نکالا، آپ نے یہ آیت پڑھی: ”سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ إِلَىٰ آخِرِهِ“۔

یہ حدیث خالد سے صرف عبد الوہاب ثقفی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت أم حبیبة رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور

عَبْدِ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا أَبِي عُمَرَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنَّا نَبْذُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوَكَّا أَعْلَاهُ عَزَالِي مُعَلَّقٌ، نَبْذُهُ عُذْوَةٌ، فَيَشْرَبُهُ عِشَاءً، وَنَبْذُهُ عِشَاءً، فَيَشْرَبُهُ عُذْوَةٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ

2746 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، نَا عَثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ بَدْرٍ، وَهُوَ فِي قَبَّةٍ: اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عَهْدَكَ وَوَعْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ لَمْ تُعْبِدْ بَعْدَ الْيَوْمِ، فَأَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِيَدِهِ، فَقَالَ: حَسْبُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَدْ أَحْحَحْتَ عَلَيَّ رَبِّكَ، وَهُوَ فِي الدَّرْعِ يُخْرِجُ يَدَهُ، وَيَقُولُ: (سَيَهْزَمُ الْجَمْعُ وَيَوْلُونَ الدُّبْرَ بَلِ السَّاعَةَ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةَ أَدَهَى وَأَمْرٌ) (القمر: 46)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ

2747 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مَنصُورُ بْنُ

2746- أخرجه البخارى: التفسير جلد 8 صفحہ 485 رقم الحديث: 4875 وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 428 رقم

الحديث: 3044؛ والطبرانی فى الكبير جلد 11 صفحہ 348 رقم الحديث: 11976 .

2747- أخرجه أبو داود: الصلاة جلد 2 صفحہ 23 رقم الحديث: 1269، والترمذى: الصلاة جلد 2 صفحہ 292 رقم

الحديث: 427؛ والنسائى: قيام الليل جلد 3 صفحہ 220 (باب الاختلاف على اسماعيل بن أبى خالد) وابن ماجه:

الإقامة جلد 1 صفحہ 367 رقم الحديث: 1160؛ وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 453 رقم الحديث: 27470 .

ﷺ نے فرمایا: جس نے ظہر سے پہلے چار رکعتیں ادا کیں اللہ عزوجل اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔

أَبِي مُزَاهِمٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ يُوْسُفَ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ حَسَّانِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ عَبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ الظُّهْرِ حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَحْمَهُ عَلَى النَّارِ

یہ حدیث اوزاعی سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں یزید سے صرف منصور ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اپنی دیوار میں گاڈر رکھنے سے اپنے کسی پڑوسی کو منع نہ کرے۔

2748 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْهَالِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمْنَعَنَّ أَحَدُكُمْ جَارَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً عَلَى جِدَارِهِ

یہ حدیث زہری حمید سے اور زہری سے یزید اور یزید سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ عزوجل کے ارشاد کے متعلق کہ ہم ان کے سینوں میں سے کینہ نکال دیں گے جب مؤمن حساب سے فارغ ہوں گے جہنم اور جنت کے کنارہ پر روک لیے جائیں گے ان سے ظلم کا سوال کیا جائے گا جو ان کے درمیان دنیا میں تھے جب اس سے پاک صاف ہوں گے تو وہ جنت میں داخل ہوں گے اللہ کی قسم! ان کے لیے جنت میں مقام و مرتبہ ہوگا دنیا کے مقام و مرتبہ

2749 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ سَعِيدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غَلٍّ) (الاعراف: 43) قَالَ: إِذَا تَخَلَّصَ الْمُؤْمِنُونَ مِنَ الْحِسَابِ وَقَفُوا بِقَنْطَرَةٍ بَيْنَ النَّارِ وَالْحَنَّةِ، فَيَتَقَاصُونَ مَطَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَأَذَا نَقُوا أَمْرًا بِالْذُّخُولِ

2748- تقدم تخريجه .

2749- أخرجه البخارى: المظالم جلد5 صفحه115 رقم الحديث: 2440، والبيهقى فى شعب الايمان جلد1 صفحه304

رقم الحديث: 345 .

کی طرح۔

إِلَى الْجَنَّةِ، فَوَاللَّهِ لَهُمْ أَعْرَفُ بِمَنَازِلِهِمْ فِي الْجَنَّةِ مِنْهُمْ بِمَنَازِلِهِمْ فِي الدُّنْيَا

یہ حدیث قتادہ سے اس لفظ سے صرف سعید بن ابی عروبہ روایت کرتے ہیں، سعید بن ابی عروبہ سے صرف یزید بن ابی عروبہ روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا یا تو گدھوں کے گوشت سے۔

2750 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ

بُنْ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کو پہچان لیتے تھے جب آپ ہماری طرف آتے آپ سے خوشبو مہکتی تھی۔

2751 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ

سَيْحَانَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ الْأَبْحُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّا نَعْرِفُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْبَلَ إِلَيْنَا بِطِيبِ رِيحِهِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی ریشم اور ورس کو نہیں چھوا، جو حضور ﷺ کے جسم اطہر سے زیادہ نرم ہو۔

2752 - وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: مَا مَسَسْتُ خَزًّا

وَلَا قَزًّا وَلَا شَيْئًا كَانَ الْكَيْنَ مِنْ جِلْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

2753 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

2750 - أخرجه البخاری: المغازی جلد 7 صفحہ 549 رقم الحدیث: 4215، ومسلم: الصيد جلد 3 صفحہ 1538 رقم

الحدیث: 24 (باب تحريم اكل لحم الحمر الانسية) .

2751 - انظر: مجمع الزوائد جلد 8 صفحہ 285 .

2752 - أخرجه البخاری: الصوم جلد 4 صفحہ 254 رقم الحدیث: 1973، ومسلم: الفضائل جلد 4 صفحہ 1814 .

2753 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 50 .

ﷺ نے ایک بچے یا بچی کا نماز جنازہ پڑھا، آپ نے فرمایا: اگر کوئی قبر میں جانے سے نجات پاتا تو یہ بچہ پاتا۔

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى عَلَى صَبِيٍّ أَوْ صَبِيَّةٍ فَقَالَ: لَوْ كَانَ نَجَا أَحَدٌ مِنْ ضَمَةِ الْقَبْرِ لَنَجَا هَذَا الصَّبِيُّ

یہ حدیث ثمامہ سے صرف حماد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا حَمَّادٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جمرہ کو کنگریاں مارتے وقت تک تلبیہ پڑھتے رہتے تھے۔

2754 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُلَبِّي حَتَّى يَرْمِيَ الْجَمْرَةَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَيْثٍ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ

یہ حدیث لیث سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں۔

2755 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا سُكَيْنُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا الْمُثَنَّى الْعَطَّارُ الْأَصَمُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي: أَبَا سُكَيْنٍ قَالَ: آتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِنَا الظُّهْرَ، وَقَرَأَ قِرَاءَةً هَمَسًا بِالْمُرْسَلَاتِ، وَالنَّازِعَاتِ، وَعَمَّ يَتَسَاءَلُونَ، وَنَحْوَهَا مِنَ السُّورِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي سُكَيْنٍ إِلَّا الْمُثَنَّى الْعَطَّارُ، تَفَرَّدَ بِهِ سُكَيْنٌ

حضرت ابوسکین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے پاس آیا میں نے عرض کی: مجھے حضور ﷺ کی نماز کے متعلق بتائیں آپ نے بتایا کہ ہم کو آپ نے ظہر کی نماز پڑھائی اس میں سورہہ مرسلات، نازعات اور عم یسألون اور اس جیسی سورتیں پڑھیں۔

یہ حضرت عبدالعزیز بن ابی سکین سے ثنی العطار روایت کرتے ہیں اور ثنی سے صرف سکین ہی روایت

2754: أخرجه البخاری: الحج جلد 3 صفحہ 473 رقم الحدیث: 1543-1544، و مسلم: الحج جلد 2 صفحہ 931

والنسائی: المناسک جلد 5 صفحہ 217، وابن ماجه: المناسک جلد 2 صفحہ 1010 رقم الحدیث: 3039

2755 - انظر: المعجم جلد 2 صفحہ 119

کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کسی شے کو ناپسند کرتے تھے تو اس کی ناپسندیدگی آپ کے چہرے سے معلوم کر لی جاتی تھی۔

یہ حدیث حضرت قتادہ سے ہشام روایت کرتے ہیں اور ہشام سے صرف معاذ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ میل کی گھائی میں چل رہے تھے تو آپ عرض کرتے: اے اللہ! اس کو بخش اور رحم فرما اور تو عزت دینے والا ہے۔

یہ حدیث ابو اسحاق سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں لیث سے روایت کرنے میں عبدالوارث اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حنین کا دن تھا صحابہ کرام حضور ﷺ سے علیحدہ ہوئے مگر حضرت عباس بن عبدالمطلب اور سفیان بن حارث رضی اللہ عنہم موجود تھے حضور ﷺ نے حکم دیا اعلان کرنے کا اے سورہ بقرہ کے اصحاب! اے انصار

2756 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ اَبِي عُتْبَةَ، مَوْلَى اَنَسٍ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا كَرِهَ شَيْئًا رَأَى ذَاكَ فِي وَجْهِهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ اِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذٌ

2757 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا لَيْثُ بْنُ اَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ اَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا سَعَى فِي بَطْنِ الْمَسِيلِ قَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ وَاَرْحَمْ، وَاَنْتَ الْاَعَزُّ الْاَكْرَمُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اَبِي اسْحَاقِ اِلَّا لَيْثٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَارِثِ

2758 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمَ حُنَيْنٍ اَنْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَّا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ

2756 - انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 20 .

2757 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 251 .

2758 - انظر: مجمع الزوائد جلد 6 صفحہ 183-184 .

کے گروہ! یہ اعلان بنی حارث بن خزرج کی گئی جب انہوں نے اعلان سنا وہ پلٹے اللہ کی قسم! وہ اس طرح آئے جس طرح اونٹ اپنی اولاد کے پاس آتے ہیں جب وہ آئے لڑائی شروع ہوئی حضور ﷺ نے فرمایا: ابھی جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے آپ نے اپنی مٹھی میں کنکریاں لیں ان کو پھینکا اور فرمایا: رب کعبہ کی قسم! بھاگ جاؤ! حضرت علی رضی اللہ عنہ اس دن تمام لوگوں سے زیادہ لڑے۔

یہ حدیث معمر سے وہ زہری سے وہ انس سے معمر سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں اور عمران سے اکیلے عمر وہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدمی کے جوتے کو نجاست لگ جاتی ہے چلتے ہوئے آپ نے فرمایا: مٹی ان دونوں کو پاک کرتی ہے۔

یہ حدیث روح سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کسی میت کو غسل دے اس کو چاہیے کہ

الْمُطَلَبِ وَأَبُو سُفْيَانَ بْنِ الْحَارِثِ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنَادِيَ: يَا أَصْحَابَ سُورَةَ الْبُقْرَةِ، يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ ثُمَّ، اسْتَحَرَّ الْبِدَاءَ فِي بَيْتِ الْحَارِثِ بْنِ الْخَزْرَجِ، فَلَمَّا سَمِعُوا الْبِدَاءَ أَقْبَلُوا، فَوَاللَّهِ مَا شَبَّهْتُهُمْ إِلَّا بِالْأَبِلِ تَحْنُ إِلَى أَوْلَادِهَا، فَلَمَّا اتَّقَوْا التَّحَمَّ الْقِتَالِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْآنَ حِمَى الْوَطَيْسِ، وَأَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصَى، فَرَمَى بِهِ، وَقَالَ: هُزِمُوا وَرَبِّ الْكَعْبَةِ وَكَانَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قِتَالًا يَوْمَئِذٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ الْأَعْمَرَانِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو

2759 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمِنْهَالِ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يَطَّأُ بِنَعْلَيْهِ فِي الْأَذَى قَالَ: التَّرَابُ لَهْمَا طَهُورٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ الْأَيْزِيدِ

2760 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ

قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ،

2759 - أخرجه أبو داود: الطهارة جلد 1 صفحہ 103 رقم الحديث: 387. انظر: نصب الرابة جلد 1 صفحہ 208-209.

2760 - انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 26.

وہ غسل کرے۔ (یہ حکم استحبابی ہے)۔

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف معمر اور معمر سے صرف یزید اور یزید سے روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت شقران فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا اپنے دراز گوش پر نفل پڑھتے ہوئے اس کا منہ خیبر کی طرف تھا۔

یہ حدیث شقران سے اسی سند سے روایت ہے شقران سے روایت کرنے میں مسلم اکیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ فاسق کی مثال قوم میں اس گروہ کی طرح ہے جو کشتی پر سمندر میں سوار ہوں پس وہ اس کشتی کو تقسیم کر لیں اور ان میں سے ہر ایک کے لیے اپنی جگہ ہو پس ان میں سے ایک ارادہ کرے کہ اپنی جگہ سے سوراخ کر ڈالے تو دوسرے کہیں: کیا تم ہم کو ہلاک کرنا چاہتے ہو؟ تو وہ کہے: تم میری جگہ تو نہیں ہو (میں تو اپنی جگہ کو سوراخ کر رہا ہوں) اگر وہ اس کو چھوڑ دیں وہ خود بھی اور ان کے ساتھ والے غرق ہو جائیں گے اگر اس کے ہاتھوں کو پکڑ لیں خود بھی نجات اور

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مِيْتًا فَلْيَغْتَسِلْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا يَزِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

2761 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدِ الزَّنَجِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ شُقْرَانَ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى حِمَارٍ، مُتَوَجِّهًا إِلَى خَيْبَرَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُقْرَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُسْلِمٌ

2762 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْأَزْرَقِيُّ بْنُ

عَلِيٍّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ النُّعْمَانَ بْنَ بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ مَثَلَ الْفَاسِقِ فِي الْقَوْمِ كَمَثَلِ قَوْمٍ رَكِبُوا سَفِينَةً فِي الْبَحْرِ، فَاقْتَسَمُوهَا، فَصَارَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَكَانٌ فَعَمَدَ أَحَدُهُمْ إِلَى مَكَانِهِ لِيَخْرِقَهُ، فَقَالُوا: أَتُرِيدُ أَنْ تُهْلِكَنَا؟ فَقَالَ: وَمَا أَنْتُمْ مِنْ مَكَانِي؟ فَإِنْ تَرَكَوهُ غَرِقُوا وَغَرِقَ مَعَهُمْ، وَإِنْ أَخَذُوا عَلَى يَدَيْهِ نَجَوْا وَنَجَا، فَذَلِكَ مَثَلُ

2761- انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 165 .

2762- أخرجه البخاری: الشركة جلد 5 صفحہ 157 رقم الحديث: 2493، والترمذی: الفتن جلد 4 صفحہ 470 رقم

الحديث: 2173، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 329 رقم الحديث: 18391 .

الْفَاسِقِ

وہ بھی نجات پا جائیں گے، فرمایا: اسی طرح فاسق کی مثال ہے۔

یہ حدیث سلمہ سے ان کے بیٹے محمد اور محمد سے حسان روایت کرتے ہیں، حسان سے روایت کرنے میں ازرق اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی آدمی لوگوں کو دعوت دے عرق یا مرمت کی طرف تو اس کو قبول کریں، حالانکہ نماز باجماعت کی طرف بلائے جاتے ہیں اور وہ نہیں آتے۔ میں نے ارادہ کیا کہ میں کسی آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے باجماعت، پھر چلا جاؤں ان لوگوں کی طرف جنہوں نے اذان سنی تھی وہ نہیں آئے تھے ان کو آگ میں جلا دوں باجماعت نماز سے پیچھے صرف منافق ہی رہتا ہے۔

یہ حدیث ثابت سے صرف حماد بن سلمہ رضی اللہ عنہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک بھائی تھا جسے انیس کہا جاتا تھا وہ شاعر تھا، پس اس کی دوسرے شاعر سے ٹھن گئی۔ انیس نے کہا: میں تجھ سے بڑا شاعر ہوں۔ دوسرے نے کہا: میں تجھ سے اچھا شاعر ہوں۔ انیس نے کہا: تم اپنے درمیان کس کے ثالث ہونے پر راضی ہوتے ہو؟ اس نے کہا: مکہ کا فلاں کا بہن ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ انیس نے کہا: ٹھیک ہے! پس دونوں مکہ کی طرف چل پڑے یہاں تک کہ اس کا بہن

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلْمَةَ إِلَّا ابْنُهُ مُحَمَّدًا، وَلَا عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا حَسَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَزْرَقُ

2763 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا حَوْثَرَةُ بْنُ

أَشْرَسَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَعَا النَّاسَ إِلَى عِرْقٍ أَوْ مِرْمَاتَيْنِ لَا جَابُوهُ، وَهُمْ يُدْعُونَ إِلَى هَذِهِ الصَّلَاةِ فِي جَمَاعَةٍ فَلَا يَأْتُونَهَا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَمُرَ رَجُلًا يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ فِي جَمَاعَةٍ، ثُمَّ أَنْصَرِفَ إِلَى قَوْمٍ سَمِعُوا الْبِدَاءَ، فَلَمْ يُجِيبُوا فَأَضْرَمَهَا عَلَيْهِمْ نَارًا، وَإِنَّهُ لَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ سَلْمَةَ

2764 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا قَطْنُ بْنُ

نَسِيرِ الدَّارِعِ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ الضُّبَيْعِيُّ قَالَ: نَا أَبُو طَاهِرٍ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: كَانَ لِي أَخٌ يُقَالُ لَهُ أُنَيْسٌ وَكَانَ شَاعِرًا فَتَنَافَرَهُ وَشَاعِرٌ آخَرُ، فَقَالَ أُنَيْسٌ: أَنَا أَشْعَرُ مِنْكَ، وَقَالَ الْآخَرُ: أَنَا أَشْعَرُ، قَالَ أُنَيْسٌ: فَمَنْ تَرْضَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا؟ قَالَ: أَرْضَى أَنْ يَكُونَ بَيْنَنَا كَاهِنٌ مَكَّةَ قَالَ: نَعَمْ، فَخَرَجَا إِلَى مَكَّةَ،

کے پاس جا کھٹھے ہوئے۔ پس دونوں نے اپنا اپنا کلام پڑھا تو اس نے انیس سے کہا: تو نے اپنے حق میں فیصلہ کروا لیا۔ گویا کہ اس نے جناب انیس کے شعروں کو فضیلت دی۔ پس اس نے کہا: اے میرے بھائی! مکہ میں ایک آدمی ہے جس کا گمان ہے کہ وہ نبی ہے وہ تیرے دین پر ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں: میں نے حضرت ابوذر سے کہا: اس وقت تیرا دین کیا تھا؟ آپ نے فرمایا: بس میں اپنی قوم کے خداؤں سے متنفر ہو گیا تھا جن کی وہ عبادت کرتے تھے۔ تو میں نے کہا: تو کس چیز کی عبادت کیا کرتا تھا؟ کہا: کسی چیز کی نہیں، میں رات کی نماز پڑھا کرتا تھا یہاں تک کہ تھک کر بستر پر آ گرتا، گویا میں پوشیدہ تھا یہاں تک کہ سورج کی دھوپ آ کر مجھے جگا دیتی۔ میں نے کہا: تو منہ کس طرف کرتا تھا؟ آپ نے بتایا: بس جس طرف میرا رب میرا منہ کر دیتا تھا۔ انیس نے مجھ سے کہا: آپ کی قوم والے آپ سے بیزار ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں آیا یہاں تک کہ مکہ شہر میں داخل ہو گیا۔ میں نے کعبہ اور اس کے پردوں میں چھپ چھپ کر پندرہ راتیں اور پندرہ دن گزار دیئے، رات کے وقت نکلتا آپ زمزم پیتا، میں اپنے جگر پر بھوک کی سختی محسوس نہیں کرتا تھا۔ میرا پیٹ موٹا ہو گیا، ایک رات دو عورتیں اپنے معبودوں کو پکار رہی تھیں، ان میں سے ایک کہہ رہی تھی: اے اساف بت! مجھے بچہ دے! اور دوسری کا کلام یہ تھا: اے نائل بت! مجھے فلاں فلاں چیز دے دے۔ میں نے

فَاَجْتَمَعَا عِنْدَ الْكَاهِنِ، فَاَنْشَدَهُ هَذَا كَلَامَهُ، وَهَذَا كَلَامَهُ فَقَالَ لَانَيْسٍ: قَضَيْتَ لِنَفْسِكَ، فَكَانَهُ فَضْلَ شِعْرِ اَنْيسٍ، فَقَالَ: يَا اِخِي، بِمَكَّةَ رَجُلٌ يَزْعُمُ اَنَّهُ نَبِيٌّ، وَهُوَ عَلَيَّ دِينِكَ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قُلْتُ لِاَبِي ذَرٍّ: وَمَا كَانَ دِينُكَ؟ قَالَ: رَغَبْتُ عَنِ الْاِلَهَةِ قَوْمِي الْاِنْسِي كَانُوا يَعْبُدُونَ، فَقُلْتُ: اَيَّ شَيْءٍ كُنْتَ تَعْبُدُ؟ قَالَ: لَا شَيْءَ، كُنْتُ اُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى اسْقَطَ كَانِي خِفَاءً، حَتَّى يُوَفِّقَنِي حَرُّ الشَّمْسِ، فَقُلْتُ: اَيْنَ كُنْتَ تُوجِّهُ وَجْهَكَ؟ قَالَ: حَيْثُ وَجَّهَنِي رَبِّي، فَقَالَ: لِي اَنْيسٍ: وَقَدْ سَمِعْتَهُ، يَعْنِي: كَرِهْتَهُ، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَجِئْتُ حَتَّى دَخَلْتُ مَكَّةَ، فَكُنْتُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا خَمْسَ عَشْرَةَ لَيْلَةً وَيَوْمًا اَخْرَجَ كُلَّ لَيْلَةٍ فَاَشْرَبُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ شَرْبَةً، فَمَا وَجَدْتُ عَلَيَّ كَبِدِي سَحْقَةً جُوعٍ، وَلَقَدْ تَعَكَّنَ بَطْنِي، فَجَعَلَتِ امْرَأَتَانِ تَدْعُوَانِ لَيْلَةَ الْاِلَهَتَهُمَا، وَتَقُولُ احَدَاهُمَا: يَا اسَافُ، هَبْ لِي عَلَامًا، وَتَقُولُ الْاُخْرَى: يَا نَائِلُ، هَبْ لِي كَذَا وَكَذَا. فَقُلْتُ: هُنَّ بَهَنٌ، فَوَلَّتَا وَجَعَلَتَا تَقُولَانِ: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا، اِذْ مَرَّ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَابُو بَكْرٍ يَمْسِي وَرَاتَهُ، فَقَالَتَا: الصَّابِءُ بَيْنَ الْكَعْبَةِ وَاسْتَارِهَا، فَتَكَلَّمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلَامٍ قَبَّحَ مَا قَالَتَا، قَالَ أَبُو ذَرٍّ: فَظَنَنْتُ اَنَّهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ، فَخَرَجْتُ اِلَيْهِ، فَقُلْتُ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، فَقَالَ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللّٰهِ، ثَلَاثًا، ثُمَّ

کہا: ”هَسَّ بَهَنٌ“ (وہ ان کے بدلے ہیں) پس وہ پیچھے پلٹیں اور دونوں نے کہنا شروع کر دیا کہ کعبہ کے پردوں میں کوئی بے دین موجود ہے۔ اسی دوران رسول کریم ﷺ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کعبہ کے پیچھے چل رہے تھے۔ ان دونوں نے کہا: کعبہ کے پردوں میں کوئی صابی موجود ہے۔ رسول کریم ﷺ نے ان کی بات سن کر ایک کلام فرمایا جس میں ان کی بات کی بُرائی تھی (وہ الفاظ اب مجھے یاد نہیں)۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے: میں سمجھ گیا کہ رسول زمن یہی ہیں میں پردوں سے نکل کر ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ میں نے عرض کی: السلام علیک یا رسول اللہ! تو آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا: وعلیک السلام ورحمۃ اللہ! اور یہ تین بار فرمایا پھر مجھ سے یوں خطاب فرمایا: تو کتنے دن سے اس مقام پر ہے؟ میں نے عرض کی: پندرہ رات اور پندرہ دن۔ آپ نے فرمایا: تو کہاں سے کھاتا تھا؟ کہا: زمزم پر آتا آدھی رات کے وقت اس میں سے پیتا بس بھوک پیاس ختم ہو جاتی۔ میں کسی قسم کی بھوک محسوس نہ کرتا تھا۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک زمزم کھانے کی جگہ بھی ہے اور پینے کے قائم مقام بھی ہے۔ یہ بڑا برکتوں والا ہے۔ یہ بات آپ نے تین بار کہی۔ پھر رسول کریم ﷺ نے مجھ سے فرمایا: تو کس قبیلہ سے ہے؟ میں نے عرض کی: بنو غفار قبیلہ سے تعلق ہے۔ آپ نے فرمایا: بنو غفار کا پیشہ حاجیوں پر ڈاکے ڈالنا تھا، گویا رسول کریم ﷺ مجھ سے تنگ دل ہوئے۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا:

قَالَ لِي: مُنِدُّكُمْ أَنْتَ هَاهُنَا؟ قُلْتُ: مُنِدُّ خَمْسَ عَشْرَةَ يَوْمًا وَكَلِيلَةَ قَالَ: فَمِنْ أَيْنَ كُنْتَ تَأْكُلُ؟ قَالَ: كُنْتُ آتِي زَمْزَمَ كُلِّ لَيْلَةٍ نِصْفَ اللَّيْلِ، فَأَشْرَبُ مِنْهَا شَرْبَةً، فَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَيْدِي سَحْقَةَ جُوعٍ، وَلَقَدْ تَعَكَّنَ بَطْنِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا طُعْمٌ وَشَرِبٌ، وَهِيَ مَبَارَكَةٌ، قَالَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ سَأَلَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ فَقُلْتُ: مِنْ غِفَارٍ قَالَ: وَكَانَتْ غِفَارٌ يَفْطَعُونَ عَلَى الْحَاجِّ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْبَضَ عَنِّي، فَقَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: انْطَلِقْ بِنَا يَا أَبَا بَكْرٍ فَانْطَلِقْ بِنَا إِلَى مَنْزِلِ أَبِي بَكْرٍ، فَقَرَّبَ لَنَا زَبِيئًا، فَآكَلْنَا مِنْهُ، وَأَقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَّمَنِي الْإِسْلَامَ، وَقَرَأْتُ مِنَ الْقُرْآنِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَظْهَرَ دِينِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تُقْتَلَ، قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْهُ. قَالَ: إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكَ أَنْ تُقْتَلَ، قُلْتُ: لَا بُدَّ مِنْهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَإِنْ قُتِلْتُ، فَسَكَّتْ عَنِّي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَقُرَيْشٌ حَلَقَ يَتَحَدَّثُونَ فِي الْمَسْجِدِ، فَقُلْتُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، فَتَفَضَّتِ الْحَلْقَ، فَقَامُوا إِلَيَّ، فَضَرَبُونِي حَتَّى تَرَكَونِي كَأَنِّي نُصَبٌ أَحْمَرٌ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ قَدْ قَتَلُونِي، فَقَمْتُ، فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَى مَا بِي مِنَ الْحَالِ، فَقَالَ

اے ابوبکر! ہمیں لے چلو! پس آپ ہمیں لے کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر آگئے انہوں نے کشمکش ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم نے اس میں سے کچھ کھایا، میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ رہنے لگا، آپ نے مجھے اسلام کی تعلیم دی اور میں نے کچھ حصہ قرآن پڑھا۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میں اپنے دین کو سب پر ظاہر کر دینا چاہتا ہوں۔ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مجھے خوف ہے کہ تجھے قتل کر دیا جائے گا۔ میں نے عرض کی: حضور! یہ کام ضروری ہے۔ آپ نے فرمایا: مجھے آپ پر قتل ہو جانے کا خوف ہے۔ میں نے عرض کی: حضور! اس کے بغیر چارہ کار نہیں، خواہ میں قتل کر دیا جاؤں۔ رسول کریم ﷺ نے خاموشی اختیار کی۔ قریشی حلقوں کی صورت میں مسجد حرام کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے علی الاعلان کہا: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ حلقے ختم ہو گئے وہ اٹھ کر سیدھے میری طرف آئے اور مارنا شروع کر دیا یہاں تک کہ مجھے یوں کر چھوڑا گویا کہ مجھے سختی پہنچائی۔ وہ خیال کر رہے تھے کہ انہوں نے مجھے قتل کر دیا ہے۔ میں کھڑا ہوا اور سیدھا رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آیا آپ نے میرا حال دیکھ کر فرمایا: کیا میں نے تجھے منع نہیں کیا تھا! میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! میرے دل میں ایک کھٹکا تھا سو وہ دور ہو گیا۔ میں رسول کریم ﷺ کے ساتھ مقیم ہو گیا، آپ نے مجھ سے فرمایا: اب اپنی قوم میں چلے جاؤ! پس جب تمہیں خبر پہنچے کہ میں اسلام کی علانیہ

لی: اَلَمْ اَنْهَكَ؟ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، كَانَتْ حَاجَةً فِي نَفْسِي فَقَضَيْتُهَا۔ فَاقَمْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: الْحَقُّ بِقَوْمِكَ، فَاِذَا بَلَغَكَ ظُهُورِي فَاتِنِي، فَجِئْتُ وَقَدْ اَبْطَأْتُ عَلَيْهِمْ، فَلَقِيْتُ اُنَيْسًا، فَبَكِيَ، وَقَالَ: يَا اِحْيٰ، مَا كُنْتُ اَرَاكَ اِلَّا قَدْ قُتِلْتَ لَمَّا اَبْطَأْتُ عَلَيْنَا، مَا صَنَعْتَ؟ اَلْقِيَتْ صَاحِبَكَ الَّذِي طَلَبْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، فَقَالَ اُنَيْسٌ: يَا اِحْيٰ، مَا بِي رَغْبَةً عَنكَ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ وَاسْلَمَ مَكَانَهُ، ثُمَّ اَتَيْتُ اُمِّي، فَلَمَّا رَاَتْنِي بَكَتْ، وَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ، اَبْطَأْتُ عَلَيْنَا، حَتَّى تَخَوَّفْتُ اَنْ قَدْ قُتِلْتَ، مَا صَنَعْتَ؟ اَلْقِيَتْ صَاحِبَكَ الَّذِي طَلَبْتَ؟ فَقُلْتُ: نَعَمْ، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، قَالَتْ: فَمَا صَنَعَ اُنَيْسٌ؟ قُلْتُ: اَسْلَمَ، فَقَالَتْ: وَمَا بِي عَنكُمَا رَغْبَةً، اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللّٰهُ، وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللّٰهِ، فَاقَمْتُ فِي قَوْمِي، فَاسْلَمَ مِنْهُمْ نَاسٌ كَثِيْرٌ، حَتَّى بَلَغَنَا ظُهُورُ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاتِنْتُهُ

تبلیغ کر رہا ہوں تو میرے پاس آ جانا۔ میں آیا اس حال میں کہ ان پر (میرے گھر والوں پر) بڑی دیر گزر گئی تھی۔ میں انہیں سے ملا تو وہ رونے لگا اور کہا: اے میرے بھائی! جب تو نے ہمارے پاس آنے میں دیر کر دی تو میں نے تو تیرے بارے میں یہی خیال کیا کہ تجھے قتل کر دیا گیا ہے۔ تو نے کیا کیا؟ کیا تو اپنے مطلوب دوست سے ملا؟ میں نے کہا: ہاں! اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ انہیں نے کہا: میں کوئی آپ سے متنفر تو نہیں ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ اسی جگہ کھڑے ہوئے مسلمان ہو گیا۔ پھر میں اپنی ماں کے پاس آیا وہ بھی مجھے دیکھ کر رونے لگیں۔ کہا: اے میرے بیٹے! آپ نے ہمارے پاس آنے میں بہت دیر کر دی۔ مجھے تو خوف لاحق ہو گیا کہ آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو نے یہ کیا کیا؟ کیا تو اپنے اس دوست سے ملا جس کو تو تلاش کر رہا تھا؟ میں نے کہا: ہاں! اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا رسول اللہ۔ میری ماں نے فرمایا: پھر انہیں نے کیا کیا؟ میں نے عرض کیا: اس نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ میری ماں بولیں: میں تم دونوں سے الگ نظریہ تو نہیں رکھتی (پڑھا: اشہد ان لا الہ الا اللہ..... میں اپنی قوم میں رہنے لگا۔ بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے یہاں تک کہ ہمیں معلوم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے اعلانیہ تبلیغ کا آغاز کر دیا ہے۔ سو میں آپ ﷺ کے پاس آ گیا۔

اس حدیث کو ابو یزید مدینی سے صرف ابوطاہر غلام حسین ابن علی ہی روایت کرتے ہیں، اس حدیث کے ساتھ جعفر بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طلحہ اپنے والد سے وہ ان کے دادا ابوطلحہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں مسجد میں داخل ہوا، میں نے بھوک رسول اللہ ﷺ کے چہرے سے پہچان لی، میں نے اُم سلیم سے پوچھا: کیا تیرے پاس کوئی شی ہے؟ اُم سلیم نے اپنی ہتھیلی کے ساتھ اشارہ کیا، کہا: میرے پاس کوئی شی ہے، میں نے کہا: آنا گوندھ اور پکا اور انس کو بھیجا بلوانے کے لیے۔ میں نے انس سے کہا: آپ کے کان میں آہستہ سے عرض کریں اور آپ کو دعوت دیں۔ جب انس آئے تو حضور ﷺ نے فرمایا: یہ آدمی آیا، ہم کو کسی شی کی دعوت دینے کے لیے۔ آپ کو ابوطلحہ نے بھیجا ہے، ہم کو دعوت دینے کے لیے؟ حضرت انس نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے اپنے غلاموں سے فرمایا: اٹھو! اللہ کا نام لو! حضرت انس تیزی سے پلٹے یہاں تک کہ حضرت ابوطلحہ کے پاس آئے، عرض کی: رسول اللہ ﷺ اور آپ کے غلام صحابہ بھی آ رہے ہیں۔ ابوطلحہ نے فرمایا: میں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے بھوک آپ کے چہرے سے پہچان لی، میں نے آپ کے کھانے کے لیے کوئی شی تیار کی تھی، حضور ﷺ نے فرمایا: داخل ہو اور

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ إِلَّا أَبُو طَاهِرٍ مَوْلَى الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ

2765 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ اِسْمَاعِيلَ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ اَبِي مُزَرَّيْ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِي طَلْحَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ اَبِي طَلْحَةَ قَالَ: دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجُوعَ، فَسَأَلْتُ اُمَّ سَلِيْمٍ: هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟ فَاَشَارَتْ بِكَفِّيْهَا، فَقَالَتْ: عِنْدِي شَيْءٌ، فَقُلْتُ: اَصْنَعِي، اَعْجِنِي، وَارْسَلْتُ اَنَسًا فَقُلْتُ: اَنْتِ فَسَارِهِ فِي اُذْنِهِ، وَاذَعُهُ، فَلَمَّا اَقْبَلَ اَنْسٌ، قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا رَجُلٌ قَدْ اَتَاكُمْ يَحْبُوْنَا بِشَيْءٍ، اَرْسَلْتُ اَبُو طَلْحَةَ تَدْعُوْنَا؟ فَقَالَ اَنْسٌ: نَعَمْ، فَقَالَ: قَوْمُوا، بِسْمِ اللّٰهِ، فَاَذْبَرَ اَنْسٌ يَشْتَدُّ حَتَّى اَتَى اَبَا طَلْحَةَ، فَقَالَ: هَذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَتَاكَ فِي النَّاسِ، قَالَ اَبُو طَلْحَةَ: فَاسْتَقْبَلْتُهُ عِنْدَ الْبَابِ عَلَيَّ مُسْتَرَاِحَ الدَّرَجَةِ، فَقُلْتُ: مَاذَا صَنَعْتَ بِنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ اِنَّمَا عَرَفْتُ فِي وَجْهِكَ الْجُوعَ، فَصَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا نَأْكُلُهُ، فَقَالَ: اَدْخُلْ وَابْشِرْ، فَدَخَلَ، فَاتَيْتِ بِصَحْفَتِيْهَا، فَجَعَلَ يَسُوِيْهَا بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ: هَلْ مِنْ؟، كَاَنَّهُ يَعْنِي: الْاَدَمَ، فَاتَيْنَاهُ بِعَكْتِنَا فِيْهَا شَيْءٌ اَوْ لَيْسَ

فِيهَا، فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ، فَنَسَكَبَ مِنْهَا السَّمْنَ، فَقَالَ: أَدْخِلْ عَلَيَّ عَشْرَةَ عَشْرَةَ قَالَ: وَهُمْ زُهَاءُ مَائَةٍ، فَدَخَلُوا، فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا، وَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْفَضْلِ الَّذِي فَضَلَ: كُلُوا أَنْتُمْ وَعِيَالُكُمْ. فَأَكَلُوا وَشَبِعُوا

خوشخبری دو! حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ داخل ہوئے آپ کے پاس پیالہ لایا گیا آپ نے اس میں اپنا ہاتھ رکھا پھر فرمایا: کیا آپ کے پاس کوئی شی ہے؟ یعنی سالن ہے؟ ہم آپ کے پاس ایک کچی لائے آپ نے اپنے ہاتھ سے پکڑی اس سے گھی ڈالا فرمایا: دس دس افراد داخل ہوں ان کی تعداد سو تھی وہ داخل ہوئے اور انہوں نے کھایا جب وہ سیر ہو گئے جو بیچ گیا، حضور ﷺ نے فرمایا: خود بھی کھاؤ اور اپنے بچوں کو بھی کھلاؤ انہوں نے کھایا اور سیر ہو گئے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ إِلَّا مَعَاوِيَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ حَاتِمٌ

یہ حدیث عبداللہ بن عبداللہ بن ابی طلحہ سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حاتم اکیلے ہیں۔

2766 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَمِعَ اسْمًا فَيَبْحَثُ فِيهِ غَيْرُهُ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب برنام سنتے تو اس کو بدل دیتے تھے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْمُرَزِيِّ الْوَاسِطِيِّ إِلَّا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ

یہ حدیث محمد بن حسن المرزنی الواسطی سے صرف صلت بن مسعود ہی روایت کرتے ہیں۔

2767 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ذُكِرْتُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے ہاں میرا ذکر کیا جائے وہ مجھ پر درود پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پر دس مرتبہ رحمت بھیجے گا۔

عِنْدَهُ فَلْيُصَلِّ عَلَيَّ، فَإِنَّهُ مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مَرَّةً صَلَّى
عَلَيْهِ عَشْرًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ إِلَّا
إِبْرَاهِيمَ

یہ حدیث ابواسحاق سے صرف ابراہیم ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت فاطمہ بنت حسین اپنے والد حسین بن علی
رضی اللہ عنہما سے روایت کرتی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جب مسلمان
مرد اور عورت کو کوئی تکلیف پہنچے تو اس کا ذکر کرے تو اس کو
ثواب نہیں ملے گا، اگر وہ انا اللہ وانا الیہ راجعون پڑھے تو
اللہ عزوجل اس کے لیے ثواب دے گا، جس دن اس کو
مصیبت پہنچی۔

2768 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَامٍ الْجَمْحِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ أَبُو
الْمِقْدَامِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ الْحُسَيْنِ، أَنَّهَا
سَمِعَتْ أَبَاهَا الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ يَقُولُ: سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ
مُسْلِمٍ وَلَا مُسْلِمَةٍ يُصَابُ بِمُصِيبَةٍ، فَيَذْكُرُهَا وَإِنْ
قَدَّمَ عَلَيَّ عَهْدَهَا، فَيُحَدِّثُ لَهَا اسْتِرْجَاعًا إِلَّا أَحَدَتْ
اللَّهُ لَهُ عِنْدَ ذَلِكَ وَأَعْطَاهُ اللَّهُ ثَوَابَهُ يَوْمَ أُصِيبَ بِهَا
لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ أَبُو الْمِقْدَامِ

یہ حدیث حسین بن علی سے اسی سند سے روایت
ہے، اس کو روایت کرنے میں ہشام ابوالمقدام اکیلے
ہیں۔

حضرت عثمان ابن ابوالعاص الثقفی رضی اللہ عنہ
فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آدھی رات کے
وقت آسمان کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں ایک
آواز دینے والا آواز دیتا ہے: کیا ہے کوئی دعا کرنے والا
کہ اس کی دعا قبول کی جائے، کیا ہے کوئی مانگنے والا کہ
اس کو عطا کیا جائے ہے کوئی پریشان کہ اس کی پریشانی دور
کی جائے جو مسلمان دعا کرتا ہے اس کی دعا قبول کی جاتی
ہے مگر زانیہ جو شرمگاہ کو فروخت کرتی ہے یا کرایہ لیتی
ہے۔

2769 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَامٍ، نَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ،
عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ الثَّقَفِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تُفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ نِصْفَ اللَّيْلِ،
فَيَنَادِي مُنَادٍ: هَلْ مِنْ دَاعٍ فَيَسْتَجَابُ لَهُ، هَلْ مِنْ
سَائِلٍ فَيُعْطَى، هَلْ مِنْ مُكْرُوبٍ فَيَفْرَجُ عَنْهُ، فَلَا
يَبْقَى مُسْلِمٌ يَدْعُو بِدَعْوَةٍ إِلَّا اسْتَجَابَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ
لَهُ، إِلَّا زَانِيَةً تَسْعَى بِفَرْجِهَا، أَوْ عَشَارًا

یہ حدیث ہشام سے صرف داؤد روایت کرتے ہیں اور داؤد سے صرف عبدالرحمن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے کہ تم مردوں کے متعلق صرف بھلائی ہی بیان کرو۔

یہ حدیث معاویہ سے صرف فرات ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس دو عورتیں آئیں ان میں سے ایک کے بچے کو بھینٹا کھا گیا تھا، دونوں دوسرے بچے کے متعلق جھگڑ رہی ہیں، حضرت داؤد نے بڑی کے لیے فیصلہ کیا جب دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گئیں، فرمایا: تمہارے درمیان کیا فیصلہ کیا ہے؟ دونوں نے بتایا، آپ نے فرمایا: میرے پاس چھری لاؤ! حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سب سے پہلے میں نے سنا کہ آپ ﷺ نے فرمایا: چھری کو سکین، ہم اسکو مدیہ کہتے تھے، چھوٹی نے کہا: کس لیے؟ فرمایا: اس لیے کہ آدھا آدھا کر کے آپ کو دے دوں، اس نے کہا: بڑی کو دے دو! حضرت سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی کے لیے فیصلہ کیا، فرمایا: اگر بیٹا تیرا ہوتا تو تو اس کو آدھا کرنے کو پسند نہ کرتی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا دَاوُدُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

2770 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي الرَّبِيعِ السَّمَانُ قَالَ: نَا فِرَاتُ بْنُ اَبِي الْفِرَاتِ قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ قُرَّةَ يُحَدِّثُ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُولُوا الْمَوْتَاكُمْ اِلَّا خَيْرًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ اِلَّا الْفِرَاتُ

2771 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ اَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْاَعْرَجِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَّ امْرَاتَيْنِ اتَّتا دَاوُدَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَذَا اَكَلَ اَحَدَ ابْنَيْهِمَا الذُّبُّ، تَخْتَصِمَانِ فِي الْبَاقِي، فَقَضَىٰ بِهِ دَاوُدُ لِلْكُبْرَىٰ، فَلَمَّا خَرَجْنَا عَلٰى سُلَيْمَانَ قَالَ: كَيْفَ قَضَىٰ بَيْنَكُمَا؟ فَاخْبِرْتَاهُ، فَقَالَ: اَتُّونِي بِالسِّكِّينِ، قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: اَوَّلُ مَنْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السِّكِّينِ مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا، كُنَّا نُسَمِّيْهَا الْمُدْيَةَ، فَقَالَتِ الصُّغْرَىٰ: لِمَ؟ قَالَ: لِاشْقَهِ بَيْنَكُمَا، فَقَالَتْ: اذْفَعُهُ اِلَيْهَا، فَقَضَىٰ بِهِ سُلَيْمَانُ لِلصُّغْرَىٰ، وَقَالَ: لَوْ كَانَ ابْنُكَ لَمْ تَرْضَىٰ اَنَّ تَشْقِيَهُ

حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے جس گھر میں کتاب اور تصویر ہو۔

اسی طرح سے یہ حدیث روح بھی روایت کرتے ہیں وہ ابو ایوب سے روایت کرتے ہیں اور تمام لوگ اس کو سہیل سے وہ سعید بن یسار سے وہ یزید بن خالد سے وہ ابو طلحہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مکہ کے راستہ میں ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے اس کو جمران کہا جاتا تھا آپ نے فرمایا: یہ جمران ہے چلو! مفردون سبقت لے گئے دو مرتبہ فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! مفردون کیا ہیں؟ فرمایا: کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں اللہ رحم کرے خلق کروانے والوں پر! صحابہ کرام نے عرض کی: بال کثوانے والوں کے لیے؟ یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ رحم کرے خلق کروانے والوں کے لیے! صحابہ کرام نے عرض کی: بال کثوانے والوں کے لیے دعا کریں! آپ نے فرمایا: اللہ خلق کروانے والوں پر رحم کرے! صحابہ کرام نے عرض کی: بال کثوانے والوں کے لیے! آپ نے فرمایا: اللہ رحم کرے بال کثوانے والوں پر بھی۔

2772 - وَعَنْ رُوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيهِ صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ

هَكَذَا رَوَى رُوْحُ هَذَا الْحَدِيثَ قَالَ: عَنْ أَبِي أَيُّوبَ وَرَوَاهُ النَّاسُ كُلُّهُمْ، عَنْ سُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي طَلْحَةَ

2773 - وَعَنْ رُوْحِ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَمَرَّ عَلَى جَبَلٍ يُقَالُ لَهُ جُمْدَانُ، فَقَالَ: هَذَا جُمْدَانُ، سِيرُوا، سَبَقَ الْمُفْرَدُونَ، مَرَّتَيْنِ، قَالُوا: وَمَا الْمُفْرَدُونَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتُ، رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: رَحِمَ اللَّهُ الْمُحَلِّقِينَ قَالُوا: وَالْمُقَصِّرِينَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَالْمُقَصِّرِينَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اعمال کرنے میں جلدی کرو؛ فتنے آنے سے پہلے جو رات کے اندھیرے کی طرح ہوں گے آدمی رات کو مؤمن، شام کو کافر، شام کو مؤمن اور رات کو کافر، وہ اپنے دین کو فروخت کریں گے دنیا کے عوض۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ انسان کی ہر نیکی کا بدلہ دس نیکیوں سے لے کر سات سو نیکیوں تک ہے، مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزاء دوں گا؛ کیونکہ وہ روزہ میرے لیے رکھتا ہے اور شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے، روزہ میرے لیے ہے میں خود اس کی جزاء دوں گا؛ روزہ ڈھال ہے جو روزہ رکھے وہ بے حیائی اور جہالت نہ کرے، اگر کوئی اس کو گالی دے یا تکلیف دے تو وہ کہہ دے: میں روزہ کی حالت میں ہوں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے عبد اللہ بن عمرو! جب تو کمینے ذلیل لوگوں میں ہوگا تو تیری حالت کیا ہوگی؟ عرض کی: یا رسول اللہ! کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: جب امانت کو ضائع کیا جائے گا اور وعدہ خلافی کی جائے گی اور معاملہ اس طرح ہو جائے گی؟ آپ نے انگلیاں دوسری انگلیوں میں داخل کیں۔ عرض کی: یا رسول اللہ! میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: تو جانتا ہے جو ناپسند سمجھے وہ چھوڑ دے، خاص اپنی

2774 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ فِتْنًا كَقَطْعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، يُضْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِي كَافِرًا، وَيُمْسِي مُؤْمِنًا وَيُضْبِحُ كَافِرًا، يَبِيعُ دِينَهُ بَعْرَضٍ مِنَ الدُّنْيَا

2775 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: كُلُّ حَسَنَةٍ يَعْمَلُهَا ابْنُ آدَمَ أَجْرِي بِهِ بِهَا عَشْرَ حَسَنَاتٍ إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، إِلَّا الصِّيَامَ هُوَ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، يَذُرُ الطَّعَامَ مِنْ أَجْلِي، وَيَذُرُ الشَّهْوَةَ مِنْ أَجْلِي، فَهُوَ لِي وَأَنَا أَجْرِي بِهِ، وَالصَّوْمُ حُجَّةٌ، فَمَنْ كَانَ صَائِمًا فَلَا يَرُفُ وَلَا يَجْهَلُ، فَإِنَّ امْرُؤًا شَتَمَهُ أَوْ آذَاهُ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ، إِنِّي صَائِمٌ

2776 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ أَنْتَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو إِذَا كُنْتَ فِي حُخَالَةٍ مِنَ النَّاسِ؟ قَالَ: وَذَلِكَ مَا هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: ذَلِكَ إِذَا مَرَجَتْ أَمَانَتُهُمْ وَعُهُودُهُمْ فَصَارُوا هَكَذَا وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ قَالَ: فَكَيْفَ اصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: تَعْمَلْ بِمَا تَعْرِفُ وَتَدْعُ مَا تُنْكِرُ، وَتَعْمَلْ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ، وَتَدْعُ عَوَامَ النَّاسِ

2774 - أخرجه مسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 110، والترمذی: الفتن جلد 4 صفحہ 487 رقم الحديث: 2195، وأحمد:

المسند جلد 2 صفحہ 406 رقم الحديث: 7050.

2775 - أخرجه مسلم: الصيام جلد 2 صفحہ 807، والبخاری: الصوم جلد 2 صفحہ 125 رقم الحديث: 1894.

ذات کے لیے عمل کر، عوام الناس کو چھوڑ دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دین غریبوں سے شروع ہوا اور غریبوں میں واپس آئے گا، غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: مفلس ہم میں سے وہ ہے جس کے پاس درہم اور سامان نہ ہو آپ نے فرمایا: مفلس وہ میری امت سے جو قیامت کے دن نماز اور روزہ لے کر آئے گا، اس نے کسی پر ظلم اور کسی کا مال کھایا ہوگا اور کسی کو مارا ہوگا، کسی کو گالی دی ہوگی، اس کی نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا، اس کی نیکیاں لی جائیں گے، اگر نیکیاں بدلہ لینے سے پہلے ختم ہو جائیں گی تو جس پر ظلم کیا یا کسی کو گالی دی ہوگی اس کے گناہ لے کر اس کے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے، پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔

اور یہی راوی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اگر مومن کو معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سزا کتنی ہے تو کبھی وہ اللہ کی جنت کا لالچ نہ کرے (صرف یہ کہے کہ بس اپنی سزا سے بچالے) اور اگر کافر کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے پاس رحمت کتنی ہے تو کوئی بندہ اللہ کی جنت سے

2777- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيبًا، وَإِنَّ الدِّينَ سَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

2778- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلْ تَدْرُونَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمُفْلِسُ فِينَا مَنْ لَا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ قَالَ: إِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ أُمَّتِي مَنْ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصِيَامٍ وَصَلَاةٍ وَصَدَقَةٍ، وَيَأْتِي قَدْ ظَلَمَ هَذَا وَآكَلَ مَالَ هَذَا، وَضْرَبَ هَذَا، وَشَتَمَ هَذَا، فَيَقْعُدُ، فَيَقْتَصُّ لِهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، وَلِهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ، فَإِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الْخَطَايَا أَخَذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطَرِحَتْ عَلَيْهِ، ثُمَّ طَرِحَ بِهِ فِي النَّارِ

2779- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمُؤْمِنُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الْعُقُوبَةِ مَا طَمِعَ أَحَدٌ بِجَنَّتِهِ، وَلَوْ يَعْلَمُ الْكَافِرُ مَا عِنْدَ اللَّهِ مِنَ الرَّحْمَةِ مَا قَنَطَ عَبْدٌ مِنْ جَنَّتِهِ، خَلَقَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ رَحْمَةٍ، وَأَهْبَطَ مِنْهَا رَحْمَةً بَيْنَ

2777- أخرجه مسلم: الايمان جلد 1 صفحه 130، وابن ماجه: الفتن جلد 2 صفحه 1319 رقم الحديث: 3986، وأحمد:

المسند جلد 2 صفحه 514 رقم الحديث: 9077.

2778- أخرجه مسلم: البر جلد 4 صفحه 1997، والترمذی: صفة القيامة جلد 4 صفحه 613 رقم الحديث: 2418.

وأحمد: المسند جلد 2 صفحه 406 رقم الحديث: 8049.

2779- أخرجه البخاری: الرقاق جلد 11 صفحه 307 رقم الحديث: 6469، ومسلم: التوبة جلد 4 صفحه 2109.

ما یوس نہ ہو اللہ نے سوھے رحمت پیدا کی ہے جن میں سے ایک حصہ اپنے بندوں کے درمیان اُتارا ہے جس کے ساتھ وہ ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں ننانوے حصے رحمت کے اللہ کے پاس موجود ہیں (جن کا اظہار قیامت کے دن ہوگا) اور یہ دنیا کی آگ جہنم کے سوجزوں میں سے ایک جز ہے۔

وہی صحابی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: بے شک ایک آدمی لمبے زمانے تک جنتیوں والے کام کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر جہنمیوں والے اعمال کی مہر لگا دیتا ہے تو وہ جہنمیوں میں سے ہو جاتا ہے اور ایک آدمی جہنمیوں والے کام کرتا رہتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے عمل پر جنتیوں والے اعمال کی مہر لگا دیتا ہے پس وہ جنتیوں میں سے ہو جاتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے حکم دیا گیا ہے لوگوں سے جہاد کرنے کا یہاں تک کہ وہ گواہی دیں توحید کی اور مجھ پر ایمان لائیں اور اس پر جو میں لایا، جب وہ ایسے کر لیں تو وہ مجھ سے اپنے خون اور اموال بچالیں گے مگر حق کے ساتھ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

عِبَادِهِ يَتَرَأْحَمُونَ بِهَا، وَعِنْدَ اللَّهِ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَهَذِهِ النَّارُ جُزْءٌ مِنْ مِائَةِ جُزْءٍ مِنْ جَهَنَّمَ

2780 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ لَهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ الزَّمَانَ الطَّوِيلَ بِأَعْمَالِ أَهْلِ النَّارِ، ثُمَّ يَخْتِمُ اللَّهُ عَمَلَهُ بِأَعْمَالِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، فَيَجْعَلُهُ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ

2781 - وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيُؤْمِنُوا بِي وَبِمَا جِئْتُ بِهِ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ

2782 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

2780 - أخرجه مسلم: القدر جلد 4 صفحہ 2042، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 638 رقم الحديث: 10296 .

2781 - أخرجه مسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 52 .

2782 - أخرجه مسلم: الزهد جلد 4 صفحہ 2272، والترمذی: الزهد جلد 4 صفحہ 562 رقم الحديث: 2324، وابن

ساجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1378 رقم الحديث: 4113، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 432 رقم

الحديث: 8309 .

ﷺ نے فرمایا: دنیا مومن کیلئے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ ایک آدمی اپنے چچا اور قریبی کو بلائے گا، کشادگی کے مقام کی طرف آؤ حالانکہ مدینہ ان کے لیے بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ مدینہ اپنے اندر سے بڑے لوگوں کو صاف نہ کر دے، جس طرح لوہے سے بھٹی رنگ دور کر دیتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: گرمی جہنم کی سانس سے ہے اس لیے ظہر کی نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے کچھ قریبی رشتہ دار ہیں میں ان سے جوڑتا ہوں وہ مجھ سے توڑتے ہیں، میں ان سے بردباری کرتا ہوں وہ مجھ سے جہالت سے پیش آتے ہیں میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں وہ مجھ سے بڑے طریقے سے پیش آتے ہیں، آپ نے فرمایا: اگر ایسے ہی ہے جس طرح تو کہہ رہا ہے تو تو ان کے منہ میں

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ، وَجَنَّةُ الْكَافِرِ

2783- وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيْبَهُ هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِيْنَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

2784- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِيْنَةُ شِرَارَهَا كَمَا يَنْفِي الْكَبِيْرُ حَبَّتَ الْحَدِيْدِ

2785- وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْحَرَمَيْنِ فَيْحٌ جَهَنَّمَ، فَأَبْرِدُوا بِالصَّلَاةِ

2786- وَبِهِ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي قَرَابَةً أَصْلَهُمْ وَيَقْطَعُونِي، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ، وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ، وَيُسِينُونَ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنْ كَانَ كَمَا تَقُولُ، فَكَأَنَّمَا تُسْفَهُمُ الْمَلَّ، وَلَا يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَى ذَلِكَ

2783- أخرجه مسلم: الحج جلد2 صفحہ 1005 .

2784- تقدم تخريجه . انظر الحديث السابق .

2785- أخرجه البخارى: المواقيت جلد2 صفحہ 23 رقم الحديث: 536، ومسلم: المساجد جلد1 صفحہ 431 .

2786- أخرجه مسلم: البر جلد4 صفحہ 1982، وأحمد: المسند جلد2 صفحہ 402 رقم الحديث: 8012 .

راکھ ڈال رہا ہے تیرے ساتھ ہمیشہ اللہ کی طرف سے مددگار رہے گا جب تک تو اسی حالت پر رہے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کتابالاً جو گھریا موسیٰ بنوں کے لیے نہ ہو اس کے ثواب میں ہر روز ایک قیراط کے برابر ثواب میں کمی ہوگئی ہاں اگر شکار اور تھاظت کے لیے ہو تو جائز ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ وہ ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے ہمارا گزر ابورغال کی قبر سے ہوا صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہ کس کی قبر ہے؟ آپ نے فرمایا: ابورغال کی قبر ہے یہ ابو ثقیف تھا یہ قوم ثمود سے ایک آدمی تھا اس کا گھر حرم میں تھا جب اللہ عزوجل نے اس کی قوم کو ہلاک کیا جو اس قوم سے ہلاک کرنے تھے اس کو ہلاک نہیں کیا حرم میں مکان ہونے کی وجہ سے یہ وہاں سے نکلا یہاں تک کہ یہاں پہنچا تو فوت ہوا اس جگہ اس کو دفن کیا گیا اس کے ساتھ سونے کی ایک ڈلی دفن کی گئی ہم نے جلدی سے اس کی قبر کھودی اور اس کو نکال لیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کی طرف بھیجا فرمایا: تو اہل کتاب کی ایک قوم کے پاس جا رہا ہے ان کو سب سے پہلے اللہ کی عبادت کی دعوت دینا جب

2787 - وَعَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ بُجَيْرِ بْنِ أَبِي بُجَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ اتَّخَذَ كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ قَنْصٍ، وَلَا كَلْبِ مَاشِيَّةٍ، نَقَصَ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطٌ

2788 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُمْ كَانُوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ فِي سَفَرٍ، فَمَرُّوا عَلَى قَبْرِ أَبِي رِغَالٍ، فَقَالُوا: مَا هَذَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: هَذَا قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ، وَهُوَ أَبُو ثَقِيفٍ، وَكَانَ امْرَأً مِنْ ثَمُودَ، وَكَانَ مَنزِلُهُ بِالْحَرَمِ، فَلَمَّا أَهْلَكَ اللَّهُ قَوْمَهُ بِمَا أَهْلَكَهُمْ بِهِ مَنَعَهُ لِمَكَانِهِ مِنَ الْحَرَمِ، وَإِنَّهُ خَرَجَ حَتَّى إِذَا بَلَغَ هَا هُنَا مَاتَ، فَدُفِنَ، وَدُفِنَ مَعَهُ غُصْنٌ مِنْ ذَهَبٍ، فَأَبْتَدَرْنَا، فَاسْتَحْرَجْنَاهُ

2789 - وَبِهِ عَنْ رَوْحِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَيْفِيٍّ، عَنْ أَبِي مَعْبُدٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مَعَاذًا عَلَى الْيَمَنِ فَقَالَ: إِنَّكَ تَقْدُمُ عَلَيَّ

2788 - أخرجه أبو داود: الامارة جلد 3 صفحہ 178 رقم الحديث: 3088، والبيهقي في دلائل النبوة جلد 6 صفحہ 297

والبيهقي في الكبرى جلد 4 صفحہ 363 رقم الحديث: 7653 .

2789 - أخرجه البخاري: الزكاة جلد 3 صفحہ 377 رقم الحديث: 1458، ومسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 51 .

وہ اللہ کو پہچان لیں تو ان کو بتانا کہ ان پر دن و رات میں پانچ وقت کی نماز فرض ہے جب وہ یہ کر لیں تو ان کو بتانا کہ اللہ عزوجل نے ان کے اموال پر زکوٰۃ فرض کی ہے۔

قَوْمِ أَهْلِ كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّلَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ عِبَادَةَ اللَّهِ، فَإِذَا عَرَفُوا اللَّهَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَرَضَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٍ فِي يَوْمِهِمْ وَلَيْلَتِهِمْ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ، فَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ

حضرت ابو بصرہ حمیل بن بصرہ کی ملاقات حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہوئی، اس حالت میں کہ وہ طور سے واپس آرہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: اگر میں آپ کو طور سے جانے سے پہلے ملتا تو آپ کو نہ جانے دیتا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اپنی سواریاں صرف تین مسجدوں کی طرف باندھو: مسجد حرام، مسجد نبوی، مسجد اقصیٰ۔

2790 - وَعَنْ رُوْحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَصْرَةَ حَمِيلَ بْنَ بَصْرَةَ لَقِيَ أَبَا هُرَيْرَةَ، وَهُوَ مُقْبِلٌ مِنَ الطُّورِ، فَقَالَ: لَوْ لَقَيْتَكَ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَهُ لَمْ تَأْتِيَهُ، إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّمَا تُضْرَبُ أَكْبَادُ الْمَطِيِّ إِلَى ثَلَاثَةِ مَسَاجِدَ: الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ عزوجل قیامت کے دن اس پر نظر رحمت نہیں کرے گا جو تکبر سے تہمند لگاتا ہے۔

2791 - وَعَنْ رُوْحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَنْظُرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

حضرت سعید بن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور کوئی آگے سے گزرے تو اس کو گزرنے نہ دے، اگر وہ گزرنے پر اصرار کرے تو اس سے جھگڑا کرے کیونکہ وہ شیطان ہے۔

2792 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلَا يَدْعُ أَحَدًا يَمُرُّ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَإِنْ أَبِي فَلْيَقَاتِلْهُ، فَإِنَّهُ شَيْطَانٌ

2790 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 2 صفحه 276 رقم الحديث: 2159 .

2791 - أخرجه البخاری: اللباس جلد 10 صفحه 264 رقم الحديث: 5783، ومسلم: اللباس جلد 3 صفحه 1651 .

2792 - أخرجه البخاری: الصلاة جلد 1 صفحه 693 رقم الحديث: 509، ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحه 362 .

حضرت سعید بن ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ کی راہ میں ایک گھوڑا دیا آپ نے وہ گھوڑا اس کے مالک کے پاس پایا وہ اس کو ضائع کر رہا ہے وہ غریب آدمی تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خریدنے کا ارادہ کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور اس بات کا ذکر کیا آپ نے فرمایا: اس کو نہ خرید اگرچہ وہ ایک درہم کا دے اس کی مثال جو بہہ کر کے واپس لیتا ہے اس طرح ہے جو کتافے کر کے واپس چاٹ لے۔

حضرت سعید بن ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب بندہ وضو کرتا ہے تو کھلی اور ناک میں پانی ڈالتا ہے اور چہرے کو دھوتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ابروؤں کے نیچے سے بھی جب اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھ کے سارے گناہ نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ ناخنوں کے نیچے سے بھی جب سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ دونوں کانوں کے بھی جب اپنے پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی نکل جاتے ہیں یہاں تک کہ پاؤں کے ناخنوں کے نیچے سے بھی۔

2793- وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ، أَنَّهُ حَمَلَ عَلَى فَرَسٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، فَوَجَدَهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ وَقَدْ أَضَاعَهُ، وَكَانَ قَلِيلَ الْمَالِ، فَأَرَادَ أَنْ يَشْتَرِيَهُ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: لَا تَشْتَرِهِ، وَإِنْ أُعْطِيَتْهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ مَثَلَ الْعَائِدِ فِي هَيْبَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ

2794- وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنِ الصُّنَابِيحِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَوَضَّأَ الْعَبْدُ، فَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَقَ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ وَجْهِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَشْفَارِهِ، فَإِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ يَدَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ، فَإِذَا مَسَحَ بِرَأْسِهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رَأْسِهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ بَيْنِ أُذُنَيْهِ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ خَطَايَاهُ مِنْ رِجْلَيْهِ حَتَّى تَخْرُجَ مِنْ تَحْتِ أَظْفَارِهِ

2793- أخرجه البخاری: الہبۃ جلد 5 صفحہ 278 رقم الحدیث: 2623، ومسلم: الہبات جلد 3 صفحہ 1239 .

2794- أخرجه النسائی: الطہارۃ جلد 1 صفحہ 63 (باب مسح الأذنین مع الرأس) وابن ماجہ: الطہارۃ جلد 1 صفحہ 103

رقم الحدیث: 282، ومالك فی الموطأ: الطہارۃ جلد 1 صفحہ 31 رقم الحدیث: 30، وأحمد: المسند جلد 4

صفحہ 426 رقم الحدیث: 19092 .

حضرت اُم المؤمنین حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ! میں تیری راہ میں قتل ہو جاؤں اور تیرے پیارے حبیب ﷺ کے شہر میں موت آئے۔ میں نے عرض کی: آپ یہاں بھی ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: اگر اللہ نے چاہا تو لے آئے گا۔

حضرت معاذ بن عبد اللہ بن حنیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا مکہ کے راستے میں ہمارے پاس گوہ آئی، لوگ علیحدہ علیحدہ ہو گئے، مجھے حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ کہاں ہیں؟ میں نے عرض کی: گوہ کی وجہ سے علیحدہ علیحدہ ہو گئے ہیں، آپ نے فرمایا: پڑھو! میں نے عرض کی: میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: قل اعوذ برب الفلق مکمل اور قل اعوذ برب الناس مکمل پڑھی۔ تو آپ نے فرمایا: جس سے لوگ پناہ مانگتے ہیں اور مخلوق بھی اس کی مثل پناہ مانگتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی: وہ لوگ جو پاک دامن عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں پھر چار گواہ نہیں لاسکتے ہیں۔ حضرت سعد بن عبادہ نے عرض کی: اگر میں اپنی بیوی کے ساتھ کسی آدمی کو پاؤں تو میں چار مردلانے تک انتظار کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے عرض کی: نہیں! اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! اگر میں اس حالت میں دیکھوں گا تو تلوار سے جلدی

2795- وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ عُمَرَ قَالَتْ: سَمِعْتُ عُمَرَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ قَتَلْنَا فِي سَبِيلِكَ، وَوَفَاةً فِي بَلَدِ نَبِيِّكَ قُلْتُ: وَأَنَا يَكُونُ هَذَا؟ قَالَ: يَأْتِي بِهِ اللَّهُ إِذَا شَاءَ

2796- وَبِهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَبِيبٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ، فَاتْتَنَا ضَبَابَةٌ فَرَّقَتْ بَيْنَ النَّاسِ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيْنَ النَّاسُ؟ قُلْتُ: فَرَّقَتْ بَيْنَهُمُ الضَّبَابَةُ قَالَ: قُلْ. قُلْتُ: مَا أَقُولُ؟ قَالَ: قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ حَتَّى خْتَمَهَا، فَقُلْتُهَا، فَقَالَ: مَا تَعُوذُ النَّاسُ وَالْخَلْقُ بِمِثْلِهَا

2797- وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ) (النور: 4) قَالَ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ: لَوْ أَنِّي رَأَيْتُ مَعَ أَهْلِي رَجُلًا، أَنْتَظِرُ حَتَّى آجِيءَ بِأَرْبَعَةٍ؟ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ قَالَ: لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ، وَلَوْ رَأَيْتُهُ لَعَاجَلْتُهُ بِالسَّيْفِ، فَقَالَ: أَنْظِرُوا يَا مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ، مَا يَقُولُ

سَيِّدُكُمْ، اِنَّ سَعْدًا لَغَيُورٌ، وَاَنَا اَغْيَرُ مِنْهُ، وَاللّٰهُ عَزَّ
وَجَلَّ اَغْيَرُ مِنِّي

جلدی مار دوں گا۔ آپ نے فرمایا: اے انصار کے گروہ! دیکھو! تمہارا سردار کیا کہہ رہا ہے بے شک سعد غیرت مند ہے، میں اس سے زیادہ غیرت مند ہوں اللہ عزوجل مجھ سے زیادہ غیرت مند ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کے پاس آئیں اور ایک خادم مانگنے لگیں، کام کی شکایت کرنے لگیں، آپ نے فرمایا: ابھی خادم ہمارے پاس نہیں آیا، پھر فرمایا: کیا میں آپ کو خادم سے بہتر نہ بناؤں! تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ اللہ اکبر، تینتیس مرتبہ الحمد للہ پڑھ لیا کرو جب سونے کے لیے بستر پر آؤ۔

2798 - وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ فَاطِمَةَ
اتَّتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْأَلُهُ خَادِمًا،
فَشَكَتْ إِلَيْهِ لِلْعَمَلِ، فَقَالَ: مَا الْفَيْتِيهِ عِنْدَنَا نَمَّ قَالَ:
أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى مَا هُوَ خَيْرٌ مِنْ خَادِمٍ؟ تُسَبِّحِينَ ثَلَاثًا
وَوَثَلَاثِينَ، وَتُحَمِّدِينَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَتُكَبِّرِينَ أَرْبَعًا
وَوَثَلَاثِينَ حِينَ تَأْخُذِينَ مَضْجَعَكَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ اور تمام فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو اس آدمی پر جو اپنے آقا کے علاوہ اپنی نسبت کسی اور آقا کی طرف کرتا ہے۔

2799 - وَبِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَعْنَةُ اللَّهِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ عَلَى رَجُلٍ ادَّعَى مَوْلَى
قَوْمٍ بغيرِ اذْنِ مَوْلِيهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے کہ میں فلاں بندہ سے محبت کرتا ہوں، حضرت جبریل اس سے محبت کرتے ہیں اور حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ عزوجل فلاں بندہ سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو وہ اس سے محبت کرتے ہیں اس کے بعد اس

2800 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ اِذَا أَحَبَّ عَبْدًا قَالَ
لِجِبْرِيلَ: اِنِّي اُحِبُّ فُلَانًا، فَيَحْبُّهُ جِبْرِيلُ، فَيُنَادِي
جِبْرِيلُ اَهْلَ السَّمَاءِ: اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ فُلَانًا
فَاحْبُوْهُ، فَيَحْبُوْنَهُ، ثُمَّ يُوْضِعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِي الْاَرْضِ،

2798 - أخرجه مسلم: الذكر جلد 4 صفحہ 2094 .

2799 - أخرجه مسلم: العتق جلد 2 صفحہ 1146، وأبو داود: الأدب جلد 4 صفحہ 332 رقم الحديث: 5114 .

2800 - أخرجه البخاري: التوحيد جلد 13 صفحہ 469 رقم الحديث: 7485، ومسلم: البر جلد 4 صفحہ 2030 .

وَالشَّرُّ عَلَى ذَلِكْ

کی مقبولیت زمین والوں میں پھیلا دی جاتی ہے بُرے انسان کی بھی اسی طرح۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم مدینہ آئے تو بنی غفار سے ایک آدمی کو مدینہ چھوڑ آئے اس کو سباع بن عرفطہ کہا جاتا تھا ہم نے اس کے پیچھے نماز پڑھی اس نے پہلی رکعت میں سورہ مریم اور دوسری میں ویل للمطففین ہم میں ایک آدمی تھا کم تولنے والا ہم جب نماز سے فارغ ہوئے ہم نے کہا: فلاں کے لیے ہلاکت ہے پھر اس کے پاس آئے ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس آ کر رسول اللہ ﷺ کو ملے آپ نے خیر فتح کر لیا تھا لوگوں نے ہمارے لیے مال غنیمت تقسیم کرنے کی اجازت مانگی آپ نے ان کو اجازت دے دی ہمارے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ناپسند کرتے تھے کہ کوئی آدمی ایک پاؤں دوسرے پاؤں پر رکھے نماز کی حالت میں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ کیڑے گھروں میں ہوتے ہیں جب تم میں سے کوئی گھر داخل ہو تو یہ پڑھ لیا کرے: ”اللہم انی اعوذ بك من الخبث والخبائث ومن

2801 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ خَثِيمِ بْنِ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ، وَقَدْ اسْتُخْلِفَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي غِفَارٍ يُقَالُ لَهُ: سِبَاعُ بْنُ عَرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، فَصَلَّيْنَا مَعَهُ الْغَدَاةَ، فَفَرَّقَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سُورَةَ مَرْيَمَ، وَفِي الْأُخْرَى وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، وَكَانَ فِينَا رَجُلٌ يُطْفِفُ، فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنَ الصَّلَاةِ قُلْنَا: وَيْلٌ لِّفُلَانٍ، ثُمَّ أَتَيْنَاهُ، فَلَحِقْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ فَتَحَ خَيْبَرَ، فَاسْتَأْذَنَ النَّاسَ أَنْ يَقْسِمَ لَنَا مِنَ الْغَنَائِمِ، فَأَذِنُوا لَهُ، فَاقْسَمَ لَنَا

2802 - وَعَنْ رَوْحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ حَفْصٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَرِهَ أَنْ يَثْبِي الرَّجُلُ إِحْدَى رِجْلَيْهِ عَلَى الْأُخْرَى فِي الصَّلَاةِ

2803 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا قَطْنُ بْنُ نُسَيْرٍ اَبُو عَبَّادِ الدَّارِعُ قَالَ: نَا عَدِيُّ بْنُ اَبِي عَمَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ هَذِهِ

2802- أخرجه الطحاوی فی شرح المعانی جلد 4 صفحہ 277 .

2803- أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1 صفحہ 2 رقم الحديث: 6؛ وابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحہ 108 رقم

الحديث: 296؛ وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 451 رقم الحديث: 19308 . انظر: تلخيص الحبير جلد 1

صفحہ 115 رقم الحديث: 9 .

الشیطان الرجیم -

یہ حدیث قتادہ، حضرت انس سے اور قتادہ سے صرف عدی ہی روایت کرتے ہیں اور عدی سے صرف اکیسے قطن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب حق دیکھے تو اس کو حق کہنے سے لوگوں کا ڈر نہ روکے کیونکہ حق کہنے سے نہ موت قریب آتی ہے نہ رزق کم ہوتا ہے یا بڑے کا ذکر کرنے سے۔

یہ حدیث معلیٰ سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب سورج کو گرہن لگے تو اس کے ختم ہونے تک نماز پڑھو۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں اور ہشام سے اکیسے معاذ روایت کرتے ہیں۔

الْحُشُوشَ مُحْتَضِرَةً، فَإِذَا دَخَلَهَا أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ، وَمَنِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ إِلَّا عَدِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ قَطْنٌ

2804 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا قَطْنُ بْنُ نَسِيرٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سَلِيمَانَ الضَّبْعِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَلَّى بْنُ زِيَادٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْحَسَنُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَمَنَّ أَحَدُكُمْ رَهْبَةَ النَّاسِ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ إِذَا رَأَاهُ، أَوْ يَذَّكَّرَ بِعَظِيمٍ، فَإِنَّهُ لَا يَقْرَبُ مِنْ أَجْلِ، وَلَا يَبَاعِدُ مِنْ رِزْقٍ أَنْ يَقُولَ بِحَقِّ أَوْ يَذَّكَّرَ بِعَظِيمٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُعَلَّى إِلَّا جَعْفَرٌ

2805 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنِ النَّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا كُسِفَتِ الشَّمْسُ فَصَلُّوا كَأَذْنَى صَلَاةٍ صَلَّىتُمُوهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاذٌ

حضرت مغیرہ بن ابی بزرہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد (دنیوی) گفتگو کرنے سے۔

اس حدیث کو حضرت مغیرہ سے صرف حضرت خالد ہی روایت کرتے ہیں اس کے ساتھ عثمان اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عورتیں حضور ﷺ کے پاس آئیں اور عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ! مرد ہم سے فضیلت لے گئے جہاد کرنے کے ساتھ ہم کو ایسے عمل کے متعلق بتائیں جسے کرنے سے ہم جہاد کے ثواب کو پالیں؟ آپ نے فرمایا: تم میں سے جو عورت اپنے گھر میں رہ کر کوئی عمل کرے تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کا ثواب پالے گی۔

یہ حدیث ثابت سے صرف روح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے انس! اچھا وضو کر! تیری عمر میں اضافہ ہوگا میری امت سے جو آپ کو ملے اس کو سلام کر تیری نیکیاں زیادہ ہوں گی جب تو گھر داخل ہو تو سلام کرے تو تیرے گھر میں خیر زیادہ ہوگی بچوں پر رحم کرے

2806 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَارُوْحُ بَنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَالَ: نَاعُمَانُ بَنُ عُمَانَ الْعَطْفَانِيُّ قَالَ: نَاخَالِدُ الْحَدَّاءُ، عَنِ الْمُغِيْرَةِ بَنِ اَبِي بَرَزَةَ، عَنْ اَبِيهِ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَ الْعِشَاءِ الْاٰخِرَةِ، وَعَنِ الْحَدِيْثِ بَعْدَهَا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ الْمُغِيْرَةِ اِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَانُ

2807 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا نَصْرُ بَنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَارُوْحُ بَنُ الْمُسَيَّبِ اَبُو رَجَاءِ الْكَلْبِيُّ قَالَ: نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: اَتَيْنَ النِّسَاءَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْنَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، ذَهَبَ الرَّجَالُ بِالْفَضْلِ وَالْجِهَادِ، فَمُرْنَا بِعَمَلٍ نُدْرِكُ بِهِ فَضْلَ الْجِهَادِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، فَقَالَ: مِهْنَةٌ اِحْدَاكُنَّ فِي بَيْتِهَا تُدْرِكُ بِهِ عَمَلَ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثِ عَنِ ثَابِتِ الْاَرُوْحِ

2808 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ، اَنَا نَصْرُ بَنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَاعُوْبُدُ بَنُ اَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي اَبِي، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا اَنَسُ، اَحْسِنِ الْوُضُوْءَ يَزِدُّ فِي عُمْرِكَ، وَسَلِّمْ عَلٰى مَنْ لَقَيْتَ مِنْ اُمَّتِي تَكْتُمُ

2806- أخرجه البخارى: المواقيت جلد2 صفحہ 59 رقم الحديث: 568؛ ومسلم: المساجد جلد1 صفحہ 447 .

2808- أخرجه البيهقي في شعب الايمان جلد6 صفحہ 427 رقم الحديث: 8761-8766 . انظر: الدر المنثور جلد5

حَسَنَاتِكَ، وَإِذَا دَخَلْتَ مَنْزِلَكَ فَسَلِّمْ يَكْثُرَ خَيْرُ
بَيْتِكَ، وَارْحَمِ الصَّغِيرَ، وَوَقِّرِ الْكَبِيرَ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا ابْنُهُ
عُوبَدٌ

بڑوں کا احترام کر۔

یہ حدیث ابو عمران سے ان کے بیٹے عوبسب ہی
روایت کرتے ہیں۔

2809 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: اِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا وَهَيْبٌ، عَنْ ابْنِ طَاوُسٍ،
عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ
الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ، وَعَنِ الْجَلَالَةِ، وَرُكُوبِهَا، وَأَكْلِ
لَحْمِهَا وَنَهَى أَنْ تُتَّكَحَ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى
خَالَتِهَا

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد
ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت اور جلالہ (وہ جانور جو
مینگنیاں کھاتا ہو) سے اور اس پر سوار ہونے اور اس کا
گوشت کھانے سے منع کیا اور منع فرمایا عورت اور اس کی
پھوپھی یا اس کی خالہ کو ایک نکاح میں جمع کیا جائے۔

2810 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ قَالَ: افْتَخَرَ أَهْلُ الْإِبِلِ وَأَهْلُ الْغَنَمِ عِنْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْفَخْرُ وَالْخِيَلَاءُ فِي أَهْلِ
الْإِبِلِ، وَالسَّكِينَةُ وَالْوَقَارُ فِي أَهْلِ الْغَنَمِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا حَمَّادُ
بُنْ سَلَمَةَ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
اونٹوں اور بکریوں والوں نے رسول اللہ ﷺ کے ہاں
فخر کیا، حضور ﷺ نے فرمایا: فخر اور تکبر اونٹ والوں میں
ہے، سکون اور وقار بکریوں والوں میں ہے۔

یہ حدیث حجاج سے صرف حماد بن سلمہ ہی روایت
کرتے ہیں۔

2811 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ
الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ
قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ

حصرث نافع بن عبدحارث فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ مدینہ کے باغوں میں سے ایک باغ میں
داخل ہوئے، آپ کنواں کے اوپر بیٹھ گئے، حضرت ابو بکر

2810 - أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 118 رقم الحدیث: 11924 . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 68 .

2811 - أخرجه أحمد جلد 4 صفحہ 408 . انظر: مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ 59 .

آئے اجازت مانگنے لگے آپ نے فرمایا: اس کو اجازت دے دو اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو! پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ آئے اجازت مانگنے لگے آپ نے فرمایا: اس کو اجازت دے دو اور خوشخبری دے دو اور جنت کی خوشخبری دو! پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اجازت مانگی تو آپ نے فرمایا: اس کو اجازت دے اور جنت کی خوشخبری دے اور آزمائش کے ساتھ۔

یہ حدیث موسیٰ سے صرف عبدالعزیز ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی تو آپ تکبیر کہتے تھے جب سر نیچے کرتے اور سر کو اٹھاتے، سو میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے فرمایا: ابوالقاسم رضی اللہ عنہما کی یہی سنت ہے۔

اس حدیث کو عبداللہ الداناج سے صرف عبدالعزیز بن مختار ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل کے سامنے ہوئے آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کا ہاتھ پکڑا، حضرت جبریل نے پکڑنے سے انکار کر دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی مانگا وضو کے لیے پھر اپنا ہاتھ حضرت جبریل علیہ السلام کے ہاتھ میں دیا تو حضرت

عَبْدِ الرَّحْمَنِ يُحَدِّثُ، وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْحَارِثِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ حَائِطًا مِنْ حَوَائِطِ الْمَدِينَةِ، فَجَلَسَ عَلَى فُفِّ الْبَيْرِ، فَجَاءَ أَبُو بَكْرٍ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ ثُمَّ جَاءَ عُمَرُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ، ثُمَّ دَخَلَ عُثْمَانُ يَسْتَأْذِنُ، فَقَالَ: ائْذَنْ لَهُ، وَبَشِّرْهُ بِالْجَنَّةِ مَعَ بَلَاءٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ

2812 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ الدَّانَاجُ قَالَ: حَدَّثَنِي عِكْرَمَةُ قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ أَبِي هُرَيْرَةَ، فَكَانَ يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ وَإِذَا رَفَعَ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ: إِنَّهُ سُنَّةُ أَبِي الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الدَّانَاجِ إِلَّا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُخْتَارِ

2813 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانُ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَقْبَلَ جَبْرِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَنَآوَلَهُ يَدَهُ، فَأَبَى أَنْ يَتَنَاوَلَهَا، فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَاءٍ

2812- أخرجه البخارى: الأذان جلد2 صفحہ 317 رقم الحديث: 788، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 380 رقم

فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ نَاوَلَهُ يَدَهُ، فَتَنَاوَلَهَا، فَقَالَ: يَا جَبْرِيلُ! مَا مَنَعَكَ أَنْ لَا تَأْخُذَ بِيَدِي؟ قَالَ: إِنَّكَ أَخَذْتَ بِيَدِ يَهُودِيٍّ، فَكَرِهْتُ أَنْ تَمَسَّ يَدِي يَدًا مَسَّتْهَا يَدُ كَافِرٍ

جبریل نے پکڑا، آپ نے فرمایا: اے جبریل! آپ کو میرا ہاتھ پکڑنے سے کیا رکاوٹ تھی؟ حضرت جبریل نے عرض کی: آپ نے اپنے ہاتھ سے یہودی کا ہاتھ پکڑا تھا، میں ناپسند کرتا ہوں اس ہاتھ کو چھونا جس ہاتھ کو کافر کے ہاتھ نے چھوا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَمْرُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ

یہ حدیث ہشام سے عمر روایت کرتے ہیں اور عمر سے اکیلے سعید روایت کرتے ہیں۔

2814 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي الرَّبِيعِ قَالَ: نَا صَالِحُ الْمُرِّي، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، وَمَيْمُونِ بْنِ سِيَاهٍ، وَجَعْفَرِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ اَنَسِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللّٰهِ، فَاَيُّكُمْ اَنْ يَطْلُبَكُمْ اللّٰهُ بِشَيْءٍ مِنْ ذِمَّتِهِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا فرماتے ہوئے: جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمہ میں ہے، تم ڈرو کہ اللہ عزوجل تم سے اپنے ذمہ کا مطالبہ نہ کرے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ الْاِسْعِدِيِّ

صالح سے یہ حدیث صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

2815 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ يَحْيَى اَبُو مَالِكٍ قَالَ: نَا اَبُو عَوَانَةَ، عَنْ اَبِي بَلْجٍ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مَيْمُونٍ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ: لَا بَعَثَنَّا رَجُلًا لَا يُخْزِيهِ اللّٰهُ، فَبَعَثْتُ اِلَيْ عَمِيٍّ وَهُوَ فِي الرَّحَى يَطْحَنُ، وَمَا كَانَ اَحَدٌ كُمْ يَطْحَنُ، فَجَاءُوا بِه اَرْمَدًا، فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، مَا اَكَادُ اَبْصُرُ، فَنَفَثَ فِي عَيْنَيْهِ، وَهَزَّ الرَّايَةَ ثَلَاثَ مَرَارٍ، ثُمَّ دَفَعَهَا اِلَيْهِ، فَفُتِحَ لَهُ، فَجَاءَ بِصَفِيَّةَ بِنْتِ حَبِيٍّ، ثُمَّ قَالَ لِبَنِي عَمِّهِ: اَيُّكُمْ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خیبر کے دن فرمایا: میں ضرور ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جس کو اللہ عزوجل نامراد نہیں بھیجے گا، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف کسی کو بھیجا، آپ رضی اللہ عنہ چکی چلا رہے تھے آپ آئے تو آپ کی آنکھوں میں درد تھی، عرض کی: یا نبی اللہ! میری آنکھ ٹھیک نہیں ہے، آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں دم کیا اور تین مرتبہ جھنڈے کو ہلایا پھر آپ نے جھنڈا حضرت علی کو دیا، اللہ عزوجل نے آپ کو فتح دی۔

يَتَوَلَّانِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ فَقَالَ لِكُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ: يَا فُلَانُ، اَتَتَوَلَّانِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ؟ ، ثَلَاثًا؟ فَيَقُولُ: لَا. حَتَّى مَرَّ عَلَيَّ آخِرِهِمْ، فَقَالَ عَلِيُّ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، أَنَا وَلَيْكَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَلِيِّي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ قَالَ: وَبَعَثَ أَبَا بَكْرٍ بِسُورَةِ التَّوْبَةِ، وَبَعَثَ عَلِيًّا عَلَيَّ أَثَرِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا عَلِيُّ، لَعَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ سَخِطَا عَلَيَّ، فَقَالَ عَلِيُّ: لَا، وَلَكِنْ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْبَغِي أَنْ يُبَلِّغَ عَنِّي إِلَّا رَجُلٌ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُ قَالَ: وَوَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوْبَهُ عَلَيَّ وَعَلِيَّ وَفَاطِمَةَ وَالْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ، ثُمَّ قَالَ: (إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا) (الاحزاب: 33) وَكَانَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ بَعْدَ خَدِيجَةَ مِنَ النَّاسِ قَالَ: وَسَرَى عَلِيُّ بِنَفْسِهِ، لَبَسَ ثَوْبَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ نَامَ عَلَيَّ مَكَانِهِ قَالَ: وَكَانَ الْمُشْرِكُونَ يَرْمُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

پس آپ حضرت صفیہ بنت حبیب رضی اللہ عنہا کو لے کر آئے پھر آپ نے اپنے چچا زاد بھائیوں سے کہا کہ تم میں کون مجھے دنیا و آخرت میں دوست بنائے گا؟ ان میں سے ہر ایک آدمی کو فرمایا: اے فلان! کیا تو مجھے دنیا و آخرت میں دوست بنائے گا؟ تین مرتبہ فرمایا اس نے عرض کی: نہیں! یہاں تک کہ آخری سے کہا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! میں آپ کو دنیا و آخرت میں دوست رکھتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تو میرا دوست ہے دنیا و آخرت میں۔ آپ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سورہ توبہ میں نازل ہونے والے حکم بیان کرنے کے لیے بھیجا۔ ان کے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ حضرت ابو بکر نے عرض کی: اے علی! ہو سکتا ہے اللہ اور اس کے رسول مجھ سے ناراض ہوں؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: نہیں! لیکن حضور ﷺ نے فرمایا: میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ میرا پیغام وہی آدمی پہنچائے جو مجھ سے ہو اور میں اس سے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنا کپڑا حضرت علی و فاطمہ و حسن و حسین رضی اللہ عنہم پر رکھا پھر فرمایا: اللہ عزوجل! میں ارادہ کرتا ہوں کہ تم ان سے پلیدی لے جاؤ اے اہل بیت! تم کو خوب پاک کر دے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد تمام صحابہ سے پہلے اسلام لائے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خوش ہوئے تھے جب ہجرت کے وقت حضور

ﷺ کا کپڑا لے کر آپ کے بستر پر سو گئے تھے، مشرکین حضور ﷺ کا پیچھا کرتے تھے۔

حضرت ابو عمران محمد بن عبد اللہ بن عبد الرحمن اپنے والد ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں ان کے دادا کو صحابی ہونے کا شرف حاصل ہے وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک گروہ کو دیکھا کہ وہ آ رہا ہے آپ نے فرمایا: تمہارے پاس قبیلہ ازد کے لوگ آئے ہیں، جو لوگوں میں زیادہ خوبصورت ہیں چہرے کے لحاظ سے اور منہ کے بیٹھے ہیں، ملاقات کرنے میں زیادہ سچے ہیں، آپ نے کعبہ کی طرف دیکھا کہ وہ بھی آ رہا ہے آپ نے فرمایا: یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی: بکر بن وائل ہیں، حضور ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! ان کے کمزور کو پورا مال عطا فرما اور ان کے دھتکارے ہوئے کو پناہ دے اور ان میں سے کوئی گداگر نہ ہو۔

یہ حدیث عبد الرحمن بن عبد اللہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں شاذ کوئی اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگوں سے محبت کا اظہار کرتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جن کو پسند کرتے ہیں، جو اللہ سے مقابلہ کرتے ہیں ایسی چیزوں کے ساتھ جن کو ناپسند کرتے ہیں تو اللہ عزوجل سے ملے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔

2816 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بِنُ

دَاوُدَ الشَّاذْ كُونِي، اَنَا مُحَمَّدُ بِنُ حُمْرَانَ قَالَ: نَا اَبُو عِمْرَانَ مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللّٰهِ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: نَظَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَى عِصَابَةٍ قَدْ اَقْبَلَتْ، فَقَالَ: اَتَّكُمُ الْاَزْدُ اَحْسَنُ النَّاسِ وُجُوْهًا، وَاَعْدَبُهُ اَفْوَاهًا، وَاَصْدَقُهُ لِقَاءً وَنَظَرَ اِلَى كَبْكَبَةٍ قَدْ اَقْبَلَتْ، فَقَالَ: مَنْ هَذِهِ؟ قَالُوْا: هَذِهِ بَكْرُ بِنُ وَاِئِلٍ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللّٰهُمَّ اجْبِرْ كَسِيْرَهُمْ وَاَوْطِرِيْدَهُمْ، وَلَا تُرِنِي مِنْهُمْ سَائِلًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ عَبْدِ اللّٰهِ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الشَّاذْ كُونِي

2817 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بِنُ

دَاوُدَ الشَّاذْ كُونِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ بِنِ مَسْمُوْلِ الْمَخْزُوْمِي قَالَ: نَا مُطِيْعُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَحَبَّبَ اِلَى النَّاسِ بِمَا يُحِبُّوْنَ، وَبَارَزَ اللّٰهُ بِمَا يَكْرَهُوْنَ، لَقِيَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضَبَانُ

یہ حدیث اسی سند سے روایت کی گئی ہے اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: غیر معروف نسب کا دعویٰ کرنا اللہ کا انکار کرنا ہے، نسب سے بری ہونا اگرچہ تھوڑا ہی ہو تب بھی اللہ کا انکار کرنا ہے۔

یہ حدیث بیان سے صرف سری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سانپ کو مارنے کے لیے ایک ضرب ہی کافی ہے، چاہے وہ لگ جائے یا غلط ہو۔

یہ حدیث عثمان سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں شاذ کونی اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کے پاس موجود تھے آپ نے فرمایا: جمعہ کے دن غسل واجب ہے ہر بالغ پر اور مسواک کرنا اور خوشبو لگانا۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

2818 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِيَّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ قَالَ: نَا السَّرِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بِيَانٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُفْرٌ بِاللَّهِ: إِدْعَاءُ نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وَكُفْرٌ بِاللَّهِ: تَبَرُّؤُ مِنْ نَسَبٍ وَإِنْ دَقَّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ بِيَانٍ إِلَّا السَّرِيُّ

2819 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِيَّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي قُدَيْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُثْمَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَكْفِيكُمْ مِنَ الْحَيَّةِ ضَرْبَةٌ بِسَوْطٍ، أَصَبْتُمُوهَا أَوْ خَطَأْتُمُوهَا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُثْمَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الشَّاذْكَوْنِيَّ

2820 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِيَّ قَالَ: نَا حَرَمِيُّ بْنُ عَمَارَةَ، أَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ الْمُنْكَدِرِ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّهُ شَهِدَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يُسْتَنَّ، وَأَنْ يَمَسَّ طِيْبًا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَرِمِيُّ بْنُ
عُمَارَةَ

شعبہ سے حدیث صرف حریمی بن عمارہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے رمضان میں پچھنا لگوا یا۔

یہ حدیث اعمش سے صرف یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی کھڑے پانی میں پیشاب نہ کرے۔

یہ حدیث ابن ابی فروہ سے صرف عبدالسلام ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بہت زیادہ نبیذ اور چھونے سے منع کیا۔

2821 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِي قَالَ: نَا يُوْسُفُ بْنُ خَالِدِ السَّمِيْتِي، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ اَنْسِ بْنِ مَالِكٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْتَجَمَ فِي رَمَضَانَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَعْمَشِ اِلَّا يُوْسُفُ

2822 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِي قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ اسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ اَبِي فَرْوَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبُولَنَّ فِي الْمَاءِ النَّاقِعِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ اَبِي فَرْوَةَ اِلَّا عَبْدُ السَّلَامِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ

2823 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِي قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ: نَا اَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَيْرِيْنٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2822- أخرجه ابن ماجه: الطهارة جلد 1 صفحہ 124 رقم الحديث: 345 .

2823- أخرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحہ 420 رقم الحديث: 2145، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 610 رقم

الحديث: 9995 .

عَنِ النَّبَاذِ وَاللَّمَّاسِ

یہ حدیث ایوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ

حضرت مسور بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی اس حالت میں نماز نہ پڑھے کہ جب بول و براز کی حاجت ہو۔

2824 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنُ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَأْقِدِيُّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَخِي الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُكُمْ وَهُوَ يَجِدُ مِنَ الْأَذَى شَيْئًا يَعْنِي الْغَائِطَ وَالْبَوْلَ

یہ حدیث زہری سے صرف ان کے بھائی کے بیٹے اور ان سے صرف واقدی ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا ابْنُ أَخِيهِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَأْقِدِيُّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ سے شکایت کی حافظہ کے کمزور ہونے کی آپ نے فرمایا: اپنے دائیں ہاتھ سے مدد طلب کی۔

2825 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ ابْنِ أَخِي، حَزْمِ الْقُطَيْبِيِّ قَالَ: نَا الْخَصِيبُ بْنُ جَحْدَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ جَحْدَرٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ابْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: شَكِيَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُوءَ الْحِفْظِ، فَقَالَ: اسْتَعِنْ بِيَمِينِكَ

یہ حدیث عبید اللہ بن ابی بکر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں اسماعیل اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت

2826 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ

2824- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 20 صفحہ 20-22 .

2826- أخرجه البخاری: الهبة جلد 5 صفحہ 260 رقم الحديث: 2595، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 196 رقم

الحديث: 25476 .

عائشہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے دو پڑوسی ہیں میں ان میں سے کس کو پہلے دوں؟ آپ نے فرمایا: جو تیرے دروازے کے زیادہ قریب ہے۔

بُن سَيْفٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ، ابْنُ أَحْيَى حَزْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي جَارَيْنِ، فَبَايَهُمَا أَبَدًا؟ فَقَالَ: بِأَقْرَبِهِمَا مِنْكَ بَابًا

یہ حدیث، عبید اللہ سے ان کے بھائی کے بیٹے حزم روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسماعیل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا ابْنُ أَحْيَى حَزْمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو حکم دیا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو یہ دعا پڑھ لیا کر: ”اللهم انى وجهت وجهى اليك الى آخره“۔

2827 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ، أَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ، وَحَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ رَجُلًا إِذَا أَخَذَ مَضْجَعَهُ أَنْ يَقُولَ: اللَّهُمَّ وَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنْجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُخْتَارِ وَحَبِيبِ إِلَّا حَمَّادُ

یہ حدیث عبد اللہ بن مختار اور حبیب سے صرف حماد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے تین جمعہ بغیر عذر کے چھوڑنے اللہ عزوجل اس کے دل پر مہر لگا دے گا۔

2828 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْأَزْرُقِيُّ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

2827- أخرجه البخارى: التوحيد جلد13 صفحہ 471 رقم الحديث: 7488، ومسلم: الذكر جلد4 صفحہ 2082 .

2828- أخرجه ابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحہ 357 رقم الحديث: 1126، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 407 رقم

الحديث: 14571 . انظر: تلخيص الحبير جلد2 صفحہ 56 .

یہ حدیث محمد بن عمرو ابوسلمہ سے وہ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور محمد بن عمرو سے صرف ابو معشر روایت کرتے ہیں، ابو معشر سے اکیلے حسان ہی روایت کرتے ہیں۔ لوگوں نے محمد بن عمرو سے روایت کیا ہے، وہ عبیدہ بن سفیان سے، وہ ابوالجعد الضمری روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے رات کی دو نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے وقت حج کا احرام باندھا۔

یہ حدیث قتادہ سے ہشام اور ہشام سے معاذ روایت کرتے ہیں اپنی کتاب میں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ان ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے جہنم کی آگ سے جو وضو کے وقت خشک رہ جاتی ہیں۔

یہ حدیث عمرو سے صرف ابو عبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین دوا جو تم استعمال کرتے ہو وہ پچھنا اور

تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعَاتٍ مِنْ غَيْرِ عُدْرِ طَبَعٍ عَلَى قَلْبِهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا أَبُو مَعْشَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ حَسَّانُ وَرَوَاهُ النَّاسُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ سَفْيَانَ عَنْ أَبِي الْجَعْدِ الضَّمْرِيِّ

2829 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَرَعْرَةَ قَالَ: دَفَعَ إِلَيْنَا مَعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، كِتَابًا، وَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ أَبِي فَكَانَ فِيهِ: عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمَ فِي حَجَّتِهِ فِي إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا مَعَاذُ فِي كِتَابِهِ

2830 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ الْخَيَّاطُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ وَاصِلِ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي كَرِبٍ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَيْلٌ لِلْعَرَاقِبِ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ

2831 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أُمِيَّةُ بْنُ بَسْطَامٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءِ الْخَفَّافِ، عَنْ

قسط بجزی ہے۔ (قسط سے مراد ہندوستان میں پیدا ہونے والی وہ لکڑی ہے جو بطور دوا استعمال کی جاتی ہے اور بجزی کا معنی سمندری ہے)

یہ حدیث قنابہ سے سعید ہی روایت کرتے ہیں اور سعید سے عبد الوہاب اکیلے روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے معراج کی رات آسمان دنیا پر لے جایا گیا، اس میں کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنی زبانیں اور ہونٹ کاٹ رہے تھے آگ کی قینچیوں سے میں نے کہا: اے جبریل! یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی: یہ آپ کی امت کے خطیب حضرات ہیں۔

یہ حضرت مغیرہ سے صرف ہشام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس تھی آپ نے فرمایا: اے عائشہ! اگر ہمارے پاس کوئی ہوتا ہم اس کو وہ بات بیان کرتے، میں نے عرض کی: کیا ہم حضرت ابوبکر کی طرف کسی کو بھیجیں؟ آپ خاموش رہے پھر فرمایا: اے عائشہ! اگر ہمارے پاس کوئی ہوتا ہم اس کو بات بیان کریں! میں نے عرض کی: کیا ہم عمر کی طرف کسی کو بھیجیں؟ آپ نے کچھ دیر مجھ سے گفتگو نہ کی آپ نے دعا کی تو دیکھا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اجازت مانگ رہے تھے آپ نے اجازت

سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ مَا تَدَاوَيْتُمْ بِهِ الْحِجَامَةُ وَالْقُسْطُ الْبَحْرِيُّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ

2832 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

الْمِنْهَالِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ هِشَامِ الْمَدَسُوَائِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ، خَتْنِ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آتَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرَى بِي عَلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَإِذَا فِيهَا رِجَالٌ تَقْرَأُ السُّنَنُومَ وَشَفَاهُهُمْ بِمَقَارِئِضٍ مِنْ نَارٍ، فَقُلْتُ: يَا جَبْرِيلُ، مَنْ هَؤُلَاءِ؟ فَقَالَ: هَؤُلَاءِ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمُغِيرَةِ خَتْنِ مَالِكِ إِلَّا هِشَامٌ

2833 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ زِيَادٍ

سَبْلَانَ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا أَحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَمَّتْهَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَفَلَا نَبْعَثُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَائِشَةُ، لَوْ كَانَ عِنْدَنَا أَحَدٌ يُحَدِّثُنَا فَاغْتَمَّتْهَا مِنْهُ، فَقُلْتُ: أَلَا نَبْعَثُ إِلَى عُمَرَ؟ فَسَكَتَ عَنِّي، وَدَعَا

دی آپ رسول اللہ ﷺ کے قریب ہوئے رسول اللہ ﷺ ان کے قریب ہوئے دونوں آہستہ آہستہ گفتگو کرنے لگے اللہ کی قسم! میں نہیں جانتی کہ دونوں نے کیا گفتگو کی جب آپ نے سر اٹھایا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ چلے حضور ﷺ نے پکارا: اے عثمان! یقیناً اللہ آپ کو خلافت عطا کرے گا جب منافقین اس کو اتروانے کی کوشش کریں تو اس خلعت کو مت اتارنا تین مرتبہ فرمایا۔ میں نے عرض کی: اے ام المؤمنین! آپ کہاں تھیں اس حدیث کے ظہور کے وقت؟ آپ نے فرمایا: رب کعبہ کی قسم! میں بھول گئی تھی یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا گیا۔

یہ حدیث زہری سے صرف زبیدی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کو اکیلے فرج روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنی سواری پر نفل اور وتر پڑھتے تھے جس طرف بھی اس کا منہ ہوتا خواہ اس کا منہ مشرق اور مغرب کی طرف ہوتا تھا۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف فضل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے تین چیزیں

وَصَيَّفًا لَهُ، فَسَارَهُ، فَإِذَا عُثْمَانُ يَسْتَاذِنُ، فَأَذِنَ لَهُ، فَآكَبَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَآكَبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَجَعَلَ يَتَسَارَانِ، وَاللَّهِ مَا أَدْرَى مَا يَقُولَانِ، فَلَمَّا رَفَعَ رَأْسَهُ وَلَّى، فَنَادَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا عُثْمَانُ، عَسَى أَنْ يُقَمِّصَكَ اللَّهُ قَمِيصًا، فَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ عَلَى خَلْعِهِ فَلَا تَخْلَعُهُ، ثَلَاثَ مَرَارٍ، فَقُلْتُ لَهَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، أَيْنَ كُنْتِ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ؟ فَقَالَتْ: نَسِيتهُ وَرَبِّ الْكُفْبَةِ، حَتَّى قُتِلَ الرَّجُلُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الزُّبَيْدِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ فَرَجٌ

2834 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ سَيَّارٍ الْمَرْزِيُّ قَالَ: نَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى السَّيْنَانِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ أَيْنَمَا تَوَجَّهَتْ بِهِ شَرْقًا وَعَرْبًا، وَيُوتِرُ عَلَيْهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الْفَضْلُ

2835 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانٍ قَالَ: نَا سَلْمُ بْنُ قَتَيْبَةَ قَالَ: نَا

2834- أخرجه البخاری: التفسير جلد 2 صفحہ 669 رقم الحدیث: 1098، ومسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 487.

2835- أخرجه الطبرانی فی الکبیر جلد 20 صفحہ 224 رقم الحدیث: 522. انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 162.

تمہارے لیے ناپسند کی ہیں: قیل وقال کرنا اور زیادہ سوال کرنا مال ضائع کرنا۔

عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَسْرِيِّ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ، وَاضَاعَةَ الْمَالِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ قُتَيْبَةَ

یہ حدیث قتادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں عمران سے روایت کرنے میں ابن قتیبہ اکیلے ہیں۔

2836 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُوسَى قَالَ:

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے انسان کے لیے نانوے بیماریاں پیدا کی ہیں اگر ان سے بچ جائے گا تو بڑھاپا آئے گا یہاں تک کہ موت آجائے گی۔

نَا سَلْمُ بْنُ قُتَيْبَةَ، عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرَفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خُلِقَ ابْنُ آدَمَ إِلَى جَنْبِهِ تِسْعَةٌ وَتَسْعُونَ مِئْتَةً، إِنْ أَخْطَأَهُ مَنَابَاهُ دُفِعَ فِي الْهَرَمِ حَتَّى يَمُوتَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلْمٌ

یہ حدیث قتادہ سے صرف عمران ہی روایت کرتے ہیں اور عمران سے مسلم اکیلے روایت کرنے والے ہیں۔

2837 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ

حضرت عرفہ بن حارث رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ ﷺ کے ساتھ موجود تھا آپ اونٹ پر سوار تھے آپ نے فرمایا: میرے پاس ابوالحسن کو بلاؤ! حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بلا یا گیا آپ نے فرمایا: نیچے سے پکڑو رسول اللہ ﷺ نے اوپر سے پکڑا جب فارغ ہوئے تو آپ خنجر پر سوار ہوئے اور اپنے پیچھے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو سوار کر لیا۔

مُحَمَّدِ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَرْمَلَةَ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ الْأَزْدِيِّ، عَنْ عَرْفَةَ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ: شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَاتَى بِالْبُذْنِ، فَقَالَ: ادْعُوا لِي أَبَا الْحَسَنِ فَدَعَا عَلِيًّا فَقَالَ: خُذْ بِاسْفَلِ الْحَرْبَةِ وَأَخْذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَعْلَاهَا، فَلَمَّا فَرَغَ رَكَبَ الْبُعْلَةَ وَارْدَفَ عَلِيًّا

2836 - أخرجه الترمذی: القدر جلد 4 صفحہ 455 رقم الحدیث: 2150، وأبو نعیم فی الحلیة جلد 2 صفحہ 211 .

2837 - أخرجه أبو داؤد: المناسک جلد 2 صفحہ 153-154 رقم الحدیث: 1766، والطبرانی فی الکبیر جلد 18

صفحہ 261-262 رقم الحدیث: 655 .

یہ حدیث غزفہ سے اسی سند سے روایت ہے، غزفہ سے روایت کرنے میں عبدالرحمن بن مہدی اکیلے ہیں۔
حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے یا ایسے حکم کو رد کر دے جس کا میں نے حکم دیا تو اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔

یہ حدیث ابوبکیر حضرت ابو بکر سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں، ابوبکیر سے روایت کرنے میں عمرو بن مالک اکیلے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس امت کی نجات کس میں ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ کلمہ جو میں نے اپنے چچا پر پیش کیا تھا اور اس نے پڑھنے سے انکار کیا، وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف عمر بن سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عامر بن ربیعہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ طواف کر

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ غَرْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ

2838 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الرَّاسِبِيِّ قَالَ: نَا جَارِيَةُ بِنْتُ هَرِيمِ الْفُقَيْمِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرِ الْحُبْرَانِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا كَبْشَةَ الْأَنْمَارِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا، أَوْ رَدَّ عَلَيَّ شَيْئًا أَمَرْتُ بِهِ، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ مَالِكِ

2839 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ خَلْفٍ قَالَ: نَا فَضِيلُ بْنُ سَلِيمَانَ النَّمِرِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَرْحَةَ التَّنُوخِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فِيمَا نَجَاةُ هَذِهِ الْأُمَّةِ؟ فَقَالَ: فِي الْكَلِمَةِ الَّتِي أَرَدْتُ عَلَيْهَا عَمِّي، فَأَبَاهَا: شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ سَعِيدٍ

2840 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ عَمْرُو بْنُ مَالِكِ الرَّاسِبِيِّ: أَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا

رہے تھے اچانک آپ کی نعلین کا تمہ ٹوٹ گیا پھر ایک آدمی نے اپنی نعلین کا تمہ پکڑا آپ نے پکڑنے سے انکار کر دیا اور فرمایا: یہ ترجیح ہے میں ترجیح کو قبول نہیں کرتا ہوں۔

عُمَرُ، مَوْلَى آلِ مَنْظُورِ بْنِ سَيَّارٍ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعَمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، إِذْ انْقَطَعَ شِسْعُهُ، فَحَلَّ رَجُلٌ شِسْعًا مِنْ نَعْلِهِ، ثُمَّ نَاوَلَهُ آيَاهُ، فَأَبَى أَنْ يَأْخُذَهُ، وَقَالَ: هَذِهِ آثَرَةٌ، وَلَا أَقْبَلُ آثَرَةَ

یہ حدیث عاصم سے عمر مولیٰ آل سیار روایت کرتے ہیں، عمر سے عمر بن علی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ إِلَّا عُمَرُ مَوْلَى آلِ سَيَّارٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سفر کا ارادہ کرتے تو آپ جمعرات کو نکلتے تھے۔

2841 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَلَاثَةَ قَالَ: نَا وَاصِلٌ، مَوْلَى أَبِي عُيَيْنَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا خَرَجَ يَوْمَ الْخَمِيسِ

یہ حدیث واصل سے ابن علاشہ روایت کرتے ہیں ابن علاشہ سے روایت کرنے میں عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ وَاصِلٍ إِلَّا ابْنُ عَلَاثَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی ایک سفر کا ارادہ کرے تو اُس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بھائیوں کو سلام کرے کیونکہ جب ان کی دعا اس کی دعا کے ساتھ مل جائے گی تو بھلائی بڑھ جائے گی۔

2842 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْعَلَاءِ الرَّازِيُّ الْبَجَلِيُّ قَالَ: نَا سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَرَادَ أَحَدٌ مِنْكُمْ سَفَرًا فَلْيَسَلِمْ عَلَى إِخْوَانِهِ، فَإِنَّهُمْ يَزِيدُونَهُ بِدُعَائِهِمْ إِلَى دُعَائِهِ خَيْرًا

اس حدیث کو سہیل سے صرف بیجا روایت کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ عمرو منفرد ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُهَيْلٍ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اسلام کنجوسی و لالچ کے مٹانے کی طرح کسی شی کو نہیں مٹاتا ہے۔

اس حدیث کو حضرت ثابت سے صرف علی بن ابی سارہ روایت کرتے ہیں اس حدیث کے ساتھ عمرو بن حصین منفرد ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کسی گناہ کی وجہ سے اہل سنت و جماعت کے کسی فرد پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ اگرچہ وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، ہر امام کے پیچھے نماز پڑھ لو اور ہر کمانڈر کے ساتھ مل کر جہاد میں شریک رہو۔

یہ حدیث علی بن زید سے صرف علی بن ابی سارہ روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ حضرت عمرو بن حصین اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ گویا میں رسول کریم ﷺ کے دونوں رخساروں کی سفیدی کو دیکھ رہا ہوں جب آپ دائیں اسلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے اور بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ فرماتے۔

2843 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بِنُ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بِنُ اَبِي سَارَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَحَقَ الْاِسْلَامُ شَيْئًا مَّحَقَ الشُّحَّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ ثَابِتٍ اِلَّا عَلِيُّ بِنُ اَبِي سَارَةَ. تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بِنُ الْحُصَيْنِ

2844 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا عَمْرُو بِنُ الْحُصَيْنِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بِنُ اَبِي سَارَةَ قَالَ: نَا عَلِيُّ بِنُ زَيْدٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَا تُكْفَرُوْا اَحَدًا مِنْ اَهْلِ قِبْلَتِكُمْ بِذَنْبٍ وَّ اِنْ عَمِلُوْا بِالْكَبَائِرِ وَصَلُّوْا مَعَ كُلِّ اِمَامٍ، وَجَاهَدُوْا مَعَ كُلِّ اِمِيْرٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عَلِيٍّ بِنُ زَيْدٍ اِلَّا عَلِيُّ بِنُ اَبِي سَارَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بِنُ الْحُصَيْنِ

2845 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا سَعِيْدُ بِنُ اَبِي الرَّبِيْعِ السَّمَّانِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ الْوَلِيْدِ بِنِ سَعْدَانَ قَالَ: نَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، وَاَبِي وَاثِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ قَالَ: كَاتِبِيْ اَنْظُرْ اِلَى بِيَاضِ حَدْيِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَلِّمُ عَنْ يَمِيْنِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ

وَرَحْمَةُ اللَّهِ، وَعَنْ يَسَارِهِ: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ

2846 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ، اَنَا سَعِيدُ بْنُ اَبِي الرَّبِيعِ، اَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ قَالَ: نَا عَاصِمُ ابْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ فِي الْوُتْرِ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَاصِمِ إِلَّا عَبْدُ الْمَلِكِ

2847 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبَنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ سَاجِدًا بِمَكَّةَ، فَجَاءَ اِبْلِيسُ فَأَرَادَ أَنْ يَطَّأَ عَلَى عُنُقِهِ فَنَفَحَهُ جِبْرِيلُ نَفْحَةً بِجَنَاحِهِ، فَمَا اسْتَوَتْ قَدَمَاهُ عَلَى الْأَرْضِ حَتَّى بَلَغَ الْأَرْضَ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ ثَابِتِ إِلَّا عُثْمَانُ بْنُ مَطَرٍ

2848 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودِ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا اُمُّ عُمَرَ بِنْتُ حَسَّانَ بْنِ زَيْدِ بْنِ اَبِي الْفُضَيْنِ، قَالَتْ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ بْنِ عَيْسَى، عَنْ اَبِيهِ، أَنَّ حَفْصَةَ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ إِذَا اعْتَلَّتْ قَدَمَتَا اَبَا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ وتر میں سبح اسم ربك الاعلیٰ، قل یا ایہا الکافرون اور قل هو اللہ احد تلاوت فرمایا کرتے تھے۔

یہ حدیث حضرت عاصم سے صرف عبدالملک ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم ﷺ مکہ میں سجدہ کی حالت میں تھے پس ابلیس لعین نے آکر آپ کی گردن مبارک کو روندنا چاہا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کے ساتھ ہوا سے اس کو ڈور کر دیا۔ اس کے پاؤں زمین پر نہ ٹک سکے یہاں تک کہ وہ اُردوں میں جا پڑا۔

اس حدیث کو حضرت ثابت سے صرف عثمان بن مطر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعید بن یحییٰ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت اُم المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب آپ بیمار ہوئے تو حضرت ابو بکر کو امامت کے لیے آگے کیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: میں نے نہیں ان کو اللہ نے آگے کیا۔

بَكَرٍ؟ فَقَالَ: لَسْتُ اَنَا الَّذِي قَدَّمْتُهُ، وَلَكِنَّ اللَّهَ
الَّذِي قَدَّمْتُهُ

یہ حدیث یحییٰ بن قیس سے صرف اسی سند سے
روایت ہے اس حدیث کے ساتھ صلح مفرد ہیں۔

حضرت بشیر ابن خصاصیہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور
جنت البقیع میں آپ سے جا ملا پس میں نے سنا آپ فرما
رہے تھے: السلام علی اهل الدیار من المؤمنین!
پس میرے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا، آپ نے مجھ سے
فرمایا: اپنے جوتے کو تسمہ ڈالو۔ میں نے عرض کی: اے اللہ
کے رسول! میرا سفر لمبا ہے، میں اپنی قوم کے گھروں سے
دور ہوں۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: اے بشیر! کیا تو اس
بات پر اللہ کا شکر نہیں کرتا کہ اس نے نبور بیعہ سے تجھے
اسلام لانے کی توفیق دی۔ وہ ایسی قوم ہے جو خیال کرتی
ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو شاید زمین پر کوئی نہ ہوتا۔

اس حدیث کو ابواسحاق سے ان کے بیٹے اسحاق
روایت کرتے ہیں، اس کے ساتھ عقبہ اکیلے ہیں یہ حدیث
بشیر سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: جو شنیہ المرار پر چڑھے گا اس کے گناہ اس طرح
معاف ہوں گے جس طرح بنی اسرائیل کے معاف
ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: سب سے
پہلے جو چڑھا وہ ہمارا دوست بنی خزرج کا تھا، پھر لوگ مکمل
ہو گئے، حضور ﷺ نے فرمایا: سارے بخشے گئے ہیں مگر

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ قَيْسٍ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الصَّلْتُ

2849 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ
مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا عُقْبَةَ بْنَ الْمُغِيرَةَ
الشَّيْبَانِيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي اسْحَاقُ بْنُ أَبِي اسْحَاقِ
الشَّيْبَانِيَّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْخَصَاصِيَّةِ قَالَ:
اتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلِحِقَّتُهُ
بِالْبَيْعِ فَمَسَعَتْهُ يَقُولُ: السَّلَامُ عَلَى أَهْلِ الدِّيَارِ مِنَ
الْمُؤْمِنِينَ، فَاَنْقَطَعَ شِسْعِي، فَقَالَ لِي: اَنْعَشْ قَدَمَكَ
، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، طَالَتْ عَزُوبَتِي، وَنَايْتُ عَنْ
دَارِ قَوْمِي، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ، اَلَا تَحْمَدُ اللَّهَ الَّذِي
اَخَذَ بِنَاصِيَتِكَ لِلسَّلَامِ مِنْ بَيْنِ رِبْعَةٍ، قَوْمٌ يَرَوْنَ اَنْ
لَوْ لَا هُمْ لَآتَفَكْتَ الْاَرْضَ بِمَنْ عَلَيْهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي اسْحَاقِ اِلَّا ابْنُهُ
اسْحَاقُ، تَفَرَّدَ بِهِ عُقْبَةُ، وَلَا يُرَوَى عَنْ بَشِيرٍ اِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2850 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ
بْنُ مُعَاذٍ قَالَ: نَا اَبِي قَالَ: نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ اَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ صَعِدَ الشَّنِيَّةَ نَبِيَّةَ الْمُرَارِ فَإِنَّهُ يَحُطُّ عَنْهُ مَا
حُطَّ عَنْ نَبِيِّ اِسْرَائِيلَ. قَالَ جَابِرٌ: فَكَانَ اَوَّلَ مَنْ
صَعِدَهَا خَيْلُنَا بِنِي الْخَزْرَجِ، ثُمَّ تَتَامَ النَّاسُ، فَقَالَ

سرخ اونٹ والا نہیں، ہم نے کہا: آتیرے لیے رسول اللہ ﷺ سے بخشش طلب کریں، اس نے کہا: ابھی تو مجھے اپنا اونٹ تلاش کرنا زیادہ پسند ہے تمہارے صاحب کی بخشش طلب کرنے سے۔ اس وقت اس کا اونٹ گم ہوا تھا۔

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّكُمْ مَغْفُورٌ لَهُ إِلَّا صَاحِبَ الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ، فَقُلْنَا: تَعَالَى يَسْتَفْغِرُ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: لِأَنَّ أَجْدَ ضَالَّتِي أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يَسْتَفْغِرَ لِي صَاحِبُكُمْ، وَإِذَا هُوَ يُنْشِدُ ضَالَّةً

یہ حدیث قرہ بن خالد سے صرف معاذ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ إِلَّا مَعَاذُ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہترین آدمی بلال ہے، مؤذنوں کی گردنیں دوسرے لوگوں سے لمبی ہوں گی۔

2851 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِيَّ قَالَ: نَا سَهْلَ بْنَ حُسَامِ بْنِ مِصْكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَوْفِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعَمَ الرَّجُلُ بِلَالٌ، وَالْمُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقًا

فائدہ: لمبی ہونا سے مراد ہے کہ ان کا مقام و مرتبہ اونچا ہوگا۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف حسام بن مصک ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حُسَامُ بْنُ مِصْكٍ

حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب نغلی قربانی کھائی جائے تو وہ اس کے ذمہ چٹی ہو جائے گی۔

2852 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الشَّاذْكَوْنِيَّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي الْخَلِيلِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَكَلَ مِنَ الْهَدْيِ تَطَوُّعًا فَقَدْ غَرِمَ

یہ حدیث ابوقتادہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے خالد اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ

حضرت قاسم بن محمد فرماتے ہیں کہ مجھے ابو قعیس نے بیان کیا کہ وہ عائشہ کے پاس آئے، آپ کے پاس آنے کی اجازت چاہی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے اجازت دینے کو ناپسند سمجھا، جب حضور ﷺ تشریف لائے، حضرت عائشہ نے عرض کی: یا نبی اللہ! میرے پاس ابو قعیس آئے تھے میں نے ان کو اپنے پاس آنے کی اجازت نہیں دی، آپ ﷺ نے فرمایا: وہ تیرے پاس آ سکتا ہے وہ تیرا چچا ہے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے عورت نے دودھ پلایا ہے، مجھے مرد نے دودھ نہیں پلایا ہے۔ آپ نے فرمایا: وہ تیرا چچا ہے اور وہ تیرے پاس آ سکتا ہے۔ حضرت ابو قعیس، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے رضاعی چچا تھے۔

یہ حدیث ابو قعیس سے اسی سند سے روایت ہے، محمد بکر البرسانی سے حد بہ روایت کرنے میں اکیلے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن عبدالرحمن بن صبیح مولیٰ ام سلمہ اپنے دادا صبیح سے روایت کرتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کے دروازے کے پاس تھا، حضرت علی، فاطمہ، حسن و حسین رضی اللہ عنہم آئے، ایک کونے میں بیٹھ گئے، حضور ﷺ ہماری طرف نکلے فرمایا: تم بھلائی پر ہو! ان حضرات پر خیبر والی چادر تھی، ان کو چادر سے ڈھانپ لیا اور فرمایا: میں ان سے لڑوں گا جو تم سے لڑے گا، میں ان سے دوستی رکھوں گا جو تم سے دوستی رکھے گا۔

2853 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا هُدْبَةُ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ الْبُرْسَانِي قَالَ: نَا عَبَادُ بِنُ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بِنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو قُعَيْسٍ، اَنَّهُ اَتَى عَائِشَةَ، فَاسْتَاذَنَ عَلَيْهَا، فَكَرِهَتْ اَنْ تَاذَنَ لَهُ، فَلَمَّا جَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ، جَائِيَ أَبُو قُعَيْسٍ فَاَبَيْتُ اَنْ اَاذَنَ لَهُ، فَقَالَ: لِيَدْخُلْ عَلَيْكَ عَمَّكَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، اِنَّمَا اَرْضَعْتَنِي الْمَرْأَةَ، لَمْ يَرْضِعْنِي الرَّجُلُ، فَقَالَ: اِنَّهُ عَمَّكَ، فَلِيَدْخُلْ عَلَيْكَ وَكَانَ أَبُو قُعَيْسٍ اَخَا ظَنِرِ عَائِشَةَ

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي قُعَيْسٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: هُدْبَةُ

2854 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بِنُ مَرْزُوقٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حُسَيْنُ بِنُ الْحَسَنِ الْاَشْقَرُ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ مُوسَى، عَنْ أَبِي مِضَاءٍ، وَكَانَ رَجُلًا صَدِيقًا، عَنْ اِبْرَاهِيْمَ بِنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ صَبِيحٍ، مَوْلَى اُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ جَدِّهِ صَبِيحٍ قَالَ: كُنْتُ بِيَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَجَاءَ عَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ وَالْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَجَلَسُوا نَاحِيَةً، فَخَرَجَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْنَا، فَقَالَ: اِنَّكُمْ عَلَيَّ خَيْرٌ وَعَلَيْهِ كِسَاءُ خَيْرِي، فَجَلَلْتُهُمْ بِهِ، وَقَالَ: اَنَا حَرْبٌ لِمَنْ حَارَبَكُمْ، سَلَّمَ

لَمَنْ سَأَلَكُمْ

یہ حدیث صبیح مولیٰ ام سلمہ حضور ﷺ سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حسین اشقر اکیلے ہیں۔ سدی نے صبیح سے انہوں نے زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے حدیث روایت کی ہے۔

حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عورتوں سے مصافحہ کرتے تھے کپڑے کے نیچے سے۔

یہ حدیث یونس سے صرف مضاء روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عتاب اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے رب عزوجل کی طرف تمہارے زمانہ کے دنوں میں نجات ان کو لو! ہو سکتا ہے تم میں سے کوئی اس پھونک سے لے لے وہ اس کے بعد ہمیشہ کے لیے بد بخت نہیں ہوگا۔

یہ حدیث محمد بن مسلمہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ مرفوعاً بیان

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَبِيحٍ مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ وَقَدْ رَوَاهُ السُّدِّيُّ: عَنْ صَبِيحٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ

2855 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

مَرْزُوقٍ قَالَ: نَا عَتَابُ بْنُ حَرْبٍ أَبُو بَشِيرٍ الْمُرْنِيُّ، أَنَا الْمَضَاءُ الْخَرَّازُ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصَافِحُ النِّسَاءَ مِنْ تَحْتِ الثَّوْبِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا مَضَاءً، تَفَرَّدَ بِهِ عَتَابُ

2856 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ابْنِ أَخِي مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ قَالَ: حَدَّثَنِي شَيْخٌ يُكْنَى: أَبَا مُحَمَّدٍ، وَحَدَّثَنِي شَيْخٌ يُقَالُ لَهُ الْمُهَاجِرُ، فِي زَمَنِ خَلْفِ فِي الْمَسْجِدِ الْأَعْظَمِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِرَبِّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لَا يَشْقَى بَعْدَهَا أَبَدًا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَسْلَمَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ

2857 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

کرتے ہیں کہ جب ہوا (آندھی) ہوتی تو ہم یہ عا کرتے: "اللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيمًا" (پھل لانے والی ہو بانجھ نہ ہو)۔

عَبْدَةَ الصَّبِيِّ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةَ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ الْحَارِثِ الْمَخْزُومِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَمَةَ بْنَ الْأَكْوَعِ، رَفَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: إِذَا اشْتَدَّتِ الرِّيحُ: اللَّهُمَّ لَقْحًا لَا عَقِيمًا

یہ حدیث حضرت سلمہ کے غلام یزید سے مغیرہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ مَوْلَى سَلَمَةَ إِلَّا الْمُغِيرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ

حضرت زہری فرماتے ہیں کہ میں نے ضمہ بن عبد اللہ بن انیس سے کہا کہ حضور ﷺ نے تیرے باپ کو کیا فرمایا تھا لیلۃ القدر کے متعلق؟ حضرت عبد اللہ انیس نے کہا: میرا باپ دیہاتی تھا، اس نے عرض کی کہ یا رسول اللہ! مجھے اس رات کے متعلق بتائیں جس میں قرآن نازل ہوا ہے، آپ نے فرمایا: وہ تیسویں کی رات میں نازل ہوا ہے، جب وہ جانے لگے تو آپ نے فرمایا: آخری عشرے میں تلاش کر۔

2858 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: نَا فَضِيلُ بْنُ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ قَالَ: نَا بُكَيْرُ بْنُ مِسْمَارٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِضَمْرَةَ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ: مَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِيكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ؟ فَقَالَ: كَانَ أَبِي صَاحِبَ بَادِيَةٍ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مُرْنِي بِلَيْلَةٍ أَنْزَلَ فِيهَا، فَقَالَ: أَنْزَلَ لَيْلَةَ ثَلَاثٍ وَعِشْرِينَ فَلَمَّا وَلَّى قَالَ: اظْلُبْهَا فِي الْعَشْرِ الْآوَاخِرِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُكَيْرٍ إِلَّا فَضِيلُ

یہ حدیث بکیر سے صرف فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو سمندر پھینکے اس کو کھاؤ، جو اس میں مرجائے یا پانی پر تیرنے لگے اس کو نہ کھاؤ۔

2859 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ:

2858- أخرجه أبو داود: الصلاة جلد 2 صفحہ 53 رقم الحديث: 1380، والطبرانی في الكبير جلد 2 صفحہ 288 رقم

الحديث: 2199. انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 181.

2859- أخرجه أبو داود: الأطلعة جلد 3 صفحہ 357 رقم الحديث: 3815، وابن ماجه: الصيد جلد 2 صفحہ 1082 رقم

الحديث: 3247.

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا أَلْقَى
الْبَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ، أَوْ طَفَى فَلَا
تَأْكُلُوهُ

یہ حدیث اسماعیل سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا يَحْيَى

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: ایام تشریق کھانے اور پینے کے
دن ہیں ان دنوں میں کوئی آدمی روزہ نہ رکھے۔

2860 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ
عَبَسَةَ قَالَ: نَا حُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ الْأَشْقَرُ قَالَ: أَنَا
شَرِيكٌ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ فَلَا يَصْمُهَا
أَحَدٌ

یہ حدیث اشعث سے صرف شریک اور شریک سے
صرف حسین بن اشعر ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت
کرنے میں احمد بن عبدہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ إِلَّا شَرِيكٌ،
وَلَا عَنْ شَرِيكٍ إِلَّا حُسَيْنُ بْنُ الْأَشْقَرِ، تَفَرَّدَ بِهِ
أَحْمَدُ بْنُ عَبَسَةَ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے مجھے چاندی کے برتن میں پینے سے منع کیا۔

2861 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ قَالَ:
نَا حُسَيْنُ الْأَشْقَرُ قَالَ: أَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ
جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَجِيٍّ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَنِ ابْنِ
أَبِي لَيْسَى، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
الْحَارِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَانِي النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَشْرَبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا قَيْسٌ

یہ حدیث جابر سے صرف قیس ہی روایت کرتے
ہیں۔

2862 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ قَالَ:
نَا حُسَيْنُ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ زِيَادٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ يَزِيدَ

حضرت سلمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے
حضور ﷺ کے پاس غصہ آیا آپ نے مجھے فرمایا: وضو

بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَانِيِّ، عَنْ زَادَانَ،
عَنْ سَلْمَانَ قَالَ: رَعَفْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ لِي: تَوَضَّأْ

کرو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا حُسَيْنُ
الْأَشْقَرِ

یہ حدیث جعفر سے حسین اشقر ہی روایت کرتے
ہیں۔

2863 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ
خَالِدِ الطَّاحِي قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ بَخِيْتِ الطَّاحِي، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: اَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بثَلَاثٍ، لَسْتُ اَدْعُهُنَّ الدَّهْرَ: الْوِتْرُ قَبْلَ النَّوْمِ،
وَصِيَامُ ثَلَاثَةِ اَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةُ الضُّحَى
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اِلَّا نُوحُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے
دوست طلحہؓ نے تین چیزوں کی وصیت کی ہے ان کو
ساری زندگی نہیں چھوڑوں گا سونے سے پہلے وتر پڑھنے
کی ہر ماہ تین روزے رکھنے کی چاشت کی نماز کی۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف نوح ہی روایت کرتے
ہیں۔

2864 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ
زُبَيْرٍ قَالَ: نَا سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ اَلْحَشَابِ، عَنْ عُبَيْدِ
اللَّهِ بْنِ أَبِي زِيَادِ الْقَدَّاحِ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ،
اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا خَلَفَ
الْكَعْبَيْنِ مِنَ الْاِزَارِ فِى النَّارِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جو تہبند گنچوں سے نیچے ہوتا ہے وہ جہنم
میں ہے۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف سلیم ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ اِلَّا سَلِيمُ

2865 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ قَالَ:
نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ مُجَالِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
مَسْرُوقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ، عَنْ تَطَوُّعِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّفَرِ؟ فَقَالَتْ: رَكَعَتَانِ دُبَّرَ

حضرت مسروق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت
عائشہ رضی اللہ عنہا سے سفر میں حضور ﷺ کی نقلی نماز کے
متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: ہر نماز کے بعد دو رکعت
پڑھتے تھے۔

كُلِّ صَلَاةٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَالِدٍ إِلَّا ابْنُهُ

یہ حدیث مجالد سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابو زید فرماتے ہیں کہ (ان کو صحابہ کا درجہ حاصل ہے) میں حضور ﷺ کے ساتھ ہوتا تھا مدینہ شریف گلیوں میں آپ نے ایک آدمی کو سنا وہ نماز تہجد میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا تھا نبی کریم ﷺ کھڑے ہوئے آپ نے اس کی قرأت سنی یہاں تک کہ اس نے ختم کر لی پھر فرمایا: قرآن کی اور کوئی سورت اس کی مثل نہیں۔

2866 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ قَالَ:

نَا سُلَيْمٌ بَنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ يَزِيدِ الرَّشِكِ قَالَ: سَمِعْتُ اَبَا زَيْدٍ، وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ قَالَ: كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ فِجَاجِ الْمَدِينَةِ، فَسَمِعَ رَجُلًا يَتَهَجَّدُ وَيَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ، فَقَامَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَمَعَ حَتَّى خَتَمَهَا، ثُمَّ قَالَ: مَا فِي الْقُرْآنِ مِثْلُهَا

یہ حدیث ابو زید عمرو بن اخطب سے اسی سند سے روایت ہے اس حدیث کو روایت کرنے میں سلیم بن مسلم اکیلے ہیں۔

لَا يَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي زَيْدٍ عَمْرٍو بِنِ اَخْطَبِ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمٌ بَنُ مُسْلِمٍ

2867 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بَنُ

زُبَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ عَبْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ اَبِيهِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ اِلَى الْجَبَانِ مَا شِئًا، وَيَرْجِعُ مَا شِئًا، وَاَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مقام جبان کی طرف پیدل چل کر جایا کرتے تھے اور پھر پیدل چل کر واپس آتے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ (کی بھی یہی عادت رہی)۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ اِلَّا

یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے صرف عبدالرحمن ہی روایت کرتے ہیں۔

عَبْدُ الرَّحْمَنِ

2868 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بَنُ

زُبَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللهِ بَنُ رَجَاءِ الْمَكِّيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بِنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حلال اور حرام واضح ہیں ان کے درمیان مشتبہات ہیں جو ان سے بچ گیا اس نے اپنی

عزت اور اپنا دین بچالیا، جو ان میں پڑ گیا قریب ہے کہ وہ حرام میں پڑ جائے گا (جس طرح کہ بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے) چراگاہ کے ارد گرد چرنے والے جانور ہوتے ہیں تو قریب ہے چرتا چرتا بے خیالی میں اس میں چلا جائے۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب حضور ﷺ کے پاس قرآن لے کر آتے، پہلے بسم اللہ الرحمن پڑھتے تھے پھر جبریل علیہ السلام جب دوسری مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تو حضور ﷺ کو معلوم ہو جاتا کہ سورۃ مکمل ہو گئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جس وقت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی، فرمایا: اے علی! اپنے گھر والوں کے پاس نہ جانا یہاں تک کہ تم ان کا حق مہر نہ ادا کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے پاس کوئی شی نہیں ہے، آپ نے فرمایا: تم اپنی اطمینان نامی زرہ فروخت کر دو! ابن ابی رواد فرماتے ہیں کہ میرے باپ فرماتے تھے: اس زرہ کی قیمت بگائی گئی چار سو اسی درہم بنی۔

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَلَالُ بَيْنَ، وَالْحَرَامِ بَيْنَ، وَبَيْنَهُمَا شُبُهَاتٌ، فَمَنْ اتَّقَاهَا كَانَ أَنْزَةً لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ أَوْشَكَ أَنْ يَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالْمُرْتِعِ حَوْلِ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوقَعَ الْحِمَى وَهُوَ لَا يَشْعُرُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

2869 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ

زُبَيْرٍ قَالَ: نَا سُلَيْمُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ جَبْرِيلُ إِذَا أتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقُرْآنِ، كَانَ أَوَّلَ مَا يُلْقِي عَلَيْهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، فَإِذَا قَالَ جَبْرِيلُ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الثَّانِيَةَ، عَلِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ قَدْ خَتَمَ السُّورَةَ

2870 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ

زُبَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ زَوَّجَ عَلِيًّا فَاطِمَةَ قَالَ: يَا عَلِيُّ، لَا تَدْخُلْ عَلَى أَهْلِكَ حَتَّى تُقَدِّمَ لَهُمْ شَيْئًا فَقَالَ: مَا لِي شَيْءٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ: أَعْطَاهَا دِرْعَكَ الْحُطَمِيَّةَ قَالَ ابْنُ أَبِي رَوَادٍ: قَالَ أَبِي: فَقَوْمُ الدِّرْعِ أَرْبَعِمِائَةٍ وَتَمَانِينَ دِرْهَمًا

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی آدمی اپنے اونٹوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا ہے وہ قیامت کے دن لایا جائے گا اس کے کھر دنیا کے کھروں سے زیادہ سخت اور بڑے ہوں گے جب اس کو ان کے ساتھ روندے گا جب ایک مرتبہ گزرنے کا روند کر دوبارہ وہ ٹھیک ہو جائے گا ایک دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ بکریوں کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا اور سونے اور چاندی کی زکوٰۃ نہ دینے والوں کا حشر اسی طرح ہوگا۔

حضرت ابوامامہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے مقسم بن فلان کو خریدا مجھے اس میں اتنا نفع ہوا کہ آپ نے فرمایا: کیا میں آپ کو اس سے زیادہ نفع والی شے نہ بتاؤں؟ اس نے عرض کی: کیا اس نفع کو پایا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک آدمی جو دس آیات سیکھ لے۔ وہ آدمی گیا اس نے دس آیتیں سیکھیں اس کے بعد حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کو بتایا۔ یہ تمام احادیث سلیمان التیمی سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ ناپسند کرتے تھے ایسی بو کو جس سے تکلیف ہوتی ہے۔

2871 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي عُمَرَ الْعَدْنِيِّ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ: لَا يَكُونُ لِرَجُلٍ اِبْلٌ لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا فِي نَجْدَتِهَا وَرِسْلَهَا اِلَّا بُطِحَ لَهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِقَاعٍ قَرَقَرٍ جَائَتْ كَاكْثَرِ مَا كَانَتْ وَاغْذِهِ وَاَشْرِهِ وَاَجْسَمِهِ فَتَطْوُهُ بِاَخْفَافِهَا، كُلَّمَا مَضَتْ اُخْرَاهَا عَادَتْ اَوْ لَاهَا، فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ اَلْفَ سَنَةٍ وَقَالَ فِي الْغَنَمِ كَنَحْوِ ذَلِكَ، وَقَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ كَنَحْوِ ذَلِكَ

2872 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَبِي الْجَعْدِ، اَوْ ابْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ اَبِي اُمَامَةَ، اَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، اشْتَرَيْتُ مِقْسَمَ بَنِي فُلَانٍ، فَرَبِحْتُ فِيهِ كَذَا وَكَذَا، فَقَالَ: اِلَّا اَنْبُتْكَ بِمَا هُوَ اَكْثَرُ مِنْهُ رَبِحًا؟ قَالَ: هَلْ يُوجَدُ؟ قَالَ: رَجُلٌ تَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ فَتَعَلَّمَ عَشْرَ آيَاتٍ، فَاتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاخْبَرَهُ لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْاَحَادِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ اِلَّا ابْنُهُ

2873 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ اَبِي الْفَضْلِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ

2871- أخرجه أبو داود: الزكاة جلد 2 صفحہ 127 رقم الحديث: 1658، والنسائي: الزكاة جلد 5 صفحہ 8 (باب التغليظ

في حبس الزكاة) وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 644 رقم الحديث: 10360 .

2873- أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 278 رقم الحديث: 26174 .

عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ أَنْ يُوجَدَ مِنْهُ رِيحٌ يُتَادَى مِنْهَا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عِمْرَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ

یہ حدیث ہشام سے عمران ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسماعیل اکیلے ہیں۔

2874 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمِنْهَالِ، اَخُو حَجَّاجٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَّاحِدِ بْنِ زِيَادٍ قَالَ: نَا لَيْثٌ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَنَا آخِذٌ بِحُجْرَتِكُمْ، أَقُولُ: اتَّقُوا النَّارَ وَاتَّقُوا الْحُدُودَ، ثَلَاثًا، ثُمَّ أَنَا فَرَطُكُمْ عَلَى الْحَوْضِ، فَمَنْ وَرَدَ فَقَدْ أَفْلَحَ، فَيُوتَى بِرِجَالٍ، حَتَّى إِذَا عَرَفْتَهُمْ وَعَرَفُونِي اخْتَلَبُوا دُونِي، فَأَقُولُ: رَبِّ أَصْحَابِي، فَيَقَالُ: لَمْ يَزَالُوا يَرْتَدُّونَ عَلَيَّ أَعْقَابِهِمْ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو تمہاری پشتوں سے پکڑتا ہوں، میں تم کو کہتا ہوں کہ آگ سے ڈرو! اور مقرر کردہ حدوں سے آگے بڑھنے سے بچو! میں تمہارا حوض پر انتظار کروں گا جو میرے حوض پر آیا وہ کامیاب ہے، کچھ لوگ لائے جائیں گے یہاں تک کہ میں ان کو پہچان لوں گا اور وہ مجھے پہچان لیں گے، میرے سامنے پردہ میں کر دیئے جائیں گے۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میرے صحابی ہیں، کہا جائے گا: یہ لوگ آپ کے بعد مرتد ہو گئے تھے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا عَبْدُ الْوَّاحِدِ

یہ حدیث صرف عبدالواحد ہی روایت کرتے ہیں۔

2875 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ قَالَ: نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ هِلَالٍ، اِخِي بِنِي مُرَّةِ ابْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: اَعْوَزْنَا عَوْرًا شَدِيدًا، فَأَمَرَنِي اَهْلِي اَنْ اَتِيَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَسْأَلَهُ شَيْئًا، فَأَقْبَلْتُ، فَكَانَ اَوَّلَ مَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ اسْتَعْنَى اَغْنَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ اسْتَعَفَّ اَعْفَاهُ اللَّهُ، وَمَنْ سَأَلْنَا لَمْ نَدْخِرْ عَنْهُ شَيْئًا اِنْ وَجَدْنَا، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي: لَا اسْتَعْنِيَنَّ فَيَغْنِيَنِي اللَّهُ، وَلَا تَعْفَقَنَّ فَيَعْفِيَنِي اللَّهُ، فَلَمْ اَسْأَلِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو ایک دفعہ سخت فاقہ پہنچا، میرے گھروالوں نے مجھ سے کہا کہ میں حضور ﷺ کی بارگاہ میں جاؤں، آپ سے کچھ مانگوں، پس میں گیا، سب سے پہلے میں نے آپ سے سنا جو آپ نے فرمایا: جو استغنا اختیار کرتا ہے اللہ اس کو غنی کر دیتا ہے، جو گناہوں سے بچنا چاہتا ہے اللہ اس کو بچا لیتا ہے، جو ہم سے مانگے گا ہم اس سے کوئی شے نہیں روکیں گے، اگر ہمارے پاس ہوئی تو میں نے اپنے دل میں کہا: میں ضرور استغنا اختیار کروں گا، اللہ مجھے غنی کر دے گا، میں سوال کرنے سے بچنا چاہتا تھا اللہ عز و جل نے

شَيْئًا

مجھے بچالیا، میں نے حضور ﷺ سے کوئی شی نہیں مانگی۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرے حوض کی لمبائی اتنی ہے جتنی صنعاء سے لے کر مدینہ تک سفر ہے۔

2876 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَاصِمٌ قَالَ:

نَا مُعْتَمِرٌ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ نَاحِيَتَيْ حَوْضِي كَمَا بَيْنَ صَنْعَاءَ اِلَى الْمَدِيْنَةِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں دن میں سترہ مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔

2877 - وَبِهِ عَنْ اَنَسٍ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنِّي لَا تُوْبُ اِلَى اللّٰهِ فِي الْيَوْمِ سَبْعِيْنَ مَرَّةً

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہم غزوہ حدیبیہ سے واپس آئے ہم قربانی نہ کر سکے، ہم غم اور پریشانی میں تھے اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: اے مصطفیٰ (ﷺ)! ہم نے آپ کو واضح فتح دی، حضور ﷺ نے فرمایا: آج ایسی آیت نازل ہوئی ہے جو دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

2878 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: لَمَّا

رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ الْحُدَيْبِيَّةِ قَدْ حِيلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ نُسُكِنَا، فَتَحَنُّ بَيْنَ الْحُزْنِ وَالْكَآبَةِ، فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ: (اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِيْنًا) (الفتح: 1) اِلَى آخِرِ الْآيَةِ، فَقَالَ نَبِيُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ اُنزِلَتْ عَلَيَّ آيَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا جَمِيْعًا لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْاَحَادِيْثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ اِلَّا اِبْنُهُ

یہ تمام احادیث سلیمان تیمی سے ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں۔

2879 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَرَّرُ بْنُ

عَوْنٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عَقَبَةَ بْنِ اَبِي الْعِيْزَارِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُوْدَةَ، عَنْ اَبِي الْجُوْزَاءِ قَالَ: قَالَ لِيْ اِبْنُ عَبَّاسٍ: يَا اَبَا الْجُوْزَاءِ، اَلَا اُخْبِرُكَ، اَلَا اُتِحِفُكَ، اَلَا اُعْطِيْكَ؟ قُلْتُ: بَلَى، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَلَّى اَرْبَعَ

حضرت ابوالجوزاء فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے ابوالجوزاء! کیا میں آپ کو بتاؤں! کیا میں آپ کو تحفہ نہ دوں! کیا میں آپ کو عطیانہ کروں؟ میں نے عرض کی: کیوں نہیں! حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو چار رکعت نفل ادا کرتا ہے ہر

2876 - أخرجه مسلم: الفضائل جلد 4 صفحہ 1801، وابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1439 رقم الحديث: 4304

وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 269 رقم الحديث: 13299 .

2878 - أخرجه مسلم: الجهاد جلد 3 صفحہ 1413، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 385 رقم الحديث: 3263 .

رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ پڑھتا ہے جب قرأت سے فارغ ہو جائے تو پندرہ مرتبہ ”سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ“ پڑھتا ہے پھر رکوع کرتا ہے رکوع میں یہ کلمات دس مرتبہ کہے رکوع سے اٹھتے وقت دس مرتبہ پھر سجدہ میں دس مرتبہ پھر سجدہ سے اٹھ کر دس مرتبہ پھر دوسرے سجدہ میں دس مرتبہ پھر دوسرا سجدہ کر کے دس مرتبہ پڑھتا ہے ہر رکعت میں پچھتر (۷۵) مرتبہ ہو جائے گا چار رکعتوں میں اس طرح کرنا ہے جس نے یہ نفل ادا کر لیے اس سے صغیرہ اور کبیرہ نئے اور پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے۔

یہ حدیث محمد بن مجاہد سے صرف یحییٰ بن عقبہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محرز اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ صفا کی طرف نکلتے تھے بنی مخزوم کے دروازے سے۔

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف عبدالرحمن ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اسلام کی خوبی یہ ہے کہ لایعنی کاموں کو

رَكَعَاتٍ، يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ أَمَّ الْقُرْآنِ وَسُورَةً، فَأَذَا فَرَعٌ مِنَ الْقِرَاءَةِ قَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، فَهَذِهِ وَاحِدَةٌ، حَتَّى يُكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ، ثُمَّ رَكَعَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ رَفَعَ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَسْجُدُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، ثُمَّ يَرْفَعُ رَأْسَهُ فَيَقُولُهَا عَشْرًا، فَهَذِهِ خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ، حَتَّى يَقْرَأَ مِنْ أَرْبَعِ رَكَعَاتٍ قَالَ: مَنْ صَلَّى مِنْ غَيْرِ لَهُ كُلُّ ذَنْبٍ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ، قَدِيمٌ أَوْ حَدِيثٌ، كَانَ أَوْ هُوَ كَانَتْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ عَقْبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحْرِرٌ

2880 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ زُبَيْرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَبِيهِ، وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا مِنْ بَابِ بَنِي مَخْزُومٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ

2881 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعْدُ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ

2880- انظر: مجمع الزوائد جلد 3 صفحہ 251 .

2881- أخرجه الترمذی: الزهد جلد 4 صفحہ 558 رقم الحديث: 2317، وابن ماجه: الفتن جلد 2 صفحہ 1315 رقم

الحديث: 3976 .

چھوڑ دینا۔

أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَنْبَغِيهِ

یہ حدیث سہیل سے صرف عبدالرحمن بن عبداللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَزِرْ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سُهَيْلِ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ عزوجل اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے جو اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے اللہ عزوجل اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔

2882 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ، أَنَا عَاصِمُ بْنُ النَّضْرِ، أَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر ابن آدم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ چاہے گا تیسری بھی ہو انسان کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی اللہ تو بہ قبول کرتا ہے جس کی توبہ قبول کرنا چاہے۔

2883 - وَبِهِ عَنْ أَنَسِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى وَادِيَا ثَالِثًا، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور

2884 - وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ عَيْنَيْهِ مَكْتُوبٌ: كَافِرٌ يَعْنِي: الدَّجَالَ

2885 - وَبِهِ عَنْ أَنَسِ قَالَ: لَمَّا عُرِجَ بِنَبِيِّ

2882- أخرجه البخاری: الرقاق جلد 11 صفحہ 364 رقم الحدیث: 6507، ومسلم: الذکر جلد 4 صفحہ 2065 .

2883- أخرجه مسلم: الزکاة جلد 2 صفحہ 725، والذاری: الرقاق جلد 2 صفحہ 410 رقم الحدیث: 2778، وأحمد:

المسند جلد 3 صفحہ 150 رقم الحدیث: 12236 .

2884- أخرجه البخاری: الفتن جلد 13 صفحہ 97 رقم الحدیث: 7131، ومسلم: الفتن جلد 4 صفحہ 2248 .

2885- أخرجه البخاری: الرقاق جلد 11 صفحہ 472 رقم الحدیث: 6581، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 449 رقم

الحدیث: 3360 .

ﷺ کو جنت کی سیر کروائی گئی تو آپ کو ایک نہر دکھائی گئی، اس کے دونوں کناروں پر یاقوت کے موتی لٹکے ہوئے تھے فرشتے نے وہ شے ماری جو اس کے پاس تھی، اس سے مشک خوشبو نکلی، فرشتے سے کہا جس کے پاس وہ تھی: یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی: یہ کوثر ہے جو آپ کو اللہ عزوجل نے عطا کی ہے، میرے لیے سدرۃ المنتہیٰ اٹھایا گیا، میں نے اس کے پاس بڑا نور دیکھا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کافر جب کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کا بدلہ اس کو دنیا میں دیا جاتا ہے، مؤمن کی نیکی آخرت کے لیے ذخیرہ کی جاتی ہے اور دنیا میں اس کی طاعت کی وجہ سے رزق دیا جائے گا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب جنت والے جہنمیوں کو دیکھیں گے تو کہا جائے گا: یہ جہنمی ہیں۔

حضرت مطرف اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا، آپ سورۃ الباکم النکاثر پڑھ رہے تھے اور فرما رہے تھے: انسان کہتا ہے کہ میرا مال، میرا مال، اے آدم کے بیٹے! کیا تیرا کوئی مال ہے بھی سہی سوائے اس کے جو تو نے کھا لیا اور ضائع کر دیا یا

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْجَنَّةِ عُرِضَ لَهُ نَهْرٌ حَافَتَاهُ الْيَاقُوتُ الْمُجَوَّفُ، فَصَرَبَ الْمَلِكُ الَّذِي مَعَهُ بِيَدِهِ، فَاسْتَخْرَجَ مِسْكَاً، فَقَالَ لِلْمَلِكِ الَّذِي مَعَهُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: هَذَا الْكُوثرُ الَّذِي آعَطَاكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: فَرَفَعْتُ لِي سِدْرَةَ الْمُنْتَهَى، فَأَبْصَرْتُ عِنْدَهَا نُورًا عَظِيمًا

2886 - وَبِهِ عَنْ أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْكَافِرَ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً أُطِعِمَ بِهَا طُعْمَةً فِي الدُّنْيَا، وَأَمَّا الْمُؤْمِنُ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَدَّخِرُ لَهُ حَسَنَاتِهِ فِي الْآخِرَةِ، وَيُعْقِبُهُ رِزْقًا فِي الدُّنْيَا عَلَى طَاعَتِهِ

2887 - وَبِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَالَ: إِذَا أَبْصَرَهُمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ قَالُوا: مَا هَؤُلَاءِ؟ فَيَقَالُ: هَؤُلَاءِ الْجَهَنَّمِيُّونَ

2888 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُطَرِّفٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَفَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقْرَأُ: أَلْهَاكُمْ التَّكَاثُرُ، فَقَالَ: يَقُولُ ابْنُ آدَمَ: مَالِي مَالِي، وَهَلْ لَكَ مِنْ مَالِكَ يَا ابْنَ آدَمَ إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، أَوْ لَبَسْتَ فَأَبْلَيْتَ، أَوْ أَعْطَيْتَ

2886 - أخرجه مسلم: المنافقين جلد 4 صفحہ 2162 .

2887 - أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 155 رقم الحديث: 12278 .

2888 - أخرجه مسلم: الزهد جلد 4 صفحہ 2273، والترمذی: التفسیر جلد 5 صفحہ 447 رقم الحديث: 3354

والنسائی: الوصايا جلد 6 صفحہ 198 (افتاحیة كتاب الوصايا) وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 33 رقم

الحديث: 16328 .

فَأَمْضَيْتَ

پہن کر پرانا کر لیا، یا اللہ کی راہ میں دے کر آگے کے لیے بھیج دیا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ نے لکھنے کا فیصلہ کیا تو اس نے اپنے پاس لکھا: میری رحمت میرے غضب پر غالب آگئی۔

حضرت سالم بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت چھپانے والی شے ہے، کیونکہ جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو جھانک کر دیکھتا ہے، عورت اللہ کے قریب اس وقت ہوتی ہے جب وہ اپنے گھر کے کسی کونے کے اندر ہوتی ہے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے اس کے پاس دو فرشتے ہوتے ہیں، دونوں اعلان کر رہے ہوتے ہیں: زمین والی ہر شے سوائے انسان و جن کے سنتی ہے، اے لوگو! آؤ اپنے رب کی طرف! بے شک تھوڑا ہی عمل کرو اور ہمیشہ کے لیے ہو تو کثرت اور غفلت سے بہتر ہے اور جب (طلوع ہوتا ہے) تو دونوں فرشتے اعلان کرتے ہیں: اے اللہ! خرچ کرنے والے کو عطا کر! جو روک لے عطانہ کر، اس کو ضائع کر دے یعنی مال کو۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا مقام عرفات میں دعا کرتے ہوئے آپ کے دونوں ہاتھ سینہ کے برابر تھے جس طرح

2889 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَمَّا قَضَى اللَّهُ الْخَلْقَ كَتَبَ فِي كِتَابٍ عِنْدَهُ: غَلَبَتْ أَوْ قَالَ: سَبَقَتْ رَحْمَتِي غَضَبِي

2890 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، وَإِنَّهَا إِذَا خَرَجَتْ اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ، وَإِنَّهَا لَا تَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى اللَّهِ مِنْهَا فِي قَعْرِ بَيْتِهَا

2891 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ خَلِيدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْعَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا وَبِجَنبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ، يَسْمَعُ مَنْ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ: أَيُّهَا النَّاسُ، هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ، إِنَّ مَا قَالُوكُمْ خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَي، وَلَا آبَتْ إِلَّا وَبِجَنبَيْهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ: اللَّهُمَّ مَنْ أَنْفَقَ فَأَعْطَاهُ خَلْفًا، وَمَنْ أَمْسَكَ فَأَعْطَاهُ تَلْفًا

2892 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ أَنَا عَبْدُ الْمَجِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ

2889 - أخرجه البخاری: التوحيد جلد 13 صفحہ 532 رقم الحدیث: 7553، ومسلم: التوبة جلد 4 صفحہ 2107.

2891 - أخرجه أحمد: المسند جلد 5 صفحہ 234 رقم الحدیث: 21779. انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 258.

مسکین کھانا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔

ابن عباس قال: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُو بِعَرَفَةَ، وَيَدَّاهُ إِلَى صَدْرِهِ كَأَسْتَطْعَامِ الْمَسْكِينِ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف عبدالمجید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عنقریب ایسے بادشاہ ہوں گے کہ میری ہدایت پر نہ چلیں گے اور میری سنت نہ اپنائیں گے؛ عنقریب ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کے دل شیطان کے دل انسانوں کے جسموں میں، میں نے عرض کی: اگر میں ان کو پاؤں تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: اس کی بات سن اور بڑے امیر کی اطاعت کر! اگرچہ وہ تیری پشت پر مارے اور تیرا مال لے، تو اس کی بات سن بھی اور اطاعت بھی کر۔

2893 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ هَاشِمِ الْبَغَوِيِّ قَالَ: نَا اَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ رَاشِدِ الْيَمَامِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَتَكُونُ اِثْمَةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُونَ بِسُنَّتِي، وَسَتَكُونُ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي اَجْسَادِ الْاِنْسِ قُلْتُ: كَيْفَ اصْنَعُ اِنْ اَدْرَكْنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْاَمِيرِ الْاَعْظَمِ، وَاِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ، وَاَخَذَ مَالَكَ، فَاسْمَعْ وَاَطِعْ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ سَلَامٍ

یہ حدیث یحییٰ سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابن سلام اکیلے ہیں۔

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میرے بعد کاموں والے ایسے مرد ہوں گے کہ تمہارے سامنے نیکی بنا کر پیش کریں گے جس کو تم بُرائی سمجھتے ہو اور بُرائی کہیں گے اس چیز کو جسے تم نیکی سمجھتے ہو اللہ کی

2894 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيِّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمِ الطَّائِفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ اِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبِيدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

2893 - أخرجه مسلم: الامارة جلد3 صفحہ 1476، والبيهقي في الكبرى جلد8 صفحہ 271-272 رقم الحديث:

16617

2894 - أخرجه أحمد: المسند جلد5 صفحہ 386 رقم الحديث: 22853، والحاكم في المستدرک جلد3 صفحہ 357

نافرمانی میں کسی کی اطاعت نہیں ہے۔

سَيَلِي أُمُورَكُمْ مِنْ بَعْدِي رَجَالٌ يُعْرِفُونَكُمْ مَا
تُنْكِرُونَ، وَيُنْكِرُونَ عَلَيْكُمْ مَا تَعْرِفُونَ، فَلَا طَاعَةَ
لِمَنْ عَصَى اللَّهَ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول
اللہ! میں نے اپنی بیٹی کی شادی کرنی ہے میں پسند کرتا
ہوں کہ اس حوالہ سے آپ میری مدد کریں کسی شی کے
ساتھ۔ آپ نے فرمایا: سر دست میرے پاس کوئی شی نہیں
ہے لیکن کل آپ میرے پاس آنا اور کھلے منہ والی شیشی
اور ایک لکڑی لانا، میرے اور آپ کے درمیان وعدہ تھا
میں دروازے کے پاس کھڑا ہوا، وہ فرماتے ہیں: میں
ایک کھلے منہ والی شیشی اور درخت کی ٹہنی لایا، آپ نے
اس میں اپنی کلائی مبارک سے پسینہ اتار کر بھرنے لگے
یہاں تک کہ شیشی بھر گئی، آپ نے فرمایا: لے لو اور اپنی
بیٹی کو حکم دے دو، جب تو خوشبو لگانے کا ارادہ کرے تو یہ
لکڑی اس پیالہ میں ڈالنا اور اس کے ساتھ خوشبو لگانا، وہ
جب بھی خوشبو لگاتی تو پورے مدینہ پاک میں پھیل جاتی
تھی، اس گھر کا نام مدینہ والوں نے خوشبو والا گھر رکھ
دیا تھا۔

2895 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَابِشْرُ بْنُ

سَيْحَانَ قَالَ: نَا حَلْبَسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا
سُفْيَانَ الشُّورِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنَتِي،
وَإِنِّي أَحِبُّ أَنْ تُعِينَنِي بِشَيْءٍ فَقَالَ: مَا عِنْدِي مِنْ
شَيْءٍ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ عَدَا فَنَعَالَ فَنَجْتَنِي بِقَارُورَةٍ
وَإِسْعَةَ الرَّأْسِ وَعُودَ شَجَرٍ، وَآيَةَ بَنِي وَبَيْنَكَ أَنْ
أَجِيفَ نَاحِيَةَ الْبَابِ قَالَ: فَاتَاهُ بِقَارُورَةٍ وَإِسْعَةَ
الرَّأْسِ وَعُودَ شَجَرٍ، فَجَعَلَ يَسْلُتُ الْعِرْقَ مِنْ
ذِرَاعِيهِ حَتَّى امْتَلَأَتِ الْقَارُورَةُ، فَقَالَ: خُذْ، وَأْمُرْ
بِنَتِكَ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَطِيبَ أَنْ تَغْمِسَ هَذَا الْعُودَ فِي
الْقَارُورَةِ وَتَطِيبَ بِهِ قَالَ: فَكَانَتْ إِذَا تَطِيبَتْ شَمَّ
أَهْلُ الْمَدِينَةِ رَائِحَةَ ذَلِكَ الطِّيبِ، فَسَمُّوا بَيْتَ
الْمُطِيبِينَ

یہ حدیث ابوزناد سے صرف سفیان ہی روایت
کرتے ہیں اور سفیان سے صرف حلبس روایت کرتے
ہیں، اس کو روایت کرنے میں بشر اکیلے ہیں۔

حضرت زیال بن عبید بن حنظلہ فرماتے ہیں کہ میں
نے اپنے دادا حنظلہ بن حذیم سے سنا، وہ فرماتے ہیں کہ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا

سُفْيَانُ، وَلَا عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا حَلْبَسٌ، فَتَرَدَّ بِهِ بَشْرٌ

2896 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَّادِ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا أَبُو سَعِيدٍ، مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ

میں اپنے دادا حذیم کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ میں گیا، عرض کی: یا رسول اللہ! میرے بیٹے ہیں: ذوی لُحی اور اس کے علاوہ اور یہ ان سے چھوٹا ہے مجھے حضور ﷺ نے قریب بلایا اور میرے سر پر دست مبارک پھیرا اور فرمایا: اللہ آپ کو برکت دے! حضرت ذیال فرماتے ہیں کہ میں نے حظلہ کو دیکھا، آپ کے پاس اگر ایسا آدمی لایا جاتا اس کے چہرے پر ورم ہوا ہوتا یا بکری لائی جاتی، اس کے تھنوں میں ورم ہوتا، آپ اللہ کا نام لے کر اس جگہ سے ملتے جس جگہ حضور ﷺ نے اپنا دست مبارک رکھا تھا، وہ ورم چلا جاتا تھا۔

یہ حدیث حظلہ سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے میں ابوسعید اکیلے ہیں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو حضرت عمار کے متعلق فرماتے ہوئے سنا کہ آپ کو اس اس طرح کیا جائے گا، جب تک آپ بلوغت کی عمر تک نہ پہنچیں۔

یہ حدیث حذیفہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں سعد بن اوس الکاتب روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز میں دونوں طرف سلام پھیرتے تھے۔

قَالَ: نَا الدِّيَالُ بْنُ عُبَيْدِ بْنِ حَنْظَلَةَ قَالَ: سَمِعْتُ جَدِّي حَنْظَلَةَ بْنَ حِذِيمٍ يَقُولُ: وَقَدْتُ مَعَ جَدِّي حِذِيمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي بَيْنَ ذَوِي لِحْيٍ وَغَيْرِهِمْ، وَهَذَا أَصْغَرُهُمْ، فَادْنَانِي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَسَحَ رَأْسِي، وَقَالَ: بَارَكَ اللَّهُ فِيكَ قَالَ الدِّيَالُ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ حَنْظَلَةَ يُوتَى بِالرَّجْلِ الْوَارِمِ وَجْهَهُ وَالشَّائِةِ الْوَارِمِ ضَرْعَهَا، فَيَقُولُ: بِسْمِ اللَّهِ، عَلَى مَوْضِعِ كَفِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَمْسُحُهُ، فَيَذْهَبُ الْوَرْمُ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حَنْظَلَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو سَعِيدٍ

2897 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَوْسٍ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى قَالَ: سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عَمَّارٌ كَذَا وَكَذَا، وَكَذَا، مَا لَمْ يَلْبِغْهُ السِّنُّ لَمْ يُرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعْدُ بْنُ أَوْسٍ الْكَاتِبُ

2898 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا نَصْرُ قَالَ:

نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاوُدَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

2898 - أخرجه مسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 409 وأبو داود: الصلاة جلد 1 صفحہ 260 رقم الحديث: 996

والترمذی: الصلاة جلد 2 صفحہ 89 رقم الحديث: 295، والنسائی: السهو جلد 3 صفحہ 53 (باب كيف السلام

على الشمال؟) وابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحہ 296 رقم الحديث: 914

عَلَقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ فِي الصَّلَاةِ

2899 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا نَصْرُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ الْحَمِيدِيُّ قَالَ: نَا ثَابِتُ الْبُنَانِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَحَابَّ رَجُلَانِ فِي اللَّهِ إِلَّا كَانَ أَحَبَّهُمَا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ أَشَدَّهُمَا حُبًّا لِصَاحِبِهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو دو آدمی اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے آپس میں محبت کرتے ہیں اللہ عزوجل اس سے زیادہ محبت کرتا ہے جو اپنے ساتھی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔

یہ حدیث ثابت سے صرف عبد اللہ بن زبیر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ

2900 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ حَيَّانَ قَالَ: نَا أَبُو قُتَيْبَةَ سَلَمُ بْنُ قُتَيْبَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُفَضَّلُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ سَالِمِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بْنِ أُسَامَةَ الْهُذَلِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صُومُوا مِنِّي وَصَحِّحْ إِلَى وَصَحِّحْ

حضرت ابو یحییٰ بن اسامہ ہذلی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزے رکھو ایک چاند سے دوسرے چاند تک۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ إِلَّا سَالِمٌ، وَلَا عَنْ سَالِمٍ إِلَّا مُفَضَّلٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو قُتَيْبَةَ

2901 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُوسَى قَالَ: نَا سَلَمٌ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نَهَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي النَّعْلَيْنِ وَالْخُفَّيْنِ

یہ حدیث ابو یحییٰ سے سالم اور سالم سے مفضل روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابو قتیبہ اکیلے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نعلین اور موزے پہن کر نماز پڑھی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا عُمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَلَمٌ

یہ حدیث قتادہ سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سلم اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن پڑھو غم میں ڈوب کر کیونکہ قرآن غم کی کیفیت ساتھ لے کر نازل ہوا ہے۔

2902 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا عُوَيْنُ بَنُ عَمْرٍو الْقَيْسِيُّ اَخُو رِيَا حِ بَنِ عَمْرٍو قَالَ: نَا سَعِيدُ الْجَرِيْرِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بَنِ بَرْيَدَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ لِي رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَقْرَءُوا الْقُرْآنَ بِالْحَزْنِ، فَاِنَّهُ نَزَلَ بِالْحَزْنِ

حضرت عبداللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں ایک کمرہ ایسا ہوگا کہ اس کے اندر والا حصہ باہر سے دکھائی دے گا اور باہر کا حصہ اندر سے دکھائی دے گا، وہ اللہ عزوجل نے تیار کیا ہے آپس میں اللہ کی رضا کے لیے محبت کرنے والوں آپس میں ایک دوسرے کی زیارت کرنے والوں کے اور آپس میں ایک دوسرے پر خرچ کرنے والوں کے لیے۔

2903 - وَبِهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ فِي الْجَنَّةِ غُرَفًا يَرَى ظَوَاهِرَهَا مِنْ بَوَاطِنِهَا، وَبَوَاطِنُهَا مِنْ ظَوَاهِرِهَا اَعَدَّهَا اللّٰهُ لِلْمُتَحَابِّينَ فِيهِ، وَالْمُتَزَاوِرِينَ فِيهِ، وَالْمُتَبَاذِلِينَ فِيهِ

یہ دونوں حدیثیں سعید سے صرف عوین ہی روایت کرتے ہیں ان دونوں حدیثوں کو روایت کرنے والے اسماعیل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَعِيدِ الْاَعُوَيْنِ، تَفَرَّدَ بِهِمَا اِسْمَاعِيلُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو نعلین میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا کبھی اُتار کر پڑھتے ہوئے دیکھا۔

2904 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بَنُ سَيْفٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ الضُّعْفِيُّ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ اَنَسٍ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي فِي نَعْلَيْهِ، وَرَبَّمَا خَلَعَهُمَا

یہ حدیث جعفر سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ الْاِسْمَاعِيلِ

حضرت راشد ابو محمد الحمانی فرماتے ہیں کہ میں نے

2905 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بَنُ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کو مقامِ زاویہ میں دیکھا، میں نے کہا: مجھے رسول اللہ ﷺ کے وضو کے متعلق بتائیں! آپ کیسے وضو کرتے تھے؟ کیونکہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم آپ ﷺ کو وضو کرواتے تھے۔ حضرت انس نے فرمایا: جی ہاں! آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا! میں آپ کے پاس ایک تھال اور پیالہ لے کر آیا، آپ کے سامنے رکھا، آپ نے دونوں ہاتھوں پر ہتھیلی سے پانی ڈالا، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا، پھر تین بار کلی کی اور تین بار ناک میں پانی ڈالا، اپنے چہرے کو تین مرتبہ دھویا، پھر دائیں ہاتھ کو باہر نکالا، اس کو تین مرتبہ دھویا، پھر بائیں ہاتھ کو تین مرتبہ دھویا اور سر کا ایک مرتبہ مسح کیا اور دونوں کانوں پر مسح کیا، پھر اپنی دونوں ہتھیلیاں پانی میں اکٹھی داخل کیں اور حدیث ذکر کی۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو آدمی جنگل میں چل رہے تھے، ایک عبادت گزار دوسرا گناہگار تھا، عبادت گزار کو پیاس لگی یہاں تک کہ گر گیا اور اپنے ساتھی کو دیکھنے لگا، اس کے پاس اپنے پینے کے لیے پانی تھا وہ اس کو دیکھنے لگا، وہ بے سدھ پڑا تھا، اس نے کہا: قسم بخدا! اگر یہ نیک بندہ پیاس سے مر گیا باوجودیکہ میرے پاس پانی موجود ہے تو میں اللہ عزوجل سے ہمیشہ نیکی نہیں پاسکوں گا، اگر میں نے اس کو پلا دیا تو میں خود مر جاؤں گا، اس نے اللہ پر بھروسہ اور یقین کیا، اس پر پانی ڈالا۔ بچا ہوا اسے پلا دیا۔ پس وہ اٹھا یہاں تک کہ جنگل سے گزر گیا۔ قیامت کے

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا بَكَارُ بْنُ سُقَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَاشِدُ أَبُو مُحَمَّدٍ الْحِمَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، بِالزَّوَاوِيَةِ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ وُضُوءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ كَانَ؟ فَإِنَّهُ بَلَّغَنِي أَنَّكَ كُنْتَ تَوَضُّئُهُ قَالَ: نَعَمْ، فَدَعَا بَوَضُوءٍ، فَأَتَيْتُ بِطُسْتٍ وَبِقَدْحٍ نِحْتٍ، يَقُولُ: كَمَا نِحْتُ فِي أَرْضِهِ فَوَضِعَ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَأَكْفَأَ عَلَى يَدَيْهِ مِنَ الْمَاءِ، فَأَنَعَمَ غُسْلَ كَفْيِهِ، ثُمَّ مَضَمَضَ ثَلَاثًا، وَاسْتَشَقَّ ثَلَاثًا، وَغَسَلَ وَجْهَهُ ثَلَاثًا، ثُمَّ أَخْرَجَ يَدَهُ الْيُمْنَى فَعَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ غَسَلَ الْيُسْرَى ثَلَاثًا، ثُمَّ مَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَّةً وَاحِدَةً غَيْرَ أَنَّهُ أَمَرَهَا عَلَى أُذُنَيْهِ، فَمَسَحَ عَلَيْهِمَا، ثُمَّ أَدْخَلَ كَفْيَهُ جَمِيعًا فِي الْمَاءِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

2906 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا أَبُو ظَلَّالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ، عَنْ نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَلَكَ رَجُلَانِ مَفَازَةً: عَبِيدٌ، وَالْآخَرُ بِهِ رَهَقٌ، فَعَطَشَ الْعَابِدُ حَتَّى سَقَطَ، فَجَعَلَ صَاحِبُهُ يَنْظُرُ إِلَيْهِ، وَمَعَهُ مِیْضَاءٌ فِيهَا شَيْءٌ مِنْ مَاءٍ، فَجَعَلَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ وَهُوَ صَرِيحٌ، فَقَالَ: وَاللَّهِ لَئِنْ مَاتَ هَذَا الْعَبْدُ الصَّالِحُ عَطَشًا وَمَعِيَ مَاءٌ لَا أُصِيبُ مِنَ اللَّهِ خَيْرًا أَبَدًا، وَلَئِنْ سَقَيْتُهُ مَائِي لَا مَوْتَنَ، فَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَعَزَمَ، فَرَشَّ عَلَيْهِ مِنْ مَائِهِ وَسَقَاهُ فَضَلَّهُ، فَقَامَ حَتَّى قَطَعَا الْمَفَازَةَ، فَيُوقَفُ الَّذِي بِهِ رَهَقٌ يَوْمَ

دن گناہ گار کو حساب کے لیے روک لیا جائے گا۔ اس کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو۔ اس کو فرشتے ہانک کر لے چلیں گے عبادت گزار کو وہ دیکھے گا تو کہے گا: اے فلان! کیا آپ مجھے پہچانتے نہیں ہو؟ وہ کہے گا: آپ کون ہیں؟ وہ جواب دے گا: میں وہی ہوں جس نے پیاس کی حالت میں آپ کو خود پر ترجیح دی تھی، وہ کہے گا: کیوں نہیں! پہچانتا ہوں، فرشتوں کو کہے گا: ٹھہرو! وہ ٹھہریں گے، وہ آئے گا یہاں تک کہ رُکے گا، اللہ عزوجل سے دعا کرے گا: اے رب! تو اس کے احسان کو جانتا ہے کہ اس نے مجھے اپنے اوپر ترجیح دی تھی، اے میرے رب! میرے لیے اس پر رحم کر! یا اس کا معاملہ مجھ پر چھوڑ دے! اللہ عزوجل اس کو فرمائے گا: وہ تیرا ہے، وہ آئے گا اپنے بھائی کا ہاتھ پکڑے گا اور جنت میں داخل کرے گا۔ حضرت جعفر بن سلیمان فرماتے ہیں: میں نے ابوظلال سے کہا: حضرت انس نے آپ کو رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے بیان کیا ہے، فرمایا: جی ہاں!

یہ حدیث ابوظلال سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں صلت اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے ساتھیوں کو جمع کرو! میں مسجد میں ایک ایک کر کے تلاش کر کے اٹھانے لگا، ہم حضور ﷺ کے دولت خانہ پر آئے، میں داخل ہوا، ہمارے آگے آپ نے دو دم جو رکھے، ہم کو فرمایا: کھاؤ اللہ

الْقِيَامَةِ لِلْحِسَابِ، فَيُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، فَتَسْوِفُهُ الْمَلَائِكَةُ، فَيَرَى الْعَابِدَ، يَقُولُ: يَا فَلَانُ، أَمَا تَعْرِفُنِي؟ يَقُولُ: وَمَنْ أَنْتَ؟ يَقُولُ: أَنَا فَلَانُ الَّذِي آثَرْتَكَ عَلَى نَفْسِي يَوْمَ الْمَفَازَةِ، يَقُولُ: بَلَى، أَعْرِفُكَ. يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ: قِفُوا، فَيَقْفُونَ وَيَجِيءُ حَتَّى يَقِفَ، فَيَدْعُو رَبَّهُ عَزَّ وَجَلَّ، يَقُولُ: يَا رَبِّ قَدْ تَعْرِفُ يَدَهُ عِنْدِي، وَكَيْفَ آثَرْتَنِي عَلَى نَفْسِي، يَا رَبِّ هَبْهُ لِي، يَقُولُ لَهُ: هُوَ لَكَ، فَيَجِيءُ فَيَأْخُذُ بِيَدِ أَخِيهِ، فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ قَالَ جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ: فَقُلْتُ لِأَبِي ظَلَالٍ: حَدِّثْكَ أَنَسُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: نَعَمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي ظَلَالٍ إِلَّا جَعْفَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلْتُ

2907 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَبَادٍ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اجْمَعُ أَصْحَابَكَ فَجَعَلْتُ اتَّبَعُهُمْ فِي الْمَسْجِدِ رَجُلًا

کا نام لے کر۔ اور رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس وقت پیالہ رکھا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! آل محمد کے پاس اس کے علاوہ کوئی شے نہیں ہے جو تم دیکھ رہے ہو۔ ہم نے کھایا اور سیر ہو گئے باقی لنگر اسی طرح پڑا رہا، ہم ستر یا اسی افراد تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی: جب تم کھا کر فارغ ہوئے تو اس میں کوئی کمی دیکھی؟ فرمایا: جس وقت ہم کھا کر فارغ ہوئے تو اس میں صرف انگلیوں کے نشانات دیکھے۔

رَجُلًا، أَوْ قَطُّهُمْ، فَاتَيْنَا بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَدَخَلْنَا، فَوَضَعَتْ بَيْنَ أَيْدِينَا صَحْفَةً صَنِيعَ قَدَرِ مُدَبِّينِ شَعِيرٍ، فَقَالَ لَنَا: كُلُوا بِسْمِ اللَّهِ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ وَضَعَتِ الصَّحْفَةَ: وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ، مَا فِي آلِ مُحَمَّدٍ قَبْسُ شَيْءٍ غَيْرَ مَا تَرَوْنَهُ فَآكَلْنَا حَتَّى شَبِعْنَا، وَبَقِيَ مِنْهَا بَقِيَّةٌ، وَكُنَّا مَا بَيْنَ السَّبْعِينَ إِلَى الثَّمَانِينَ قِيلَ لِأَبِي هُرَيْرَةَ: مِثْلُ آيَشٍ كَانَتْ حِينَ فَرَعْتُمْ مِنْهَا؟ فَقَالَ: مِثْلُهَا حِينَ وَضَعْتُ، إِلَّا أَنَّ فِيهَا أَثَرُ

الْأَصَابِعِ

یہ حدیث اسحاق بن سالم سے صرف انیس بن ابی یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ سَالِمٍ إِلَّا أَنِيسُ بْنُ أَبِي يَحْيَى

2908 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب بیمار ہوئے تو آپ کے پاس حضرت عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہما تھیں، اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے، جب حضور ﷺ نے ان کو دیکھا تو آپ نے اپنا سر اٹھایا، پھر فرمایا: میرے قریب ہو جاؤ! میرے قریب ہو جاؤ! آپ نے ان کے ساتھ ٹیک لگائی، وصال تک آپ نے ٹیک لگائی رکھی، جب آپ کا وصال ہوا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، دروازہ بند کر دیا، حضرت عباس آئے اور آپ کے ساتھ عبدالمطلب کے بیٹے تھے وہ دروازہ پر کھڑے رہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے: آپ کی زندگی اور وصال مبارک میں خوشبو مہکتی رہی، اس کی مثل لوگوں نے نہیں پائی ہے

سَيَّارِ الْمُرُوزِيِّ قَالَ: نَا عَبْدَانُ بْنُ عُمَانَ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا ثَقُلَ، وَعِنْدَهُ عَائِشَةُ وَحَفْصَةُ، إِذْ دَخَلَ عَلِيٌُّّ، فَلَمَّا رَأَاهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ رَأْسَهُ، ثُمَّ قَالَ: اذُنُ مِئِي، اذُنُ مِئِي فَاسْنَدَهُ إِلَيْهِ، فَلَمْ يَزَلْ عِنْدَهُ حَتَّى تَوَفَّيَ، فَلَمَّا قَضَى قَامَ عَلِيٌُّّ وَأَعْلَقَ الْبَابَ، وَجَاءَ الْعَبَّاسُ وَمَعَهُ بَنُو عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَامُوا عَلَى الْبَابِ، فَجَعَلَ عَلِيٌُّّ يَقُولُ: مَا زِلْتُ طَيِّبًا حَيًّا، وَطَيِّبًا مَيِّتًا، وَسَطَعَتْ رِيحُهُ طَيِّبَةً لَمْ يَجِدُوا مِثْلَهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا رِيحُ حَنِينِكَ كَحَنِينِ الْمَرَاةِ، وَأَقْبَلُوا عَلَى

آپ سے خوشبو مہک رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے، حضرت علی نے فرمایا: میرے پاس فضل بن عباس داخل ہو جائیں! انصار کہنے لگے: ہم آپ کو اللہ کی قسم دیتے ہیں، رسول اللہ ﷺ کے پاس آنے کا ہمارا بھی حصہ ہے، انصار میں ایک آدمی داخل ہوا، اس کو اوس بن خولی کہا جاتا تھا، اس نے اپنے ہاتھ میں ایک گھڑا اٹھایا، اس نے گھر کے اندر آواز سنی، رسول اللہ ﷺ کے کپڑے نہ اتارو، آپ کو غسل دو، اس قیص میں جو آپ پر ہے۔ حضرت علی نے غسل دیا، آپ نے اپنا ہاتھ حضور ﷺ کی قیص کے نیچے سے ڈالا اور فضل نے آپ سے کپڑا پکڑا، ہوا تھا، انصاری پانی بہا رہے تھے، حضرت علی کے ہاتھ میں کپڑا تھا، وہ آپ کی قیص کے نیچے داخل کرتے تھے۔

صَاحِبِكُمْ. فَقَالَ عَلِيٌّ: اَدْخِلُوا عَلَيَّ الْفَضْلَ بْنَ الْعَبَّاسِ، فَقَالَتِ الْأَنْصَارُ: نَشَدْنَاكُمْ بِاللَّهِ فِي نَصِينَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ، فَادْخُلُوا رَجُلًا مِنْهُمْ، يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ خَوْلِي، يَحْمِلُ جِرَّةً بِإِحْدَى يَدَيْهِ، فَسَمِعُوا صَوْتًا فِي الْبَيْتِ: لَا تَجْرِدُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَغْسِلُوهُ كَمَا هُوَ فِي قَيْصِهِ، فَغَسَلَهُ عَلِيٌّ، يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَيْصِ، وَالْفَضْلُ يُمْسِكُ الثَّوْبَ عَنْهُ، وَالْأَنْصَارِيُّ يُنْقَلُ الْمَاءَ، وَعَلَى يَدِ عَلِيٍّ حِرْقَةٌ، يُدْخِلُ يَدَهُ تَحْتَ الْقَيْصِ

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد اور ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ عرب کے لوگ سال کو مہینہ اور دو مہینے بناتے تھے وہ ہر چھیس (۲۶) سال میں ایک بار صحیح وقت پر حج کرتے تھے یہ ہی نسی کا مطلب ہے، جس کا اللہ عزوجل نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے، جس سال لوگوں کو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حج کروایا، اس سال حج کا سال تھا۔ اللہ عزوجل نے اس کا نام حج اکبر رکھا تھا، پھر آئندہ سال حضور ﷺ نے حج کیا، لوگوں نے چاندوں کے گزرنے کا انتظار کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا: زمانہ گھوم کر اس دن پر جائے گا، جس دن اللہ عزوجل نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے۔

2909 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ مَسْعُودٍ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفَاوِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: كَانَ الْعَرَبُ يَجْعَلُونَ عَامًا شَهْرًا وَعَامًا شَهْرَيْنِ، وَلَا يُصَيِّونَ الْحَجَّ إِلَّا فِي كُلِّ سِتَّةٍ وَعِشْرِينَ سَنَةً مَرَّةً، وَهُوَ النَّسِيُّ الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ، فَلَمَّا كَانَ عَامُ حَجِّ أَبِي بَكْرٍ بِالنَّاسِ وَافَقَ فِي ذَلِكَ الْعَامِ الْحَجَّ، فَسَمَّاهُ اللَّهُ الْحَجَّ الْأَكْبَرَ، ثُمَّ حَجَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ، فَاسْتَقْبَلَ النَّاسُ الْأَهْلَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ
اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ إِلَّا
دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدَ، وَلَا عَنْ دَاوُدَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ الصَّلْتُ

2910 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ

مُهْرَانَ السَّبَّكَ قَالَ: نا عَبْدُ الوَارِثِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ
أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ، وَهُوَ بِمَكَّةَ، بِالنَّجْمِ، وَسَجَدَ
مَعَهُ الْمُسْلِمُونَ وَالْمُشْرِكُونَ وَالْجِنُّ وَالْإِنْسُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ
الْوَارِثِ

2911 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْحَبَّاجِ قَالَ: نا عَبْدُ الوَارِثِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ،
عَنْ ابْنِ عَمْرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
إِذَا وُضِعَ الْعِشَاءُ وَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَبْدُوا بِالْعِشَاءِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا عَبْدُ

الْوَارِثِ

2912 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا اِبْرَاهِيمُ بْنُ

یہ حدیث عمرو بن شعیب اپنے والد سے وہ ان کے دادا
سے روایت کرتے ہیں ان سے صرف داؤد بن ابی ہند ہی
روایت کرتے ہیں اور داؤد سے صرف محمد بن عبدالرحمن ہی
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں صلت اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے مکہ میں سورہ نجم کا سجدہ کیا، آپ کے
ساتھ مسلمان، مشرک، جن وانس نے سجدہ کیا۔

یہ حدیث ایوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جب شام کا کھانا حاضر ہو اور نماز کا
وقت ہو جائے تو پہلے کھانا کھالیا کرو۔

یہ حدیث ایوب سے صرف عبدالوارث ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

2910 - أخرجه البخاری: السجود جلد 2 صفحہ 644 رقم الحدیث: 1071، والترمذی: سنہ جلد 2 صفحہ 464 رقم

الحدیث: 575 .

2911 - أخرجه البخاری: الأطعمه جلد 9 صفحہ 497-498 رقم الحدیث: 5463، ومسلم: المساجد جلد 1

صفحہ 392 .

2912 - أخرجه البخاری: الأشربة جلد 10 صفحہ 69 رقم الحدیث: 5610، ومسلم: الأشربة جلد 3 صفحہ 1574

حضور ﷺ نے تراور خشک کھجوریں ملانے سے منع فرمایا ہے (کہ دونوں کو الگ الگ بیچا جائے)۔

یہ حدیث حماد بن جعد سے صرف ابراہیم بن حجاج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک رات اپنے گھر سے نکلے، آپ کے ساتھ صحابہ کرام بھی تھے، آپ مدینہ کی کسی گلی سے گزرنے لگے، آپ کا گزرا ایک قوم کے صحن سے ہوا ان کے صحن میں بکری کے بچے کو پایا جو مردار پڑا ہوا تھا۔ اس کی طرف دیکھنے لگے، پھر اپنے صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے، فرمایا: تم یہ مردار دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالک نے اس کو حقیر سمجھ کر پھینک دیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: اللہ کے ہاں دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے، جتنا یہ مردار اپنے مالک پر جب اس نے اس کو اس طرح پھینک دیا ہے۔

ابن عمر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن سقیر اکیلے ہیں۔

حضرت برید بن ابی مریم السلولی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ ﷺ کو

الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ الْجَعْدِ الْهَدَلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الرُّطْبِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ الْجَعْدِ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ

2913 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ، نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا بَكَّارُ بْنُ سُقَيْرٍ الْاَعْرَجُ قَالَ: حَدَّثَنِي اِبْنُ سُقَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ مِنْ مَنْزِلِهِ، وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ اَصْحَابِهِ، فَاخَذَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَمَرَّ بِفِنَاءِ قَوْمٍ، وَسَخَلَةَ مَيْتَةٌ مَطْرُوحَةٌ بِفِنَائِهِمْ، فَقَامَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ إِلَيْهَا، ثُمَّ التَفَّتْ اِلَى اَصْحَابِهِ، فَقَالَ: تَرَوْنَ هَذِهِ السَّخَلَةَ هَانَتْ عَلَى اَهْلِهَا اِذْ طَرَحُوهَا؟ فَقَالُوا: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ. فَقَالَ: فَوَاللَّهِ، لَلدُّنْيَا اَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ السَّخَلَةِ عَلَى اَهْلِهَا اِذْ طَرَحُوهَا هَكَذَا

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكَّارُ بْنُ سُقَيْرٍ

2914 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ يَسَارٍ اَبُو رُوْحٍ

2913- انظر: الفقات جلد6 صفحہ 107 .

2914 - أخرجه أحمد: المسند جلد4 صفحہ 218 رقم الحديث: 17610، والطبرانی في الكبير جلد19 صفحہ 275 رقم

الحديث: 604 . انظر: مجمع الزوائد جلد3 صفحہ 265 .

فرماتے ہوئے سنا: اے اللہ! حلق کروانے والوں کو بخش دے! قوم میں ایک آدمی نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! بال کٹوانے والوں کے لیے بھی دعا کریں! آپ نے پھر دعا کی: اے اللہ! حلق کروانے والوں کی مغفرت کر! چوتھی مرتبہ آپ نے بال کم کٹوانے والوں کے لیے دعا کی۔

الْكِلَابِيُّ قَالَ: نَا بُرَيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ السَّلُولِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ سَمِعَ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِينَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِلْمُقَصِّرِينَ، حَتَّى إِذَا كَانَ فِي الرَّابِعَةِ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِينَ

یہ حدیث بریدہ بن ابی مریم سے صرف حبان بن یسار ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ إِلَّا حَبَّانُ بْنُ يَسَارٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: میں جہاد کرنا چاہتا ہوں لیکن میں اس کی طاقت نہیں رکھتا ہوں! آپ نے فرمایا: کیا تیرے والدین میں کوئی ایک زندہ ہے؟ اس نے عرض کی: میری والدہ زندہ ہے! آپ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے تیرا عذر قبول کر لیا، ماں کی خدمت کی وجہ سے اگر تو ماں کی خدمت کرے گا تو حج و عمرہ و جہاد کا ثواب پالے گا بشرطیکہ ماں بھی تجھ سے راضی ہو! اللہ سے ڈر اور ماں سے نیکی کر۔

2915 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ قَالَ: نَا مَيْمُونُ بْنُ نَجِيحِ أَبُو الْحَسَنِ قَالَ: نَا الْحَسَنُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنِّي أَشْتَهِي الْجِهَادَ، وَإِنِّي لَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ، فَقَالَ: هَلْ بَقِيَ أَحَدٌ مِنْ وَالِدَيْكَ؟ قَال: أُمِّي قَالَ: فَابْتَلِ اللَّهَ عُدْرًا فِي بَرِّهَا، فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ فَأَنْتَ حَاجٌّ وَمُعْتَمِرٌ وَمُجَاهِدٌ، إِذَا رَضِيَتْ عَنْكَ أُمَّكَ، فَاتَّقِ اللَّهَ وَبَرِّهَا

یہ حدیث حسن سے صرف ميمون ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا مَيْمُونٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے پاس تھے آپ کوئی شے کھا رہے تھے صحابہ

2916 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاهِبِ الْحَارِثِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَلَمَةَ بْنِ

2916 - أخرجه البخاری فی العلم جلد 1 صفحہ 198-199 رقم الحدیث: 72، ومسلم: المناقین جلد 4 صفحہ 2165

وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 18 رقم الحدیث: 4598، والطبرانی فی الکبیر جلد 12 صفحہ 412 رقم

الحدیث: 13521

آپ کے پاس تشریف فرما تھے حضور ﷺ نے فرمایا: وہ کون سا درخت ہے؟ جس کی مثال مسلمان آدمی کی طرح ہے سارے صحابہ کرام خاموش ہو گئے یہاں تک کہ قریب تھا کہ میں رسول کریم ﷺ کو جواب دیتا حالت یہ تھی کہ میں قوم میں چھوٹا تھا آپ نے فرمایا: وہ کھجور ہے۔

كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَأْكُلُ جُمَارًا، وَالْقَوْمُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ الشَّجَرِ شَجْرَةً مِثْلَ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ قَالَ: فَسَكَّتِ الْقَوْمُ حَتَّى كِدْتُ أَسْأَلُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا أَصْغَرُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: هِيَ النَّخْلَةُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى

یہ حدیث سلمہ سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت بہزی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت حسین بن علی رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کون سی التحیات پڑھتے تھے فرمایا: وہی جو حضور ﷺ پڑھتے تھے میں نے کہا کہ مجھے وہ التحیات سکھاؤ جو نبی کریم ﷺ سے سیکھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ پڑھتے تھے۔ وہ یہ ہے: ”التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ إِلَى آخِرِهِ“۔

2917 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ اَبُو مَالِكِ الْجَنْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: حَدَّثَنِي الْبُهَزِيُّ قَالَ: سَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ، عَنْ تَشْهَدِ عَلِيٍّ قَالَ: هُوَ تَشْهَدُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. فَقُلْتُ: حَدَّثَنِي بِتَشْهَدِ عَلِيٍّ، عَنْ تَشْهَدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ وَالرَّائِحَاتُ، وَالزَّكَايَاتُ وَالنَّاعِمَاتُ السَّابِعَاتُ الطَّاهِرَاتُ لِلَّهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ إِلَّا عَمْرُو

یہ حدیث عبد اللہ بن عطاء سے صرف عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ کو جب بھی دو کاموں کا اختیار دیا جاتا تو آپ ان میں سے آسان کو اختیار کرتے تھے۔

2918 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ صَالِحِ الْاَزْدِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ سَيَّاهٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي

2917 - أخرجه الطبرانی في الكبير رقم الحديث: 2905 .

2918 - أخرجه البخاری: المناقب جلد 6 صفحہ 654 رقم الحديث: 3560، ومسلم: الفضائل جلد 4 صفحہ 1813

ثَابِتٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا خَيْرَ رَسُولٍ
اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتَارَ
أَيَسَرَهُمَا

یہ حدیث حبیب سے صرف عبدالعزیز ہی روایت
کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا عَبْدُ
الْعَزِيزِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
بچوں کے پاس سے گزرتے تو آپ ان کو سلام کرتے۔

2919 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَلَّافِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ
سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ اَنَسٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ مَرَّ بِصَبِيَّانٍ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
نے (بچ و عمرہ دونوں کا احرام باندھا) بلند آواز سے تلبیہ
پڑھا۔

2920 - وَبِهِ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَرَخَ بِهِمَا، يَعْنِي: الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

یہ دونوں حدیثیں سعید سے صرف محمد بن سواء ہی
روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَيْنِ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ
سَوَاءٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے سبحان اللہ کہا اس کے لیے دس
نیکیاں لکھی جائیں گی؛ جس نے دس مرتبہ پڑھا اس کے
لیے ایک سو نیکیاں لکھی جائیں گی؛ جس نے اللہ سے بخشش
مانگی اللہ عزوجل اس کو معاف کر دے گا؛ جو ظلم کرنے کے
لپے لڑایا بغیر علم کے لڑا؛ وہ مسلسل اللہ کی ناراضگی میں رہے

2921 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ حُسَيْنِ الْمُعَلِّمِ، عَنْ
مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ
اللَّهِ، كُتِبَتْ لَهُ عَشْرًا، وَمَنْ قَالَهَا عَشْرًا مِرَارٍ كُتِبَتْ
لَهُ مِائَةٌ، وَمَنْ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ غَفْرًا لَهُ، وَمَنْ أَعَانَ عَلِيَّ

2919- أخرجه البخاری: الاستئذان جلد 11 صفحہ 34 رقم الحدیث: 6247، ومسلم: السلام جلد 4 صفحہ 1708 .

2920- أخرجه البخاری: الحج جلد 3 صفحہ 477 رقم الحدیث: 1548 . انظر: تلخیص الحیبر جلد 2 صفحہ 246 رقم

الحدیث: 2 .

2921- أخرجه أحمد: جلد 2 صفحہ 112 رقم الحدیث: 5543، والبیہقی فی الکبیر جلد 8 صفحہ 576 رقم

الحدیث: 17617-17618 .

گا یہاں تک کہ اس سے باز آ جائے، جس نے اللہ کی حدود میں سے کسی حد کو نالنے کی سفارش کی، اللہ اس سے ناراض ہوگا، جو اس حالت میں دنیا سے گیا کہ اس کے ذمہ قرض تھا، ایک دینار یا درہم۔ اس کی نیکیوں سے اس کا بدلہ دیا جائے گا، جس وقت اس کا قرض ادا کرنے کے لیے درہم اور دینار نہ ہوگا۔

یہ حدیث حسین سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں، ان سے روایت کرنے میں محمد بن عبدالرحمن اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ حضور ﷺ کے ساتھ تھا، آپ نے فرمایا: ائمہ بارہ ہوں گے، جو اس کو رسوا کرنا چاہے گا وہ ان کو نقصان نہیں دے سکے گا، رسول اللہ ﷺ نے ایک بات آہستہ کی جسے میں نہ سن سکا، میں نے اپنے والد سے کہا کہ جو کلمہ حضور ﷺ نے آہستہ کہا ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا: آپ ﷺ نے فرمایا کہ وہ سارے کے سارے قریش سے ہوں گے۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے معاہدہ بغیر حق کے توڑا تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا حالانکہ جنت کی خوشبو پانچ سو سال مسافت سے محسوس کی جاتی ہے۔

خُصُومَةٌ بظُلْمٍ أَوْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَمْ يَزَلْ فِي سَخَطِ اللَّهِ حَتَّى يَبْرَحَ، وَمَنْ حَالَتْ شَفَاعَتُهُ دُونَ حَدِّ مَنْ حُدُودِ اللَّهِ، فَقَدْ ضَادَّ اللَّهَ، وَمَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دِينَارٌ أَوْ دِرْهَمٌ قُصَّ مِنْ حَسَنَاتِهِ لَيْسَ ثَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَيْنٍ إِلَّا مُحَمَّدًا، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

2922 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَكُونُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ اثْنَا عَشَرَ قَيْمًا، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ وَهَمَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ لَمْ أَسْمَعْهَا، فَقُلْتُ لِأَبِي: الْكَلِمَةُ الَّتِي هَمَسَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ

2923 - وَبِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ

أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ نَفْسًا مُعَاهَدَةً بِغَيْرِ حَقِّهَا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ، وَإِنَّ رِيحَهَا لَتُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ

حَمْسِمَائَةَ عَامٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا مُحَمَّدًا

یہ حدیث سعید سے صرف محمد ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مشرق و مغرب کے درمیان قبلہ ہے۔

2924 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ اَبِي

الْعَلَاءِ الْهُمْدَانِيُّ، بِالْكُوفَةِ سَنَةَ ثَمَانَ وَثَمَانِينَ وَمِائَتَيْنِ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نَا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَلْقَمَةَ، عَنْ اَبِي سَلَمَةَ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ قِبْلَةٌ

یہ حدیث محمد بن عمرو سے صرف ابو معشر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا

أَبُو مَعْشَرٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت بریرہ کاشوہر غلام تھا۔

2925 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نَا أَبُو حَفْصِ الْأَبَّارُ، عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا

یہ حدیث نافع سے صرف ابن ابی لیلیٰ اور ابن ابی لیلیٰ سے صرف ابو حفص روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں حادثہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا ابْنُ اَبِي

لَيْلَى، وَلَا عَنِ ابْنِ اَبِي لَيْلَى إِلَّا أَبُو حَفْصٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَارِثُ

حضرت زید بن اسلم اپنے والد اسلم سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے رماد والے سال حج کیا

2926 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مَرَّارُ بْنُ

حَمُوَيْهِ الْهُمْدَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ أَبُو

2924- أخرجه الترمذی: الصلاة جلد 2 صفحہ 171 رقم الحدیث: 342-344، وابن ماجة: الاقامة جلد 1 صفحہ 323

رقم الحدیث: 1011. انظر: نصب الرایة جلد 1 صفحہ 303.

2925- أخرجه الدارقطنی: سننه جلد 3 صفحہ 293 رقم الحدیث: 177-178. انظر: الخیص الحبیر جلد 3

صفحہ 302-303 رقم الحدیث: 8.

سولہ سال جب سقیا اور عرج کے مقام پر آئے اور رات کے وقت آپ کے سامنے راستہ میں ایک سوار دکھائی دیا اس نے آواز دی کہا: کیا تم میں رسول اللہ ﷺ موجود ہیں اس کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تیرے لیے ہلاکت ہو! کیا تو سمجھتا ہے؟ اس نے کہا: عقل والا ہوں تب ہی میں چل رہا ہوں اس نے کہا: کیا رسول اللہ ﷺ کا وصال ہو گیا ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا: آپ کا وصال ہو گیا ہے۔ وہ رو پڑا صحابہ کرام بھی رو پڑے اس نے کہا: آپ ﷺ کے بعد امیر المؤمنین کون ہے؟ صحابہ کرام نے کہا: ابن ابی قحافہ! اس نے کہا: اخف بن تمیم کے خاندان سے؟ صحابہ کرام نے کہا: جی ہاں! اس نے کہا: کیا وہ تم میں موجود ہیں؟ صحابہ کرام نے کہا: ان کا وصال ہو گیا ہے۔ راوی کا بیان ہے: اس نے دعا کی صحابہ کرام نے بھی دعا کی اس نے کہا: ان کے بعد امیر المؤمنین کون ہے؟ کہا: عمر بن خطاب ہیں اس نے کہا: بنی عدی کا سرخ آدمی؟ صحابہ کرام نے کہا: جی ہاں! وہی ہستی جو ابھی آپ سے ہمکلام تھی تم کہاں ہو؟ اے بنو امیہ کے سفید آدمی اور بنی ہاشم کا صلح؟ انہوں نے جواب دیا: موجود ہیں تیرا کام کیا ہے؟ اس نے کہا: میں رسول کریم ﷺ سے ملا جبکہ میں ابو عقیل جعیلی ہوں۔ میں نے اسلام قبول کیا بیعت کی۔ آپ کے ساتھ ستویں پہلے چند گھونٹ آپ نے لیے (جو پتلے ہوتے ہیں) اور بعد والے مجھے پلائے (جو گاڑھے ہوتے ہیں) خدا کی قسم! مسلسل میں اس کی سفیدی محسوس کر رہا ہوں جب

زَكَرِيَّا الْمَدَنِيُّ، حَافِظُ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ قَيْسِ مَوْلَى بَنِي الْحَارِثِ بْنِ فَهْرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ أَسْلَمَ قَالَ: حَجَّ عُمَرُ عَامَ الرَّمَادَةِ سَنَةَ سِتِّ عَشْرَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بَيْنَ السَّقِيَا وَالْعَرَجِ فِي جَوْفِ اللَّيْلِ، عَرَضَ لَهُ رَاكِبٌ عَلَى الطَّرِيقِ، فَصَاحَ: أَيُّهَا الرَّكْبُ، أَيُّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: وَيْلَكَ، اتَّعَقِلْ؟ فَقَالَ: الْعَقْلُ سَاقِي إِلَيْكَ، تُوقِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالُوا: تُوقِي، فَبَكَى وَبَكَى النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ؟ قَالُوا: ابْنُ أَبِي قَحَافَةَ، فَقَالَ: أَحْنَفُ بَنِي تَيْمٍ؟ قَالُوا: نَعَمْ قَالَ: فَهُوَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: قَدْ تُوقِي قَالَ: فَدَعَا وَدَعَا النَّاسُ، فَقَالَ: مَنْ وَلِيَ الْأَمْرَ بَعْدَهُ قَالَ: عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ قَالَ: أَحْمَرُ بَنِي عَدِيٍّ؟ قَالُوا: نَعَمْ، هُوَ الَّذِي كَلَّمَكَ قَالَ: فَأَيْنَ كُنْتُمْ عَنْ أَبِيصَ بَنِي أُمَيَّةَ أَوْ أَصْلَعَ بَنِي هَاشِمٍ؟ قَالُوا: قَدْ كَانَ ذَلِكَ، فَمَا حَاجَتَكَ؟ قَالَ: لَقِيتُ رَسُولَ اللَّهِ، وَأَنَا أَبُو عَقِيلِ الْجُعَيْلِيُّ، عَلَى رَذَاهِ جُعَيْلٍ، فَاسَلَمْتُ وَبَايَعْتُ وَشَرِبْتُ مَعَهُ شَرْبَةً مِنْ سَوِيْقٍ، شَرِبْتُ أَوْلَاهَا وَسَقَانِي آخِرَهَا، فَوَاللَّهِ مَا زِلْتُ أَحِدُ شِبَعَهَا كُلَّمَا جُعْتُ، وَبَرَدَهَا كُلَّمَا عَطَشْتُ، وَرِيَّهَا كُلَّمَا ظَمِئْتُ إِلَى يَوْمِي هَذَا، ثُمَّ تَسَنَّمْتُ هَذَا الْجَبَلَ الْأَبْيَصَ أَنَا وَرَوْجَتِي وَبَنَاتِي لِي، فَكُنْتُ فِيهِ أَصْلِي فِي كُلِّ يَوْمٍ وَكَيْلَةَ خُمْسِ صَلَوَاتٍ، وَأَصُومُ شَهْرًا فِي السَّنَةِ،

وَأَذْبَحُ لِعَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ فَذَلِكَ مَا عَلَّمَنِي رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى دَخَلْتُ هَذِهِ السَّنَةَ،
فَلَا وَاللَّهِ مَا بَقِيَتْ لَنَا شَاةٌ إِلَّا شَاةٌ وَاحِدَةٌ بَعَثَهَا
الدِّئْبُ الْبَارِحَةَ، فَأَكَلَ بَعْضَهَا وَأَكَلْنَا بَعْضَهَا،
فَالغَوْثُ، الغَوْثُ فَقَالَ عُمَرُ: أَتَاكَ الغَوْثُ، أَصْبَحَ
مَعَنَا بِالمَاءِ وَمَضَى عُمَرُ حَتَّى جَاءَ المَاءُ، وَجَعَلَ
يَسْتَنْظِرُ، وَأَخْرَجَ الرِّوَاخَ مِنْ أَجْلِهِ، فَلَمْ يَأْتِ، فَدَعَا
صَاحِبَ المَاءِ، فَقَالَ: إِنَّ أَبَا عَقِيلٍ الجُعِيلِيَّ مَعَهُ
ثَلَاثُ بَنَاتٍ لَهُ وَزَوْجَتُهُ، فَإِذَا جَانِكَ فَأَنْفِقْ عَلَيْهِ
وَعَلَى أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ حَتَّى أَمْرُكَ رَاجِعًا إِنْ شَاءَ اللَّهُ،
فَلَمَّا قَضَى عُمَرُ حِجَّتَهُ رَجَعَ وَدَعَا صَاحِبَ المَاءِ،
فَقَالَ: مَا فَعَلَ أَبُو عَقِيلٍ؟ فَقَالَ: جَانَنِي الغَدَا يَوْمَ
حَدَّثْتَنِي، فَإِذَا هُوَ مَوْعُوكَ، فَمَرِضَ عِنْدِي لَيْالِي، ثُمَّ
مَاتَ، فَذَاكَ قَبْرُهُ، فَأَقْبَلَ عُمَرُ عَلَى أَصْحَابِهِ، فَقَالَ:
لَمْ يَرْضَ اللَّهُ لَهُ فِتْنَتَكُمْ، ثُمَّ قَامَ فِي النَّاسِ فَصَلَّى
عَلَيْهِ، وَضَمَّ بَنَاتَهُ وَزَوْجَتَهُ، فَكَانَ يُنْفِقُ عَلَيْهِمْ

بھی مجھے بھوک لگتی ہے اور اس کی ٹھنڈک محسوس کرتا ہوں
جب کبھی مجھے پیاس لگتی ہے آج کے اس دن تک اس کی
تری محسوس کرتا ہوں جب بھی مجھے تشنگی محسوس ہوتی ہے۔
اس سفید پہاڑ پر میں نے اپنی بیوی اور بیٹیوں کے ساتھ
ڈیرہ ڈال لیا۔ پس میں اس میں رات دن میں پانچ
نمازیں پڑھتا ہوں سال میں ایک ماہ کے روزے رکھتا
ہوں دسویں ذی الحجہ کو قربانی کرتا ہوں۔ پس یہ وہ چیزیں
ہیں جو رسول کریم ﷺ نے مجھے سکھائی تھیں یہاں تک
کہ یہ سال آ گیا۔ قسم بخدا! میرے پاس صرف ایک ہی
کبری رہ گئی تھی، گزشتہ رات بھڑیے نے اس پر حملہ کیا۔
کچھ اُس نے کھائی باقی کچھ ہم نے کھائی۔ المدد المدد!
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مدد تیرے پاس آگئی
ہے! صبح ہمارے پاس پانی لے کر آؤ۔ حضرت عمر چلے
گئے اور وہ پانی پر آ کر انتظار کرنے لگا موت کی وجہ سے
اس کا لوٹنا مؤخر ہو گیا پس واپس نہ آیا۔ اس نے پانی
والے کو آواز دی اور کہا: ابو عقیل جعیلی ہے اس کے ساتھ
اس کی تین بیٹیاں اور ایک بیوی ہے جب تیرے پاس
آئے تو اس پر اور اس کی بیوی بچوں پر خرچ کر یہاں تک
کہ میں واپس آؤں انشاء اللہ! جب حضرت عمر حج کر کے
واپس آئے تو صاحب ماء کو بلایا اور فرمایا: ابو عقیل نے کیا
کیا؟ اس نے عرض کی: جس دن آپ نے مجھ سے بات
کی وہ اس سے دوسرے دن میرے پاس آیا جبکہ اسے
بخار تھا۔ کئی راتیں میرے پاس بیمار رہا پھر فوت ہو گیا۔ یہ
اس کی قبر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں

کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تمہیں آزمائش میں ڈالنا پسند نہیں کیا۔ پھر لوگوں میں کھڑے ہو کر اس کے لیے دعا کی اور اس کی بیٹیوں اور بیوی کو اس کے ساتھ ملا دیا اور وہ ان پر خرچ کرتے رہے۔

یہ حدیث ابو عقیل سے صرف اسی سند کے ساتھ روایت ہے اور مرار اس کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ اپنے منہ کو مسواک سے صاف کرتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی کسی زوجہ محترمہ کا ہر سہ کے ساتھ ولیمہ کیا۔

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ مقام جابہ پر ہم کو خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے، فرمایا: ہم میں رسول اللہ ﷺ اس مقام میں کھڑے ہوئے تھے، فرمایا: میرے صحابہ کی عزت کرنا، پھر ان سے ملنے والوں کی، پھر اس کے بعد جھوٹ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي عَقِيلٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَرَّارٌ

2927 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْخَازِنُ قَالَ: نَا أَبُو حَفْصٍ الْأَبَّارُ، عَنْ مَنْصُورٍ، وَالْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَإِلٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشُوصُ فَاَهُ بِالسَّوَاكِ

2928 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مَرَّارٌ بْنُ حَمُوَيْهٍ قَالَ: نَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: نَا جَرَّوْلُ بْنُ جَيْفَلٍ الْحَرَّانِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَيَّ بَعْضٍ مِنْ نِسَائِهِ بِقَدْرِ مَنْ هُرَيْسَةَ

2929 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ عِصَامٍ الْجُرْجَانِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: خَطَبَنَا عُمَرُ بِالْحَابِيَةِ، فَقَالَ: قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

2927- أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1 صفحہ 424 رقم الحديث: 245، ومسلم: الطهارة جلد 1 صفحہ 221 .

2928- انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 53 .

2929- أخرجه أحمد: المسند جلد 1 صفحہ 33 رقم الحديث: 178، وابن حبان (2282/موارد) .

ظاہر ہوگا یہاں تک کہ آدمی گواہی دے حالانکہ اس سے گواہی طلب نہیں کی جائے گی ایک آدمی قسم اٹھائے گا حالانکہ اس سے قسم مانگی نہیں جائے گی جو جنت میں جانا چاہتا ہے وہ جماعت کو اختیار کرے بے شک کیونکہ شیطان ایک کے ساتھ ہوتا ہے اور دوسے وہ دُور رہتا ہے خبردار! کوئی آدمی کسی عورت کے ساتھ خلوت نہ کرے اگر کرے گا تو تیسرا شیطان اس کے ساتھ ہوگا خبردار! جس کو اس کی نیکی خوش کرے اور بُرائی پریشان کرے وہ مؤمن ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابو داؤد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبد الحمید اکیلا ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حروریہ سے ایک آدمی آیا اس نے کہا: اے ابو عبد الرحمن! میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھیوں کے ساتھ مروں ان کے بعد دنیا میں نہ رہوں حج و عمرہ کرنا اور جہاد چھوڑتا تھا؟ حروریہ نے جواب دیا: تیری ماں تجھ پر روئے! اگر میں ان کے پچاس سال بعد پیدا ہوا ہوں میں حسرت کر رہا ہوں۔ پھر حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے: اللہ کی عبادت کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ ملک شام میں ایک بڑا آدمی آپ کے پاس بیٹھا ہوا تھا اس نے کہا: آپ اس کو اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں آپ نے فرمایا: جی ہاں! اس نے کہا: روزے تو حج سے پہلے ہیں آپ نے کہا:

وَسَلَّمَ مَقَامِي فِيكُمْ، فَقَالَ: اَكْرَمُوا اصْحَابِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَفْشُو الْكِذْبُ حَتَّى يَشْهَدَ الرَّجُلُ وَكَمْ يُسْتَشْهَدُ، وَيَحْلِفُ الرَّجُلُ وَكَمْ يُسْتَحْلَفُ، فَمَنْ ارَادَ بُجُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزِمِ الْجَمَاعَةَ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ مَعَ الْوَالِدِ، وَهُوَ مِنَ الْاِثْنَيْنِ اَبَعْدُ، اَلَا لَا يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِامْرَاةٍ، فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا الشَّيْطَانُ، اَلَا وَمَنْ سَرَّتْهُ حَسَنَتُهُ، وَسَاءَتْهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ اِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ

2930 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ نَائِلَةَ الْاَصْبَهَانِيُّ قَالَ: تَابِعْتُ بَنِي عُبَيْدَةَ التَّمَارِ قَالَ: نَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاحٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ طَارِقٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي هِنْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْحَرُورِيِّةِ، فَقَالَ: يَا اَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، لَوِ دِدْتُ اَنْتَكَ مِتَّ مَعَ اصْحَابِكَ وَكَمْ تَبَقَ بَعْدَهُمْ، اَقْبَلْتَ عَلَيَّ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، وَتَرَكْتَ الْجِهَادَ؟ فَاجَابَ الْحَرُورِيُّ: ثَكَلْتُكَ اُمَّكَ، لَئِنْ كُنْتُ كَاثِبًا بَعْدَهُمْ خَمْسِينَ سَنَةً اَتَفَصَّ لَقَدْ خُلِقْتُ لِلتَّحَسُّرِ، ثُمَّ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ: بِنِي الْاِسْلَامِ عَلَيَّ خَمْسٍ: عَلَيَّ اَنْ يُعْبَدَ اللَّهُ، وَاِقَامِ الصَّلَاةِ، وَاِيْتَاءِ الزَّكَاةِ، وَحَجِّ بَيْتِ اللَّهِ، وَصَوْمِ رَمَضَانَ. فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ اَهْلِ الشَّامِ

میں تو ان کے آخر میں رکھوں گا میں نے رسول اللہ ﷺ کے منہ مبارک سے اسی طرح سنا ہے۔

عِنْدَهُ جَالِسٌ: اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ تَأْمُرُ بِهَا؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَعَدَّ الصَّوْمَ قَبْلَ الْحَجِّ، فَقَالَ: لَا اَجْعَلُهُ اِلَّا اٰخِرَهُنَّ، هَكَذَا سَمِعْتُهَا مِنْ فِى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت سعد اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس موزوں پر مسح کے متعلق ذکر کیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: سعد آپ سے زیادہ فقیہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اے سعد! ہم انکار نہیں کر رہے ہیں کہ حضور ﷺ مسح کرتے تھے لیکن کیا آپ نے سورہ مائدہ نازل ہونے کے ساتھ مسح کیا؟ فرمایا: اس میں تو کسی کو کلام نہیں ہے، کیونکہ ہر شی کی حکمت ہوتی ہے سو قرآن میں آخری سورہ برآة نازل ہوئی ہے۔

2931 - وَبِهِ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَاجٍ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، وَعِكْرِمَةَ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، اَنَّهُ قَالَ: ذَكَرَ الْمَسْحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عِنْدَ عُمَرَ سَعْدٌ وَعَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ، فَقَالَ عُمَرُ: سَعْدُ اَفْقَهُ مِنْكَ، فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَبَّاسٍ: يَا سَعْدُ، اِنَّا لَا نُنْكِرُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّ مَسَحَ، وَلٰكِنْ هَلْ مَسَحَ مُنْذُ اُنزِلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: فَلَمْ يَتَكَلَّمْ اَحَدٌ، فَاِنَّهَا اَحْكَمَتْ كُلَّ شَيْءٍ، وَكَانَتْ اٰخِرَ سُورَةٍ اُنزِلَتْ مِنَ الْقُرْآنِ اِلَّا بَرَاءَةَ

یہ دونوں حدیثیں معتمر سے صرف عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُعْتَمِرٍ اِلَّا عُبَيْدٌ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا وہ جنت میں داخل ہو گیا، جنت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اگرچہ وہ جنت میں داخل ہو گیا، آپ ﷺ نے فرمایا: اگرچہ وہ زانی اور چور ہو ابودرداء کی ناک خات آلودہ ہو!

2932 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عَرَادَةَ الشَّيْبَانِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَنْظَلِيُّ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيَوَةَ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ اَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ، دَخَلَ الْجَنَّةَ فَقَالَ اَبُو الدَّرْدَاءِ: وَاِنْ زَنَا، وَاِنْ سَرَقَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَاِنْ زَنَا وَاِنْ سَرَقَ، عَلٰى رَغَمِ اَبِي

الدَّرْدَاءُ .

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَجَاءِ الْأَ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ، وَلَا
رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَرَادَةَ

2933 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ، عَنْ
خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قَلَابَةَ، عَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، عَنْ
مُطَرِّفٍ، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فَقَالَ فِي خِطْبَتِهِ: إِنَّ رَبِّي عَزَّ
وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ أُعَلِّمَكُمْ مَا جَهِلْتُمْ مِمَّا عَلَّمَنِي فِي
يَوْمِي هَذَا: إِنَّ كُلَّ مَالٍ نَحَلْتُهُ عَبْدِي حَلَالٌ، وَإِنِّي
خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلِّهُمْ، وَإِنَّهُمْ أَتَّهَمُوا الشَّيَاطِينَ
فَاجْتَأَلْتَهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، وَحَرَمْتُ عَلَيْهِمْ مَا أَحَلَّكَ
لَهُمْ، وَأَمَرْتَهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا أَبِي مَا لَمْ أَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانًا
وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ نَظَرَ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ فَمَقَّتَهُمْ،
عَجَمَهُمْ وَعَرَبَهُمْ إِلَّا بَقَايَا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَقَالَ:
إِنَّمَا بَعَثْتُكَ لِابْتِلَايِكَ وَابْتِلَايَ بِكَ، فَانزَلْتُ عَلَيْكَ
كِتَابًا لَا يَغْسِلُهُ الْمَاءُ، تَقْرَأُهُ نَائِمًا وَيَقْظَانِ وَإِنَّ اللَّهَ
عَزَّ وَجَلَّ أَمَرَنِي أَنْ آتِي قُرَيْشًا، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ إِذَا
يَسْلُغُوا رَأْسِي، فَيَدْعُوهُ حَبْرَةٌ، فَقَالَ: اسْتَخْرِجْهُمْ
كَمَا اسْتَخْرَجُواكَ، وَأَغْرَهُمْ نَغْرَكَ، وَأَنْفِقْ فَسَنَنْفِقُ
عَلَيْكَ، وَأَبْعَثْ جَيْشًا أَبْعَثَ خَمْسَةَ أَمْثَالِهِ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ

رجاء سے صرف محمد بن زبیر اور محمد بن زبیر سے
صرف عبد اللہ بن عرادہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے خطبہ دیا، خطبہ میں فرمایا: میرے رب
نے مجھے حکم دیا کہ میں تم کو وہ چیز سکھاؤں جس سے تم
ناواقف ہو جو آج اللہ نے مجھے سکھایا ہے، اس میں سے
کچھ یہ ہے کہ سب مال میں نے اپنے بندوں کے لیے
حلال کیے ہیں، میں نے سب بندوں کو حق پر پیدا کیا ہے،
ان کے پاس شیطان آتے ہیں ان کو دین سے دور کرتے
ہیں ان پر ان چیزوں کو حرام کرتے ہیں جو میں نے ان پر
حلال کی ہیں، ان کو شرک کرنے کا حکم دیتے ہیں، جس
کے اوپر کوئی دلیل نازل نہیں کی گئی، بے شک اللہ عزوجل
نے زمین والوں پر نظر فرمائی تو عرب و عجم کے سب لوگوں
سے نازض ہوا، سوائے اہل کتاب کے چند لوگوں سے
میں نے آپ کو آزمائش کے لیے بھیجا ہے اور آپ کے
ذریعے دوسروں کی آزمائش ہوگی، آپ پر کتاب نازل کی
ہے اس کو پانی نہیں دھوسکتا ہے اس کو سوتے جاگتے پڑھو،
بے شک اللہ عزوجل نے مجھے حکم دیا کہ میں قریش کے
پاس آؤں۔ میں نے عرض کی: اے رب! وہ تو اس وقت
میرا سروہ اس کو علیحدہ علیحدہ کر دیں گے۔ اللہ عزوجل نے
فرمایا: میں ان کو ایسے نکال دوں گا جس طرح انہوں نے
آپ کو نکالا ہے، آپ ان سے جہاد کریں، ہم آپ کی مدد
کریں گے، آپ خرچ کریں آپ پر خرچ کیا جائے گا،

آپ کی مدد کے لیے پانچ گنا فرشتوں کو بھیجا گیا مدد کے لیے۔

خالد حذاء سے صرف عبد الوہاب اور عبد الوہاب سے صرف مقدمی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے نرمی کرنے پر وہ دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا ہے۔

یہ حدیث قتادہ سے سعید اور سعید سے ابو عبیدہ اور ابو عبیدہ سے سعید جری روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل کے کچھ بندے ہیں لوگ ان کو نشانی کے ساتھ پہچانتے ہیں۔

ثابت سے ابو بشر اور ابو بشر سے صرف ابو عبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے ظہر کی نماز پڑھی جب آپ نے نماز سے سلام پھیرا تو آپ ہماری طرف حالت غصہ میں متوجہ ہوئے آپ نے بلند آواز میں آواز دی تو عورتوں نے اپنے

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ إِلَّا عَبْدُ الْوَهَّابِ،
وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ إِلَّا الْمُقَدَّمِيُّ

2934 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
أَيُّوبَ الْمَخْرَمِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرَمِيُّ
قَالَ: نَا أَبُو عُيَيْبَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي
عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَفِيقٌ يُحِبُّ
الرَّفِيقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا
أَبُو عُيَيْبَةَ، وَلَا عَنْ أَبِي عُيَيْبَةَ إِلَّا سَعِيدُ الْجَرَمِيُّ
2935 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدٌ قَالَ:

نَا أَبُو عُيَيْبَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نَا أَبُو بَشِيرٍ الْمَزَلِيُّ، عَنْ
ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يَعْرِفُونَ النَّاسَ
بِالتَّوَسُّمِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا أَبُو بَشِيرٍ، وَلَا عَنْ أَبِي
بَشِيرٍ إِلَّا أَبُو عُيَيْبَةَ

2936 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا
سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرَمِيُّ قَالَ: نَا أَبُو تَمِيمَةَ يَحْيَى
بْنُ وَاضِحٍ، عَنْ رُمَيْحِ بْنِ هَلَالِ الطَّائِي قَالَ: نَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: صَلَّيْنَا الظُّهْرَ خَلْفَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا انْقَلَبَ مِنْ

گھروں کے اندر سن لیا، فرمایا: اے گروہ! جو اسلام لائے ہیں وہ اپنے دلوں میں ایمان کیوں داخل نہیں کرتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف نہ دو! ان کے عیب تلاش نہ کرو! کیونکہ جو اپنے مسلمان بھائی کے عیب تلاش کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے چھپے ہوئے عیب ظاہر کرے گا، اگرچہ اس نے اپنے گھر کے اندر چھپ کر گناہ کیا ہوگا۔

بریدہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: انبیاء کے لیے سونے کے منبر رکھے جائیں گے، وہ اس پر بیٹھے ہوئے ہوں گے، میرا منبر باقی رہے گا اس پر نہیں بیٹھوں گا، میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوں گا، اپنی امت کو جنت بھیجنے کے لیے اس خدشے سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے جنت میں بھیج دیا جائے اور میرا ایک امتی میرے پیچھے جنت جانے سے رہ جائے۔ میں عرض کروں گا: اے رب! میری امت! میری امت! اللہ عزوجل فرمائے گا: اے محمد ﷺ! آپ کیا چاہتے ہیں میں آپ کی امت سے کیا سلوک کروں؟ میں عرض کروں گا: اے رب! ان کے حساب میں نرمی کر! ان کو بلایا جائے گا، ان سے حساب لیا جائے گا، ان میں سے کچھ کو جنت میں داخل کروں گا، اپنی رحمت سے ان میں سے کچھ لوگ جنت میں داخل ہوں گے، میری شفاعت سے، میں مسلسل شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مردوں کا ایسا گروہ مجھے دیا جائے گا جن کو جہنم میں بھیج دیا گیا ہوگا، یہاں تک کہ جہنم کا خازن عرض کرے گا: اے

صَلَاتِهِ أَقْبَلَ عَلَيْنَا غَضَبَانَ، فَنَادَى بِصَوْتٍ أَسْمَعَ الْعَوَاتِقَ فِي أَجْوَابِ الْخُدُورِ، فَقَالَ: يَا مَعْشَرَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَمْ يَدْخُلِ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ، لَا تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ، وَلَا تَطْلُبُوا عَوْرَاتِهِمْ، فَإِنَّهُ مَنْ يَطْلُبُ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ هَتَكَ اللَّهُ سِتْرَهُ، وَأَبَدَى عَوْرَتَهُ وَلَوْ كَانَ فِي سِتْرِ بَيْتِهِ

لَا يُرَوَى عَنْ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

2937 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ

مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْبُنَائِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ نَوْفَلٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُوْضَعُ لِلنَّبِيِّاءِ مَنَابِرُ مِنْ ذَهَبٍ يَجْلِسُونَ عَلَيْهَا، وَيَبْقَى مِنْبَرِي لَا أَجْلِسُ عَلَيْهِ، فَأَنْتُمْ بَيْنَ يَدَي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ مُتَّصِبًا لِأُمَّتِي مَخَافَةً أَنْ يَبْعَثَ بِي إِلَى الْجَنَّةِ، وَتَبْقَى أُمَّتِي بَعْدِي، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ، أُمَّتِي أُمَّتِي - فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: يَا مُحَمَّدُ، مَا تُرِيدُ أَنْ أَصْنَعَ بِأُمَّتِكَ؟ فَأَقُولُ: يَا رَبِّ اعْدِلْ حِسَابَهُمْ، فَيُدْعَى بِهِمْ فَيَحَاسِبُونَ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِرَحْمَةِ اللَّهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ بِشَفَاعَتِي فَمَا أزال أَشْفَعُ حَتَّى أُعْطَى صِغَاغًا بِرِجَالٍ قَدْ بُعِثَ بِهِمْ إِلَى النَّارِ، وَحَتَّى إِنَّ مَالِكًا خَازِنَ النَّارِ يَقُولُ: يَا مُحَمَّدُ مَا تَرَكْتِ لِعَضْبِ رَبِّكَ مِنْ أُمَّتِكَ مِنْ نِعْمَةٍ

محمد! آپ نے اپنی امت سے اپنے رب کے غصہ کے
لیے ایک سزا کے لیے بھی یہ نہیں چھوڑا۔

یہ حدیث محمد بن ثابت سے صرف ابو عبیدہ ہی
روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ إِلَّا أَبُو عُبَيْدَةَ



ابراہیم بن صالح الشیرازی

ابراہیم بن صالح شیرازی سے روایت کردہ احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور رسول اللہ ﷺ غسل جنابت ایک برتن سے کرتے تھے میں کہتی: میرے لیے چھوڑیں! میرے لیے بھی چھوڑیں! ہم نہیں جانتے ہیں کہ ابوامامہ حضرت عائشہ سے اس کے علاوہ بھی روایت کرتے ہیں اور اسی سند سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: آدمی کا مال کی حفاظت کرتے ہوئے قتل ہو جانا شہادت ہے۔ سعیر بن خمس، عبداللہ بن حسن، وہ عکرمہ سے وہ عبداللہ بن عمرو سے، حضرت عبداللہ بن عمرو فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کا ناحق مال لینا چاہا، وہ لڑے تو وہ شہید ہے مال والا۔ حضرت عبداللہ کی سند میں الفاظ یہ ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کا مال ظلماً لیا وہ لڑ پڑا مال کی حفاظت کے لیے اور قتل ہو گیا تو وہ شہید ہے۔ عکرمہ نے یہ حدیث عبداللہ بن عمرو سے عبداللہ بن عمرو کی روایت کے علاوہ بھی روایت کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن

2938 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ صَالِحِ الشَّيرَازِيُّ قَالَ: نا عُمَانُ بْنُ اَلْهَيْثَمِ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ الزُّبَيْرِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنِ اَبِي اُمَامَةَ قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: كُنْتُ اَغْتَسِلُ اَنَا وَرَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْاِنَاءِ الْوَاحِدِ مِنَ الْجَنَابَةِ، وَاَقُولُ: اَبَقِي لِي، اَبَقِي لِي لَا نَعْلَمُ اَبَا اُمَامَةَ رَوَى عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ هَذَا وَلَا يُرَوَى اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

2939 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكِ الْاَسَدِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نا شِهَابُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نا سَعِيْرُ بْنُ الْخَمْسِ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ عِكْرَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: قَتْلُ الْمَرْءِ دُوْنَ مَالِهِ شَهَادَةٌ هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيْرُ بْنُ الْخَمْسِ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنِ عِكْرَمَةَ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرَوَاهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَسَنِ فَخَالَفَ سَعِيْرًا فِي رِوَايَتِهِ حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيْمِ الدَّابَرِيُّ، عَنِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ حَسَنِ، عَنِ اِبْرَاهِيْمِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ عَمِيْهِ عِيْسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرٍو

2938 - أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 101 رقم الحديث: 24653 والبخاری: الغسل جلد 1 صفحہ 433 رقم

الحديث: 250، مسلم: الحیض جلد 1 صفحہ 255 .

2939 - أخرجه البخاری: المظالم جلد 5 صفحہ 147 رقم الحديث: 2480 .

عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو اپنے مال کی حفاظت کے لیے لڑا یہاں تک کہ وہ ظلماً قتل کیا گیا تو وہ شہید ہے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالَهُ بغيرِ حَقٍّ، فَقَاتَلَ فَقَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ فِيهِ إِسْنَادٌ آخَرُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ الْمُطَّلِبِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أُرِيدَ مَالَهُ ظُلْمًا، فَقَاتَلَ دُونَهُ فَقَتِلَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَقَدْ رَوَى الْحَدِيثُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو مِنْ غَيْرِ رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عِكْرِمَةَ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ قَاتَلَ عَلَى مَالِهِ حَتَّى قُتِلَ مَظْلُومًا فَهُوَ شَهِيدٌ

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل پسند کرتا ہے کہ معاملات مشورہ سے نمٹائے جائیں اور خون بہانے کو ناپسند کرتا ہے۔

2940 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَرِيكٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا فَضِيلُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مَعَالِيَ الْأُمُورِ، وَيَكْرَهُ سَفْسَافَهَا

حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو

2941 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَتْوِيهِ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الْوَصَابِيُّ

اٹھاتے تھے اور رکوع میں جاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی اللہ اکبر کہتے تھے۔

الْحَمِصِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَا الْجَرَّاحُ
بْنُ مَلِيحٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ ذِي
حِمَايَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ يَسْتَفْتِحُ الصَّلَاةَ،
وَحِينَ يُكْبِرُ لِلرُّكُوعِ، وَحِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ
الرُّكُوعِ

ایوب سے یہ حدیث ابن ذی حمایہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا ابْنُ ذِي حِمَايَةَ

حضرت عبدالرحمن بن الاعرج رضی اللہ عنہ اور فلان دونوں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے پاس موجود تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے فجر کی نماز کی ایک رکعت طلوع الشمس سے پہلے پائی اس کی نماز قضاء نہ رہی؛ جس نے عصر کی نماز کی ایک رکعت پالی سورج غروب ہونے سے پہلے اس کی نماز بھی قضا نہیں رہی۔

2942 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُعَاوِيَةَ الْجَمَحِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتِ الْعَبْدِيُّ
قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ الْأَعْرَجِ، وَفُلَانٍ يَشْهَدَانِ عَلَى أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ
الشَّمْسُ لَمْ تَفْتَهُ، وَمَنْ أَدْرَكَ رُكْعَةً مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ
قَبْلَ أَنْ تَغِيبَ الشَّمْسُ لَمْ تَفْتَهُ

روح سے صرف محمد اور محمد سے عبداللہ روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَوْحِ الْأَمْحَمَدِ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ
إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

حضرت عبدالرحمن بن ابی لیلیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جمعہ اور عید الفطر اور

2943 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ
قَزَعَةَ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ زَيْدِ

2942- أخرجه البخاری: المواقيت جلد 2 صفحہ 67 رقم الحدیث: 579، ومسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 424، وأحمد:

المسند جلد 2 صفحہ 341 رقم الحدیث: 7476 .

2943- أخرجه النسائی: الجمعة جلد 3 صفحہ 91 (باب عدد صلاة الجمعة) وابن ماجه: الاقامة جلد 1 صفحہ 338 رقم

الحدیث: 1064-1063، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 47 رقم الحدیث: 259 .

چاشت اور سفر کی دو دو رکعتیں ہیں یہ حضور ﷺ کی مبارک زبان کے مطابق مکمل ہیں، کسی کوئی نہیں۔

الْيَامِي، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، أَنَّ عُمَرَ قَالَ: الْجُمُعَةُ رَكْعَتَانِ، وَالْفِطْرُ رَكْعَتَانِ، وَالْأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَالسَّفَرُ رَكْعَتَانِ، تَمَامٌ لَيْسَ نَقْصٌ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا سُفْيَانَ

اس حدیث کو حضرت شعبہ سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جس نے باطل طریقے سے ظالم کی مدد کی تا کہ وہ باطل کے ساتھ حق وہ اللہ اور اس کے رسول کے ذمہ سے آزاد ہو گیا اور جس نے ایک درہم سود کھایا گویا اُس نے تینتیس (۳۳) زنا کیے۔ جس آدمی نے حرام لقمے سے پرورش پائی وہ جہنم کا زیادہ حقدار ہے۔

2944 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ رَحْمَةَ الْمِصْبِصِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اَعَانَ ظَالِمًا بِبَاطِلٍ لِيَدْحَضَ بِبَاطِلِهِ حَقًّا فَقَدْ بَرَّءَ مِنْ ذِمَّةِ اللَّهِ وَذِمَّةِ رَسُولِهِ، وَمَنْ اَكَلَ دِرْهَمًا مِنْ رِبَا فَهُوَ مِثْلُ ثَلَاثِ ثَلَاثِينَ زَنِيَةً، وَمَنْ نَبَتَ لَحْمُهُ مِنَ السُّحْتِ فَالنَّارُ اُولَى بِهِ

ابراہیم سے صرف محمد اور محمد بن حمیر سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت زینب بنت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ابو طلحہ کے بیٹوں کی ماں آئی۔ عرض کرنے لگیں: یا رسول اللہ! بے شک اللہ عزوجل حق کہنے سے حیا نہیں کرتا ہے جب عورت وہی دیکھے جو مرد دیکھتا ہے، کیا اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ میں مسکرائی، میں نے عرض کی: کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا: اگر عورت کو احتلام نہیں ہوتا تو بچہ ماں کے کیسے مشابہ ہوتا ہے۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ اِبْرَاهِيمَ اِلَّا مُحَمَّدًا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيرٍ اِلَّا سَعِيدٌ

2945 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْهَيْثَمِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْجَرَجَرَانِيُّ قَالَ: نَا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ، عَنْ رُوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ زَيْنَبِ بِنْتِ اُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: جَاءَتْ اُمُّ بِنِي اَبِي طَلْحَةَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ، هَلْ عَلَيَّ الْمَرَاةُ مِنْ غُسْلِ اِذَا رَاَتْ مَا يَرَى الرَّجُلُ؟ فَضَحِكْتُ، وَقُلْتُ: اَتَحْتَلِمُ الْمَرَاةُ؟ قَالَ:

نَعَمْ، لَوْلَا ذَلِكَ أَكَانَ الْوَلَدُ يُشْبَهُ أُمَّهُ؟
لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَوْحِ الْإِبْنِ عَلِيَّةَ

روح سے صرف ابن علیہ ہی روایت کرتے ہیں۔



ابراہیم یوسف بزار کی روایات

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک گرے ہوئے بچہ کا فیصلہ کیا دیت کا غلام یا لونڈی یا گھوڑے یا نچر کے ساتھ۔ اس حدیث کو ایک جماعت نے روایت کیا ہے محمد بن عمرو سے ان میں سے کسی نے بھی ”فرس او بغل“ کا لفظ نہیں کہا ہے سوائے عیسیٰ بن یونس کے۔

إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ الْبَزَّازُ

2946 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ يُونُسَ الْبَزَّازُ

الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ، الرَّقِّيُّ
قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي الْجَنِينِ بَغْرَةً: عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ أَوْ
فَرَسٌ أَوْ بَغْلٌ وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ جَمَاعَةٌ عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، فَلَمْ يَقُلْ أَحَدٌ مِنْهُمْ: أَوْ فَرَسٍ أَوْ
بَغْلٍ إِلَّا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ



ابراہیم بن بندار اصبہانی کی روایت کردہ احادیث

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ ایک برتن میں دلیہ کھا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ گزرے، آپ ﷺ نے حضرت عمر کو دعوت دی، آپ نے کھایا: آپ کی انگلیاں میری انگلیوں سے لگ رہی تھیں، انہوں نے کہا: اوہ! اگر اس حوالہ سے میرا مشورہ قبول کیا جاتا تو ان کو کوئی آنکھ نہ دیکھتی، تو اس کے بعد یہ والی آیت حجاب (پردے والی آیت) نازل ہوئی۔

مسعر سے یہ حدیث سفیان بن عیینہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول کریم ﷺ کے ساتھ انتیس (۲۹) روزے، تیس (۳۰) روزوں سے زیادہ نہیں رکھے ہیں۔

حماد سے یہ حدیث صرف عبدالاعلیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

ابراہیم بن بندار الاصبہانی

2947 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ بَنْدَارٍ
الاصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ اَبِي عَمْرٍ الْعَدْنِيُّ قَالَ:
نَا سُفْيَانُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ اَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ
مُجَاهِدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ اَكْلُ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَيْسًا فِي قَعْبٍ، فَمَرَّ عُمَرُ،
فَدَعَاهُ فَاكَلَّ، فَاصَابَتْ اِصْبَعُهُ اِصْبَعِي، فَقَالَ: حَسَّ
اَوْهٌ اَوْهٌ، لَوْ اَطَاعُ فَيَكُنُّ مَا رَا تَكُنُّ عَيْنٌ، فَنَزَلَتْ: اَيَةُ
الْحِجَابِ

لَمْ يَرَوْهٖ عَنْ مِسْعَرٍ اِلَّا سُفْيَانُ بْنُ عِيْنَةَ

2948 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اَسْبَاطِ بْنِ
السَّكَنِ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ الْخَوَارِزْمِيُّ قَالَ: نَا
عَبْدُ الْاَعْلَى بْنُ اَبِي الْمُسَاوِرِ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ
اِبْرَاهِيْمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ قَالَ: مَا صُمْنَا مَعَ
رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعَشْرِيْنَ
اَكْثَرَ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِيْنَ

لَمْ يَرَوْهٖ عَنْ حَمَادٍ اِلَّا عَبْدُ الْاَعْلَى

2949 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ

کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تیرے والد کی گردن مارنے کے بدلے اسے مارا جائے باندھ کر اور اس کے لیے وراثت نہیں ہوگی۔ فرمایا: میرے بعد یہ مصیبت کس کے لیے ہے؟ فرمایا: ان کے لیے جہنم ہے تیرے لیے وہی کافی ہے جو رسول اللہ ﷺ نے تیرے لیے فرمایا۔

عمرو بن مرہ سے سوائے زید کے کوئی روایت نہیں کرتا۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

زید سے صرف ان کے بیٹے عبدالرحمن ہی روایت کرتے ہیں اور ابوسعید سے اسی سند سے ہی روایت ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بلند درجات والوں کو ان سے نیچے درجات والے دیکھیں گے جس طرح آسمان کے ستاروں کو تم دیکھتے ہو بے شک ابو بکر و عمر دونوں بلند درجات والوں میں ہیں دونوں

مَالِكٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مُعَيْطٍ: حَدَّثْنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَكَانَ غَيْرَ كَذُوبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعُنُقِ أَبِيكَ أَنْ يُضْرَبَ صَبْرًا، لَمْ يَرْتِهِ، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ بَعْدِي؟ قَالَ: لَهُمُ النَّارُ، حَسْبُكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ غَيْرَ زَيْدٍ

2950 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَرْوَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مِنْ أَعْلَامِ الْمُنَافِقِ: إِذَا حَدَّثَ كَذَبًا، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا اتَّمَنَّتْهُ خَانَكَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِعُنُقِ أَبِيكَ أَنْ يُضْرَبَ صَبْرًا، لَمْ يَرْتِهِ، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ بَعْدِي؟ قَالَ: لَهُمُ النَّارُ، حَسْبُكَ مَا رَضِيَ لَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

2951 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ زَحْمَوَيْهِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ الْحَرِّ، وَعَمْرٍو، وَأَبِي مُحَرَّرٍ، وَزَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، وَكَثِيرِ النَّوَّاءِ، وَعَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ

2951- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 607 رقم الحدیث: 3658؛ وابن ماجہ: المقدمة جلد 1 صفحہ 37 رقم

الحدیث: 96؛ وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 120 رقم الحدیث: 11945 .

عَطِيَّةٌ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: إِنَّ أَهْلَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلَى كَثَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ
الْكَوَاكِبَ فِي السَّمَاءِ، وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ لِمِنْهُمْ
وَأَنْعَمَا

یہ حدیث علی بن ہاشم سے صرف زحمویہ ہی روایت
کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ هَاشِمٍ إِلَّا زَحْمَوِيَّةَ



ابراہیم بن دحیم دمشقی سے روایت کردہ احادیث

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آئی، عرض کی: میں استحاضہ والی ہو جاتی ہوں، ان کا گمان ہے کہ آپ نے فرمایا: وہ رگ پھٹی ہوئی ہے، جب حیض آئے تو نماز چھوڑ دے، جب وہ حیض کی مدت مکمل ہو جائے تو غسل کر اور خون دھولے پھر نماز پڑھ۔

اوزاعی سے یہ حدیث ابن سماعہ ہی روایت کرتے ہیں اور ابن سماعہ سے عمران روایت کرتے ہیں، فاطمہ بنت قیس ہی فاطمہ بنت ابی حمیش ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو عادتیں ہیں دونوں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے تھوڑے ہیں، پانچ وقت کی نماز ادا کرنا، ہر نماز کے بعد دس مرتبہ سبحان اللہ، دس مرتبہ الحمد للہ اور دس مرتبہ اللہ اکبر، یہ ایک سو پچاس مرتبہ زبان کے لیے ہو جائے گا اور پندرہ سو مرتبہ میزان میں ہوگا، جب تو اپنے

ابراہیم بن دحیم الدمشقی

2952 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ دُحَيْمٍ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: نا اِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَمَاعَةَ قَالَ: نا الْاَوْزَاعِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، أَنَّهَا آتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّهَا تُسْتَحَاضُ، فَزَعَمْتَ أَنَّهُ قَالَ: ذَلِكَ عِرْقٌ، فَإِذَا أَقْبَلْتَ فَدَعِي الصَّلَاةَ، وَإِذَا أَذْبَرْتَ فَاغْتَسِلِي وَاغْسِلِي عَنكَ الدَّمَ ثُمَّ صَلِّي لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا ابْنَ سَمَاعَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا عِمْرَانُ، وَفَاطِمَةُ بِنْتُ قَيْسٍ هِيَ فَاطِمَةُ بِنْتُ أَبِي حُبَيْشٍ

2953 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْدَانَ قَالَ: نا اَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَ: نا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَصَلْتَانِ، اَوْ خَلَّتَانِ هُمَا يَسِيرٌ، وَمَنْ يَعْمَلْ

2952 - أخرجه البخارى: الوضوء جلد 1 صفحہ 396 رقم الحديث: 228، ومسلم: الحيض جلد 1 صفحہ 262، والطبرانی

فی الكبير جلد 24 صفحہ 362 رقم الحديث: 900 .

2953 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 318 رقم الحديث: 5065، والترمذی: الدعوات جلد 5 صفحہ 478 رقم

الحديث: 3410، والنسائی: السهو جلد 3 صفحہ 62 (باب عدد التسبیح بعد التسليم)؛ وأحمد: المسند

جلد 2 صفحہ 275 رقم الحديث: 6924 .

بستر پر آئے تو سبحان اللہ اللہ اکبر الحمد للہ سو مرتبہ پڑھ لیا
 کز یہ سو مرتبہ زبان سے ہوگا، میزان میں اس کا ثواب
 ہزار مرتبہ کے برابر ہوگا۔

بِهِمَا قَلِيلٌ: الصَّلَاةُ الْخَمْسُ، تَسْبِيحٌ فِي دُبُرِ كُلِّ
 صَلَاةٍ عَشْرًا، وَتَحْمَدُهُ عَشْرًا، وَتُكْبِرُهُ عَشْرًا،
 فَيُنْكَرُ خَمْسُونَ وَمِائَةً بِاللِّسَانِ، وَالْفُّ وَخَمْسِمِائَةً
 فِي الْمِيزَانِ، وَإِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ، سَبَّحْتَ
 وَكَبَّرْتَ وَحَمَدْتَ مِائَةً مَرَّةً فَلَكَ مِائَةٌ بِاللِّسَانِ
 وَالْفُّ فِي الْمِيزَانِ

مسعر سے یہ حدیث عبداللہ بن محمد بن مغیرہ اور
 ابوامامہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مَسْعَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
 الْمُغِيرَةِ، وَأَبُو أُسَامَةَ



ابراہیم بن محمد الغزال

ابراہیم بن محمد غزال سے روایت کردہ احادیث

2954 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزَالِيُّ

الْمِصْرِيُّ الْمُعَدَّلُ قَالَ: نا خَلَادُ بْنُ اَسْلَمَ قَالَ: نا
النَّضْرُ بْنُ شَمِيلٍ قَالَ: نا حَمَّادُ، عَنْ عاصِمٍ، عَنْ اَبِي
صَالِحٍ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنِّي لَاسْتَغْفِرُ اللّٰهَ كُلَّ يَوْمٍ وَاَتُوبُ
اِلَيْهِ مِائَةً مَّرَّةً

2955 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

اِبْرَاهِيمَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نا مَيْمُونُ بْنُ الْاَصْبَغِ قَالَ: نا
اَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ قَالَ: نا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ سَلَمَةَ
بْنِ كَهْلِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اَبِي لَيْلَى، عَنْ كَعْبِ
بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللّٰهِ، هَذَا
السَّلَامُ عَلَيْكَ قَدْ عَرَفْنَا، فَكَيْفَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ:
قُولُوا: اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ،
كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ، اللّٰهُمَّ
بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ
عَلٰى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سَلَمَةَ اِلَّا مِسْعَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ
مِسْعَرٍ اِلَّا اَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ اَبِي بَكْرٍ
اِلَّا مَيْمُونٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: میں دن میں سو مرتبہ اللہ عزوجل سے
بخشش طلب کرتا ہوں (امت کے لیے) اور سو مرتبہ اس
کی طرف خصوصی رجوع کرتا ہوں۔

حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ پر سلام پڑھنے
کو ہم جان گئے ہیں آپ پر درود کیسے پڑھیں؟ آپ نے
فرمایا: ”اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ، وَعَلٰى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ، اللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى آلِ
مُحَمَّدٍ، كَمَا بَارَكْتَ عَلٰى اِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ
مَّجِيدٌ“۔

سلمہ سے مسعر اور مسعر سے ابو بکر اور ابو بکر سے
میسون روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مقام عقیق پر نماز قصر پڑھتے تھے۔

2956 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نَا مُسْلِمٌ بَنْ عَمْرٍو الْحَدَاءُ الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللّٰهِ بَنْ نَافِعٍ، عَنْ عُثْمَانَ بَنْ الصَّحَّاحِ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ اَبْنِ عُمَرَ، اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْصُرُ الصَّلَاةَ بِالْعَقِيقِ

ابن عمر سے یہ حدیث اسی سند سے مرفوعاً روایت

لَا يَرَوَى عَنْ اَبْنِ عُمَرَ مَرْفُوعًا اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

ہے۔

حضرت ام الدرداء رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا: جب آپ رسول اللہ ﷺ کے ساتھ سفر کرتی تھیں یا حج یا جہاد کے لیے جاتی تھیں تو آپ کا زادراہ کیا ہوتا تھا؟ آپ نے فرمایا: ہمارا زادراہ ایک لکڑی کا پیالہ اور کنگھی، شیشہ سرمہ دانی اور مسواک۔

2957 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ الْحَارِثِ بَنْ مُحَمَّدِ بَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَنْ عِرْقِ الْيَحْصَبِيِّ الْحَمِصِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنْ حَفْصِ الْاَوْصَابِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بَنْ حَمِيرٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمِ بَنْ اَبِي عَبْلَةَ، عَنْ اُمِّ الدَّرْدَاءِ قَالَتْ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ: مَا كُنْتَ اِذَا سَافَرْتِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ حَاجْتِ اَوْ غَزَوْتِ مَعَهُ مَا كُنْتَ تَزُوْدِيْنَهُ؟ قَالَتْ: كُنْتُ اَزُوْدُهُ قَارُوْرَةً دُهْنٍ وَمُشْطًا، وَمِرَاةً وَمَقْصِيْنَ وَمُكْحَلَةً وَسِوَاكَا

یہ حدیث ابراہیم سے محمد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن حفص اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمِ اِلَّا مُحَمَّدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بَنْ حَفْصِ



ابراہیم بن موسیٰ التوزی سے روایت کردہ احادیث

إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى التَّوْزِيُّ

حضرت ابوسعید اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنی موت کے وقت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ پڑھا اس کو آگ ہمیشہ نہیں کھائے گی۔

2958 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى التَّوْزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ يَحْيَى الدِّيَلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَعْرَاءَ قَالَ: نَا جَابِرُ بْنُ يَحْيَى الْحَضْرَمِيُّ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْأَعْرَبِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، وَأَبِي هُرَيْرَةَ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ عِنْدَ مَوْتِهِ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، لَمْ تَطْعَمَهُ النَّارُ أَبَدًا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے اپنا تہبند تکبر سے لٹکایا، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کی طرف نظر رحمت نہیں کرے گا۔ میں نے فرماتے ہوئے سنا: فجر سے پہلے کی سنتیں نہ چھوڑو کیونکہ ان دونوں کی رغبتیں ہے۔ اور فرماتے ہوئے سنا کہ تم اس حالت میں نہ مرنا کہ تم پر قرض ہو کیونکہ یہی نیکیاں اور بُرائیاں ہی ہیں دینار اور درہم نہیں جزا اور بدلہ ہوگا۔ اللہ عزوجل کسی پر ظلم نہیں کرتا ہے۔

2959 - قَالَ: وَنَا جَابِرُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ كَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَرَّ إِزَارَهُ مِنَ الْخِيَلَاءِ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَدَعَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلَاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبُ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: لَا تَمُوتَنَّ وَعَلَيْكَ دَيْنٌ، فَإِنَّمَا هِيَ الْحَسَنَاتُ وَالسَّيِّئَاتُ، لَيْسَ تَمَّ دِينَارٌ وَلَا دِرْهَمٌ، جَزَاءٌ وَقِصَاصٌ لَيْسَ يَظْلِمُ اللَّهُ أَحَدًا

2958 - انظر: تلخيص الحبير جلد 2 صفحہ 110 .

2959 - أخرجه البخارى: اللباس جلد 10 صفحہ 266 رقم الحديث: 5784، ومسلم: اللباس جلد 3 صفحہ 652، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 199 رقم الحديث: 6345، والطبرانى فى الكبير جلد 12 صفحہ 407 رقم

الحديث: 13501 .

2960 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَيُّوبَ الْوَيْسِيُّ

قَالَ: نا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ قَالَ: نا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ،
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ فَاطِمَةَ
بِنْتَ قَيْسٍ قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الْمُسْتَحَاضَةِ قَالَ: تَعْتَدُ أَيَّامَ أَقْرَائِهَا، ثُمَّ
تَغْتَسِلُ كُلَّ طَهْرٍ، ثُمَّ تَحْتَشِي، وَتُصَلِّي
لَمْ يَرَوْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا جَعْفَرُ

2961 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ دَرَسْتُوَيْهِ

الْفَسَوِيُّ قَالَ: نا أَبُو حَمَةَ مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نا
أَبُو قُرَّةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ
طَارُوسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَرَّغَ مِنْ طَوَافِهِ عِنْدَ الْمَرْوَةِ

2962 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ

يَحْيَى الْحَجَرِيُّ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْأَجْلَحِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
جَاءَ الْعَبَّاسُ يُعَوِّدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
مَرَضِهِ، فَرَفَعَهُ، فَأَجْلَسَهُ فِي مَجْلِسِهِ عَلَى السَّرِيرِ،
فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: رَفَعَكَ
اللَّهُ يَا عَمَّ، فَقَالَ الْعَبَّاسُ: هَذَا عَلَيَّ يَسْتَأْذِنُ. فَقَالَ:
يَدْخُلُ فَيَدْخُلُ وَمَعَهُ الْحَسَنُ وَالْحُسَيْنُ، فَقَالَ
الْعَبَّاسُ: هَؤُلَاءِ وَلَدُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: وَهُمْ
وَلَدُكَ يَا عَمَّ قَالَ: اتَّحِبُّهُمْ؟ فَقَالَ: أَحَبَّكَ اللَّهُ كَمَا
أَحَبَّهُمْ

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
میں نے رسول اللہ ﷺ سے استحاضہ والی عورت کے
متعلق پوچھا، آپ ﷺ نے فرمایا: حیض کے دنوں میں
نماز چھوڑ دے گی، پھر جب بھی پاکی کے دن آئیں گے
تو غسل کرے گی، پھر ہر نماز کے وقت کے لیے وضو کرے گی
پھر نماز پڑھے گی۔

ابن جریج سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ طواف سے فارغ ہوئے مقامِ مردہ کے
پاس۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضرت عباس، رسول اللہ ﷺ کی عیادت کرنے کے
لیے آئے، آپ کی بیماری میں۔ آپ اٹھے حضرت عباس
کو چار پائی پر بٹھایا، حضور ﷺ نے ان کو فرمایا: اللہ آپ
کو بلندی دے! اے چچا! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے
عرض کی: حضرت علی آپ سے اجازت مانگ رہے ہیں۔
آپ نے فرمایا: داخل ہوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل
ہوئے، آپ کے ساتھ حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ
عنہما بھی تھے، حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی:
یا رسول اللہ! یہ آپ کے بچے ہیں، آپ ﷺ نے فرمایا:
اے چچا! یہ آپ کے بچے ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ
نے عرض کی: کیا آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ آپ

ﷺ نے فرمایا: اللہ آپ سے محبت کرے جس طرح وہ ان سے محبت کرتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم قوم کے چہروں سے کیوں کو پہچانتے تھے آپ نے فرمایا: تم کیسے پہچانتے ہو ایک حلقہ گفتگو کرتا تھا جب میں ان کے پاس آتا تو میری آپ سے رشتے داری کی وجہ سے وہ خاموش ہو جاتے تھے اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی نصیحت میں ہوتے تو میری رشتے داری کی وجہ سے نہ رکتے۔ فرمایا: آپ ان کو جانتے ہیں؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنا ہاتھ نبی کریم ﷺ کی کلائی پر رکھا، پھر مسجد میں داخل ہوئے حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یہ حلقہ ان میں سے ہے، حضور ﷺ نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا: جو میرے چچا سے محبت نہ کرے اللہ کی رضا اور میری رشتہ داری کی وجہ سے وہ ایمان والا نہیں ہے۔

یہ حدیث منصور سے صرف ابن الجلیح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو سمندر (تری) میں اللہ کی رضا کے لیے جہاد کرتا ہے اللہ جانتا ہے جو اس کی راہ میں جہاد کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کا حق ادا کیا جنت کو تلاش کر لیا اور جہنم سے دور ہو گیا۔

2963 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ

قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْأَجَلِحِ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ أَبِي الضَّحَى مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ الْعَبَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا لَتَعْرِفُ الضَّغَائِنَ فِي وُجُوهِ أَقْوَامٍ. قَالَ: بِسْمِ تَعْرِفُهَا؟ قَالَ: تَكُونُ الْحَلْقَةُ فِي الْحَدِيثِ، فَإِذَا أَطْلَعْتَ عَلَيْهِمْ أَمْسَكُوا لِقَرَائَتِي مِنْكَ، وَلَوْ كَانُوا فِي نُصْحَةٍ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ مَا أَمْسَكُوا لِقَرَائَتِي مِنْكَ قَالَ: تَعْرِفُهُمْ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَوَضَعَ الْعَبَّاسُ يَدَهُ عَلَى ذِرَاعِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ دَخَلَ الْمَسْجِدَ، فَقَالَ لَهُ الْعَبَّاسُ: هَذِهِ الْحَلْقَةُ مِنْهُمْ، فَأَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِ الْعَبَّاسِ، فَرَفَعَهَا، فَقَالَ: مَنْ لَمْ يُحِبَّ عَمِّي هَذَا لِلَّهِ وَلِقَرَائَتِي مِنِّي فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا ابْنُ الْأَجَلِحِ

2964 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ اسْحَاقَ بْنِ

الْأَصَمِ الْعِجَاوِيُّ، بَعَثَنَا قَالَ: نَا مُنْخَلُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ صُبْحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ غَزَا لِي الْبَحْرِ غَزْوَةً لِي سَبِيلِ اللَّهِ،
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يَغْزُو لِي سَبِيلِهِ، فَقَدْ آدَى إِلَيَّ اللَّهُ
طَاعَتَهُ كُلَّهَا وَطَلَبَ الْجَنَّةَ كُلَّ مَطْلَبٍ، وَهَرَبَ مِنَ
النَّارِ كُلِّ مَهْرَبٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ إِلَّا عَمْرُ، تَفَرَّدَ
بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ

2965 - حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ بَيَانَ الْجَوْهَرِيُّ
الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَعْفِيُّ
الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ
عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنِ الْأَعْرَابِيِّ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي
سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِذَا أَيَقَظَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَتَوَضَّأَ،
وَصَلَّى، كُتِبَ مِنَ الذَّاكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا جَعْفَرُ،
تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

یہ حدیث یونس سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں
اس کو روایت کرنے میں محمد بن حمیرا کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب آدمی رات کو اپنی بیوی کو
جگائے اور دونوں وضو کریں اور نمازیں پڑھیں تو اللہ
عزوجل ان کو کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور عورتوں
میں لکھ دیتا ہے۔

یہ حدیث مسعر سے جعفر روایت کرتے ہیں اس کو
روایت کرنے والے محمد بن عبدالرحمن کیلے ہیں۔



ان شیخ کے نام سے جن کا نام اسماعیل ہے

حضرت ابو بريدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا، خبردار! اب زیارت کیا کرو لیکن وہاں جا کر شریعت کے خلاف کوئی بات نہ کرو، میں تم کو برتنوں سے منع کرتا تھا، جس برتن میں تم پینا چاہو پینو، لیکن نشہ دلانے والی چیز سے بچو، میں تم کو قربانی کے گوشت کو تین دن سے زیادہ رکھنے سے منع کرتا تھا، اب روک لیا کرو جتنا تم چاہو۔

سماک سے صرف محمد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی اور کوئی والی نہیں ہے مگر اس کے ساتھ دو پوشیدہ طاقتیں ہوتی ہیں، ایک اس کو نیکی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے منع کرتا ہے، ایک ان کے کرنے سے روکتا نہیں جو اس کے شر سے بچا لیا گیا، وہ بیخ گیا۔

مِنْ اسْمِهِ اسْمَاعِيلُ

2966 - حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ بْنُ اسْحَاقَ السَّرَّاجُ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ بَرِيْدَةَ، عَنْ اَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ اِلَّا فَزُورُوهَا، وَلَا تَقُولُوا هُجْرًا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنِ الظُّرُوفِ فَاشْرَبُوا فِيمَا شِئْتُمْ، وَلَا تَسْكُرُوا، وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ لُحُومِ الاَضْحَايِ بَعْدَ ثَلَاثٍ، فَاَمْسِكُوا مَا شِئْتُمْ

لَمْ يَرَوْهٖ عَنْ سِمَاكِ اِلَّا مُحَمَّدٌ

2967 - حَدَّثَنَا اسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا اسْحَاقُ بْنُ رَاهَوِيَهٗ قَالَ: اَنَا مَوْسَى الْقَارِيُّ قَالَ: نَا الْمُفَضَّلُ بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَمِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ نَبِيٍّ، وَلَا وَاٰلِ الْاَلَا وَكُهُ بَطَانَتَانِ: بَطَانَةٌ تَأْمُرُهٗ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَاهُ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَبَطَانَةٌ لَا تَأْلُوهُ خَبَالًا، فَمَنْ وُقِيَ شَرَّهَا فَقَدْ وُقِيَ

2966- أخرجه مسلم: الجناز جلد 2 صفحہ 672، وأبو داؤد: الأشربة جلد 3 صفحہ 330 رقم الحديث: 3698.

2967- أخرجه البخاری: الأحكام جلد 13 صفحہ 201 رقم الحديث: 7198، والترمذی: الزهد جلد 4 صفحہ 583 رقم

الحديث: 2369، والنسائی: البيعة جلد 7 صفحہ 141 (باب بطانة الامام) وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 318

رقم الحديث: 7258.

اوزاعی سے صرف مفضل اور مفضل سے صرف مہوی ہی روایت کرتے ہیں یہ اسحاق کی حدیث ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ایک صبح مجھے احتلام ہوا تو میں نبی کریم ﷺ کے پاس آیا میں نے آپ کو بتایا کہ مجھے احتلام ہوا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: تم میری ازواج کے پاس داخل نہ ہو کرو (یعنی اب تم بالغ ہو گئے ہو) وہ دن مجھ پر بڑا دشوار تھا۔

یحییٰ سے مالک اور مالک سے زافر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو صرف گردن منڈوانے سے منع کیا مگر چھپنے لگوانے کے لیے اجازت دی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میاں بیوی پر اپنے مال سے جو خرچ کرے اللہ کی راہ میں اس کو قیامت کے دن جنت کا دربان بلائیں گے۔ ہر ایک اس کو اس چیز کی طرف بلائے گا جو اس کے پاس ہوگی۔ اے فلان! یہ بھلائی کا سامان ہے۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْمَفْضَلُ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمَفْضَلِ إِلَّا مُوسَى، وَهُوَ حَدِيثُ إِسْحَاقَ

2968 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ

بْنُ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا زَافِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: لَمَّا كَانَ صَبِيحَةَ احْتَلَمْتُ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ أَنِّي قَدِ احْتَلَمْتُ، فَقَالَ: لَا تَدْخُلْ عَلَى النِّسَاءِ، فَمَا آتَى عَلَيَّ يَوْمٌ كَانَ أَشَدَّ مِنْهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ يَحْيَى إِلَّا مَالِكُ، وَلَا عَنْ مَالِكِ إِلَّا زَافِرٌ

2969 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قِرَاطٍ

الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ حَلْقِ الْقَفَا، إِلَّا لِلْحِجَامَةِ

2970 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ

بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَنْفَقَ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ دَعَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، كُلُّ يَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ: يَا فُلُ، هَذَا خَيْرٌ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس پتھر (یعنی حجر اسود) کو بھلائی کا گواہ بنا لو کیونکہ یہ قیامت کے دن سفارش کرے گا، اس کی سفارش قبول ہوگی، اس کی زبان اور دو ہونٹ ہوں گے، جس نے اس کو استلام کیا ہوگا اس کے متعلق گواہی دے گا۔

2971 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْعَلَاءِ الْحَمِصِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَشْهَدُوا هَذَا الْحَجَرَ خَيْرًا، فَإِنَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَافِعٌ مُشَفَّعٌ، لَهُ لِسَانٌ وَشَفَتَانِ، يَشْهَدُ لِمَنْ اسْتَلَمَهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ إِلَّا الْوَلِيدُ

خالد حذاء سے یہ حدیث صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مشرکوں کے نابالغ بچے اہل جنت کے خادم ہوں گے۔

2972 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَحْمَدَ الْخَزَاعِيُّ قَالَ: نَا الْحَكَمُ بْنُ مَيْسَرَةَ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَوْلَادُ الْمُشْرِكِينَ خَدَمُ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا مُقَاتِلُ

یہ حدیث قتادہ سے صرف مقاتل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنے ساتھی کو مارنے کا ارادہ کرے تو چہرے پر مارنے سے پرہیز کرے۔

2973 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ وَهَبِ بْنِ الْمُهَاجِرِ الْقُرَشِيِّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ خَالِدِ الْأَزْرَقِيُّ قَالَ: نَا مُبَشَّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ شُعَيْبِ بْنِ أَبِي حَمْرَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ صَاحِبَهُ فَلْيَتَجَنَّبْ وَجْهَهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے غزوہ اوطاس میں منع فرمایا کہ حاملہ عورت سے وطی نہ کی جائے بچہ جننے تک۔

داؤد سے صرف حجاج اور حجاج سے اسماعیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عرض کی: اے اللہ! میری امت کے صبح کے کاموں میں برکت دے۔ ہم نے اس حدیث کو اس شیخ کے علاوہ کسی سے نہیں سنا ابوبکرہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کروایا آپ نے اپنا ہاتھ گلے کے سامنے سے داخل کیا اور داڑھی کا خلال کیا میں نے عرض کی: یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: مجھے میرے رب نے یہ کرنے کا حکم دیا۔

مطر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت اسود بن یزید فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ

2974 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ

بْنُ اسْحَاقَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنْ غَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى فِي غَزْوَةِ أَوْطَاسٍ أَنْ يَقَعَ الرَّجُلُ عَلَى الْحَامِلِ حَتَّى تَضَعَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

2975 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الضَّبِّيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ حَمَادِ بْنِ الْفَرَّافِصَةِ الْبَلْخِيُّ قَالَ: نَا الْخَلِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ الشَّهِيدِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا لَمْ نَسْمَعُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الشَّيْخِ، وَلَا يُرْوَى، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

2976 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ

حَمَادٍ قَالَ: نَا عَنَابُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ شَوْذَبٍ، عَنْ عَيْسَى الْأَزْرَقِ، عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: وَضَّأَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ تَحْتَ حَنْكِهِ، فَخَلَّلَ لِحْيَتَهُ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: بِهِذَا أَمَرَنِي رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ

لَا يُرْوَى عَنْ مَطَرٍ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ

2977 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْحَسَنِ

رضی اللہ عنہا سے اُن برتنوں کے متعلق پوچھا گیا جن میں رسول اللہ ﷺ نے پینے سے منع کیا تھا، آپ نے فرمایا: دُبا، حنتم، تقیر اور مزفت کے برتنوں میں پینے سے منع کیا میں نے کہا: یہ سبز مٹکے تھے، حنتم کیا ہے؟ فرمایا: وہ سرخ مٹکا ہے، وہ اس کو اٹھاتے تھے اس میں شراب اٹھا کر لائی جاتی ہے، مصر سے مدینہ کی طرف اس سے منع کیا گیا۔

الْحَخْفَاءُ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي حَمْزَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهُ سَأَلَهَا عَنِ الْأَوْعِيَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَنْتَمِ وَالتَّقِيرِ وَالْمُزَفَّتِ - قُلْتُ: فَمَا هَذِهِ الْجِرَارُ الْخَضِرُ هِيَ الْحَنْتَمُ؟ قَالَتْ: لَا، هِيَ الْجِرَارُ الْحُمْرُ، كَانَ يُحْمَلُ فِيهَا زِفْتُ، وَكَانَ يُحْمَلُ فِيهَا خَمْرٌ مِنْ مِصْرَ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَنَهَى عَنْهَا

حمزہ سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ إِلَّا يَزِيدُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

2978 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

یہ حدیث ابن اسحاق سے صرف موسیٰ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن ابی فدیك اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ إِلَّا مُوسَى، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي فَدْيِكٍ

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن فجر کی نماز کی پہلی رکعت میں الم تنزیل السجدہ اور دوسری رکعت میں هل اتی علی الانسان پڑھتے تھے۔

2979 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ نُمَيْلٍ الْخَلَّالُ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ مَنصُورِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ أَبِي هَيَّاجِ الْأَسَدِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ الْوَالِبِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَنَّ

2978 - أخرجه مسلم: المقدمة جلد 1 صفحہ 10، والترمذی: العلم جلد 5 صفحہ 36 رقم الحدیث: 2661 وابن ماجه:

المقدمة جلد 1 صفحہ 13 رقم الحدیث: 32 .

رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى بِ الْم تَنْزِيلُ السَّجْدَةِ، وَفِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ هَلْ آتَى عَلَى الْإِنْسَانِ

(لا يروى هذا الحديث عن علي الا بهذا

الاسناد تفرد به محمد)

(یہ حدیث حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔ اس حدیث کے ساتھ محمد منفرد ہیں۔)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہم کو جمعہ کے دن غسل کرنے کا حکم دیتے تھے۔

2980 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو

فُصَيِّ الْعُدْرِيِّ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ الْقَسْرِيُّ قَالَ: نَا الصَّلْتُ بْنُ بَهْرَامَ، عَنْ يَزِيدَ الْفَقِيرِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَغْتَسِلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں رحمت اور ہدایت دینے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔

2981 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَحْمَدَ

الْبَصْرِيُّ، وَكَيْلُ أَكْثَمَ قَالَ: نَا أَبُو الْخَطَّابِ زِيَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا بُعِثْتُ رَحْمَةً مُهْدَاةً



اس شیخ کے نام سے جس کا نام اسحاق ہے

مِنْ اسْمِهِ اسْحَاقُ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے نبی کریم ﷺ سے عرض کی: مجھے کیسے علم ہوگا جب میں نیکی اور جب میں گناہ کروں گا؟ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تو اپنے پڑوسوں سے سنے کہ وہ کہہ رہے ہیں: تو نے نیکی کی ہے، تو تو نے نیکی کی ہے، جب تم سناؤ کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ تو نے گناہ کیا ہے، تو تو نے گناہ کیا ہے۔

یہ حدیث منصور سے معمر اور ابن مسعود سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔ (اس حدیث کے ساتھ عبدالرزاق منفرد ہیں)

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سجدہ کرتے تو اپنی کلائیوں کو جسم سے جدا رکھتے یہاں تک کہ آپ کی بغل کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

منصور سے معمر روایت کرتے ہیں اور جابر سے یہ

2982 - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ

قَالَ: نا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: انا مَعْمَرٌ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ اَبِي وَاِثِلٍ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ لِي اَنْ اَعْلَمَ اِذَا اَحْسَنْتُ وَاِذَا اَسَاْتُ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِذَا سَمِعْتَ جِيرَانَكَ يَقُولُونَ: قَدْ اَحْسَنْتَ، فَقَدْ اَحْسَنْتَ، وَاِذَا سَمِعْتَهُمْ يَقُولُونَ: قَدْ اَسَاْتُ، فَقَدْ اَسَاْتُ

لَمْ يَرَوْهٖ عَنْ مَنْصُورٍ اِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ اِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ (تفرد به عبد الرزاق)

2983 - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

الدَّبَرِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ اَبِي الْجَعْدِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سَجَدَ جَافَى حَتَّى يَرَى بَيَاضَ اِبْطِيئِهِ

لَمْ يَرَوْهٖ عَنْ مَنْصُورٍ اِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ

2982- أخرجه ابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1412 رقم الحديث: 4223 وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 521 رقم

الحديث: 3807. انظر: مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 274.

2983- أخرجه الصغير رقم الحديث: 198، والكبير رقم الحديث: 1745، وأحمد جلد 3 صفحہ 294، وعبد الرزاق

جلد 2 صفحہ 168.

جَابِرِ الْاَبْهَذَا الْاِسْنَادِ

حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو بزرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عشاء سے پہلے سونے اور عشاء کے بعد (دنیوی) گفتگو کرنے سے منع کیا یا اسے انتہائی ناپسند فرمایا۔ (مقصود عادت بنانا ہوتا ہے کبھی کبھی کسی خاص وجہ سے سو جانا مکروہ نہ ہوگا۔)

2984 - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَوْفٍ، عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ، عَنْ أَبِي بَرَزَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ كَرِهَ أَوْ نَهَى عَنِ النَّوْمِ قَبْلَهَا، وَالْحَدِيثُ بَعْدَهَا

اسے ثوری سے صرف عبدالرزاق ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الثَّوْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: صف مکمل کرنے سے نماز مکمل ہوتی ہے۔

2985 - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مِنْ تَمَامِ الصَّلَاةِ اِقَامَةُ الصَّفِّ

یہ حدیث ابن عقیل سے صرف معمر ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا يُرْوَى،

ہیں اور جابر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

عَنْ جَابِرِ الْاَبْ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

2986 - حَدَّثَنَا اسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ

کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگوں کو جو پہلی نبوت میں بات ملی ہے وہ یہ تھی کہ جب حیاء نہ رہے تو جو چاہو کرو۔

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي الصُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودِ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنَ النَّبُوءِ الْأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِ فَاصْنَعْ

2984 - أخرجه البخاری: المواقیت جلد 2 صفحہ 87 رقم الحدیث: 599، ومسلم: المساجد جلد 1 صفحہ 447 .

2985 - أخرجه أحمد: المسند جلد 3 صفحہ 395 رقم الحدیث: 14467، والطبرانی فی الکبیر جلد 2 صفحہ 183 رقم

الحدیث: 1744 . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 92 .

2986 - أخرجه البخاری فی الأدب جلد 10 صفحہ 539 رقم الحدیث: 6120، وأبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 253 رقم

الحدیث: 4797، وابن ماجه: الزهد جلد 2 صفحہ 1400 رقم الحدیث: 4183، وأحمد: المسند جلد 4

صفحہ 149 رقم الحدیث: 17094 .

مَا شِئْتَ

اعمش، معمر اور معمر، عبدالرزاق سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں کوئی داخل نہیں ہوگا مگر اس کے ساتھ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا یہ کتاب اللہ کی جانب سے فلان بن فلان کے لیے بلند درجہ والی جنت میں داخل ہو اس کا سر پھل قریب ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرا قریش پر حق ہے اور قریش کا تم پر حق ہے جب وہ فیصلہ کریں تو عدل کریں امانت رکھی جائے تو ادا کریں رحم مانگا جائے تو رحم کریں جو ان میں سے ایسے نہ کرے ان پر اللہ کی لعنت ہو۔

یہ حدیث ابن ابی ذئب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قریش میری گھٹی ہیں میں نے ان میں پناہ لی ہے ان کی اچھائیاں قبول کرو اور گناہوں سے درگزر کرو کیونکہ انہوں نے اپنا حق ادا کر دیا ہے اب

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ الرَّزَّاقِ

2987 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنْعَمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَدْخُلُ أَحَدٌ الْجَنَّةَ إِلَّا بِجَوَازٍ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، هَذَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ لِفُلَانِ بْنِ فُلَانٍ، أَدْخَلُوهُ جَنَّةً عَالِيَةً قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ

2988 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ لِي عَلَى قُرَيْشٍ حَقًّا، وَإِنْ لِقُرَيْشٍ عَلَيْكُمْ حَقًّا مَا حَكُمُوا فَعَدُّوا، وَاتَّمِنُوا فَادُّوا، وَاسْتَرْحَمُوا فَرَحِمُوا، فَمَنْ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ مِنْهُمْ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

2989 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْأَنْصَارَ عَيْتِي الَّتِي أَوْيْتُ إِلَيْهَا،

ان کے حقوق امت پر باقی رہ گئے ہیں۔

فَالْبُلُوَا مِنْ مُحْسِنِيهِمْ، وَتَجَاوَزُوا عَنْ مُسِيئِهِمْ،
فَإِنَّهُمْ قَدْ آذَوْا آلِدِي عَلَيْهِمْ، وَيَقِي آلِدِي لَهُمْ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَابِتِ الْبُنَائِي إِلَّا
مَعْمَرٌ

یہ حدیث ثابت بنانی سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب بادل دیکھتے تو فرماتے: برسا اس کو برکت کے ساتھ۔

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بندہ جب صدقہ کرتا ہے اپنے مال سے تو اللہ عزوجل اس کو قبول کرتا ہے اس کو اپنے دائیں دست قدرت سے لیتا ہے اس کو بڑھاتا رہتا ہے جس طرح تم میں سے کوئی گھوڑے کا بچہ بڑا کرتا ہے ایک آدمی کھجور صدقہ کرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کو بڑھاتا ہے یا فرمایا: اللہ عزوجل اس کو اپنی تھیلی (جیسے اس کی شان کے لائق ہے) میں رکھ کر بڑھاتا ہے یہاں تک کہ وہ پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے پس تم صدقہ کیا کرو۔ (یاراوی نے "فی کف اللہ" کے الفاظ کہے ہیں)۔

2990 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا تَصَدَّقَ مِنْ طَيِّبٍ يَقْبَلُهَا اللَّهُ مِنْهُ، فَأَخَذَهَا بِيَمِينِهِ، وَرَبَّاهَا كَمَا يُرَبِّي أَحَدَكُمْ فَلَوْهٌ، أَوْ فَصِيلَةٌ، وَإِنَّ الرَّجُلَ يَتَصَدَّقُ بِالنَّمْرَةِ، فَتَرَبُّوهُ فِي يَدِ اللَّهِ، أَوْ قَالَ: كَفَّتِ اللَّهُ، حَتَّى تَكُونَ مِثْلَ الْجَبَلِ، فَتَصَدَّقُوا

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2990 - أخرجه البخاری: الاستسقاء جلد 2 صفحہ 601-602 رقم الحدیث: 1032، وأبو داؤد: الأدب جلد 4

صفحہ 328 رقم الحدیث: 5099، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 133 رقم الحدیث: 24930.

2991 - أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحہ 359 رقم الحدیث: 7652، وأخرجه البخاری: التوحيد جلد 13

صفحہ 7430، ومسلم: الزكاة جلد 2 صفحہ 702.

ہیں۔

حضرت عروہ بن محمد اپنے والد سے ان کے والد ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔

یہ حدیث سماک بن فضل سے صرف معمر اور عروہ بن محمد کے دادا عطیہ سعدی بھی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! گناہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: گناہ وہ ہے جو تیرے سینے میں کھٹکے، تو اس کو چھوڑ دے۔ اس نے عرض کی: ایمان کیا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس کو اچھائی خوش کر دے اور بُرائی سے تکلیف ہو وہ مؤمن ہے۔

یہ حدیث یحییٰ بن ابی کثیر سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث ابوامامہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس سے گزرا آپ کے پاس صحابہ کرام تھے ان میں سے ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں اس سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں آپ نے فرمایا: کیا تم نے اسے بتایا ہے؟ اس نے عرض کی: نہیں! آپ نے فرمایا: اٹھو اور اس کو بتاؤ! وہ اٹھا اور

2992 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْيَدُ الْمُنْطِيَّةُ خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَجَدَّ عُرْوَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ: عَطِيَّةُ السَّعْدِيُّ

2993 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِي سَلَامٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَجُلٌ: مَا الْإِيمَانُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الْإِيمَانُ مَا حَكَ فِي صَدْرِكَ، فَدَعَهُ قَالَ: فَمَا الْإِيمَانُ؟ قَالَ: مَنْ سَأَلْتَهُ سَيِّئَتَهُ وَسَرَّتَهُ حَسَنَتَهُ فَهُوَ مُؤْمِنٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا يَرَوِي، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ

2994 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ نَاسٌ، فَقَالَ رَجُلٌ مِمَّنْ عِنْدَهُ: إِنِّي لِأَحِبُّ هَذَا لِلَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعَلِمْتَهُ؟ قَالَ: لَا، فَقَالَ: فَقُمْ إِلَيْهِ

2992 - أخرجه عبد الرزاق جلد 11 صفحہ 108، وأحمد جلد 4 صفحہ 226 .

2994 - أخرجه البيهقي في شعب الإيمان جلد 6 صفحہ 489 رقم الحديث: 9011 .

فَاعْلِمُهُ ، فَنَسَامَ إِلَيْهِ فَاَعْلَمَهُ ، فَقَالَ : أَحَبُّكَ أَلَدِي
أَحْبَبْتَنِي لَهُ قَالَ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ ، فَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتَ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ ، وَلَكَ مَا
أَحْتَسَبْتَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
إِلَّا مَعْمَرٌ

2995 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ
شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمًا يَتَدَارَوْنَ فَقَالَ : إِنَّمَا
هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِهَذَا ، ضَرَبُوا كِتَابَ اللَّهِ
بِعُضَّةٍ بَعْضٍ ، وَإِنَّمَا نَزَلَ كِتَابَ اللَّهِ يُصَدِّقُ بَعْضُهُ
بَعْضًا ، فَلَا تُكْذِبُوا بَعْضُهُ بَعْضٍ ، فَمَا عَلِمْتُمْ مِنْهُ
فَقُولُوهُ وَمَا جَهَلْتُمْ فَكَلِّمُوهُ إِلَى عَالِمِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ إِلَّا مَعْمَرٌ

2996 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ : كَانَتْ امْرَأَةٌ مَخْزُومِيَّةً تَسْتَعِيرُ
الْمَتَاعَ وَتَجْحَدُهُ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اس کو بتایا اس نے جواباً کہا: جس طرح تو مجھ سے محبت
کرتا ہے میں بھی تم سے محبت کرتا ہوں راوی کا بیان ہے:
پھر وہ نبی ﷺ کی طرف واپس آیا تو آپ نے فرمایا:
اس کو بتایا! حضور ﷺ نے فرمایا: تو اس کے ساتھ ہوگا
جس سے محبت کرتا ہوگا اور تیرے لیے ثواب ہے اس کا
جو تو نے اخلاص کا اظہار کیا ہے۔

یہ حدیث اشعث بن عبد اللہ سے صرف معمر ہی
روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے ان کے والد
ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
کچھ لوگوں کو سنا کہ وہ کسی آیت میں گفتگو کر رہے ہیں
آپ نے فرمایا: تم سے پہلے لوگ اس وجہ سے ہلاک
ہوئے تھے کہ انہوں نے کتاب کے ایک حصے کو دوسرے
سے نکلایا۔ کتاب اللہ نازل ہوئی ہے ایک حصہ دوسرے
حصہ کی تصدیق کرتا ہے۔ تم ایک حصہ کو نہ جھٹلاؤ ایک حصہ
کو مان کر جو تم جانتے ہو اس کو بیان کرو جو تم نہیں جانتے
اس کو علم والے کے سپرد کرو۔

یہ حدیث معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قبیلہ
مخزومیہ کی ایک عورت تھی وہ سامان عاریتاً لیتی تھی اور
دینے سے انکار کر دیا کرتی تھی حضور ﷺ نے اس کا
ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔

2995- أخرجه أحمد: المسند جلد2 صفحہ250 رقم الحديث: 6750 . انظر: الدر المنثور للسيوطي جلد2 صفحہ6 .

2996- أخرجه أبو داؤد: الحدود جلد4 صفحہ136 رقم الحديث: 4395، والنسائي: السارق جلد8 صفحہ61 (باب ما

يكون حرزا وما لا يكون) وأحمد: المسند جلد2 صفحہ204 رقم الحديث: 6388 .

بِقَطْعِ يَدَيْهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

ہیں۔

2997 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ، وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ
فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: مؤمن ایک آنت میں کھاتا ہے اور کافر
سات آنتوں میں کھاتا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

ہیں۔

2998 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ
ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِحضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: اسلام میں شغار نہیں ہے (شغار کا
مطلب ہے: نکاح کے بدلے کا نکاح کرنا اور حق مہرنہ
رکھنا)۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا مَعْمَرٌ

یہ حدیث ایوب سے صرف معمر ہی روایت کرتے

ہیں۔

2999 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ ثَابِتٍ، وَأَبَانَ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَا شِغَارَ فِي الْإِسْلَامِ وَالشِّغَارُ: أَنْ يَبْدَلَحضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اسلام میں شغار نہیں ہے شغار یہ
ہے کہ اپنی بہن کا نکاح دوسرے آدمی سے کرنا اور اس کی
بہن کا نکاح اپنے ساتھ کرنا اور آپس میں مہرنہ رکھنا، جلب

2997 - أخرجه البخارى فى الأطلعة جلد9 صفحه446 رقم الحديث: 5394، ومسلم فى الأشربة جلد3 صفحه1631 .

2998 - أخرجه البخارى فى الحيل جلد12 صفحه349 رقم الحديث: 6960، ومسلم فى النكاح جلد2 صفحه1035 .

وأحمد فى المسند جلد2 صفحه49 .

2999 - وأخرجه النسائى فى النكاح جلد6 صفحه92 (باب الشغار) وأحمد فى المسند جلد3 صفحه199 رقم الحديث:

اور جب بھی نہیں ہے۔

الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ أَخْتَهُ بِغَيْرِ صَدَاقٍ، فَلَا شِغَارَ فِي
الْإِسْلَامِ، وَلَا جَلَبَ وَلَا جَنْبَ

یہ حدیث ثابت سے صرف معمر ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے قسم اٹھائی اس نے انشاء اللہ کہا
تو اس کی قسم نہیں ٹوٹے گی۔

3000 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللَّهُ، لَمْ يَحْتَفْ

یہ حدیث ابن طاووس سے صرف معمر ہی روایت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ إِلَّا مَعْمَرٌ

کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے اس آیت: ”اللہ کے مال سے دو جو اللہ نے تم کو دیا
ہے“ کی تفسیر بیان کی کہ مراد ہے: کتابت (وہ مال جو
غلام اپنی آزادی کے لیے دیتا ہے) کا چوتھا حصہ دو۔

3001 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ:
أَخْبَرَنِي عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ حَبِيبٍ،
أَخْبَرَهُ، عَنْ عَلِيٍّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ قَالَ: (وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ)

(النور: 33) قَالَ: رُبْعُ الْكِتَابَةِ

یہ حدیث مرفوعاً عطاء بن سائب سے صرف ابن

لَمْ يَرْفَعْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ

جریج ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں
عبدالرزاق اور عبداللہ بن حبیب ابو عبد الرحمن سلمیٰ اکیلے

الْأَبْنُ جُرَيْجٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ

حَبِيبِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّلْمِيِّ

ہیں۔

3000 - أخرجه البخاری فی الکفارات جلد 11 صفحہ 610 رقم الحدیث: 6720، ومسلم فی الأیمان

جلد 3 صفحہ 1275 .

3001 - أخرجه الحاكم فی المستدرک جلد 2 صفحہ 397، والبيهقي فی سننه جلد 10 صفحہ 552 رقم الحدیث:

21667 .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی ستر سال تک نیک اعمال کرتا ہے، جب وصیت کرتا ہے تو اپنی وصیت میں بے انصافی کرتا ہے، اس کا خاتمہ بُرے اعمال پر ہوتا ہے، اس کو جہنم میں داخل کیا جاتا ہے اور ایک آدمی ستر سال تک بُرے عمل کرتا ہے، اپنی وصیت میں انصاف کرتا ہے، اس کا خاتمہ نیک اعمال پر ہوتا ہے، اس کو جنت میں داخل کیا جاتا ہے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: اگر تم چاہو تو یہ پڑھ لو: ”یہ اللہ کی حدیں ہیں (سے لے کر) اس کے لیے ذلت خیز عذاب ہے“ (تک)۔

شہر بن حوشب سے یہ حدیث صرف اشعث بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں اور حضور ﷺ سے یہ حدیث صرف اشعث بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے بدر کے قیدیوں سے فدیہ لیا، ہر ایک کا فدیہ چار ہزار تھا، عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا گیا، فدیہ سے پہلے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کی طرف کھڑے ہوئے، اس کو باندھ کر قتل کیا، کہنے لگا: اے محمد! یہ کیا مصیبت ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم!

یہ حدیث عثمان جزری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

3002 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْخَيْرِ سَبْعِينَ سَنَةً، فَإِذَا أَوْصَى حَافٍ فِي وَصِيَّتِهِ، فَخُتِمَ لَهُ بِشَرِّ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ النَّارَ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الشَّرِّ سَبْعِينَ سَنَةً، فَيُعَدِلُ فِي وَصِيَّتِهِ، فَيُخْتَمُ لَهُ بِخَيْرِ عَمَلِهِ، فَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالَ: ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَاقْرَأُوا إِنْ شِئْتُمْ: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ) (النساء: 13) إِلَى (وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ) (النساء: 14)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ إِلَّا أَشْعَثُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَلَا يَرَوِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ أَشْعَثِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ

3003 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: فَادَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَارِي بَدْرٍ وَكَانَ فِدَاءُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ آلَافٍ، وَقَتَلَ عُقْبَةَ بْنَ أَبِي مُعَيْطٍ، قَتَلَهُ قَبْلَ الْفِدَاءِ، فَقَامَ إِلَيْهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ فَقَتَلَهُ صَبْرًا، فَقَالَ: مَنْ لِلصَّبِيَّةِ يَا مُحَمَّدُ؟ قَالَ: النَّارُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ

حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کروایا آپ نے موزوں پر مسح کیا، سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد۔

3004 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَاسِينَ الزِّيَّاتِ، عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: وَصَّاتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَحَ عَلَيَّ خُفَّيْهِ بَعْدَمَا نَزَلَتْ سُورَةُ الْمَائِدَةِ

یہ حدیث حماد بن ابی سلیمان ربیع سے اور حماد سے صرف یاسین الزیات روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلا ہے۔ اس حدیث کو شعبہ نے حماد سے انہوں نے ابراہیم سے انہوں نے ہمام بن حارث سے اور انہوں نے جریر سے روایت کیا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ الْأَيَّاسِ الزِّيَّاتِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ جَرِيرِ

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کھڑے پانی میں کوئی بھی پیشاب نہ کرے اس سے وضو بھی کرنا ہو کیونکہ عام وضو سے اسی سے پیدا ہوتے ہیں۔

3005 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي الْأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحْمِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ فِيهِ، فَإِنَّ عَامَّةَ الْوَسْوَاسِ مِنْهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَمْعَرِ

یہ حدیث اشعث بن عبداللہ سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت قیس بن عباد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3006 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ

3004- أخرجه مسلم من طريق ابراهيم النخعي عن همام عن جرير في الطهارة جلد 1 صفحه 228، وأبو داؤد في الطهارة جلد 1 صفحه 38 رقم الحديث: 154، والترمذي في الطهارة جلد 1 صفحه 155 رقم الحديث: 93، والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحه 69، وابن ماجه في الطهارة جلد 1 صفحه 180 رقم الحديث: 543، وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 437 رقم الحديث: 19191 .

3005- أخرجه أبو داؤد في الطهارة جلد 1 صفحه 7 رقم الحديث: 27، والترمذي في الطهارة جلد 1 صفحه 32-33 رقم الحديث: 21، وابن ماجه في الطهارة جلد 1 صفحه 111 رقم الحديث: 304، والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحه 33، وأحمد في المسند جلد 5 صفحه 70 رقم الحديث: 20594 .

میں مدینہ شریف آیا، میں مسجد میں داخل ہوا عصر کی نماز کے وقت میں پہلی صف میں شامل ہوا تو ایک آدمی آیا، اس نے میرا کندھا پکڑا مجھے پیچھے کیا اور خود میری جگہ پر کھڑا ہو گیا، یہ امام کے تکبیر کہنے کے بعد کی بات ہے، جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو وہ میری طرف متوجہ ہوا، اس نے کہا: میں نے آپ کو پیچھے اس لیے کیا تھا کیونکہ رسول اللہ ﷺ نے ہم کو حکم دیا کہ پہلی صف میں مہاجرین و انصار ہوں، میں نے پہچان لیا تو ان میں سے نہیں ہے، میں نے تجھے پیچھے کیا، میں نے کہا: وہ کون تھے؟ انہوں نے کہا: ابی بن کعب رضی اللہ عنہ۔

یہ حدیث خالد الحذاء سے صرف محمد بن راشد ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے قباء والوں سے فرمایا: تم کیا عمل کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری شان قرآن کی اس آیت میں بیان کی گئی ہے کہ اس مسجد کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جن سے اللہ عزوجل محبت کرتا ہے، پاکی کی وجہ سے اللہ عزوجل پاک رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم میں کوئی پیشاب یا پاخانہ کر کے نکلتا ہے تو اپنی شرمگاہ کو پانی سے دھوتا ہے۔

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ خَالِدِ يَعْنِي: الْحَدَّاءِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ: قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ، فَدَخَلْتُ الْمَسْجِدَ لِصَلَاةِ الْعَصْرِ، فَتَقَدَّمْتُ إِلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ، فَجَاءَ رَجُلٌ فَأَخَذَ بِمَنْكِبِي فَأَخْرَجَنِي وَقَامَ مَقَامِي بَعْدَمَا كَبَّرَ الْإِمَامُ وَكَبَّرْتُ، فَلَمَّا فَرَعْنَا مِنَ الصَّلَاةِ التَّفَتَّ إِلَيَّ، فَقَالَ: إِنَّمَا أَخْرَجْتُكَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَنَا أَنْ يُصَلِّيَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ الْمُهَاجِرُونَ وَالْأَنْصَارُ، فَعَرَفْتُ أَنَّكَ لَسْتَ مِنْهُمْ فَأَخْرَجْتُكَ، فَذُتْ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: أَبِي بَنُ كَعْبٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3007 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاءِ، عَنْ لَيْثِ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأَهْلِ قَبَاءَ: مَا هَذَا الظُّهُورُ الَّذِي قَدْ خُصِّصْتُمْ بِهِ فِي هَذِهِ الْآيَةِ: (فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَنْظَهُرُوا، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ) (التوبة: 108) ؟ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا مِنَّا أَحَدٌ يَخْرُجُ مِنَ الْغَائِطِ إِلَّا غَسَلَ مَقْعَدَتَهُ

3007 - اسنادہ ضعیف جداً فیہ: أ- یحیی بن العلاء البجلی البرازی متروک . ضعفه ووهاه غیر واحد، وقال أحمد: کذاب یضع

الحدیث، وقال ابن معین: غیر ثقہ، ب- لیث بن ابی سلیم لا یحتج به . وقد أخرجه أيضاً الکبیر، وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 1 صفحہ 216: وفیه شهر أيضاً . قلت: شهر بن حوشب من رجال مسلم، قال فیہ ابن حجر: صدوق کثیر الارسال والأوهام .

یہ حدیث ابوامامہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لفظ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے اس کو آپس میں عام کرو۔

یحییٰ بن ابی کثیر سے صرف بشر بن رافع ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اُحد کے دن حضرت حمزہ کو قتل کیا گیا، آپ کے ساتھ کچھ انصار کے لوگ قتل کیے گئے، حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ عنہا تشریف لائیں دو کپڑے لے کر تاکہ اس کے ساتھ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو کفن دیا جائے، تو انصاری کے پاس کفن نہیں تھا، حضور ﷺ نے دو کپڑے ان کے درمیان تقسیم کیے، ہر ایک کو ایک ایک کپڑا میں کفن دیا۔

یہ حدیث عثمان الجزری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أَمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3008 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا بَشْرُ بْنُ رَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ السَّلَامَ اسْمٌ مِنْ أَسْمَاءِ اللَّهِ، فَأَفْشُوهُ بَيْنَكُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ إِلَّا بِبَشْرِ بْنِ رَافِعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3009 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قُتِلَ حَمْزَةُ يَوْمَ أُحُدٍ، وَقُتِلَ مَعَهُ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَجَاءَتْ صَفِيَّةُ بِنْتُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بِثَوْبَيْنِ لَتُكْفَنَ بِهِمَا حَمْزَةَ، فَلَمْ يَكُنْ لِلْأَنْصَارِيِّ كَفَنٌ، فَاسْتَهَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الثَّوْبَيْنِ، ثُمَّ كَفَّنَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا فِي ثَوْبٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُثْمَانَ الْجَزْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ

3010 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: أَنَا

3009- اسنادہ فیہ: عثمان الجزری ترجمہ ابن ابی حاتم فی الجرح جلد 6 صفحہ 174 وقال: ويقال له: عثمان الشاهد ونقل عن الامام أحمد أنه قال: روى أحاديث مناكير وعموا أنه ذهب كتابه وقال أبو حاتم كما تقدم ولكنه فيه كلام.

3010- أخرجه أبو داؤد في الترجل جلد 4 صفحہ 83 رقم الحديث: 4205، والترمذی فی اللباس جلد 4 صفحہ 232

نے فرمایا: سب سے اچھی جس سے آپ تم بالوں کی سفیدی بدلتے ہو وہ مہندی اور کتم ہے۔

یہ حدیث سعید الجریری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک قیدی کے پاس تشریف لائے، اچانک قیدیوں میں سے کا ایک عورت دوڑتی ہوئی آئی، اس نے قیدیوں میں اپنا بچہ پایا، اس کو پکڑا اس کو اپنے پیٹ سے چمٹا لیا اور اس کو دودھ پلایا، حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم خیال کرتے ہو کہ یہ عورت اپنے بچہ کو آگ میں ڈالے گی؟ ہم نے عرض کی: نہیں! اللہ کی قسم! یہ پسند نہیں کرے گی کہ اس کو وہ چھینکے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل اپنے بندوں پر اس کی ماں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، جتنی یہ اپنے بچہ پر ہے۔

زید بن اسلم سے صرف ابو غسان اور ابو غسان سے ابن ابی مریم ہی روایت کرتے ہیں، اور حضرت عمر سے یہ حدیث اسی سند سے مروی ہے۔

عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ الدَّؤَلِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحْسَنَ مَا غَيَّرْتُمْ بِهِ الشَّيْبَ الْحِنَاءُ وَالْكَتَمُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ

3011 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَرِيَمَ قَالَ: نَا أَبُو غَسَّانَ مُحَمَّدُ بْنُ مُطَرِّفٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَدِمَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ، فَاذًا امْرَأَةً مِنَ السَّبْيِ تَسْعَى، إِذْ وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ، فَاخَذَتْهُ فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَكَهَا فِي النَّارِ؟ قُلْنَا: لَا، وَاللَّهِ، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ الْمَرْأَةِ بَوْلَدِهَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا أَبُو غَسَّانَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي غَسَّانَ إِلَّا ابْنُ أَبِي مَرِيَمَ، وَلَا يَرَوِي عَنْ عُمَرَ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ

رقم الحديث: 1753، والنسائي في الزينة جلد 8 صفحہ 120 باب الخضاب بالحناء والکتَمُ وابن ماجه في اللباس

جلد 2 صفحہ 1196 رقم الحديث: 3622، وأحمد في المسند جلد 5 صفحہ 176 رقم الحديث: 21365 .

3011 - أخرجه البخاري في الأدب جلد 10 صفحہ 440 رقم الحديث: 5999، ومسلم في التوبة جلد 4 صفحہ 2109

والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 98 .

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ عید الاضحیٰ کے دن کھڑے ہوئے، آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے قبلہ کی طرف منہ کیا اور ہماری نمازیں پڑھیں اور ہماری قربانی کی طرح قربانی کی اور نماز سے پہلے ذبح نہ کرے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس دن میں گوشت ملنا مشکل ہوتا ہے، میں نے اپنے گھر والوں، رشتے داروں اور پڑوسیوں کو کھلانے کے لیے پہلے کر لی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کی جگہ دوسری کرو! اس نے عرض کی: میرے پاس چھ ماہ کا بھیر کا بچہ ہے، جو مجھے اپنی بکری سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو ذبح کر وہ تیری بہترین قربانی ہے، تیرے بعد کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔

سفیان سے صرف ابوزائدہ اور ابوزائدہ سے یوسف بن عدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہت زیادہ کالا کتا شیطان ہوتا ہے۔

3012 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ
قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ
أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ
الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ،
عَنِ الْبُرَاءِ بْنِ عَازِبٍ يُذَكِّرُ أَحَدَهُمَا مَا لَمْ يُذَكِّرِ
الْآخَرَ قَالَ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ الْأَضْحَى فَقَالَ: مَنْ تَوَجَّهَ قِبَلْتَنَا، وَصَلَّى
بِصَلَاتِنَا، وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَامَ
رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا يَوْمُ اللَّحْمِ فِيهِ
مَكْرُوهٌ، وَإِنِّي عَجَلْتُ نُسُكِي لِأُطْعِمَ أَهْلِي وَأَهْلَ
دَارِي وَجِيرَانِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَعَدَّ ذَبِيحَةً أُخْرَى. فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي عِنَاقًا
لَبُونًا هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ قَالَ: أَذْبَحُهَا،
فَإِنَّهَا خَيْرٌ نُسُكِكَ، وَلَا تُجْزِئُ ذَبِيحَةً عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ
لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، وَلَا
رَوَاهُ إِلَّا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ

3013 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْقَطَّانُ
قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا أَبُو النَّضْرِ قَالَ: نَا
شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ

3012 - أخرجه البخاری فی الأضاحی جلد 10 صفحہ 22 رقم الحدیث: 5563 بلفظ: (من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا فلا یذبح حتی ینصرف . فقال أبو بردة بن دینار فقال: یا رسول اللہ! فعلت . فقال: هو شیء عجلته . قال: فان عندی جذعة هی خیر من مستین، أذبحها؟ قال: نعم، ثم لا تجزی عن أحد بعدک . قال عامر: هی خیر نسکیتیه . ومسلم فی الأضاحی جلد 3 صفحہ 1553 .

3013 - وأخرجه أيضًا أحمد جلد 6 صفحہ 157 عن أبي النضر بالاسناد، وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 4 صفحہ 47: وفيه لیث بن أبي سلیم، وهو ثقة، ولكنه مدلس، وبقية رجال أحمد رجال الصحيح .

الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْكَلْبَ الْأَسْوَدَ الْبَهِيمَ شَيْطَانُ
 لَمْ يَرَوْهُ مُجَاهِدٌ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ غَيْرَ
 هَذَا، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا لَيْثٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ لَيْثٍ إِلَّا
 شَيْبَانُ

مجاہد اسود سے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اس
 کے علاوہ سند سے روایت کرتے ہیں مجاہد سے لیث اور
 لیث سے شیبان روایت کرتے ہیں۔



اسحاق بن خالویہ واسطی سے روایت کردہ احادیث

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ اسکی عمر لمبی ہو اور اس کا رزق کشادہ ہو، اسکے گناہ معاف ہوں تو وہ اللہ سے ڈرے اور صلہ رحمی کرے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عراق، شام اور یمن کی طرف دیکھا، عرض کی: اے اللہ! ان کے دلوں کو اپنی اطاعت پر پلٹ دے اور ان کے پچھلے گناہ معاف کر دے۔

سلیمان التیمی سے صرف معمر اور معمر سے ہشام بن یوسف اور ہشام سے صرف علی بن بحر ہی روایت کرتے ہیں۔

اسحاق بن خالویہ الواسطی

3014 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ ضَمْرَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَمُدَّ اللَّهُ فِي عُمُرِهِ، وَيُوسِّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ، وَيَذْفَعَ عَنْهُ مِئَةَ السُّوءِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ، وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

3015 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ قَالَ: أَنَا ثَابِتٌ، وَسَلِيمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَظَرَ قِبَلَ الْعِرَاقِ، وَالشَّامِ، وَالْيَمَنِ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ أَقْبِلْ بِقُلُوبِهِمْ عَلَيَّ طَاعَتِكَ، وَحُطِّ مِنْ وَرَائِهِمْ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سَلِيمَانَ التَّيْمِيِّ، إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ

3014 - أخرجه الامام أحمد جلد 1 صفحہ 143، والبخاري (في كشف الأستار جلد 2 صفحہ 374) وقال الحافظ الهيثمي في

المجمع جلد 8 صفحہ 155-156، ورجال البزار رجال الصحيح، غير عاصم بن ضمرة وهو ثقة .

3015 - أخرجه الصغير جلد 1 صفحہ 98 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 60: ورجاله رجال الصحيح

غير علي بن بحر وهو ثقة .

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے سونا چاندی بکری اونٹ بطور وراثت نہیں چھوڑے صرف کچھ جو چھوڑے ہم اس سے کھاتے رہے ایک زمانہ پھر میں نے اس کو ناپ لیا میں نے چاہا کہ میں انہیں نہ کھاؤں (کہ ختم ہو جائیں)۔

ہشام بن عروہ سے صرف معمر اور معمر سے ہشام بن یوسف اور یوسف سے علی بن بحر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کسی کے برتن میں مکھی گر جائے تو اس کو ڈبویا کرو کیونکہ اس نے ایک پر میں شفاء اور دوسرے میں بیماری ہوتی ہے۔

حماد بن سلمہ حمید سے اور حمید سے ابراہیم بن حجاج السامی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو عمرو بن حماس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورتوں کے لیے راستے میں بیٹھنا جائز نہیں ہے۔

3016 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: مَا تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَهَبًا وَلَا فِضَّةً، وَلَا شَاةً وَلَا بَعِيرًا، وَلَا تَرَكَ إِلَّا شَطْرًا مِنْ شَعِيرٍ، فَآكَلْنَا مِنْهُ زَمَانًا، ثُمَّ كَلْتُهُ، فَوَدِدْتُ إِنِّي لَمْ أَكَلْهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مَعْمَرٌ، وَلَا عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَ وَلَا عَنْ هِشَامٍ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ بَحْرِ

3017 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ خَالَوَيْهِ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَبِيبٍ، وَهَشَامٍ، وَحَمِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا وَقَعَ الذُّبَابُ فِي إِنَاءٍ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْمِسْهُ فِيهِ، فَإِنَّ أَحَدَ جَنَاحَيْهِ دَاءٌ، وَالْآخَرَ دَوَاءٌ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ حَمِيدٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ

3018 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَاجِبٍ الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنِ ابْنِ أَبِي ذَيْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ

3017- أخرجه البخاري في بدء الخلق جلد 6 صفحہ 414 رقم الحديث: 3320، وأبو داؤد في الأطعمة

جلد 3 صفحہ 364 رقم الحديث: 3844، وابن ماجه في الطب جلد 2 صفحہ 1159 رقم الحديث: 3505

وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 330 رقم الحديث: 7377، والدارمي في الأطعمة جلد 2 صفحہ 134-135 رقم

الحديث: 2038.

الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو بْنِ حِمَاسٍ،
وَكَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ لِلنِّسَاءِ سِرَاةَ الطَّرِيقِ
لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا ابْنَ أَبِي ذُنُبٍ

یہ حدیث زہری سے صرف ابن ابی ذئب ہی
روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاذ بن عبد اللہ بن حبیب جہنی اپنے والد
سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب بچہ
دائیں سے بائیں کو پہچان لے اس کو نماز پڑھنے کا حکم
دو۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے اسی سند سے روایت
ہے اور ہشام بن سعد سے صرف عبد اللہ بن نافع ہی
روایت کرتے ہیں۔

3019 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ حَاجِبٍ

الْمُرُوزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْمُسَيْبِيُّ قَالَ:
نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُعَاذِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُبَيْبِ الْجُهَنِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَرَفَ الْغُلَامُ يَمِينَهُ
مِنْ شِمَالِهِ فَمُرُوهُ بِالصَّلَاةِ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَكَمْ يَرَوْهُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ
سَعْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَافِعٍ



إِسْحَاقُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّهَّانُ

اسحاق بن مروان الدهان کی روایت کردہ احادیث

حضرت حمید بن عبد الرحمن بن عوف اپنی والدہ ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں کے درمیان خیر خواہی کی نیت سے صلح کرتے وقت جھوٹ بولنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

3020 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَرْوَانَ الدَّهَّانُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّرْسِيُّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كَلْثُومِ ابْنَةِ عُقْبَةَ بِنِ أَبِي مُعَيْطٍ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَيْسَ بِكَذَّابٍ مَنْ أَصْلَحَ بَيْنَ النَّاسِ فَقَالَ خَيْرًا، أَوْ نَمَى خَيْرًا

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم مؤمن کے قتل کرنے والے کو کہتے ہیں: وہ جہنمی ہے، ہم کہتے: کبیرہ گناہ کرنے والا جہنمی ہے یہاں تک کہ اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل ہوئی: ”اللہ عزوجل مشرک کو نہیں بخشنے گا اس کے علاوہ بخش دے گا۔“

3021 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيِّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةَ قَالَ: نَا غَالِبُ الْقَطَّانُ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُرَزِيِّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كُنَّا نَقُولُ لِقَاتِلِ الْمُؤْمِنِ إِذَا مَاتَ: إِنَّهُ فِي النَّارِ، وَنَقُولُ لِمَنْ أَصَابَ كَبِيرَةً فَمَاتَ عَلَيْهَا: إِنَّهُ فِي النَّارِ، حَتَّى أَنْزَلَ اللَّهُ هَذِهِ آيَةَ: (رَأَى اللَّهُ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ) (النساء: 48)

حضرت بکر المزنی سے صرف غالب قطان اور غالب سے صرف عمر بن مغیرہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ بَكْرِ الْمُرَزِيِّ إِلَّا غَالِبُ الْقَطَّانِ، وَلَا زَوَاهُ عَنْ غَالِبٍ إِلَّا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةَ

3020 - أخرجه البخاری فی الصلح جلد 5 صفحہ 353 رقم الحدیث: 2692، ومسلم فی البر جلد 4 صفحہ 2011 .

3021 - وقال الحافظ الهیثمی فی المعجم جلد 10 صفحہ 196: وفيه عمر بن المغيرة وهو مجهول .

حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کی زمین ایک بالشت بھی ناحق لی اس کے گلے میں سات زمینوں کا طوق بنا کر ڈالا جائے گا۔

ابو طفیل سے صرف ولید بن جمیع اور ولید سے صرف محمد بن مسروق الکندی ان سے ان کے بیٹے ثابت بن ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

3022 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَبِي حَسَّانَ الْأَنْمَاطِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُمَيْعٍ، عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ بِغَيْرِ حَقِّهِ طَوَّقَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ جُمَيْعٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْوَلِيدِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَسْرُوقٍ الْكِنْدِيُّ، وَابْنُهُ ثَابِتُ بْنُ الْوَلِيدِ



إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ

اسحاق بن داؤد الصواف کی روایت کردہ احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہوتی ہے۔

3023 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غَيَّلَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيْعٍ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ قَالَ: حَدَّثَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَخُلُوفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

یہ حدیث مالک سے اسی سند سے روایت ہے۔

لَا يُرَوَى عَنْ مَالِكٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

حضرت عروہ بن مضرس الطائی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا آپ مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے تھے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں جبل طئی سے آیا ہوں میں نے قیلولہ کیا میں نے اپنی سواری کو تھکا دیا اللہ کی قسم! میں نے کوئی پہاڑ نہیں چھوڑا مگر اس پر کھڑا ہوا ہوں کیا یا رسول اللہ! میرا حج ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے ساتھ یہ نماز پڑھی اور عرفات آیا دن یا رات اس کا حج مکمل ہو گیا۔

3024 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غَيَّلَانَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَزِيْعٍ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ بِالْمَوْقِفِ بِجَمْعٍ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْبَلْتُ مِنْ جَبَلِ طَيِّءٍ، فَأَكَلْتُ نَفْسِي وَأَتَعَبْتُ رَاِحَلَتِي، وَاللَّهِ، مَا تَرَكْتُ جَبَلًا إِلَّا وَقَدْتُ وَقَفْتُ عَلَيْهِ، فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى مَعَنَا هَذِهِ الصَّلَاةَ، وَقَدَّ آتَى عَرَفَةَ،

3023- أخرجه البخارى فى الصيام جلد4 صفحه125 رقم الحديث: 1849' ومسلم فى جلد2 صفحه807 .

3024- أخرجه أحمد فى المسند جلد4 صفحه321 رقم الحديث: 18331' والطبرانى فى الكبير جلد17 صفحه153

رقم الحديث: 390 .

لَيْلًا أَوْ نَهَارًا، فَقَدْ قَضَى تَفَنَّهُ، وَتَمَّ حِجَّهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ إِلَّا عَبْدَ اللَّهِ

بْنِ بَزْرِيعٍ

3025 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ دَاوُدَ الصَّوَّافِ

قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ غِيلَانَ قَالَ: نَا عَبْدَ اللَّهِ بْنُ بَزْرِيعٍ،

عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ، عَنْ

إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ قَالَ:

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا

رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَتَعَلَّمَ الْقُرْآنَ،

فَعَلِمْنِي مَا يُجْزئُنِي فِي الصَّلَاةِ أَنْ أَقُولَ قَالَ: قُلْ

سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ

أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ قَالَ: يَا رَسُولَ

اللَّهِ، هَذَا لِلَّهِ، فَمَا لِي أَنْ أَقُولَ؟ قَالَ: قُلْ: اللَّهُمَّ

اغْفِرْ لِي، وَارْحَمْنِي، وَاهْدِنِي، وَعَافِنِي، وَارْزُقْنِي -

فَلَمَّا أَنْ وَلَّى الرَّجُلُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: أَمَا إِنَّ هَذَا قَدْ أَصَابَ الْخَيْرَ كُلَّهُ أَوْ عَلِمَ

الْخَيْرَ كُلَّهُ أَوْ نَحْوَ هَذَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ مَنْصُورِ إِلَّا

عَبْدَ اللَّهِ بْنُ بَزْرِيعٍ، وَإِبْرَاهِيمَ هَذَا، هُوَ: إِبْرَاهِيمُ

السُّكْسُكِيُّ، وَلَا يَرَوِي مِنْ حَدِيثِ مَنْصُورٍ إِلَّا مِنْ

هَذَا الْوَجْهِ

3026 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي

صدقة بن ابی عمران سے صرف عبداللہ بن بزیر ہی

روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ابی اوفی اسلمی رضی اللہ عنہ

فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کی بارگاہ میں آیا،

اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں قرآن سیکھنے کی طاقت

نہیں رکھتا ہوں، مجھے سکھائیں جسے میں نماز میں پڑھوں

اور میری نماز ہو جائے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تُو

سبحان اللہ، الحمد للہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر

ولا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھ لیا کر۔ اس نے عرض

کی: یا رسول اللہ! یہ تو اللہ کے لیے ہے، میرے لیے کیا ہے

جو میں پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: تُو پڑھ! اے اللہ! مجھے

بخش دے! اور مجھ پر رحم فرما، مجھے ہدایت دے اور مجھے

عافیت دے اور مجھے رزق دے۔ جب وہ آدمی چلا گیا تو

حضور ﷺ نے فرمایا: اس نے ساری بھلائی پائی ہے یا

ساری بھلائی سیکھ لی ہے یا اس جیسا کوئی کلمہ فرمایا۔

سفیان بن عیینہ منصور سے اور سفیان سے

عبدالرحمن بن بزیر روایت کرتے ہیں، ابراہیم سے مراد

ابراہیم سکسکی ہیں، منصور سے یہ حدیث اسی سند سے

روایت ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3025 - أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 218 رقم الحديث: 832، وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 431 رقم الخليلث: 19134

3026 - أخرجه أيضاً في الصغير جلد 1 صفحہ 100، وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 7 صفحہ 184: وفيه محمد بن

أبي السري وثقه بن معين وغيره، وفيه لين، وبقية رجاله رجال الصحيح .

حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھے اپنے خواب میں دیکھا، بے شک اس نے مجھے ہی دیکھا کیونکہ شیطان میری صورت اور کعبہ کی شکل میں نہیں آسکتا ہے۔

الْوَرَسِ الْغَزِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: اَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى فِي مَنَامِهِ فَقَدْ رَأَى، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، وَلَا بِالْكَعْبَةِ

زید بن اسلم سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا مَعْمَرٌ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3027 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّحَّانِ

حضور ﷺ نے فرمایا: جو منچھوں میں سے کچھ حصہ نہ کاٹے، اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے یا میرے طریقے پر نہیں۔

الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَاغِيِّ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ السَّرَّاجِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَأْخُذْ مِنْ شَارِبِهِ فَلَيْسَ مِنَّا

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس اخبیہ

3028 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّحَّانِ

کے بعد کوئی اخبیہ نہیں ہے، جو حضور ﷺ کے ساتھ ہے اللہ عزوجل اُن سے وہ مصیبت دور کر دے گا، جس کو اللہ نے اس اخبیہ یعنی کوفہ سے دور کر دیا۔

قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَصْبَاغِيِّ قَالَ: نَا مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ، عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ أَبِي الْمُخْتَارِ، عَنْ بِلَالِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حُذَيْفَةَ قَالَ: مَا أَخْبِيَّةٌ بَعْدَ أَخْبِيَّةِ كَانَتْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْهُمْ مِنَ الْبَلَاءِ مَا يَدْفَعُ اللَّهُ عَنْ هَذِهِ الْأَخْبِيَّةِ، يَعْنِي: الْكُوفَةَ.

یہ دونوں حدیثیں زبیرقان سے صرف مصعب بن

لَمْ يَرَوْهُ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْأَبِي

3027- أخرجه الترمذی فی الأدب جلد 5 صفحہ 93 رقم الحدیث: 2761، والنسائی فی الطہارة جلد 1 صفحہ 19 باب

قص الشارب، وأحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 448 رقم الحدیث: 19285 .

3028- أخرجه أحمد فی المسند جلد 5 صفحہ 449 رقم الحدیث: 23328 . انظر: مجمع الزوائد للحافظ الہیثمی

مُصْعَبُ بْنُ سَلَامٍ

سلام ہی روایت کرتے ہیں۔

3029 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہم انبیاء کے گروہ کو تین کاموں کا حکم دیا گیا ہے: (۱) روزہ جلدی افطار کرنے کا (۲) سحری دیر سے کرنے کا (۳) نماز میں دائیں ہاتھ کو بائیں پر رکھنے کا۔

الْعُرَاقِيُّ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ بْنِ سَالِمٍ الْقَدَّاحُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّا مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ أُمِرْنَا بِثَلَاثٍ: بِتَفْجِيلِ الْفِطْرِ، وَتَأْخِيرِ السُّحُورِ، وَوَضْعِ الْيَمَنِ عَلَى الْيُسْرَى فِي الصَّلَاةِ

اس حدیث کو نافع سے صرف عبدالعزیز اور ان سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں، یحییٰ منفرد ہے ابن عمر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

لم يروه عن نافع الا عبد العزيز ولا عنه الا ابنه تفرد به يحيى لا يروى عن ابن عمر الا من هذا الوجه



إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ

اسحاق بن جمیل اصبہانی کی روایت کردہ احادیث

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قطع تعلق نہ کرو پیٹھ پیچھے عیب جوئی نہ کرو غصہ نہ کرو اللہ کے بندو! آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی سے تین دن سے زیادہ قطع تعلق رکھے۔

عبداللہ بن بدیل بن ورقاء سے زہری اسی طرح روایت کرتے ہیں زہری سے عبید اللہ اور یہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔ زہری کے اصحاب زہری سے وہ عطاء بن زید سے وہ ایوب سے اور وہ زہری سے اور زہری حضرت انس بن مالک سے۔ حضرت عبداللہ بن بدیل حافظ ہیں حدیث غریب ہے کیونکہ حضرت ابن عباس سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم زمین والوں پر

3030 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَمِيلٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ الْعَبَّاسِ الْبَاهِلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو أَبُو عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُدَيْلٍ الْخَزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَقَاطَعُوا، وَلَا تَدَابَرُوا، وَلَا تَبَاغُضُوا، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ بْنُ وَرْقَاءَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ، وَعَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فَإِنَّ كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُدَيْلٍ حَفِظَهُ فَهُوَ حَدِيثٌ غَرِيبٌ وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3031 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاعَانِيُّ

3030 - أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1 صفحہ 101 .

3031 - أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1 صفحہ 101، والكبير جلد 10 صفحہ 183، وأبو يعلى، والطائلسي، والحاكم، والبيهقي، والخطيب في تاريخه، كلهم من طرق عن أبي اسحاق، عن أبي عبدة..... به، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 190: ورجال أبي يعلى رجال الصحيح. إلا أن أبا عبدة لم يسمع من أبيه، فهو مرسل .

رحم کرو آسمان والاتم پر رحم کرے گا۔

قَالَ: نَا مُوسَىٰ بِنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا حَفْصُ بِنُ غِيَاثٍ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بِنِ
عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَرْحَمُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمُكَ مَنْ فِي
السَّمَاءِ

یہ حدیث اعمش سے صرف حفص بن غیاث اور
حفص سے صرف موسیٰ بن داؤد روایت کرتے ہیں اس کو
روایت کرنے میں صاغانی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَفْصُ
بِنُ غِيَاثٍ، وَلَا عَنْ حَفْصِ إِلَّا مُوسَىٰ بِنُ دَاوُدَ، تَفَرَّدَ
بِهِ الصَّاعَانِيُّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور ﷺ روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے تم میں
سے کون اپنے نفس کا رسول اللہ ﷺ سے زیادہ مالک
ہے؟

3032 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ
رَجَاءِ الدَّوْسِيِّ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ حُمَيْدِ
الطَّوِيلِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَأَيْكُمْ يَمْلِكُ مِنْ
أَرَبِهِ مَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْلِكُ؟



اس شیخ کے نام سے جس کا نام ادريس ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں سب سے پہلے ان لوگوں کو بلایا جائے گا جو تعریف کرنے والے ہوں گے وہ جو تنگی و خوشی میں اللہ کی حمد کرتے تھے۔

حبیب بن ابی ثابت سے صرف قیس بن ربیع اور شعبہ بن حجاج روایت کرتے ہیں نصر بن حماد الوراق کی حدیث کو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عمرو بن لُحی بن قمعہ بن خندف۔

حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

مَنْ اسْمُهُ اَدْرِيسُ

3033 - حَدَّثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ قَالَ: نا عاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَوَّلُ مَنْ يُدْعَى اِلَى الْجَنَّةِ الْحَمَّادُونَ الَّذِينَ يَحْمَدُونَ اللَّهَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ اِلَّا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، وَشُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ مِنْ حَدِيثِ نَصْرِ بْنِ حَمَّادِ الْوَرَّاقِ

3034 - حَدَّثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْحَدَّادُ قَالَ: نا عاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَمْرُو بْنُ لُحَيِّ بْنِ قَمْعَةَ بْنِ خَنْدِفٍ

3035 - حَدَّثَنَا اِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرِ الْعَطَّارِ

3033 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 103، والكبير جلد 12 صفحہ 19، وقال الحافظ الهيثمي في المعجم (1098): رواه الطبرانی في الثلاثة بأسانيد، وفي احدها قيس بن الربيع وثقة شعبة والثوري وغيرهما، وضعفه يحيى القطان وغيره، وبقية رجاله رجال الصحيح .

3034 - أخرجه البخاری في المناقب جلد 6 صفحہ 632 رقم الحديث: 3520، ولفظ مسلم: آیت عمر بن لُحی بن قمعة بن خندف ابا بنی کعب هولاء یجر قصبه فی النار . فی کتاب الجنة وصفه ربعها جلد 4 صفحہ 2191 .

3035 - أخرجه الترمذی فی الطهارة جلد 1 صفحہ 158 رقم الحديث: 95 قال الترمذی: حدیث حسن صحیح . وأحمد فی المسند جلد 5 صفحہ 255 رقم الحديث: 21939 ولفظه عند أحمد .

حضور ﷺ نے فرمایا: مسافر تین دن و راتیں اور مقیم
ایک دن و ایک رات موزوں پر مسح کرے گا۔

قَالَ: فَاَعْتَمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ قَالَ: نَاهِشَامُ بْنُ
حَسَّانَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ،
عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْجَدَلِيِّ، عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمَسَافِرِ
ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَكَيَالِيَهُنَّ، وَلِلْمُقِيمِ يَوْمٌ وَكَيْلَةٌ



مَنْ اسْمُهُ أَيُّوبُ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام ایوب ہے

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے
رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میں عرب والوں
میں سے پہلے، صہیب روم والوں میں سے پہلے، بلال حبشہ
والوں میں سے پہلے اور سلمان فارس والوں میں سے
سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔

3036 - حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ
الصُّورِيُّ أَبُو مَيْمُونٍ قَالَ: نَاعِطِيَّةُ بْنُ بَقِيَّةَ بْنِ
الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَامُ مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا أُمَامَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَنَا سَابِقُ الْعَرَبِ إِلَى
الْجَنَّةِ، وَصُهَيْبُ سَابِقُ الرُّومِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَبِلَالٌ
سَابِقُ الْحَبَشَةِ إِلَى الْجَنَّةِ، وَسَلْمَانُ سَابِقُ الْفَرَسِ
إِلَى الْجَنَّةِ

ابو امامہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

لا یروی عن ابی امامة الا بهذا الاسناد



اس شیخ کے نام سے جن کا نام انس ہے

مَنْ اسْمُهُ انس

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی کسی قوم میں رہتا ہو وہ قوم کثرت سے گناہوں میں ملوث ہو پھر وہ ان میں ٹھہرا رہے تو اللہ عزوجل کا عذاب ان سب پر آئے گا۔

3037 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ أَبُو عَقِيلٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: نَا مَخْلَدُ بْنُ مَالِكِ الْحَرَائِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ ثُمَامَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ رَجُلٍ يَكُونُ فِي قَوْمٍ يَعْمَلُ بِالْمَعَاصِي هُمْ أَكْثَرُ مِنْهُ، وَأَعَزُّ، ثُمَّ يُدَاهِنُوا فِي شَأْنِهِ، إِلَّا عَاقَبَهُمُ اللَّهُ

یہ حدیث حارث بن سوید سے صرف ثمامہ بن عقبہ اور ثمامہ سے صرف عبدالعزیز بن عبید اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ إِلَّا ثُمَامَةَ بْنَ عُقْبَةَ، وَلَا عَنْ ثُمَامَةَ إِلَّا عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سفر سے واپس آتے تو دو رکعت نفل ادا کرتے۔

3038 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّلُ بْنُ نَفِيلِ الْحَرَائِيُّ قَالَ: نَا عَتَابُ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ

یہ حدیث حضرت علی سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معلل بن نفیل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَلَّلُ بْنُ نَفِيلٍ

3037 - أخرجه في الكبير جلد 10 صفحہ 265 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 271: وفيه عبد العزيز بن

عبيد الله، وهو ضعيف .

3038 - أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1 صفحہ 105 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 286: وفيه الحارث

وهو ضعيف .

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ
جب تکبیر کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے دونوں کانوں کی نو
تک پھر پڑھتے: ”سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ إِلَى
آخِرِهِ“۔

3039 - حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ سَلَمٍ الْخَوْلَانِيُّ
قَالَ: نَا أَبُو الْأَصْبَغِ عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى الْخِرَازِيُّ
قَالَ: نَا مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَائِدِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ
أَنَسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا
كَبَّرَ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ أُذُنَيْهِ، يَقُولُ: سُبْحَانَكَ
اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ،
وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ

یہ حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت
ہے اس کو روایت کرنے میں مخلد بن یزید اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ



مَنْ اسْمُهُ أَبَانٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام ابان ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں ظہر یا عصر کی دو نمازوں میں سے کوئی ایک نماز پڑھائی تو دو رکعتوں پر سلام پھیر دیا تو جلد باز لوگ اٹھ کر نکل گئے، کہنے لگے: نماز کم ہوگئی! نماز کم ہو گئی! اور لوگوں میں حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے وہ آپ سے بات کرنے میں ہیبت زدہ تھے سو آپ اٹھ کر مسجد میں موجود اس لکڑی کی طرف اٹھ کر گئے، جس پر آپ ہاتھ مبارک رکھا کرتے تھے تو لوگوں میں سے ایک آدمی اٹھا جسے ذوالیدین کہا جاتا تھا اُس کے ہاتھ لہجے تھے اور رسول اللہ ﷺ نے اس کا نام ذوالیدین رکھا تھا۔ اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا نماز کم ہوگئی یا آپ بھول گئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نہ تو نماز کم ہوئی ہے اور نہ ہی میں بھولا ہوں، سو آپ نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے عرض کی: ذوالیدین نے سچ کہا ہے تو رسول اللہ ﷺ واپس لوٹے، پس آپ نے دو رکعتیں ادا کیں انہی کی طرح یا زیادہ لمبی پھر دو سجدے کیے۔

اس حدیث کو ازقرہ و سعید ابی حرہ و ہارون بن ابراہیم ابوداؤد کے سوا کسی نے روایت نہیں کیا اور نہ ابوداؤد سے عبد اللہ بن عمران کے سوا۔

3040 - حَدَّثَنَا أَبَانُ بْنُ مَخْلَدٍ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ الْأَصْبَهَانِيَّ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، قَالَ نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَقُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، وَهَارُونَ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، كُلُّهُمْ حَدَّثَنِي، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِحْدَى صَلَاتِي الْعِشِيِّ: الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَسَلَّمَ فِي رَكْعَتَيْنِ، فَخَرَجَ سَرْعَانَ النَّاسِ، فَقَالُوا: قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ، وَفِي الْقَوْمِ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ، فَهَابَا أَنْ يُكَلِّمَاهُ فَقَامَ إِلَى خَشْبَةِ فِي الْمَسْجِدِ كَانَ يَضَعُ يَدَهُ عَلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ، يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ طَوِيلُ الْيَدَيْنِ، وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَمِّيهِ: ذَا الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قُصِرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ؟ قَالَ: لَمْ أَنْسَ وَلَمْ تُقْصِرْ فَسَأَلَ الْقَوْمَ، فَقَالُوا: صَدَقَ ذُو الْيَدَيْنِ، فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِثْلَ رُكُوعِهِ أَوْ أَطْوَلَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةٍ وَسَعِيدِ أَحْيَى أَبِي حَرَّةٍ وَهَارُونَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام اسلم ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو وضو کرے غسل کرنے کے بعد اس کا تعلق ہم سے نہیں ہے (کیونکہ غسل میں وضو ہو جاتا ہے بعد میں وضو پر پانی خرچ کرنا اسراف شمار ہوگا)۔

یہ حدیث ابان بن تغلب سے صرف سعید بن بشیر اور سعید سے صرف ولید ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن احمد اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو حجر اسود کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا اور آپ نے فرمایا: اللہ کی قسم! میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، تو نفع و نقصان کا مالک نہیں ہے اگر میں نے رسول اللہ ﷺ کو تیرا بوسہ لیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں تیرا بوسہ نہ لیتا۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر نبی نے دعا کی جو اس نے دعا کی اللہ عزوجل نے اس کو قبول کیا میں نے اپنی دعا موخر کی اپنی امت کی

مَنْ اسْمُهُ اسْلَمٌ

3041 - حَدَّثَنَا اسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الوَاسِطِيِّ قَالَ: نا سُلَيْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ الوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ ابَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَوَضَّأَ بَعْدَ الْغُسْلِ فَلَيْسَ مِنَّا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ ابَانَ بْنِ تَغْلِبٍ اِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدِ اِلَّا الوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ اَحْمَدَ

3042 - حَدَّثَنَا اسْلَمُ بْنُ سَهْلِ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عِيْسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نا رَحْمَةُ بْنُ مُضْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يُقْبَلُ الْحَجَرَ وَيَقُولُ: وَاللّٰهِ اِنِّي لَا اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ، وَلَوْ لَا اِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ

3043 - حَدَّثَنَا اسْلَمُ بْنُ سَهْلِ الوَاسِطِيُّ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عِيْسَى قَالَ: نا رَحْمَةُ بْنُ مُضْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ

3041- أخرجه أيضاً في الصغير جلد 10 صفحہ 106، والكبير رقم الحديث: 11691، وقال الحافظ الهيثمي في المجموع

جلد 1 صفحہ 276: وفي اسناده الأوسط (وكذا الصغير والكبير) سليمان بن أحمد، كذب ابن معين، ووثقه عبدان.

3043- أخرجه مسلم في الايمان جلد 1 صفحہ 190، وأحمد في المسند جلد 3 صفحہ 484 رقم الحديث: 15269.

جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِكُلِّ نَبِيٍّ دَعْوَةٌ، دَعَا بِهَا فَاسْتَجَابَ اللَّهُ لَهُ، وَإِنِّي آخِرُتُ دَعْوَتِي شَفَاعَةً لِأُمَّتِي شفاعت کے لیے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت والے کچھ لوگوں کو نہ پائیں گے دنیا میں ان کو جانتے تھے وہ انبیاء علیہم السلام کے پاس آئیں گے ان کو یاد کروائیں گے ان کی شفاعت کے لیے عرض کریں گے ان کی شفاعت قبول کی جائے گی ان کو طلقاء کہا جائے گا اور وہ سارے (جہنم سے) آزاد کیے گئے ہوں گے ان پر ماہِ حیات ڈالا جائے گا۔

3044 - حَدَّثَنَا اسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا الْقَاسِمُ بْنُ عَيْسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نا رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ عَزْرَةَ بِنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَفْتَقِدُ أَهْلَ الْجَنَّةِ نَاسًا كَانُوا يَعْرِفُونَهُمْ فِي الدُّنْيَا، فَيَأْتُونَ الْأَنْبِيَاءَ فَيَذْكُرُونَهُمْ، فَيَشْفَعُونَ فِيهِمْ فَيُشَفَّعُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ: الطَّلَاقُ، وَكُلُّهُمْ طُلُقَاءٌ، يُصَبُّ عَلَيْهِمْ مَاءُ الْحَيَاةِ

یہ تینوں احادیث عزرا بن ثابت سے صرف رحمة بن مصعب روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں قاسم بن عیسیٰ الطائی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ الثَّلَاثَةَ عَنْ عَزْرَةَ بِنِ ثَابِتٍ إِلَّا رَحْمَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، تَفَرَّدَ بِهَا الْقَاسِمُ عَيْسَى الطَّائِيُّ

حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے سونے اور چاندی کا لباس پہننے سے منع کیا ایک عورت نے سونے کا کنگن پھینکا وہ مسجد میں کچھ دن پڑی رہی اس کو کسی نے نہیں پکڑا۔

3045 - حَدَّثَنَا اسْلَمُ بْنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطَرٍ، عَنْ الشَّعْبِيِّ، عَنْ ابْنِ أَبِي السَّنَابِلِ، عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لِبَاسِ الذَّهَبِ وَنَظْمِهِ، فَرَمَتْ امْرَأَةً بِسِوَارٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَكَتْ فِي الْمَسْجِدِ أَيَّامًا، مَا يَأْخُذُهُ أَحَدٌ

یہ حدیث شعبی سے صرف حریث اور حریث سے یزید بن عطاء روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا حُرَيْثٌ، وَلَا عَنْ حُرَيْثٍ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ

3046 - حَدَّثَنَا اسْمُ بِنُ سَهْلٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نا وَكِيعٌ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدَبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ قَالَ: هَاهُنَا مِنْ بَنِي فُلَانٍ أَحَدٌ؟ فَقَالَ رَجُلٌ: نَعَمْ، يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَاهُنَا فُلَانٌ فَقَالَ: إِنَّ صَاحِبَكُمْ مُحْتَبَسٌ بِبَابِ الْجَنَّةِ، بِدَيْنٍ عَلَيْهِ فَقَالَ رَجُلٌ: اِلَى دَيْنِهِ، يَا رَسُولَ اللَّهِ

حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے نماز پڑھائی جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا: یہاں بنی فلان کا کوئی ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر فرمایا: یہاں بنی فلان کا کوئی ہے؟ کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر فرمایا: بنی فلان کا کوئی یہاں ہے؟ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! یہاں فلان ہے، آپ نے فرمایا: تمہارے ساتھی کو جنت کے دروازے پر روک لیا گیا ہے ان کے ذمہ قرض ہونے کی وجہ سے۔ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کا قرض میرے ذمہ ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا وَكِيعٌ، وَلَا عَنْ وَكِيعٍ إِلَّا أَبُو كُرَيْبٍ، وَلَا كِتَابَهُ إِلَّا عَنْ اسْمٍ

یہ حدیث علاء بن عبد الکریم سے صرف وکیع اور وکیع سے صرف ابو کریب روایت کرتے ہیں، ہم نے اس کو اسلم کے حوالہ سے روایت کیا ہے۔

3047 - حَدَّثَنَا اسْمُ بِنُ سَهْلٍ قَالَ: نا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَمْوِيُّ قَالَ: نا بَسَّامُ الصَّيرَفِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَامٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَصُومُ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَ عَشْرَةَ وَارْبَعَ عَشْرَةَ، وَخَمْسَ عَشْرَةَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَسَّامٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ عَمْرٍو، وَتَفَرَّدَ بِهِ سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ ثَابِتٍ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمراہ چاند کی تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں تاریخ کو روزہ رکھتے تھے۔

یہ حدیث بسام سے صرف خالد بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن داؤد بن عمرو

3046 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحہ 132: وفيه اسلم بن سهل الواسطي. قال الذهبي: لینه الدارقطني

وهذه عبارة سهلة في التضعيف، وبقية رجاله ثقات .

3047 - أخرجه الترمذی في الصوم جلد 3 صفحہ 125 رقم الحديث: 761، والنسائي في الصيام جلد 4 صفحہ 191 باب

ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبير في صيام ثلاثة أيام من شهر .

ثابت اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں مشروب لایا گیا، آپ کی دائیں جانب ایک دیہاتی اور بائیں جانب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے، آپ نے نوش فرمایا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کی: آپ ابوبکر کو عطا کریں! آپ ﷺ نے دیہاتی کو دیا، فرمایا: دائیں طرف والے زیادہ حق دار ہوتے ہیں۔

یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے صرف قاسم بن یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں مقدم بن محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابوموسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کو دو گنا ثواب دیا جاتا ہے ایک وہ آدمی جس کے پاس لونڈی ہو اور وہ اس کو اچھا ادب سکھائے پھر اس کو آزاد کر دے تو اس کے لیے دو گنا ثواب ہے ایک وہ غلام جو اللہ کا حق بھی ادا کرے اور اپنے آقا کا بھی حق ادا کرے اس کے لیے بھی دو گنا ثواب ہے ایک وہ آدمی جو اپنے زمانہ کے نبی پر ایمان لایا اور پھر میرا زمانہ پایا تو مجھ پر ایمان لایا اور اتباع کی تو اس کے لیے دو گنا ثواب ہے۔

یہ حدیث اعشش سے صرف روح بن مسافر ہی

3048 - حَدَّثَنَا اسَلَمُ بْنُ سَهْلٍ الوَاسِطِيُّ

قَالَ: نا مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ يَحْيَى بْنِ عَطَاءٍ قَالَ: نا عَمِي الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِشَرَابٍ وَعَنْ يَمِينِهِ أَعْرَابِيٌّ، وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ، فَشَرِبَ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَعْطِهِ أَبَا بَكْرٍ، فَأَعْطَاهُ الْأَعْرَابِيٌّ، وَقَالَ: الْاِيْمَنُونَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ مُقَدَّمُ بْنُ مُحَمَّدٍ

3049 - حَدَّثَنَا اسَلَمُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نا

اسْحَاقُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ يَزِيدَ الوَاسِطِيُّ قَالَ: نا رَوْحُ بْنُ مُسَافِرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْكَدَةَ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ يُؤْتَوْنَ أُجُورَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرَّتَيْنِ: رَجُلٌ كَانَتْ عِنْدَهُ أَمَةٌ فَاحْسَنَ آدَبَهَا، ثُمَّ أَعْتَقَهَا، وَتَزَوَّجَهَا، فَلَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَعَبْدٌ مَمْلُوكٌ يُؤَدِّي حَقَّ اللَّهِ وَحَقَّ سَيِّدِهِ، فَلَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ، وَرَجُلٌ آمَنَ بِنَبِيِّهِ، ثُمَّ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَنَ بِهِ وَاتَّبَعَهُ، فَلَهُ أُجْرُهُ مَرَّتَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا رَوْحُ بْنُ

3048- أخرجه البخاری فی المساقاة جلد5 صفحہ37 رقم الحدیث: 2352، ومسلم فی الأشربة جلد3 صفحہ1603 .

3049- أخرجه البخاری فی الجهاد جلد6 صفحہ169 رقم الحدیث: 3011، ومسلم فی الأیمان جلد1 صفحہ134 .

مُسَافِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ بْنُ سَعِيدٍ

روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن سعید اکیلے ہیں۔

حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ میرا بیٹا سردار ہے اللہ عزوجل اس کے ذریعے دو گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا، یعنی امام حسن بن علی رضی اللہ عنہما مراد ہیں۔

3050 - حَدَّثَنَا اسْمُ بْنُ سَهْلِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ، وَسَيُصْلِحُ اللَّهُ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَعْنِي: الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ

یہ حدیث داؤد بن ابو ہند سے صرف عبد الحکیم بن منصور ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يُجَوِّدْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدَ إِلَّا عَبْدُ الْحَكِيمِ بْنُ مَنْصُورٍ



3050- أخرجه البخارى فى المناقب جلد6 صفحه727 رقم الحديث: 3629، وأبو داؤد فى السنة جلد4 صفحه215

رقم الحديث: 4662، والترمذى فى المناقب جلد5 صفحه658 رقم الحديث: 3773، وقال الترمذى: هذا

حديث حسن صحيح . وأحمد فى المسند جلد5 صفحه47 رقم الحديث: 20417 .

مَنْ اسْمُهُ الْأَحْوَصُ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام احوص ہے

3051 - حَدَّثَنَا الْأَحْوَصُ بْنُ الْمُفْضَلِ بْنِ

عَسَانَ الْغَلَابِيِّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَارُوحُ بْنُ أَسْلَمَ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَكْرِ الْمَزْنِيِّ قَالَ: نَا حَمِيدُ بْنُ
هَلَالٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي
دَرٍّ قَالَ: صَلَّيْتُ قَبْلَ أَنْ أَسْمَعَ بِإِسْلَامِ ثَلَاثِ
سِنِينَ، قُلْتُ: يَا أَبَا دَرٍّ، أَيْنَ كُنْتَ تَوَجَّهَ؟ قَالَ: كُنْتُ
أَتَوَجَّهُهُ حَيْثُ وَجَّهَنِي اللَّهُ، كُنْتُ أَصَلِّي مِنْ أَوَّلِ
اللَّيْلِ، فَإِذَا كَانَ آخِرُ اللَّيْلِ أَقْبَيْتُ حَتَّى كَانَمَا أَنَا
خِيفَاءَ حَتَّى تَعْلُونِي الشَّمْسُ قَالَ: فَاسْتَحَلَّتْ غِفَارُ
الشَّهْرِ الْحَرَامِ، فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَآخِي أَنَيْسُ وَآمَنَّا،
فَنَزَلْنَا عَلَى خَالٍ لَنَا، فَبَلَغَ خَالُنَا أَنَّ آخِي يَدْخُلُ عَلَى
أَهْلِهِ، فَذَكَرَ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: مَا لَنَا مَعَكَ قَرَارًا قَالَ:
فَارْتَحَلْنَا وَجَعَلْ يَقْنَعُ رَأْسَهُ وَيَبْكِي حُزْنًا عَلَيْنَا،
فَنَزَلْنَا بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَنَافَرَ آخِي رَجُلًا مِنَ الشُّعْرَاءِ
عَلَى صِرْمَتِهِ: أَيُّهُمَا كَانَ أَشْعَرَ أَخَذَ صِرْمَةَ الْآخِرِ،
فَاتَيْنَا كَاهِنًا، فَقَالَ الْكَاهِنُ لِأَنْبَسِ: قَدْ قَضَيْتَ
لِنَفْسِكَ قَبْلَ أَنْ أَقْضَى لَكَ، فَأَخَذَ صِرْمَةَ الشَّاعِرِ،
فَنَزَلَ بِحَضْرَةِ مَكَّةَ، فَقَالَ لِأَبِي دَرٍّ: أَحْفَظْ لِي حَاجَةً
فَأَحْفَظْ صِرْمَتَكَ، فَلَمَّا قَدِمَ مَكَّةَ سَمِعَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى

حضرت عبداللہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے اسلام کے بارے کچھ سننے سے تین سال پہلے نماز پڑھی، میں نے عرض کی: اے ابوذر! تو نے منہ کس طرف کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا: میں نے بس اسی طرف منہ کیا جس طرف اللہ نے میرا منہ پھیر دیا۔ میں رات کے پہلے حصے میں نماز پڑھا کرتا تھا جب رات کا آخری حصہ آتا تو لیٹ جاتا گویا کہ میں چھپ چھپا کے عبادت کرتا تھا یہاں تک کہ سورج مجھ پر چڑھ آتا۔ فرماتے ہیں: بنو غفار قبیلے نے حرمت والے مہینے کو حلال بنا لیا۔ پس میں اور میرا بھائی انیس چل نکلے اور ایمان لائے۔ ہم اپنے خالو کے گھر جا کر رہنے لگے، پس ہمارے خالو کو یہ بات پہنچی کہ میرا بھائی ان کے گھر آیا ہے اور اس نے ساری صورت حال سے پردہ ہٹا دیا ہے۔ پس میں نے کہا: ہمیں آپ کے پاس رہ کر چین نہیں آیا۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے وہاں سے کوچ کیا اور انہوں نے پردہ میں ہو کر ہماری جدائی میں رونا شروع کر دیا۔ ہم مکہ کے قریب آ کر ٹھہر گئے، ایک شاعر نے میرے بھائی سے شاعری کا مقابلہ رکھ لیا کہ کون شعر بازی میں دوسرے سے جیتتا ہے۔ ہم ایک

کاہن کے پاس آئے کاہن نے انیس سے کہا: تو نے اپنے لیے خود ہی فیصلہ کر لیا ہے اس سے پہلے کہ میں تیرے حق میں فیصلہ کروں۔ پس وہ بھی مکہ کے مضافات میں رہائش پذیر ہو گیا۔ پس اس نے ابوذر سے کہا: تو میرا کام کر میں تیرے اونٹوں کی حفاظت کرتا ہوں۔ پس جب وہ مکہ آیا تو نبی کریم ﷺ کی باتیں بھی سنیں اور لوگوں کی باتیں بھی سنیں اس کا کام ہو گیا تو وہ اپنے بھائی کی طرف واپس لوٹ گیا اور کہا: اے بھائی! میں نے مکہ میں ایک آدمی دیکھا ہے وہ تیرے خدا کی طرف بلاتا ہے جس کی تو عبادت کرتا ہے۔ (راوی کا بیان ہے کہ) حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ نے کہا: اے بھائی! لوگ کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ مجنون ہے شاعر ہے کاہن ہے لیکن میں نے ان کی باتیں شعراء کے سامنے پیش کی ہیں پس خدا کی قسم! وہ شاعر نہیں ہے میں نے بڑے بڑے کاہنوں کے اقوال سنے ہیں بخدا! وہ کاہن بھی نہیں ہے۔ بخدا! وہ مجنون بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا: اے بھائی! تو کیا کہتا ہے؟ اس نے کہا: میں کہتا ہوں کہ وہ آدمی سچا ہے اور لوگ جھوٹے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں فرمایا: یہ بتا کیا تو اسے بے دین اور جہنمی کہتے ہیں۔ اس نے کہا: جب تو چھائے گا تو پوچھ لینا کہ صابی ہو گیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں: جب میں مکہ میں پہنچا تو میں نے ایک آدمی دیکھا کہ میری آنکھیں جس کے اوپر سے گزر گئیں (چھوٹے قد کا تھا)۔ پس

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعَ مَا يَقُولُونَ لَهُ، فَقَضَى حَاجَتَهُ، وَرَجَعَ إِلَى أَخِيهِ، وَقَالَ: أَيْ أَخِي، رَأَيْتَ رَجُلًا بِمَكَّةَ يَدْعُو إِلَى إِلَهِكَ الَّذِي تَعْبُدُ قَالَ: فَقَالَ أَبُو ذَرٍّ: أَيْ أَخِي، مَا يَقُولُ النَّاسُ؟ قَالَ: يَقُولُونَ: مَجْنُونٌ، وَيَقُولُونَ: شَاعِرٌ، وَيَقُولُونَ: كَاهِنٌ، وَقَدْ عَرَضْتُ قَوْلَهُ عَلَى أَقْرَاءِ الشُّعْرَاءِ، فَوَاللَّهِ مَا هُوَ بِشَاعِرٍ، وَسَمِعْتُ قَوْلَ الْكُهَّانِ، فَلَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِكَاهِنٍ، وَلَا وَاللَّهِ مَا هُوَ بِمَجْنُونٍ، قُلْتُ: أَيْ أَخِي، فَمَا تَقُولُ؟ قَالَ: أَقُولُ: إِنَّهُ صَادِقٌ وَأَنَّهُمْ كَاذِبُونَ قَالَ: قُلْتُ: إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَلْقَاهُ قَالَ: أَيْ أَخِي، إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَرَفُوا لَهُ، وَتَجَهَّمُوا لَهُ قَالَ: فَإِذَا قَدِمْتُ فَسَلْ، عَنِ الصَّابِئِ. قَالَ: فَلَمَّا قَدِمْتُ مَكَّةَ رَأَيْتُ رَجُلًا عَلَتْ عَنْهُ عَيْنِي، فَقَالَ: قُلْتُ: أَيْنَ هَذَا الصَّابِئُ؟ قَالَ: فَنَادَى: صَابِئُ صَابِئُ قَالَ: فَخَرَجَ مِنْ كُلِّ وادٍّ، فَرَمَوْنِي لِكُلِّ حَجَرٍ وَمَدَرٍ، حَتَّى تَرَكُونِي كَأَنِّي نَضَبُ أَحْمَرَ قَالَ: فَتَفَرَّقُوا عَنِّي، فَاتَيْتُ زَمْرَمَ، فَفَسَلْتُ، عَنِّي الدِّمَاءَ، وَدَخَلْتُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا. قَالَ: فَلَبِثْتُ ثَلَاثِينَ يَوْمًا وَلَيْلَةً وَلَيْسَ لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْرَمَ حَتَّى ضَرَبَ اللَّهُ عَلَيَّ أَسْمَحَةَ أَهْلِ مَكَّةَ حَتَّى لَمْ أَرَ أَحَدًا يَطُوفُ بِالْبَيْتِ إِلَّا أَمْرَاتَيْنِ، فَاتَتَا عَلَيَّ وَهَمَا تَقُولَانِ: إِسَافٌ وَنَائِلَةٌ، فَقُلْتُ: أَنْكِحُوا أَحَدَيْهِمَا الْأُخْرَى بِهِنَّ مِنْ خَشَبٍ، وَلَمْ أَكُنْ يَا ابْنَ أَخِي، وَذَكَرَ كَلِمَةً، فَوَلَّتَا، وَقَالَتَا: الصَّابِئُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا، أَمَا وَاللَّهِ لَوْ

فرماتے ہیں: میں نے کہا کہ وہ صابی کہاں ہے؟ فرماتے ہیں: وہ پکارا: صابی! صابی! فرماتے ہیں: ہر وادی سے لوگ نکلے انہوں نے مجھے پتھر اور روڑے مارے یہاں تک کہ انہوں نے مجھے زخمی کر کے چھوڑا۔ فرماتے ہیں: وہ مجھے چھوڑ کر منتشر ہو گئے، میں زمزم کے کنویں پر آیا۔ میں نے اپنا خون دھویا اور کعبہ کے پردوں میں جا گھسا۔ فرماتے ہیں: میں تیس رات اور دن کے درمیان (یعنی پندرہ دن) ٹھہرا رہا۔ میرے لیے زمزم کے سوا کوئی کھانا نہ تھا یہاں تک کہ اللہ نے مکہ والوں کے کان بند کر دیئے۔ میں نے دو عورتوں کے سوا کسی کو طواف کرتے نہ دیکھا۔ پس میرے پاس بھی یہ کہتی ہوئی آئیں: اے اساف بت! اے نائلہ بت! پس میں نے اُن سے چپکے سے کہا: ان میں سے ایک کا دوسری کے ساتھ نکاح کر دو۔ اے ابن انخی! یہ لکڑی کے ہیں، نکاح ممکن نہیں۔ پس وہ یہ کہتی ہوئی واپس جا رہی تھیں: کعبہ کے پردوں میں صابی ہے، قسم بخدا! کاش ہمارے لوگوں میں سے کوئی یہاں ہوتا (جو اس کو نکال باہر کرتا)۔ فرماتے ہیں: اتنے میں رسول کریم ﷺ اور ابو بکر تشریف لائے۔ پس وہ دونوں بھی اُن کے سامنے سے (کہتی ہوئی) گزر رہی تھیں۔ پس ان دونوں نے بولا: یہ آواز کیسی ہے؟ تو انہوں نے ایک بار پھر کہا: کعبہ کے پردوں میں کوئی صابی (بے دین) ہے۔ انہوں نے کہا: وہ کیا کہتا ہے؟ انہوں نے کہا: اس نے ایک کلمہ کہہ کر ہمارے منہ بند کر دیئے ہیں۔ پس یہ دونوں حضرات خرما خرما! دھیرے دھیرے تشریف

أَنَّ هُنَا أَحَدًا مِنْ نَفَرِنَا . قَالَ : وَدَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ فَاسْتَقْبَلْتَاهُمَا ، فَقَالَا : مَا هَذَا الصَّوْتُ ؟ قَالَتَا : الصَّابُ بَيْنَ الْكُعْبَةِ وَأَسْتَارِهَا ، قَالَا : مَا يَقُولُ ؟ قَالَتَا : يَقُولُ كَلِمَةً تَمَلُّهُمَا أَفْوَاهِنَا ، فَجَانَا فَاسْتَلَمَا الْحَجَرَ ، ثُمَّ طَافَا سَبْعًا ، ثُمَّ صَلِيَا رُكْعَتَيْنِ قَالَ : فَعَرَفْتُ الْإِسْلَامَ ، وَعَرَفْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَقْدِيمِ أَبِي بَكْرٍ إِلَيْهِ ، فَاتَيْتُهُمَا ، فَقُلْتُ : السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ قَالَ : وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، وَعَلَيْكَ وَرَحْمَةُ اللَّهِ ، ثَلَاثًا ، ثُمَّ قَالَ : مِمَّ أَنْتَ ؟ ، قُلْتُ : أَنَا مِنْ غِفَارٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ عَلَى جَبِينِهِ قَالَ : فَذَهَبْتُ أَنَا وَلَهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَا تَعَجَلْ قَالَ : ثُمَّ رَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : مُنذُ كَمْ أَنْتَ هَاهُنَا ؟ قُلْتُ : مُنذُ ثَلَاثِينَ مِنْ بَيْنِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، فَقَالَ : مَا طَعَامُكَ ؟ قُلْتُ : مَا لِي طَعَامٌ إِلَّا مَاءُ زَمْزَمَ ، وَقَدْ تَكَسَّرْتُ لِي عَكْنُ بَطْنِي ، وَمَا وَجَدْتُ عَلَى كَبِدِي سُخْفَةَ جُوعٍ . فَقَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ ، إِنَّهَا مُبَارَكَةٌ إِنَّهَا طَعَامٌ طَعْمٌ ، يَا رَسُولَ اللَّهِ ، انْذَنْ لِي فَاتَّحِفُّهُ اللَّيْلَةَ . قَالَ : فَأَذِنَ لَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى دَارٍ فَدَخَلَهَا ، فَفَتَحَ بَابًا ، فَفَبَضَّ لَنَا قَبْضَاتٍ مِنْ زَبِيبٍ طَائِفِي قَالَ : فَكَانَ ذَلِكَ أَوَّلَ طَعَامٍ أَكَلْتُهُ بِمَكَّةَ حَتَّى خَرَجْتُ مِنْهَا . فَقَالَ لِي : أَمَرْتُ أَنْ أُخْرَجَ إِلَى أَرْضِ ذَاتِ نَخْلٍ ، وَلَا أَحْسَبُهَا

إِلَّا يَتْرَبُ، فَأَذْهَبَ فَأَنْتَ رَسُولُ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى قَوْمِكَ، فَلَمَّا قَدِمْتُ عَلَى آخِي قَالَ: أَيُّ آخِي، مَاذَا جِئْتَنَا بِهِ، أَوْ كَلِمَةً نَحْوَ هَذَا؟ قُلْتُ: قَدْ لَقَيْتُهُ، وَأَسْلَمْتُ، وَبَايَعْتُ، وَدَعَوْتُ آخِي إِلَى الْإِسْلَامِ قَالَ: وَأَنَا قَدْ أَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ، فَاتَيْنَا أُمَّنَا، فَدَعَوْنَاَهَا إِلَى الْإِسْلَامِ، فَقَالَتْ: مَا بِي عَنْ دِينِكُمَا رَغْبَةً، وَأَنَا قَدْ أَسْلَمْتُ وَبَايَعْتُ قَالَ: ثُمَّ ارْتَحَلْنَا، فَاتَيْنَا قَوْمَنَا، فَدَعَوْنَاَهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ، فَاسْلَمَ نِصْفُهُمْ، وَأَسْلَمَ سَيِّدُهُمْ إِيْمَاءُ بْنُ رَحْضَةَ، وَصَلَّى بِهِمْ، وَقَالَ النَّصْفُ الْبَاقُونَ: دَعُونَا حَتَّى يَمُرَّ بِنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَمَرَّ عَلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَاسْلَمَ النَّصْفُ الْبَاقِي قَالَ: وَقَالَتْ أَسْلَمَ: نُسِلِمُ عَلَى مَا أَسْلَمْتَ عَلَيْهِ غِفَارٌ قَالَ: فَاسْلَمُوا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: أَسْلَمَ سَالِمَهَا اللَّهُ، وَغِفَارٌ غَفَرَ اللَّهُ لَهَا

لائے۔ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر سات چکر طواف کے پورے کیے پھر طواف کی دو رکعت ادا فرمائیں۔ میں نے اللہ کے رسول ﷺ کو پہچان لیا، جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے (نماز کے لیے) آپ کو آگے کیا۔ میں ان دونوں حضرات کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا: السلام علیک یا رسول اللہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! حضور ﷺ نے جواب دیا: وعلیک ورحمۃ اللہ! وعلیک ورحمۃ اللہ! وعلیک ورحمۃ اللہ! تین بار۔ پھر فرمایا: تیرا تعلق کس قبیلے سے ہے؟ میں نے عرض کی: بنو غفار سے۔ پس آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اپنی پیشانی پر رکھ کر فرمایا جو فرمایا۔ میں آگے ہو کر آپ کا ہاتھ پکڑنے لگا تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا: جلدی مت کر! فرماتے ہیں: پھر آپ ﷺ نے اپنا سر اٹھا کر فرمایا: کب سے یہاں آیا ہے؟ میں نے عرض کی: تیس رات دن ہو گئے ہیں۔ فرمایا: تیرا کھانا پینا کیا تھا؟ میں نے عرض کی: بس زمزم کا پانی جبکہ اس سے میرے پیٹ کی سلوٹیں ختم ہو گئیں (جو موٹاپے کی وجہ سے پڑ گئی تھیں) میں نے کسی قسم کی بھوک محسوس نہ کی۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: یہ برکتوں والا ہے کیونکہ بھوکوں کے لیے کھانا ہے، تین بار فرمایا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اجازت عنایت فرمائیں! میں اس رات انہیں کچھ پیش کروں۔ فرماتے ہیں: آپ نے انہیں اجازت عنایت فرمادی۔ پس آپ نے گھر کی طرف چل کر اس میں داخل ہو کر دروازہ کھولا اور طائف کی کشش کے کچھ دانے پیش کیے۔ آپ

فرماتے ہیں: جب سے میں مکہ آیا تو آج پہلے دن یہ کھانا کھایا یہاں تک کہ میں وہاں سے چلا گیا۔ آپ نے مجھ سے فرمایا: مجھے کھجوروں والی زمین کی طرف ہجرت کا حکم ہوگا، میرا یقین ہے کہ وہ میثرب ہے۔ پس جاؤ! تم اپنی قوم کی طرف اللہ کے رسول کے قاصد ہو، پس جب میں اپنے بھائی کے پاس آیا۔ اس نے کہا: اے میرے بھائی! تو ہمارے پاس کیا لایا ہے؟ میں نے کہا: میں اُس ہستی سے ملا اور میں نے اسلام قبول کر لیا، بیعت کی اور میں نے اپنے بھائی کو اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا: میں بھی اسلام لایا اور بیعت کی، ہم دونوں مل کر والدہ محترمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پس ہم دونوں نے ان کی خدمت میں دعوتِ اسلام پیش کی۔ انہوں نے فرمایا: مجھے تمہارے دین سے محبت ہے، میں بھی اسلام قبول کرتی ہوں اور بیعت کرتی ہوں۔ فرماتے ہیں: ہم نے وہاں سے رخت سفر باندھا اور اپنی قوم کے پاس آئے۔ ہم نے انہیں اسلام کی دعوت دی، آدھے ان میں سے اسلام لائے حتیٰ کہ ان کا سردار بھی مسلمان ہو گیا، جس کا نام ایما بن رضہ تھا۔ اسی نے سب کو نماز پڑھائی۔ باقی آدھے بولے: ہمیں رہنے دو! یہاں تک کہ رسول کریم ﷺ ہمارے پاس سے گزریں۔ آپ فرماتے ہیں: رسول کریم ﷺ ان کے پاس سے گزرے تو باقی آدھے بھی اسلام لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں: بنو اسلم قبیلے نے کہا: ہم بھی وہی بات قبول کرتے ہیں جس بات کو بنو غفار قبول کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں: وہ سارے اسلام

لے آئے۔ تو رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بنو اسلم قبیلے کو اللہ تعالیٰ نے سلامتی عطا فرمائی اور بنو غفار کی اللہ تعالیٰ نے مغفرت فرمادی ہے۔

حضرت عبداللہ بن بکر بن عبداللہ سے اس حدیث کو صرف روح بن اسلم اور ان سے مفضل بن غسان غلابی اور حجاج بن شاعر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَكْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ إِلَّا رَوْحُ بْنُ أَسْلَمَ، وَلَا رَوَاهُ، عَنْ
رَوْحِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا الْمُفَضَّلُ بْنُ غَسَّانَ الْغَلَابِيُّ
وَحِجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ



مَنْ اسْمُهُ أَزْهَرُ

ان شیوخ کے نام سے جن کا نام ازھر ہے

حضرت حبیب بن مسلمہ الفہری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کبھی کبھی زیارت کیا کرو محبت میں اضافہ ہوگا۔

یہ حدیث کماول سے صرف سلیمان بن ابی کریمہ اور سلیمان سے صرف محمد بن مخلد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ازھر بن زفر اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے اصحاب اعراف والوں کے متعلق پوچھا گیا، فرمایا: وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، وہ اپنے ماں باپ کے نافرمان تھے ان کی شہادت نے ان کو جہنم میں جانے سے روکا، ان کی نافرمانی نے جنت میں داخل نہیں ہونے دیا، وہ جنت اور دوزخ کے درمیان روک لیے گئے، یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے لگی، گوشت گرنے لگا، جب اللہ عزوجل مخلوق کے حساب سے فارغ ہوا تو ان کو اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، ان کو جنت میں داخل کرے گا۔

3052 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو اسْلَمَ مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ الرَّعِينِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: زُرْ غَبًّا تَزِدُّ حُبًّا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ

3053 - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ زُفَرَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدِ الرَّعِينِيُّ أَبُو اسْلَمَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ اسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ أَصْحَابِ الْأَعْرَافِ؟ فَقَالَ: قَوْمٌ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَهُمْ عَصَاةٌ لِآبَائِهِمْ، فَمَنْعَتْهُمْ الشَّهَادَةُ أَنْ يَدْخُلُوا النَّارَ، وَمَنْعَتْهُمْ الْمَعْصِيَةُ أَنْ يَدْخُلُوا الْجَنَّةَ، فَهُمْ وَقُوفٌ عَلَى سَوْرٍ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، حَتَّى تَذُوبَ شُحُومُهُمْ وَتَذُبُلَ لِحُومُهُمْ، حَتَّى يَفْرُغَ اللَّهُ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ حِسَابِ

3052 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 107، والکبير جلد 4 صفحہ 21 وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 8

صفحہ 178: وفيه محمد بن مخلد الرعيني، وهو ضعيف .

3053 - أخرجه أيضاً في الصغير جلد 1 صفحہ 238، وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 7 صفحہ 26: وفيه محمد بن

مخلد الرعيني وهو ضعيف .

الْخَالِقِ تَغَمَّدَهُمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ، فَأَدْخِلُوا الْجَنَّةَ
 لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا ابْنُهُ
 عَبْدُ الرَّحْمَنِ، وَلَا، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ
 مَخْلَدٍ وَلَا يُرَوَّى، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ان کے بیٹے
 عبدالرحمن نے روایت کیا ہے اور عبدالرحمن سے صرف محمد
 بن مخلد نے روایت کیا ہے اور ابوسعید سے یہ حدیث اسی
 سند سے روایت ہے۔



ان شیوخ کے نام سے جن کا نام اسود ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: امام ضامن ہے، مؤذن امانت دار ہے،
اے اللہ! ائمہ کو ہدایت دے اور مؤذنین کو بخش دے۔

حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے نماز پڑھی اور میں نے طباق کیا (مراد ہے کہ
رکوع میں دونوں گھٹنوں کے درمیان رکھنا، گھٹنوں کے
اوپر نہیں رکھنا) میرے والد نے مجھے منع کیا اور کہا: ہم
ایسے کرتے تھے پھر ہم کو گھٹنوں پر ہاتھ رکھنے کا حکم دیا۔

یہ دونوں حدیثیں صدقہ بن ابی عمران سے صرف
سعدان بن یحییٰ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے
میں سلیمان بن عبدالرحمن اکیلے ہیں۔

مَنْ اسْمُهُ الْأَسْوَدُ

3054 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ مَرْوَانَ الْمَقْدِسِيُّ

قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيِّ قَالَ: نَا
سَعْدَانَ بْنَ يَحْيَى، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ
سُلَيْمَانَ الْكَاهِلِيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ،
وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ ارْشِدِ الْأَئِمَّةَ، وَاعْفِرْ
لِلْمُؤَذِّنِينَ.

3055 - حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ مَرْوَانَ قَالَ: نَا

سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا سَعْدَانَ بْنَ يَحْيَى،
عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ أَبِي يَعْفُورَ، عَنْ
مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: صَلَّيْتُ، فَطَبَّقْتُ، فَنَهَانِي
أَبِي، وَقَالَ: كُنَّا نَفْعَلُهُ، ثُمَّ أَمَرْنَا بِالرُّكْبِ

لَمْ يَرَوْا هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ صَدَقَةَ بْنِ أَبِي
عِمْرَانَ إِلَّا سَعْدَانَ بْنَ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ



3054 - أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 140 رقم الحديث: 517، والترمذی في الصلاة جلد 1 صفحہ 402 رقم

الحديث: 207، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 311 رقم الحديث: 7187.

3055 - أخرجه البخاری في الأذان جلد 2 صفحہ 319 رقم الحديث: 790، والنسائی في التطبيق جلد 2 صفحہ 144 باب

شرح ذلك، وأحمد في المسند جلد 1 صفحہ 229 رقم الحديث: 1575.

مَنْ اسْمُهُ اسَامَةٌ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام اسامہ ہے

حضرت سہل بن سعد الساعدي رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اسلام غریبوں سے شروع ہوا تھا اور عنقریب غریبوں میں واپس آئے گا؛ جس طرح غریبوں سے شروع ہوا تھا؛ غریبوں کے لیے خوشخبری ہے۔ عرض کی گئی: غرباء کون ہیں؟ فرمایا: جب لوگوں میں فساد ہو تو وہ اصلاح کریں (امیر لوگ فساد اور خرابی کا شکار ہو جائیں گے تو وہ اس وقت بھی سیدھی راہ پر رہیں گے)۔

3056 - حَدَّثَنَا اسَامَةُ بْنُ اَحْمَدَ التُّجَيْبِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ قَالَ: اَنَا بَكْرُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْإِسْلَامَ بَدَأَ غَرِيبًا وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ قِيلَ: وَمَنِ الْغُرَبَاءُ؟ قَالَ: الَّذِينَ يَصْلُحُونَ إِذَا فَسَدَ النَّاسُ



3056- أخرجه أيضًا في الصغير جلد 1 صفحہ 104، والكبير جلد 6 صفحہ 202. وقال الحافظ الهيثمي في المجموع جلد 7

صفحہ 281: ورجالہ رجال الصحيح. غير بكر بن سليم وهو ثقة.

بَابُ الْبَاءِ

مِنْ اسْمِهِ
بَشْرٌباب الباء
اس شیخ کے نام سے
جس کا نام بشر ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج و عمرہ، جہاد کرنے والا ہوگا یہاں تک کہ دیگر نیکی کے کام ذکر کیے فرمایا: اس کو قیامت کے دن بدلہ صرف اس کی سمجھ کے مطابق دیا جائے گا۔

3057 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى بْنِ صَالِحِ بْنِ شَيْخِ بْنِ عُمَيْرَةَ الْأَسَدِيُّ قَالَ: نَا مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الرَّجُلَ لَيَكُونُ مِنْ أَهْلِ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ وَالْجِهَادِ، حَتَّى ذَكَرَ سِهَامَ الْخَيْرِ، وَمَا يُجْزِئُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا بِقَدْرِ عَقْلِهِ

یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے صرف موسیٰ بن اعین ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں منصور بن صقیر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، تَفَرَّدَ بِهِ مَنْصُورُ بْنُ صُقَيْرٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش

3058 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا خَلَادُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ

3057 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 108 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 31: وفيه منصور ابن

صغير، قال ابن معين ليس بالقوي وسقط من الاسناد اسحاق بن عبد الله بن أبي فروة متروك .

3058 - أخرجه البخاري في الرقاق جلد 11 صفحہ 314 رقم الحديث: 6475 (ولفظ: وما كرامته: قال: جائزته الضيافة

ثلاث ليال، فما كان بعد ذلك فهو صدقة، فقد أخرجها البخاري من طريق آخر). وأحمد في المسند جلد 2

صفحہ 358 رقم الحديث: 7644 .

ہو رہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی عزت کرے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کتنے دن مہمان نوازی کی جائے؟ فرمایا: تین دن اور تین راتیں اس کے بعد جو کرے وہ صدقہ ہوگا۔

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ہشام بن سعد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں خلاد بن یحییٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے فرمایا: آپ وتر کب ادا کرتے ہیں؟ عرض کی: رات کے اوّل حصے میں عمر سے فرمایا: آپ وتر کب ادا کرتے ہیں؟ عرض کی: رات کے آخری حصے میں حضور ﷺ نے فرمایا: ابوبکر نے احتیاط کو لیا ہے اور حضرت عمر کے لیے فرمایا: اس نے قوت کو پڑا ہے۔

یہ حدیث حماد بن سلمہ سے صرف یحییٰ بن اسحاق کے لحاظ سے عمدہ ہے۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل ابن آدم کو فرماتا ہے: اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے بشرطیکہ تو نے میرے ساتھ کسی شی کو شریک نہ ٹھہرایا ہو تو میں زمین کو تیرے لیے بخشش سے بھر دوں گا۔

بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يُؤْذِ جَارَهُ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَصْمُتْ، وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ صَيفَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا كَرَامَتُهُ؟ قَالَ: جَائِزَتُهُ الصَّيَافَةُ ثَلَاثَ لَيَالٍ، فَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ خَلَادُ بْنُ يَحْيَى

3059 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا

يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلِحِيِّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَبِي بَكْرٍ: مَتَى تُؤْتِرُ؟ قَالَ: أُوْتِرُ لِأَوَّلِ اللَّيْلِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: مَتَى تُؤْتِرُ؟ قَالَ: أُوْتِرُ مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَخَذَ أَبُو بَكْرٍ بِالْحَزْمِ، وَقَالَ لِعُمَرَ: أَخَذَ بِالْقُوَّةِ

لَمْ يُجَوِّدْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ

3060 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا عَبْدُ

الصَّمَدِ بْنِ حَسَّانَ الْمَرْوُذِيِّ قَالَ: نَا خَارِجَةُ بْنُ مُصْعَبٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ الْمَعْرُورِ بْنِ سُوَيْدٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: ابْنُ

3059- أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحہ 67 رقم الحديث: 1434 .

3060- أخرجه أحمد في المسند جلد 5 صفحہ 176 رقم الحديث: 21369 .

آدَمَ، اِنْ عَمِلْتَ قَرَابَ الْاَرْضِ خَطِيئَةً وَاَلَمْ تُشْرِكْ
بِي شَيْئًا جَعَلْتُ لَكَ قَرَابَ الْاَرْضِ مَغْفِرَةً

خارجہ سے صرف عبدالصمد بن حسان ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ خَارِجَةَ اِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنِ حَسَانَ

3061 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا عَبْدُ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اذن نبی سے اور نبی جاہلیت کے کام سے ہے نبی کا مطلب ہے: کسی کے مرنے کی خبر دینا۔

الصَّمَدِ بْنِ حَسَانَ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي حَمْرَةَ،
عَنْ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ اَنَّهُ قَالَ:

یہ حدیث سفیان کے حوالہ سے عمدہ ہے جو آپ سے عبدالصمد روایت کرتے ہیں۔

اِلَّا اَنْ مِنْ النَّعْيِ، وَ النَّعْيُ مِنْ اَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ
لَمْ يَجُودْهُ عَنْ سُفْيَانَ اِلَّا عَبْدُ الصَّمَدِ

3062 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے۔

يَحْيَى بْنُ اسْحَاقَ السَّيْلِحِيِّ قَالَ: نا شَرِيكٌ، عَنْ
عَاصِمٍ، عَنْ اَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ

مَسْعُودٍ، رَفَعَهُ اَنَّهُ قَالَ: خَيْرُكُمْ مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ
وَاقْرَأَهُ

یہ حدیث عاصم سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَاصِمِ اِلَّا شَرِيكٌ

حضرت حسان بن کریب فرماتے ہیں کہ ان کے قبیلہ سے ایک لڑکا فوت ہو گیا، اس کے باپ کو اس کی بڑی تکلیف ہوئی، حضور ﷺ کے صحابہ میں سے ایک آدمی نے کہا: جس کو خوشب کہا جاتا تھا: کیا میں تم کو اس کی مثل خبر نہ دوں جس کو میں نے رسول اللہ ﷺ کے حوالہ سے سنا ہے، فرمایا: ایک آدمی تھا جو حضور ﷺ کے پاس

3063 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نا

يَحْيَى بْنُ اسْحَاقَ قَالَ: نا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ
بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ حَسَانَ بْنِ كُرَيْبٍ، اَنَّ غُلَامًا مِنْهُمْ
تُوْفِيَ فَوَجَدَ بِهٖ اَبُوهُ اَشَدَّ الْوَجْدِ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ
اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُقَالُ
لَهُ: حَوْشَبٌ: اِلَّا اَخْبِرْكُمْ بِمِثْلِهَا شَهِدْتُهَا مِنْ رَسُوْلِ

3061 - أخرجه الترمذی فی الجنازہ جلد 3 صفحہ 303 رقم الحدیث: 984 .

3062 - أخرجه أيضًا الطبرانی فی الکبیر جلد 10 صفحہ 200 .

کرتے ہیں کہ حضور ﷺ عید الفطر کی نماز کے لیے کھا کر تشریف لے جاتے تھے بڑی عید کے دن نماز پڑھ کر قربانی سے کھاتے تھے۔

مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الصَّبِيِّ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الرَّفَاعِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ حَتَّى يَطْعَمَ، وَكَانَ لَا يَطْعَمُ يَوْمَ النَّحْرِ حَتَّى يَرْجِعَ فَيَأْكُلَ مِنْ ذَبِيحَتِهِ

یہ حدیث عبداللہ بن بریدہ سے صرف عقبہ بن عبداللہ اور ثواب بن عقبہ المہری ہی روایت کرتے ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: اے عائشہ! آپ کی قوم کے لوگ جلدی سے ہلاکت کی طرف جارہے ہیں، میں نے عرض کی: قبیلہ تیم سے؟ مجھے اللہ نے ان کے لیے بدلہ بنایا ہے آپ نے فرمایا: نہیں! بلکہ یہ قریش کا قبیلہ ہے، موت نے ان میں اپنے بچوں کو گاڑا ہے، لوگ ان پر پھونک رہے ہیں، میں نے عرض کی: لوگ ان کے بعد باقی رہیں گے؟ فرمایا: وہ ابھی لوگوں کی پشت میں ہیں، اگر یہ ہلاک ہو گئے تو لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ إِلَّا عُقْبَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، وَثَوَابُ بْنُ عُتْبَةَ الْمَهْرِيُّ
3066 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا عَائِشَةُ، إِنَّ أَسْرَعَ النَّاسِ هَلَاكًا قَوْمِي قُلْتُ: أَمِنْ تَيْمٍ، جَعَلَنِي اللَّهُ فِدَاكَ؟ فَقَالَ: لَا وَلَكِنَّ هَذَا الْحَيَّ مِنْ قُرَيْشٍ تَسْتَحْلِبُهُمُ الْمَنَائِيَا، وَتَنَفِسُ النَّاسُ عَلَيْهِمْ قُلْتُ: فَمَا بَقَاءُ النَّاسِ بَعْدَهُمْ؟ قَالَ: هُمْ صُلْبُ النَّاسِ، فَإِذَا هَلَكُوا هَلَكَ النَّاسُ

یہ حدیث ابوملک سے صرف عبداللہ بن مؤمل ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُؤَمَّلِ

حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3067 - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا

3066 - أخرجه أيضًا البزار (كشفت الأستار جلد 3 صفحہ 298) من طريق موسى بن داود..... به، وأحمد جلد 6 صفحہ 81

عن هاشم بن القاسم، ثنا اسحاق بن سعيد، عن أبيه، عن عائشة نحوه أطول منه. وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 31 وقال: رواه أحمد والبزار ببعضه، والطبرانی في الأوسط ببعضه أيضًا، واسناد الرواية الأولى عند أحمد رجال رجاله الصحيح، وفي بقية الروايات، مقال.

3067 - أخرجه مسلم في المسافرین جلد 1 صفحہ 516، والدارمی فی الصلاة جلد 1 صفحہ 403-404 رقم

الحديث: 1457، وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 448 رقم الحديث: 19286.

حضور ﷺ مسجد قبا میں داخل ہوئے آپ نے دیکھا کہ صحابہ کرام چاشت کی نماز پڑھ رہے ہیں آپ نے فرمایا: یہ رجوع کرنے والوں کی نماز ہے۔ صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے جب اونٹوں کے پاؤں جلنے لگتے تھے۔

مُوسَى بْنُ دَاوُدَ قَالَ: نَا حُسَامُ بْنُ مِصْكٍ، عَنْ قَنَادَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسْجِدَ قُبَاءَ، فَرَأَهُمْ يُصَلُّونَ الضُّحَى، فَقَالَ: هَذِهِ صَلَاةُ الْأَوَّابِينَ قَالَ: وَكَانُوا يُصَلُّونَهَا إِذَا رَمَضَتِ الْفِصَالُ

یہ حدیث حسام بن مصک سے صرف موسیٰ بن داؤد ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُسَامِ بْنِ مِصْكٍ إِلَّا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ تین رکعت وتر ادا کرتے تھے پہلی رکعت میں صح اسم ربک الاعلیٰ دوسری میں قل یا ایہا الکافرون تیسری میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے۔

3068 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ إِسْحَاقَ السَّيْلِيَّيْنِيُّ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ مِخْوَلٍ، عَنْ مُسْلِمِ الْبَطْنِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ: يَقْرَأُ فِي الْأُولَى بِسَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ بِقُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بِقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ

یہ حدیث میخول سے صرف شریک ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِخْوَلٍ إِلَّا شَرِيكٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ منع کیا یا منع کیا گیا کہ کوئی آدمی کھڑے پانی میں پیشاب کرے پھر اس سے وضو بھی کرے یا غسل کرے۔

3069 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُقْرِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عَوْنٍ، يُحَدِّثُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى أَوْ نَهَى أَنْ يُسَوَّلَ الرَّجُلُ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ أَوْ

3068- أخرجه الترمذی فی الصلاة جلد 2 صفحہ 325 رقم الحدیث: 462، والنسائی فی قیام اللیل جلد 3 صفحہ 194

باب ذکر الاختلاف علی اسی اسحاق..... الخ، والدارمی فی الصلاة جلد 1 صفحہ 449-450 رقم الحدیث:

1586، وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 390 رقم الحدیث: 2729 .

3069- أخرجه البخاری فی الوضوء جلد 1 صفحہ 412 رقم الحدیث: 239، ومسلم فی الطهارة جلد 1 صفحہ 235

(بلفظ: لا یولن أحدکم فی الماء الدائم، أو الراکد ثم یتوضأ منه أو یغتسل منه) .

الرَّاكِدِ، ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ، أَوْ يَغْتَسِلَ مِنْهُ

لَمْ يُجَوِّدْهُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا الْمُقْرِءُ

ابن عون سے مقررہ کی روایت ہی عمدہ ہے۔

حضرت معاویہ بن قرہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے بکری ذبح کرنی چاہی تو مجھے اس پر رحم آیا، آپ نے فرمایا: بکری پر اگر تجھے رحم آیا ہے تو اللہ تجھ پر رحم کرے!

3070 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَشِيرٍ

الْعَجَلِيُّ الْعَمِيُّ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ

الْأَنْطَاكِيُّ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى بْنِ الطَّبَّاعِ،

عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مَخْرَاقٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ

بْنِ قُرَّةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي

لَأَذْبَحُ الشَّاةَ وَأَنَا أَرْحَمُهَا قَالَ: وَالشَّاةُ إِنْ رَحِمْتَهَا

رَحِمَكَ اللَّهُ

یہ حدیث مالک سے صرف اسحاق بن عیسیٰ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبد اللہ بن نصر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ إِلَّا إِسْحَاقُ بْنُ

عِيسَى، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَصْرٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک رات میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نکلا، میں آپ کے لیے وضو کا پانی اٹھاتا تھا، اچانک آپ نے ایک آواز سنی، آپ نے فرمایا: اے انس! پانی بہا دے۔ اور کہنا: اے اللہ! تو اس چیز پر میری مدد فرما جس نے مجھے خوف دلانے والی چیز سے نجات دلائی۔ پس نبی کریم ﷺ نے فرمایا: لو قال اختها.. (اگر وہ اس کی مثل کہے) گویا کوئی آدمی رسول کریم ﷺ کے ارادے پر وصیت

3071 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ بَشِيرٍ

الْعَجَلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ الْمَنْبِجِيُّ قَالَ: نَا

الْوَضَّاحُ بْنُ عَبَّادِ الْكُوفِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ

أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ اللَّيَالِي أَحْمِلُ لَهُ الطَّهْوَرَ،

إِذْ سَمِعَ مُنَادِيًا، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، صُبَّهْ فَقَالَ: اللَّهُمَّ

أَعِنِّي عَلَى مَا يُنَجِّنِي مِمَّا خَوَّفْتَنِي مِنْهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قَالَ أُخْتَهَا، فَكَانَ الرَّجُلَ

3070- أخرجه أيضًا الكبير جلد 19 صفحہ 23 من طرق، وأحمد جلد 3 صفحہ 436، والبخاری في الأدب المفرد، وابن أبي

شيبه، والبخاري، والحاكم، والبيهقي، وأبو نعيم، كلهم من طرق عن معاوية بن قرة، عن أبيه، وقال الحافظ الهيثمي في

المجمع جلد 4 صفحہ 36 بعد عزره الى أحمد، والبخاري، والطبراني في الكبير، والصغير، رجاله ثقات .

3071- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 214-215 وفيه الوضاح تكلم فيه أبو الحسين بن المنادي وشيخ

الطبراني بشر بن علي بن بشر العمي لم أعرفه .

کر رہا ہے۔ پس اُس نے کہا: مجھے سچے لوگوں کا شوق دے جس چیز کا شوق تو نے انہیں دیا ہے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: پانی رکھ دو اور چلو! اے انس! اس منادی کے پاس جا کر کہو کہ رسول کریم ﷺ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پر ان کی مدد فرمائے جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوئے اور آپ کی اُمت کے لیے دعا کرو کہ وہ اس چیز کو حاصل کریں جس کے ساتھ ان کے نبی ان کی طرف تشریف لائے ہیں۔ پس میں اس کے پاس آیا اور کہا: رسول کریم ﷺ کے لیے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائے اس چیز پر جس کے ساتھ وہ مبعوث ہوا ہے۔ آپ دعا فرمائیں ان کی اُمت کے لیے کہ وہ حاصل کریں وہ چیز جو حق کے ساتھ اُن کا نبی لے کر آیا ہے۔ اس نے کہا: تجھے کس نے بھیجا ہے؟ سو میں نے اسے بتانا پسند نہ کیا اور نہ میں نے رسول کریم ﷺ سے اجازت لی تھی۔ پس میں نے کہا: اللہ تیرے اوپر رحم کرے! تیرے اوپر وہ کچھ دینا لازم نہیں جو میں نے تجھ سے سوال کیا ہے۔ اس نے کہا: کیا تو مجھے نہیں بتائے گا کہ تجھے کس نے بھیجا ہے؟ پس میں رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں آیا جو کچھ اُس نے کہا تھا عرض کر دیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اس سے کہہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو اُس نے مجھ سے کہا: اللہ کے رسول کے لیے خوش آمدید! اور اس کے قاصد کے لیے بھی خوش آمدید! میرا بھی حق بنتا ہے کہ ان کی حاضری دوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور اُن سے عرض کرنا

لَقِنَ مَا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ، فَقَالَ: وَارْزُقْنِي شَوْقَ الصَّادِقِينَ إِلَى مَا شَوْقَتُهُمْ إِلَيْهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَيَّا يَا آئِسُ، ضَعِ الطَّهْرُورَ، وَائْتِ هَذَا الْمُنَادِي، فَقُلْ لَهُ: أَنْ يَدْعُوَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِينَهُ عَلَى مَا ابْتَعْتَهُ بِهِ، وَادْعُ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِالْحَقِّ فَاتَيْتُهُ فَقُلْتُ: ادْعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُعِينَهُ اللَّهُ عَلَى مَا ابْتَعْتَهُ، وَادْعُ لِأُمَّتِهِ أَنْ يَأْخُذُوا مَا آتَاهُمْ بِهِ نَبِيُّهُمْ بِالْحَقِّ، فَقَالَ: وَمَنْ أَرْسَلَكَ؟ فَكَّرِهْتُ أَنْ أُعْلِمَهُ، وَلَمْ أَسْتَذِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: وَمَا عَلَيْكَ رَحِمَكَ اللَّهُ بِمَا سَأَلْتُكَ؟ قَالَ: أَوْ لَا تُخْبِرُنِي مَنْ أَرْسَلَكَ؟ فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ لَهُ مَا قَالَ، فَقَالَ: قُلْ لَهُ: أَنَا رَسُولُ اللَّهِ فَقَالَ لِي: مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللَّهِ، وَمَرْحَبًا بِرَسُولِهِ، أَنَا كُنْتُ أَحَقُّ أَنْ آتِيَهُ، أَقْرَبُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّلَامَ، وَقُلْ لَهُ: الْخَضِرُ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ، وَيَقُولُ لَكَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ فَضَّلَكَ عَلَى النَّبِيِّينَ كَمَا فَضَّلَ شَهْرَ رَمَضَانَ عَلَى سَائِرِ الشُّهُورِ، وَقَضَلَ أُمَّتَكَ عَلَى الْأُمَّمِ كَمَا فَضَّلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ عَلَى سَائِرِ الْأَيَّامِ، فَلَمَّا وَلَّيْتُ عَنْهُ، سَمِعْتُهُ يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْنِي مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْمَرْحُومَةِ الْمُرْشِدَةِ الْمُتَابِ عَلَيْهَا

کہ خضر آپ کی خدمت میں سلام پیش کر رہا تھا اور وہ آپ کے لیے عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے جیسے رمضان کے مہینے کو تمام مہینوں پر فضیلت بخشی ہے۔ آپ کی امت کو سب امتوں پر فضیلت عطا کی ہے جیسے جمعہ کے دن کو سارے دنوں پر فضیلت دی ہے، پس جب میں اس کے پاس آنے لگا تو اس کی زبان پر یہ الفاظ تھے: اے اللہ! مجھے اس امت مرحومہ سے بنا دے جس کی خصوصی راہنمائی کی گئی ہے اس پر خاص عنایات فرمائی گئی ہیں۔

یہ حدیث انس سے صرف عاصم الاحول اور عاصم سے صرف وضاح بن عباد روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلام اکیلے ہیں۔

حضرت ابو قریصہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل خوش رکھے اس بندے کو جو میری بات سنے، اسے اپنے دل میں محفوظ کرے اور یاد کرے، بسا اوقات سیکھنے والا اس سے زیادہ جاننے والا ہوتا ہے جس کو سکھایا جا رہا ہوتا ہے، تین چیزوں کے متعلق کوئی خیانت نہیں کرتا: اللہ کے لیے خلوص سے عمل کرنے پر، حکمرانوں کو نصیحت کرنے پر، جماعت کو لازم پکڑنے پر۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا عَاصِمُ
الْأَحْوَلُ، وَلَا عَنْ عَاصِمٍ إِلَّا الْوَضَّاحُ بْنُ عَبَّادٍ، تَفَرَّدَ
بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَامٍ

3072 - حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ مُوسَى الْعَزَّيْ قَال:

نَا أَيُّوبُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ الْهَيْصَمِ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ سَيَّارٍ،
عَنْ عَزْرَةَ ابْنَةِ عِيَّاضٍ، عَنْ أَبِي قُرَيْصَةَ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَصَرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ
مَقَالَتِي فَوَعَاها وَحَفِظَهَا، فَرُبَّ حَامِلٍ عِلْمٍ أَلَى مَنْ
هُوَ أَعْلَمُ مِنْهُ، ثَلَاثٌ لَا يُغْلُ عَلَيْهِنَّ الْقَلْبُ: إِخْلَاصُ
الْعَمَلِ لِلَّهِ، وَمُنَاصَحَةُ الْوَلَاةِ، وَلُزُومُ الْجَمَاعَةِ



3072- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 138. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 141 و اسنادہ لم أر من

ذكر أحدا منهم كذا قال، وقد قرفنا أن جميع الرواة للحديث مترجمون .

مَنْ اسْمُهُ بَكْرٌ

اس شیخ کے نام سے جن کا نام بکر ہے

حضرت سلمہ بن مخلد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورتیں چھپانے کی چیزیں ہیں، ان پر پردہ لازم ہے۔

عمرو بن حارث سے صرف یحییٰ بن ایوب اور یحییٰ سے صرف شعیب بن یحییٰ روایت کرتے ہیں اور رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو تم میں سے جمعہ کے لیے آئے، اس کو چاہیے کہ وہ غسل کرے۔

اوزاعی سے صرف صقل اور صقل سے صرف عمرو بن ہاشم روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں بکر بن سہل اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور

3073 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدَّمِيَطِيُّ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: اَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُجَمِّعِ بْنِ كَعْبٍ، عَنْ مُسَلِّمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَعْرُوا النِّسَاءَ يَلْزَمَنَّ الْحِجَالَ.

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ يَحْيَى إِلَّا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا يُرْوَى، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3074 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: نَا هِجْلٌ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ قَيْسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ جَاءَ مِنْكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ إِلَّا الْهَيْجَلُ، وَلَا عَنِ الْهَيْجَلِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ

3075 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَمْرُو

3073 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 141 وفيه مجمع بن كعب، ولم أعرّفه، وبقية رجاله ثقات .

3074 - أخرجه البخاري في الجمعة جلد 2 صفحہ 443 رقم الحديث: 894، ومسلم في الجمعة جلد 2 صفحہ 579 .

3075 - أخرجه أبو داؤد في الأيمان والبنود جلد 3 صفحہ 222 رقم الحديث: 3261، وابن ماجه في الكفارات جلد 1

صفحہ 680 رقم الحديث: 2105 بلفظ: من حلف على يمين فقال: ان شاء الله فقد استثنى، والنسائي في الأيمان

ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی کام پر قسم اٹھائی، انشاء اللہ کہا، پھر آیا تو اس پر کفارہ نہیں ہے۔

بُنْ هَاشِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ يُحَدِّثُ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَاسْتَشَى ثُمَّ آتَى ثُمَّ أَخْلَفَ فَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

اوزاعی سے یہ حدیث صرف عمرو بن ہاشم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: قیامت نہیں آئے گی یہاں تک کہ کلع بن کلع دنیا پر غالب آئیں، لوگوں میں افضل وہ مؤمن ہے جو دو معززوں کے درمیان ہوگا۔

3076 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَقِيلِ بْنِ خَالِدٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ذَرٍّ، أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكْعُ بْنُ لُكْعٍ، وَأَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيمَيْنِ لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا عَقِيلٌ، وَلَا عَنْ عَقِيلٍ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، وَلَا يُرْوَى، عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

یہ حدیث زہری سے صرف عقیل اور عقیل سے ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبد اللہ بن یوسف اکیلے ہیں اور ابوذر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ سے گھی میں چوہے کے گرنے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کے ارد گرد جو لگا ہے اس کو پھینک دو اور کھاؤ، اگر جما ہوا ہو۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگر بننے والا ہو؟ تو آپ ﷺ نے

3077 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سِئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَاوَرَةَ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ؟ فَقَالَ: اطْرَحُوهَا وَمَا حَوْلَهَا

والذور جلد 7 صفحہ 12 باب من حلف فاستثنى . بلفظ: من حلف فاستثنى فان شاء مضى وان شاء ترك غير حث .

والدارمی فی الأیمان والذور جلد 2 صفحہ 242 رقم الحدیث: 2342 .

3076 - وقال الحافظ الهیثمی جلد 7 صفحہ 329: ورجاله وثقوا، ولی بعضهم ضعف .

فرمایا: اس سے نفع اٹھاؤ یعنی اس کو فروخت کر دو۔

عبدالنجار بن عمر ابن جریج سے اور وہ ابن شہاب سے وہ سالم سے وہ اپنے والد سے۔ مسلمہ زہری سے اور وہ سعید بن مسیب سے وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ زہری کے اصحاب زہری سے وہ عبید اللہ بن عبد اللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف اپنے والد سے وہ ان کے دادا کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے نفسوں کے اوپر سختی نہ کیا کرو کیونکہ تم سے پہلے لوگ ہلاک اسی لیے ہوئے کہ انہوں نے اپنی جانوں کے اوپر سختی کی تم ان کے گرجے اور گھروں کو پاؤ گے۔

حضرت سہل بن ابوامامہ بن سہل اپنے والد سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے صدق دل سے شہادت مانگی اللہ عزوجل اس کو شہادت کا درجہ دے گا اگرچہ وہ بستر پر ہی کیوں نہ مرے۔

وَكُلُّوهُ إِنْ كَانَ جَامِدًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنْ كَانَ مَائِعًا؟ قَالَ: انْتَفِعُوا بِهِ

هَكَذَا رَوَاهُ عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنِ سَالِمٍ، عَنِ أَبِيهِ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ: عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

3078 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدَّمِيَطِيُّ

قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ أَبُو شُرَيْحٍ الْمَعَاظِيُّ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدِّدُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِتَشْدِيدِهِمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ، وَتَسْتَجِدُونَ بِقَائِيَهُمْ فِي الصَّوَامِعِ وَالذِّيَارَاتِ

3079 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا أَبُو شُرَيْحٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شُرَيْحٍ، أَنَّهُ سَمِعَ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا مِنْ قَلْبِهِ بَلَغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى

3079 - أخرجه مسلم في الامارة جلد 3 صفحہ 1517، وأبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحہ 87 رقم الحديث: 1520،

والترمذی فی الجهاد جلد 4 صفحہ 183 رقم الحديث: 1653، والدارمی فی الجهاد جلد 2 صفحہ 270 رقم

الحديث: 2407 .

فَرَاشِيَه

یہ دونوں حدیثیں سہل بن حنیف سے اسی سند سے روایت ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَانِ عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3080 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے پڑوسی سے اس کی دیوار پر گاڑ رکھنے کی اجازت مانگے، اس کو رکھنے سے منع نہ کرے۔

شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

شعیب بن یحییٰ سے لیٹ اسی طرح روایت کرتے ہیں۔

هَكَذَا رَوَاهُ شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، عَنِ اللَّيْثِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ انصار کے ایک آدمی کی قبر کے پاس سے گزرے فرمایا: یہ کیا ہے؟ کہا: گنبد ہے، حضور ﷺ نے اس طرح اپنے دست مبارک سے اشارہ کیا اس کے سر پر۔ اس سے بڑا ہے، اور یہ اپنے مالک پر قیامت کے دن وبال ہوگا۔

3081 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا

مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِيَّةِ قُبَّةِ لِرَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالَ: قُبَّةٌ۔ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ بِنَاءٍ، وَأَشَارَ بِيَدِهِ هَكَذَا عَلَى رَأْسِهِ أَكْبَرُ مِنْ هَذَا، فَهُوَ وَبَالٌ عَلَى صَاحِبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث اسحاق بن عبد اللہ سے صرف عبد الاعلیٰ بن عبد اللہ بن ابی فروہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ولید اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي فَرَوَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْوَلِيدُ

3080 - وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 4 صفحہ 163: ورجاله رجال الصحيح خلا شعيب وهو ثقة .

3081 - وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 4 صفحہ 73: ورجاله ثقات .

3082 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْفَيَاضِ الْبَرْقِيُّ قَالَ: نَا أَشْهَبُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ ابْنِ لَهَيْعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَأَنَّى أَصَابَ، أَوْ كَادَ، وَمَنْ عَجَلَ
أَخْطَأَ، أَوْ كَادَ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے آہستہ آہستہ کام کیا وہ
کامیاب ہوا، جس نے جلدی کی، اس نے غلطی کی یا غلطی
کے قریب ہوا۔

یہ حدیث عقبہ بن عامر سے صرف شرح اور شرح
سے صرف ابن لہیعہ اور ابن لہیعہ سے صرف اشہب ہی
روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابراہیم بن
ابی الفیاض اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا
مِشْرَحٌ، وَلَا عَنْ مِشْرَحِ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ، وَلَا عَنْ ابْنِ
لَهَيْعَةَ إِلَّا أَشْهَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْفَيَاضِ

3083 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنَا
النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بِنْتِ
أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعَ
رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْهَجِيرِ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَمَهُ اللَّهُ
عَلَى النَّارِ

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے ظہر سے پہلے چار رکعت اور
چار فرض کے بعد ادا کیں اللہ عزوجل اس پر جہنم کی آگ
حرام کر دے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ
إِلَّا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ وَيَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ

یہ حدیث نعمان بن منذر سے صرف ہشیم بن حمید
اور یحییٰ بن حمزہ روایت کرتے ہیں۔

3082 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 17 صفحہ 310 .

3083 - أخرجه الترمذی فی الصلاة جلد 2 صفحہ 293 رقم الحدیث: 428 (بلفظ: من حافظ علی أربع رکعات قبل الظهر
وأربع رکعات بعدها حرمة الله علی النار) وقال الترمذی: هذا حدیث حسن صحیح غریب من هذا الوجه، وأبو داؤد
فی الصلاة جلد 2 صفحہ 23 رقم الحدیث: 1269 بنحوه والحاكم فی المستدرک جلد 1 صفحہ 312 بنحوه .
وأحمد فی المسند جلد 6 صفحہ 453 رقم الحدیث: 27470 بنحوه .

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو اپنی شرمگاہ کو چھوئے اس پر وضو ہے مراد ہاتھ دھونا۔

یہ حدیث مکحول سے صرف علاء بن حارث روایت کرتے ہیں اور ام حبیبہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کو کفن دیا گیا تین سفید دھاگے سے بٹے ہوئے کپڑوں میں۔

یہ حدیث نافع سے صرف سلیمان بن موسیٰ اور سلیمان سے صرف ابو معید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے متعلق کہ ہم اس کو رکھتی تھیں لوگ اس شہر کی طرف لے جاتے اس کو تین دن تک ہی کھاتے تھے یہ عزیمت نہیں ہے لیکن انہوں نے اس سے کھانے کا ارادہ کیا۔

3084 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبَسَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ مَسَّ فَرْجَهُ فَلْيَتَوَضَّأْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، وَلَا يُرَوَى عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3085 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو مُعَيْدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: كَفَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ بَيْضٍ سُحُولِيَّةٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعٍ إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنُ مُوسَى، وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا أَبُو مُعَيْدٍ.

3086 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي لُحُومِ الضَّحَايَا: كُنَّا نُصَلِّحُ مِنْهُ، وَيَقْدَمُ بِهِ أَنَاسٌ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَا يَأْكُلُونَهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، لَيْسَ بِالْعَزِيمَةِ وَلَكِنْ أَرَادَ أَنْ

3084- أخرجه ابن ماجه في الطهارة جلد 1 صفحه 162 رقم الحديث: 481 .

3086- أخرجه البخارى في الأضاحى جلد 10 صفحه 26 رقم الحديث: 5570 .

يُطَعَمُوا مِنْهُ

یحییٰ بن سعید سے صرف ہشام بن عروہ اور لیث بن سعد سے صرف عبداللہ بن صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ يَحْيَىٰ بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ

حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جس بیماری میں وصال فرمایا، فرمایا: میرا سر باندھو اور مسجد کی طرف لے چلو، میں نے آپ کا سر مبارک زرد رنگ کے پردے سے باندھا، پھر آپ مسجد کی طرف نکلے، دو آدمیوں کا سہارا لے کر۔

3087 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: شُدُّوا رَأْسِي لَعَلِّي أَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَشَدَدْتُ رَأْسَهُ بِعِصَابَةٍ صَفْرَاءَ، ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الْمَسْجِدِ يَهَادِي بَيْنَ رَجُلَيْنِ

یہ حدیث جعفر سے صرف عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرٍ إِلَّا عَطَاءُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے گھوڑے کی پیشانی میں قیامت کے دن تک بھلائی رکھی ہے، گھوڑے پر خرچ کرنے والا اس کی طرح ہے جس کا ہاتھ اللہ کی راہ میں دینے کے لیے بند ہوتا ہی نہیں ہے۔

3088 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَالْمُنْفِقُ عَلَى الْخَيْلِ كَالْبَاسِطِ كَفَّهُ بِالنَّفَقَةِ لَا يَقْبِضُهَا

یہ حدیث زہری سے صرف معمر ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرزاق اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ

3087 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 18 صفحہ 281 رقم الحديث: 719 .

3088 - أخرجه أبو يعلى جلد 10 صفحہ 408 به . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 262: ورجال رجال

الصحيح .

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب مجھے آسمان دنیا کی طرف سیر کروائی گئی تو میں جنت عدن میں داخل ہوا، میرے ہاتھ پر سب گرا، جب میں نے اپنے ہاتھ میں رکھا تو وہ پھٹ گیا اور اس سے حوراء نکلی، اس کی آنکھ خوش کرنے والی تھی، اس کی آنکھوں کے ابرو چمکتے تھے، میں نے کہا: تُو کس کے لیے ہے؟ اس نے عرض کی: آپ کے بعد ہونے والے خلیفہ کے لیے ہوں۔

3089 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ يُونُسَ الْعَبْدِيُّ قَالَ: نَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمَّا عَرَجَ بِي إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا دَخَلْتُ جَنَّةَ عَدْنِ، فَوَقَعْتُ فِي يَدِي تِفَاحَةٌ، فَلَمَّا وَضَعْتُهَا فِي يَدَيَّ انْفَلَقَتْ عَنْ حَوْرَاءَ عَيْنَاءَ مَرْصِيَّةٍ، أَشْفَارُ عَيْنِهَا كَمَقَادِيمِ أَجْنِحَةِ النَّسُورِ، قُلْتُ لَهَا: مَنْ أَنْتِ؟ قَالَتْ: أَنَا لِلْخَلِيفَةِ مِنْ بَعْدِكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

یہ حدیث لیث سے صرف عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہم پر نکلے، آپ فرما رہے تھے: اللہ عزوجل کی بختِ حزن سے پناہ مانگو! میں نے عرض کی: جب حزن کیا ہے؟ فرمایا: جب جہنم کی ایک اتھاہ وادی ہے، جہنم اس سے روزانہ چار سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے یہ وادی ان قاریوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اعمال دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، اللہ عزوجل کے ہاں بدترین مخلوق وہ قاری ہے جو حکمرانوں سے خصوصی ملاقات کو جاتا ہے۔

3090 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرَ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْحَنْظَلِيِّ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ شَهَابِ الدَّمِغَانِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ جُبِّ الْحَزَنِ - قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جُبُّ الْحَزَنِ؟ قَالَ: جُبٌّ فِي وَادٍ فِي قَعْرِ جَهَنَّمَ، تَتَعَوَّذُ مِنْهُ جَهَنَّمُ كُلَّ يَوْمٍ أَرْبَعِمِائَةَ مَرَّةٍ، أَعَدَّهُ لِلْفَرَّاءِ الْمُرَائِينَ بِأَعْمَالِهِمْ، وَإِنَّ أَبْغَضَ الْخَلْقِ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَارِءٌ يَزُورُ الْعَمَالَ لَمْ يَرَوْ بُكَيْرُ بْنُ شَهَابٍ، عَنْ ابْنِ سِيرِينَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ

بکیر بن شہاب، ابن سیرین سے صرف یہ حدیث ہی روایت کرتے ہیں۔

3089 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 17 صفحہ 285 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحہ 49: شيخه بكر بن سهل

قال الذهبي: مقارب الحديث، عن عبد الله بن سليمان العبدى وثقه ابن حبان، وبقية رجاله رجال الصحيح .

حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے اذان کے انیس کلمات سکھائے اور اقامت کے سترہ کلمات سکھائے۔

3091 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيِّ قَالَ: نَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْكَلَابِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ الْأَحْوَلِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَيْرِيزٍ، عَنْ أَبِي مَحْذُورَةَ قَالَ: عَلَّمَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَذَانَ تِسْعَ عَشْرَةَ، وَالْإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَةَ كَلِمَةً

یہ حدیث سعید سے صرف عبدہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عمرو اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا عَبْدَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ عزوجل میری روح کو اس کی طرف متوجہ کر دیتا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔

3092 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ الْإِسْكَندَرَانِيُّ، عَنْ حَيَّوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِي صَخْرٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَسِيطٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ إِلَّا رَدَّ اللَّهُ إِلَيَّ رُوحِي حَتَّى أَرُدَّ عَلَيْهِ

یہ حدیث یزید سے صرف ابو صخرہ اور ابو صخرہ سے صرف حیوہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبد اللہ بن یزید اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ إِلَّا أَبُو صَخْرٍ، وَلَا، عَنْ أَبِي صَخْرٍ إِلَّا حَيَّوَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ

3091 - أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 287، والترمذی في الصلاة جلد 1 صفحہ 367 رقم الحديث: 192 قال

أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح . والنسائي في الأذان جلد 2 صفحہ 5 باب كم الأذان من كلمة وابن ماجه في

الأذان جلد 1 صفحہ 235 رقم الحديث: 709، والدارمی في الأذان جلد 1 صفحہ 291 رقم الحديث: 1195،

وأحمد في المسند جلد 3 صفحہ 500 رقم الحديث: 15385 .

3092 - أخرجه أبو داؤد في سننه كتاب الحج رقم الحديث: 2041 .

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! مؤذن ہم سے فضیلت لے گئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: تم بھی وہی کلمات کہو جو مؤذن کہتا ہے جب اذکن سن کر فارغ ہو جاؤ تو اللہ عزوجل سے مانگو تم کو عطا کیا جائے گا۔

یہ حدیث عمر سے اُن کے غلام غفرہ سے صرف رشیدین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں جس میں ہوں اللہ اُس کا ضامن ہے جو اللہ کی راہ میں نکلے تو اللہ اُس کا ضامن ہے اگر وہ مر جائے اللہ عزوجل اس کو جنت میں داخل کرے گا اگرچہ اسے گھر والوں کی طرف لوٹا دیا جائے بدلے اس کے جو اجر اور غنیمت اس کو ملنی تھی۔ ایک وہ آدمی جو مسجد میں ہو وہ اس کی ضمانت میں ہے اگر مر گیا تو اللہ عزوجل اس کو جنت میں داخل کرے گا جو اجر و ثواب ملا ہے اس کے اہل خانہ کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے ایک وہ آدمی جو اپنے گھر میں سونے کے لیے داخل ہو تو وہ اللہ کی ضمانت میں ہے۔

یہ حدیث سلیمان بن حبیب سے صرف اوزاعی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے نماز وقت پر پڑھی اور

3093 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُمَرَ، مَوْلَى عُفْرَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ يَفْضُلُونَا قَالَ: قُولُوا كَمَا يَقُولُ الْمُؤَذِّنُ، فَإِذَا فَرَعْتُمْ فَاسْلُوا تَعْطُوا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ مَوْلَى عُفْرَةَ إِلَّا رِشْدِينَ

3094 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيِّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ كَانَ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ: مَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، كَانَ ضَامِنًا عَلَى اللَّهِ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهٗ إِلَى أَهْلِهِ فَبِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَعَنْيمَةٍ، وَرَجُلٌ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ، فَهُوَ ضَامِنٌ إِنْ تَوَفَّاهُ أَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ، وَإِنْ رَدَّهٗ إِلَى أَهْلِهِ فَبِمَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ وَعَنْيمَةٍ، وَرَجُلٌ دَخَلَ بَيْتَهُ لِيَنَامَ فَهُوَ ضَامِنٌ عَلَى اللَّهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ حَبِيبِ إِلَّا الْأَوْزَاعِيُّ

3095 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ

مکمل وضو کیا نماز کے لیے قیام اور خشوع اور رکوع و سجود مکمل کیا اس سے ایک سفیدی نکلتی ہے وہ کہتی ہے: اللہ عزوجل تیری حفاظت کرے جس طرح تو نے میری حفاظت کی ہے جس نے وقت کے علاوہ نماز پڑھی اور وضو بھی مکمل نہیں کیا اور خشوع اور رکوع بھی مکمل نہیں کیا اور سجدہ بھی مکمل نہ کیا تو اس سے ایک کالا دانہ نکلتا ہے وہ کہتا ہے: اللہ عزوجل تجھے ضائع کرے جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا یہاں تک کہ اگر اللہ چاہے تو اس کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر اس کے چہرے پر مار دے۔

أَبِي الْجَوْنِ الْعَنْسِيُّ، عَنْ عَبَادِ بْنِ كَثِيرٍ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُيَيْدَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لَوْ قَتَبَهَا، وَأَسْبَغَ لَهَا وَضُوءَهَا، وَأَتَمَّ لَهَا قِيَامَهَا وَخُشُوعَهَا وَرُكُوعَهَا وَسُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ بَيْضَاءٌ مُسْفِرَةٌ، تَقُولُ: حَفِظَكَ اللَّهُ كَمَا حَفِظْتَنِي، وَمَنْ صَلَّى الصَّلَاةَ لِغَيْرِ وَقْتِهَا فَلَمْ يُسْبِغْ لَهَا وَضُوءَهَا، وَلَمْ يُتِمَّ لَهَا خُشُوعَهَا وَلَا رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا خَرَجَتْ وَهِيَ سَوْدَاءٌ مُظْلِمَةٌ، تَقُولُ: ضَيَعَكَ اللَّهُ كَمَا ضَيَعْتَنِي، حَتَّى إِذَا كَانَتْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ لُفَّتْ كَمَا يُلْفُ الثُّوبُ الْخَلْقَ، ثُمَّ ضُرِبَ بِهَا وَجْهُهُ

یہ حدیث حمید الطویل، حضرت انس سے اور حمید الطویل سے عباد بن کثیر روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمن بن سلیمان اور ابو عبیدہ اکیلے روایت کرنے والے ہیں ابو عبیدہ سے مراد حمید الطویل ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ إِلَّا عَبَادُ بْنُ كَثِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سُلَيْمَانَ، وَأَبُو عُيَيْدَةَ هُوَ حُمَيْدُ الطَّوِيلِ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ إِلَى آخِرِهِ“ پڑھی، اگر اس دن وہ مر گیا تو اللہ عزوجل اس کو جنت میں داخل کرے گا، اگر اس نے شام کے وقت تین مرتبہ ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، آمَنْتُ بِكَ“

3096 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ بْنِ شَابُورٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ الدِّمَارِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا

3096- أخرجه أيضًا الكبير جلد 8 صفحہ 231. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 117. وفيه على بن

يزيد وهو ضعيف .

مُخْلِصًا لَكَ دِينِي، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ شَرِّ
عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا
أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَإِنْ
قَالَ حِينَ يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ
لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، أَمْسَيْتُ
عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ إِلَيْكَ
مِنْ شَرِّ عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا
يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَتَمَّتْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
عَزَّوَجَلَّ اس كُو جنت ميں داخل كرے گا پھر حضور ﷺ
قسم اٹھاتے تھے حالانکہ آپ اس کے علاوہ پر قسم نہیں
اٹھاتے تھے۔ فرماتے: اللہ کی قسم! جو بندہ صبح کے وقت یہ
کہہ لے اور اس دن مر جائے تو اللہ عزوجل اس کو جنت
میں داخل کرے گا اور اگر شام کے وقت پڑھے اور اس
رات مر گیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔

یہ حدیث یحییٰ بن حارث سے صرف محمد بن شعیب
ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمرو بن
ہاشم اکیلے ہیں۔

حضرت ہلال بن عامر کے والد محترم فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول کریم ﷺ کو اپنی سواری پر سوار منی
کے مقام پر لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے سنا اس حالت میں
کہ آپ پر سبز چادر تھی بدری صحابہ میں سے ایک آدمی
آپ کے سامنے ترجمانی کر رہا تھا۔ سو میں آیا یہاں تک
کہ اپنے ہاتھوں کو آپ کے قدموں اور تسموں میں داخل کر

أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ، أَمَنْتُ بِكَ مُخْلِصًا لَكَ
دِينِي، أَصْبَحْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ،
أَتُوبُ إِلَيْكَ مِنْ شَرِّ عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي
لَا يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَإِنْ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ دَخَلَ
الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَ حِينَ يُمَسِّي ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: اللَّهُمَّ
لَكَ الْحَمْدُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، أَنْتَ رَبِّي، وَأَنَا عَبْدُكَ،
أَمْسَيْتُ عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَتُوبُ
إِلَيْكَ مِنْ شَرِّ عَمَلِي، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِذُنُوبِي الَّتِي لَا
يَغْفِرُهَا إِلَّا أَنْتَ، فَتَمَّتْ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ دَخَلَ الْجَنَّةَ
- ثُمَّ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْلِفُ
مَا لَا يَحْلِفُ عَلَى غَيْرِهِ، يَقُولُ: وَاللَّهِ مَا قَالَهَا عَبْدٌ
فِي يَوْمٍ حِينَ يُصْبِحُ فَيَمُوتُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ إِلَّا دَخَلَ
الْجَنَّةَ، وَإِنْ قَالَهَا حِينَ يُمَسِّي فَتُوفَى فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ
دَخَلَ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ
إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3097 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَ: نَا هَلَالُ بْنُ عَامِرٍ،
عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَخْطُبُ النَّاسَ بَيْنِي عَلَى بَعْلَةٍ، عَلَيْهِ بُرْدٌ
أَخْضَرُ، وَرَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَدْرٍ بَيْنَ يَدَيْهِ يُعَبِّرُ عَنْهُ،
فَجِئْتُ حَتَّى أَدْخَلْتُ يَدَيَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ وَشِرَاكِهِ،

فَجَعَلْتُ اَعْجَبُ مِنْ بَرْدِهَا

دیا، سو میں ان کی ٹھنڈک سے خوش ہوا تھا۔

لَمْ يَرَوْ عَامِرَ أَبُو هَلَالٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا

اس حدیث کے علاوہ حضرت امام ابو ہلال نبی کریم ﷺ سے کوئی حدیث روایت نہیں کرتے۔

3098 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسَفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى فِي فِضَاءٍ، لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے کھلے میدان میں نماز پڑھی اور آپ کے آگے کوئی شی نہیں تھی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ إِلَّا الْحَجَّاجُ وَرَوَاهُ هُرَيْرُ بْنُ سَفْيَانَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، وَرَوَاهُ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ مُجَاهِدٍ

یہ حدیث حکم، یحییٰ بن جزار سے اور حکم سے صرف حجاج ہی روایت کرتے ہیں اور ہریم بن سفیان، حکم سے وہ مٹسم سے وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں۔ اسماعیل بن مسلم، حکم سے وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں۔

3099 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَوْسَفَ قَالَ: نَا أَبُو بَحْرِيَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍِ الْهَدَلِيِّ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ قَالَ: قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَنْاسًا يَجُوبُونَ أَسِنَّةَ الْإِبِلِ وَأَذْنَابَ الْغَنَمِ وَهِيَ أَحْيَاءُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا قُطِعَ مِنَ الْبُهَيْمَةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَهِيَ مَيْتَةٌ

حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کچھ اونٹ کی کوبان اور بکریوں کی دم کاٹتے ہیں زندہ حالت میں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: جس جانور سے کچھ زندہ حالت میں کاٹا جائے تو وہ مردار ہوتا ہے۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ تَمِيمٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ

یہ حدیث تمیم سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابو بکر اکیلے ہیں۔

3098- أخرجه أحمد في المسند جلد 1 صفحہ 294 رقم الحديث: 1970.

3099- أخرجه ابن ماجة في الصيد جلد 2 صفحہ 1073 رقم الحديث: 3217، وقال ابن ماجة في الزوائد: في اسناده عبد

الرحمن بن زيد أسلم، وهو ضعيف.

3100 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَعْيَى قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَأَلَهُ جَارُهُ أَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِي جِدَارِهِ فَلَا يَمْنَعُهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا اللَّيْثُ، وَلَا عَنِ اللَّيْثِ إِلَّا شُعَيْبٌ

3101 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ الرَّصَاصِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ حُمَيْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا وُلِدَتِ الْجَارِيَةُ بَعَثَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَيْهَا مَلَكًا يَزُفُ الْبَرَكَاتَ زَفًّا يَقُولُ: ضَعِيفَةٌ خَرَجَتْ مِنْ ضَعِيفٍ، الْقَيْمُ عَلَيْهَا مَعَانٍ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَإِذَا وُلِدَ الْغُلَامُ بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهِ مَلَكًا مِنَ السَّمَاءِ، فَقَبَّلَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ، وَقَالَ: اللَّهُ يُقَرِّتُكَ السَّلَامَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ

3102 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَا شُعْبَةُ بْنُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے پڑوسی سے اس کی دیوار پر گاڑ رکھنے کی اجازت مانگے، اس کو رکھنے سے منع نہ کرے۔

یہ حدیث زہری سے لیٹ اور لیث سے لیٹ اور لیث سے لیٹ ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ عزوجل ایک فرشتہ بھیجتا ہے اس کو برکت سے ملتا ہے کہتا ہے: کمزور کمزور سے نکلی ہے اس کی مدد کے لیے قیامت کے دن کھڑے رہتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ عزوجل آسمان سے فرشتہ بھیجتا ہے وہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ لیتا ہے اور کہتا ہے: اللہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف عبدالرحمن ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبداللہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے آگے بیٹھا ہوا تھا آپ عافیت کا ذکر کر

3100 - تقدم تحقيقه برقم 3080 .

3101 - وقال الحافظ الهيثمي جلد 8 صفحہ 159: رواه الأوسط في شيخه لكن لم ينسبه عن عبد الله بن سليمان المصري

ولم أعرفهما، وبقية رجاله ثقات .

3102 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 110 وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 293 أيضاً للكبير، وقال:

وفيه إبراهيم بن البراء بن النضر وهو ضعيف .

رہے تھے اور جو اللہ نے عافیت کہنے والے کے ثواب کو تیار کر کے رکھا ہے اس کا ذکر کر رہے تھے جب وہ شکر ادا کرتا ہے اور آزمائش کا ذکر کر رہے تھے اور اس کا جو اللہ عزوجل نے آزمائش والے کے لیے تیار کر کے رکھا ہے بشرطیکہ وہ صبر کرتا ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! مجھے عافیت اور شکر زیادہ پسند ہے کہ میں آزمایا جاؤں اور صبر کروں۔ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کا رسول آپ کے ساتھ عافیت کو پسند کرتا ہے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابراہیم روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں بکرا کیلے ہیں۔

حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کے کچھ بندے ہیں وہ عافیت میں زندہ رہتے ہیں اور عافیت میں مرتے ہیں اور عافیت پر اٹھائے جائیں گے اور جنت میں عافیت کے ساتھ داخل ہوں گے۔

یہ حدیث اعمش سے حماد روایت کرتے ہیں اور ابو مسعود سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔ حماد بن سلمہ اعمش سے اس حدیث کو یاد رکھتے ہیں۔ حماد بن سلمہ نے حجاج بن ارطاة سے وہ اعمش سے کسی نے بھی انکار نہیں کیا کہ حجاج نے اعمش سے نہیں سنا ہے۔ کوفہ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے ان میں سے سلمہ بن کہیل

الْحَجَّاجُ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْسَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَذْكُرُ الْعَافِيَةَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهَا مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ شَكَّرَ، وَيَذْكُرُ الْبَلَاءَ، وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِصَاحِبِهِ مِنْ عَظِيمِ الثَّوَابِ إِذَا هُوَ صَبَرَ. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَأَنْ أَعَافَى فَأَشْكُرَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أُبْتَلَى فَأَصْبِرَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَرَسُولُ اللَّهِ يُحِبُّ مَعَكَ الْعَافِيَةَ، لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرٌ

3103 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْبَرَاءِ بْنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عِبَادًا يُحْيِيهِمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيُمِيتُهُمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيَبْعَثُهُمْ فِي عَافِيَةٍ، وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ فِي عَافِيَةٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا حَمَادُ، وَلَا يُرَوَى، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَا يُحْفَظُ لِحَمَادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ وَقَدْ رَوَى حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، وَلَا يُنْكَرُ أَنْ يَكُونَ قَدْ سَمِعَ مِنَ الْأَعْمَشِ، لِأَنَّهُ قَدْ رَوَى عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ

حماد بن ابی سلیمان اور عاصم بن بہدلہ ابو حمزہ الاعور ان کے علاوہ ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں کی لا الہ الا اللہ کی گواہی قبول نہیں کی جاتی: سوار ہونے والا مرد اور وہ مرد جس پر سوار ہوا جائے اور سوار عورت اور وہ مؤنث جس پر سوار ہوا جائے، ظالم بادشاہ کی۔

یہ حدیث ابن حرمہ سے صرف عمر بن راشد اور عمر سے صرف صالح بن ابی صالح ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابو عطاء اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابوطحہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا کے پاس آئے (یہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی ماں تھیں) اور حضرت ابوطحہ، حضرت انس کو پالنے والے ہیں۔ فرمایا: اے ام سلیم! تیرے پاس (کھانے کی) کوئی شی ہے؟ کیونکہ میں رسول کریم ﷺ کے پاس سے گزرا ہوں جبکہ آپ اصحاب صفہ کو سورۃ نساء پڑھا رہے تھے اور بھوک کی وجہ سے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا ہوا تھا۔ انہوں نے جواب دیا: میرے پاس تھوڑے سے جو ہیں۔ پس انہوں نے پیسا پھر مجھے بازار بھیجا جبکہ اُس وقت کے بازار بس چار دیواری کی طرح ہوتے تھے۔ میں ان کے

الْكُوفِيِّينَ، مِنْهُمْ: سَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، وَعَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، وَأَبُو حَمَزَةَ الْأَعْوَرُ وَغَيْرُهُمْ

3104 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَبُو عَطَاءٍ بِلَالٍ

بْنُ عَمْرٍو، عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثَةٌ لَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ: الرَّاَكِبُ وَالْمَرْكُوبُ، وَالرَّاَكِبَةُ وَالْمَرْكُوبَةُ، وَالْإِمَامُ الْجَائِرُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حَرْمَلَةَ إِلَّا عَمْرُ بْنُ رَاشِدٍ، وَلَا عَنْ عَمْرِو بْنِ أَبِي صَالِحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو عَطَاءٍ

3105 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبِ الْفَرَطِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: أَتَى أَبُو طَلْحَةَ أُمَّ سَلِيمٍ وَهِيَ أُمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَأَبُو طَلْحَةَ رَأْبُهُ، فَقَالَ: عِنْدِكَ يَا أُمَّ سَلِيمٍ شَيْءٌ؟ فَإِنِّي مَرَرْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُقْرَأُ أَصْحَابَ الصُّفَّةِ سُورَةَ النَّسَاءِ، وَقَدْ رَبَطَ عَلَى بَطْنِهِ حَجْرًا مِنَ الْجُوعِ فَقَالَتْ: كَانَ عِنْدِي شَيْءٌ مِنْ شَعِيرٍ فَطَحْتُهُ، ثُمَّ أَرَسَلْتَنِي إِلَى الْأَسْوَاقِ، وَالْأَسْوَاقُ حَوَائِطُ لَهُمْ، فَاتَيْتُهُمْ بِشَيْءٍ مِنْ حَطْبٍ،

پاس ایندھن لایا، انہوں نے اس سے نکلیاں بنا کیں۔ پھر کہا: کیا تیرے پاس سالن ہے؟ انہوں نے جواب دیا: میرے پاس ایک مشک ہے جس میں گھی ہے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اس میں کوئی شی باقی تھی یا نہیں؛ میں اسے لایا تو میں نے اسے نچوڑا۔ کہا: دوکا نچوڑنا ایک کے نچوڑنے سے بہتر ہے۔ پس ہم دونوں نے اکٹھے نچوڑا، پس اس سے کھجور کے برابر کچھ نکلا۔ انہوں نے نکیوں کو گھی لگایا، پھر حضرت ابوطالب نے مجھے بلا کر فرمایا: اے انس! صرف رسول کریم ﷺ کو کھلانے کی کوشش کرنا۔ میں نے عرض کی: جی ہاں! انہوں نے فرمایا: میں جب حضور ﷺ کے پاس سے آیا تو آپ اصحاب صفہ کے ساتھ بیٹھے پڑھا رہے تھے۔ بس صرف حضور ﷺ کو بلا کر پیش کرنا، آپ کے علاوہ کسی کو ساتھ نہ بلانا، خیال کرنا، مجھے رسول کریم ﷺ کے سامنے رسوا نہ کرنا۔ میں رسول کریم ﷺ کی خدمت میں آیا، پس جب آپ ﷺ نے مجھے دیکھا تو فرمایا: شاید تیرے باپ نے تجھے ہماری طرف بھیجا ہے؟ میں نے عرض کی: ہاں! آپ نے سب گروہ کو فرمایا: چلو! (کھانا آ گیا ہے) پس وہ اٹھ کر چل دیئے جبکہ اس دن وہ اسی کے قریب تھے۔ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، پس جب میں گھر کے قریب ہوا تو میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ پس حضرت ابوطالب رضی اللہ عنہ مجھے گھر میں تلاش کرنے لگے اور میری طرف پتھر پھینکتے ہوئے کہہ رہے تھے: تو نے رسول کریم ﷺ کے سامنے مجھے رسوا کر دیا ہے۔ پھر حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے

فَجَعَلَتْ مِنْهُ قُرْصًا، ثُمَّ قَالَ: أَعِنْدِكَ أَدْمٌ؟ فَقَالَتْ: كَأَنَّ عِنْدِي نَحْيٌ فِيهِ سَمْنٌ، فَلَا أَدْرِي أَبْقَى فِيهِ شَيْءٌ فَاتَيْتُهُ بِهِ، فَعَصْرْتُهُ، فَقَالَ: إِنَّ عَصْرَ اثْنَيْنِ أَبْلَغُ مِنْ عَصْرِ وَاحِدٍ، فَعَصَرَا جَمِيعًا، فَأَخْرَجَا مِنْهُ مِثْلَ التَّمْرَةِ، فَدَهَنَتْ بِهِ الْقُرْصَ، ثُمَّ دَعَانِي، فَقَالَ: يَا أَنَسُ، تَحَرَّى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ تَرَكْتُهُ مَعَ أَصْحَابِ الصَّفَةِ يُقْرِئُهُمْ، فَادْعُهُ وَلَا تَدْعُ مَعَهُ غَيْرَهُ، انظُرْ أَنْ لَا تَفْضَحَنِي فَاتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا رَأَى قَالَ: لَعَلَّ أَبَاكَ أَرْسَلَكَ إِلَيْنَا؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَقَالَ لِلْقَوْمِ: انْطَلِقُوا، فَانْطَلِقُوا يَوْمَئِذٍ وَهُمْ ثَمَانُونَ رَجُلًا، فَامْسَكَ بِيَدِي، فَلَمَّا دَنَوْتُ مِنَ الدَّارِ نَزَعْتُ يَدِي مِنْ يَدِهِ، فَجَعَلَ أَبُو طَلْحَةَ يَطْلِينِي فِي الدَّارِ، وَيَسْمِينِي بِالْحِجَارَةِ، وَيَقُولُ: فَضَحْتَنِي عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ إِنَّهُ خَرَجَ إِلَيْهِ، فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ، فَقَالَ: لَا يَضُرُّكَ، فَأَمَرَهُمْ فَجَلَسُوا، ثُمَّ دَخَلَ فَاتَيْنَاهُ بِالْقُرْصِ، فَقَالَ: هَلْ مِنْ أَدْمٍ؟ فَقَالَتْ أُمُّ سَلِيمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ كَانَ عِنْدَنَا نَحْيٌ، وَقَدْ عَصْرْتُهُ أَنَا وَأَبُو طَلْحَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلُمُّوا، فَإِنَّ عَصْرَ الثَّلَاثَةِ أَبْلَغُ مِنْ عَصْرِ اثْنَيْنِ فَاتَيْتُ بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَصَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُمَا، فَأَخْرَجُوا مِنْهُ مِثْلَ التَّمْرَةِ، فَمَسَحُوا بِهَا الْقُرْصَ، فَمَسَحَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

اور ساری بات بتادی۔ آپ نے فرمایا: تمہیں کوئی نقصان نہ ہوگا۔ پس آپ نے انہیں بیٹھنے کا حکم دیا وہ بیٹھ گئے۔ پھر حضور ﷺ تشریف لائے تو ہم نے آپ کی خدمت میں نکلیاں پیش کیں تو آپ نے فرمایا: کیا سالن ہے؟ حضرت ام سلیم رضی اللہ عنہا نے عرض کی: ہمارے پاس مشک ہے میں نے اور ابو طلحہ نے اسے خوب نچوڑا ہے۔ تو آپ نے فرمایا: تین کا نچوڑنا، دو کے نچوڑنے سے بہتر ہے۔ وہ حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کی گئی، پس ان دونوں کے ساتھ آپ ﷺ نے بھی اس کو نچوڑا تو سب نے مل کر اس میں سے کھجور کے برابر کچھ نکالا۔ پس سب نے اپنے ہاتھ نکیوں پر ملے اور رسول کریم ﷺ نے بھی اپنے مبارک ہاتھ ملے۔ پھر اس میں برکت کی دعا کی، پھر فرمایا: میری طرف دس کو بلاؤ! پس میں نے دس کو بلایا۔ پس انہوں نے خوب سیر ہو کر کھایا، پس اسی طرح دس دس آ کر داخل ہوتے رہے اور کھاتے رہے یہاں تک کہ سارے سیر ہو گئے، پھر رسول کریم ﷺ بیٹھ گئے، ہم بھی آپ کے ساتھ مل کر بیٹھ گئے، ہم سب نے مل کر خوب سیر ہو کر کھایا پھر بھی بچ گیا۔ یہ حدیث محمد بن کعب سے صرف سعید اور سعید سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو روایت کرنے میں لیث منفرد ہیں۔

حضرت عروہ بن مغیرہ بن شعبہ اپنے والد مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے، وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ ﷺ قضاء حاجت کے لیے نکلے، آپ کے پیچھے مغیرہ برتن لے کر نکلے، اس میں پانی تھا، آپ نے

وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: اذْعُوا لِي عَشْرَةَ، فَدَعَوْتُ عَشْرَةَ، فَأَكَلُوا حَتَّى تَجَشَّنُوا شَبَعًا، فَمَا زَالُوا يَدْخُلُونَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ حَتَّى شَبَعُوا، ثُمَّ جَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَأَكَلْنَا حَتَّى فَضَلَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

3106 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ

آستین سے ہاتھ نکالا اور وضو کیا اور دونوں موزوں پر مسح کیا۔

الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ رَسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ خَرَجَ لِحَاجَّتِهِ، وَتَبِعَهُ الْمُغِيرَةُ بِالْإِدَاوَةِ وَفِيهَا مَاءٌ فَأَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنْ تَحْتِ فَرْوَةٍ، فَتَوَضَّأَ، وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ

یہ حدیث یحییٰ سے لیٹ اور یحییٰ سے صرف محمد بن اسحاق ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا اللَّيْثُ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات کو مر گیا وہ عذاب کے فتنے سے بچا لیا گیا۔

3107 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَعِيدِ التَّجِيبِيُّ، عَنْ أَبِي قَبِيلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَاتَ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ، أَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ وَقَبِيَ فِتْنَةَ الْقَبْرِ

یہ حدیث معاویہ سے صرف لیٹ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا الْوَلِيدُ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے حسان! مشرکوں کو ان کی بُرائی کر کے جواب دو! کیونکہ جبریل تمہارے ساتھ ہیں۔

3108 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ مُحَمَّدُ بْنُ خَازِمٍ قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ، عَنْ عَبْدِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا حَسَّانُ، أَهْجُ الْمُشْرِكِينَ، وَجَبْرِيلُ مَعَكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ

یہ حدیث شیبانی سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3107- أخرجه أحمد في المسند جلد 2 صفحه 238 رقم الحديث: 6654 .

3108- أخرجه البخاري في بدء الخلق جلد 6 صفحه 351 رقم الحديث: 3213، ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں ہرگز کوئی نہیں کہ جب تک اس کا رزق مکمل نہ ہو جائے رزق کے لیے پریشان نہ ہو کر اللہ سے ڈرو اور طلب رزق کے لیے کوشش کرو جو حلال ہو اس کو لے لو اور جو حرام ہے اس کو چھوڑ دو۔

یہ حدیث ابوزبیر سے صرف ابن جریر اور جابر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ پیشانی کے بالوں کو چھوڑتے تھے جس طرح کہ اہل کتاب چھوڑتے تھے پھر آپ مانگ نکالتے تھے جس طرح کہ اہل کتاب نکالتے تھے آپ ﷺ کو جب شک ہوتا کسی کام کے متعلق کہ مشرک اس پر عمل کرتے ہیں یا اہل کتاب تو جب تک وحی نہ آتی تھی آپ اہل کتاب کے مطابق عمل کرتے تھے۔

یہ حدیث عبداللہ بن دینار سے صرف اسماعیل اور

3109 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الدِّمِطِيَّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَحَدَكُمْ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَسْتَوْفِيَ رِزْقَهُ، فَلَا تَسْبِطُوا الرِّزْقَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاجْمَلُوا فِي الطَّلَبِ، خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ جُرَيْجٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3110 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارِ الشَّامِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: سَدَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاصِيَتَهُ، كَمَا يَسْدِلُ أَهْلُ الْكِتَابِ، ثُمَّ فَرَّقَ بَعْدَ كَمَا تَفْرِقُ الْعَرَبُ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَ فِي أَمْرٍ يَعْمَلُهُ الْمُشْرِكُونَ، وَأَهْلُ الْكِتَابِ، مَا لَمْ يَأْتِ بِهِ وَحْيٌ، عَمِلَ بِعَمَلِ أَهْلِ الْكِتَابِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ

3109 - أخرجه ابن ماجة في التجارات جلد 2 صفحہ 725 رقم الحديث: 2144: وقال ابن ماجة في الزوائد: اسناده

ضعيف، لأن فيها الوليد بن مسلم وابن جرير. وكل منهما كان يدلس. وكذلك أبو الزبير، وقد عنعنوه لكن لم ينفرد به المصنف من حديث أبي الزبير عن جابر. فقد رواه ابن حبان في صحيحه، باسنادين عن جابر.

3110 - أخرجه البخاري في اللباس جلد 10 صفحہ 374 رقم الحديث: 5917، ومسلم في الفضائل جلد 4

اسماعیل سے صرف آدم ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ثیبہ سے نکاح کے وقت اجازت لی جائے گی، اگر خاموش رہے تو اس کی اجازت ہے، اگر اس کے انکار کیا تو اس کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرا منبر جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری پر ہے، میرے منبر سے لے کر حضرت عائشہ کے گھر تک جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔

یہ حدیث عبید اللہ بن عبد اللہ سے صرف محمد بن عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر مسواک لازم ہے کیونکہ مسواک رب کی رضا اور منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے۔

الْبَهْرَانِي إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، وَلَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا آدَمُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

3111 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ: نَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الثَّيْبُ تُسْتَأْمَرُ فِي نَفْسِهَا، فَإِنْ سَكَّتْ فَهِيَ إِذْنُهَا، وَإِنْ أَبَتْ فَلَا جَوَازَ عَلَيْهَا

3112 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُبَيْتَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مِنْبَرِي عَلَى تَرْعَةٍ مِنْ تَرْعِ الْجَنَّةِ، وَمَا بَيْنَ الْمَنْبَرِ وَبَيْنَ بَيْتِ عَائِشَةَ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3113 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ، وَشُعَيْبٌ، قَالَا: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ، فَإِنَّهُ

3111 - أخرجه البخاری فی الحیل جلد 12 صفحہ 356 رقم الحدیث: 6970، ومسلم فی النکاح جلد 2 صفحہ 1036 .

3112 - وذكره الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 3 صفحہ 12 وقال: وهو حدیث حسن ان شاء اللہ .

3113 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 2 صفحہ 108، وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 1 صفحہ 223: وفيه ابن لهيعة وهو

مَرَضَاةٌ لِلرَّبِّ، مَطِيَّيَةٌ لِلْفَمِّ

3114 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ وَرْدَانَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَعَنَ اللَّهُ أَهْلَ الْقَدْرِ، الَّذِينَ يُكْذِبُونَ بِقَدْرِ،
وَيُصَدِّقُونَ بِقَدْرِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ

3115 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي
حَبِيبٍ، وَيُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ
يُكَبِّرُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى فِي الْأُولَى سَبْعًا، وَفِي
الثَّانِيَةِ خَمْسًا، قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا يُونُسُ،
وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَخَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ
لَهَيْعَةَ

3116 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ
قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الْوَرْدِ يَقُولُ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ
الزُّبَيْرِ يَقُولُ: إِنَّ تَشْهُدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: بِسْمِ اللَّهِ وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: اللہ نے لعنت فرمائی قدریہ پر جو کچھ
تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور تقدیر کے کچھ حصے کی تصدیق
کرتے ہیں یا کبھی تقدیر کو جھٹلاتے ہیں اور کبھی تقدیر کی
تصدیق کرتے ہیں۔

یہ حدیث موسیٰ سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ
عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی پہلی رکعت میں سات اور دوسری
میں قرأت سے پہلے پانچ تکبیریں کہتے تھے۔

یہ حدیث زہری سے صرف یونس اور یزید بن ابی
حبیب اور خالد بن یزید روایت کرتے ہیں اس کو روایت
کرنے میں ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ التحیات یوں پڑھتے تھے: ”بِسْمِ اللَّهِ
وَبِاللَّهِ خَيْرِ الْأَسْمَاءِ، التَّحِيَّاتُ لِلَّهِ الطَّيِّبَاتُ
الصَّلَوَاتُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا
شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ،

3115 - أخرجه أحمد في المسند جلد 2 صفحہ 474 رقم الحديث: 8700 والبيهقي في سننه جلد 3 صفحہ 405 رقم

الحديث: 6174 قال ابن الترمكان: مدار هذا الحديث على ابن لهيعة وقد ضعفه جماعة. وقال البيهقي في باب

منع التطهير بالنبيذ. ضعيف الحديث لا يحتج به.

أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي“ پہلی دو رکعتوں میں یعنی دو رکعتیں پڑھ کر۔

الطَّيِّبَاتُ الصَّلَوَاتُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، أَرْسَلَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيهَا، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ، اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَاهْدِنِي. هَذَا فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

یہ حدیث عبد اللہ بن زبیر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بنی لیمان کے سال تم میں سے دو آدمیوں سے ایک آدمی نکلے گا، اگر کوئی غازی کے گھر میں اس کے اہل خانہ کے پاس رہے تو اس کا آدھا ثواب جہاد کرنے والے کی طرح ہوگا۔

3117 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، وَشَعِيبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبَرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَامَ بَنِي لَحْيَانَ: لِيَخْرُجَ مِنْ كُلِّ اثْنَيْنِ مِنْكُمْ رَجُلٌ، وَلِيَخْلِفَ الْغَازِي فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ، وَلَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِهِ

یہ حدیث ابوسعید سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت سلامہ بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو ایک دن اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے جتنا ایک کوا جو بچپن کی حالت میں اڑنا شروع کرے یہاں تک کہ بوڑھا ہو کر مر جائے۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

3118 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوْسُفَ، وَشَعِيبُ بْنُ يَحْيَى قَالَا: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا زَبَّانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ لَهَيْعَةَ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ رَبِيعَةَ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ سَلَامَةَ بْنَ قَيْصَرَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتِغَاءً وَجِهَ اللَّهُ أَبْعَدَهُ اللَّهُ مِنْ جَهَنَّمَ بَعْدَ غَرَابٍ طَارَ وَهُوَ فَرُخٌ حَتَّى مَاتَ هَرَمًا

یہ حدیث سلامہ بن قیس سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ درد اور بخار دونوں مومن کے گناہ معاف کر دیتے ہیں اگرچہ ان کے گناہ اُحد پہاڑ کی مثل ہوں جب تندرست ہوتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ رائی کے دانہ برابر بھی نہیں ہوتا ہے۔

یہ حدیث ابو درداء سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: ہر بندے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے اس کی پیدائش کے وقت سے اس کی پانچ چیزیں لکھ دی ہیں: (۱) عمل (۲) عمر (۳) رزق (۴) اثر (۵) قبر۔

حضرت ابو الدرداء سے اسی سند سے روایت ہے حضرت خالد اس کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت عقبہ بن غزوآن بنی مازن بن صعصعہ کے

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3119 - وَبِهِ نَزَبَانُ بْنُ فَائِدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الصَّدَاعَ وَالْمَلِيلَةَ لَا يَزَالَانِ بِالْمُؤْمِنِ، وَإِنَّ ذُنُوبَهُ مِثْلُ أُحُدٍ، فَمَا يَدْعَاهِ وَعَلَيْهِ مِنَ الذُّنُوبِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3120 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحِ الْمُرِّيِّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَرَعَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ إِلَى كُلِّ عَبْدٍ مِنْ خَلْقِهِ، مِنْ خَمْسٍ: مِنْ عَمَلِهِ، وَأَجَلِهِ، وَرِزْقِهِ، وَآثَرِهِ، وَمَضْجَعِهِ

لَا يُرَوَى عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ خَالِدٌ

3121 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

3119 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 5 صفحہ 199 .

3120 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 5 صفحہ 197، والبخاري، وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 198 الى الكبير أيضاً وقال: أحد اسنادی أحمد رجاله ثقات .

3121 - أخرجه أيضاً الكبير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 285: رواه الطبرانی عن شيخه بكر بن سهل عن عبد الله بن يوسف، وكلاهما قد وثق، وفيهما خلاف. قلت: عبد الله بن يوسف هو التبيسي. قال الخليلي: ثقة متفق عليه، وقال الذهبي: الثقة البخاري، أساء ابن عدی بذكره في الكامل، وقال ابن حجر: ثقة متقن من أثبت

بھائی ہیں یہ صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے پیچھے صبر کرنے کے دن ہیں ان دنوں میں دین پر ثابت قدم رہنے والے کو ثواب اتنا ملے گا جتنا تم میں آج کوئی پچاس آدمی نیکی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ ان میں شامل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! بلکہ تم میں ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا آپ ان میں سے ہوں گے؟ فرمایا: تم میں سے ہوں گے تین مرتبہ یا چار مرتبہ فرمایا۔

يُوسُفَ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنْ عُتْبَةَ بْنِ عَزْوَانَ، اَخِي بِنِي مَازِنِ بْنِ صَعْصَعَةَ، وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَةِ، اَنَّ نَبِيَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ وَرَائَكُمْ اَيَّامَ الصَّبْرِ، الْمُتَمَسِّكُ فِيهِنَّ يَوْمِيذٍ بِمِثْلِ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ لَهٗ كَاَجْرٍ خَمْسِينَ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، اَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْكُمْ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللّٰهِ، اَوْ مِنْهُمْ؟ قَالَ: لَا، بَلْ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، اَوْ اَرْبَعًا

یہ حدیث عقبہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے ابراہیم بن ابی علیہ اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عُتْبَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ

حضرت ابراہیم بن ابی علیہ فرماتے ہیں کہ مروان بن حکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا: کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ سے نماز جنازہ کے متعلق کوئی شی سنی ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ اے اللہ! تو نے اس کو پیدا کیا ہے تو نے اس کو اسلام لانے کی ہدایت دی ہے تو نے اس کی روح قبض کی ہے تو اس کے علانیہ اور چھپے ہوئے گناہوں کو جانتا ہے ہم تیری بارگاہ میں شفاعت کے لیے آئے ہیں تو اس کو بخش دے اور اس پر رحم فرما!

3122 - وَبِهِ حَدَّثَنَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، اَنَّ مَرْوَانَ بْنَ الْحَكَمِ سَالَ اَبَا هُرَيْرَةَ: هَلْ سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا فِي الصَّلَاةِ عَلٰى الْجِنَازَةِ؟ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَهُ، وَاَنْتَ هَدَيْتَهُ اِلَى الْاِسْلَامِ، وَاَنْتَ قَبَضْتَ رُوْحَهُ، وَاَنْتَ اَعْلَمُ بِسِرِّهِ وَعَلَانِيَتِهِ، جِنَّاكَ شَفَعَاءَ، فَاغْفِرْ لَهُ وَاَرْحَمْهُ

یہ حدیث ابراہیم سے صرف خالد بن یزید اور عراک بن خالد بن یزید روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَعِرَاكُ بْنُ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ

الناس في الموطأ، وأما شيخ الطبرانی ففيه كلام كما تقدم .

3122 - أخرجه أحمد في المسند جلد 2 صفحہ 603 رقم الحديث: 9926 بلفظ: التائيت .

3123 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى، عَنْ نَافِعِ بْنِ يَزِيدَ، أَخْبَرَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ
بْنِ شُرْحَبِيلَ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْوَلِيدِ بْنَ الْمُغِيرَةَ،
حَدَّثَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي زَكْرِيَّا، يُحَدِّثُ
عَنْ شُرْحَبِيلِ بْنِ السَّمْطِ، أَنَّهُ رَأَى سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ
وَهُوَ مُرَابِطٌ بِسَاحِلِ حِمَاصٍ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ:
مُرَابِطٌ، فَقَالَ سَلْمَانُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
كَصِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ، وَمَنْ مَاتَ مُرَابِطًا جَرَى عَلَيْهِ
أَجْرُ عَمَلِهِ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُ وَأَمِنَ مِنَ الْفِتَنِ، وَبُعِثَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَهِيدًا

حضرت شرحبیل بن سمط رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو حمص کے
ساحل پر نگہبانی کرتے ہوئے دیکھا آپ سے عرض کی
گئی: یہ کیا ہے؟ فرمایا: نگہبانی کر رہا ہوں، حضرت سلمان
نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا
ہے کہ اللہ کی راہ میں ایک دن کی نگہبانی کرنے والے کو
ایک ماہ کے روزوں اور قیام کے برابر ثواب ملے گا جو اللہ
کی راہ میں نگہبانی کرتے ہوئے مارا جائے اس کا عمل
جاری رہے گا اور فتنوں سے امن میں رہے گا اور قیامت
کے دن شہداء کے درجہ میں ہوگا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
زَكْرِيَّا إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا
مُعَاوِيَةُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ

یہ حدیث عبداللہ بن ابی زکریا سے صرف عبداللہ بن
الولید اور ولید سے صرف عبداللہ اور عبداللہ سے صرف
معاویہ بن یزید روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے
میں نافع بن یزید اکیلے ہیں۔

3124 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ،
عَنْ حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ،
عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: إِذَا اغْتَسَلَ الرَّجُلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَّ طَيْبًا،

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب آدمی جمعہ
کے دن غسل کرتا ہے اور خوشبو لگاتا ہے اور خاموش رہتا
ہے لغوبات نہیں کرتا ہے یہاں تک کہ خطبہ مکمل ہو جائے
اور نماز پڑھتا ہے تو اس کے ایک جمعہ سے لے کر دوسرے
جمعہ تک اور تین دن اضافی طور پر اس کے گناہ معاف ہو
جاتے ہیں۔

3123 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 6 صفحه 267 رقم الحديث: 6179 وقال الحافظ الهيثمي: وفيه من لم أعرفهم.

انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحه 293 .

3124 - أخرجه أبو داود في الطهارة جلد 1 صفحه 93 رقم الحديث: 343 (انفراد به أبو داود) .

وَأَنْصَتَ وَلَمْ يَلْغُ حَتَّى يَقْضِيَ الْإِمَامُ حُطْبَتَهُ، وَرَكَعَ شَيْئًا إِنْ بَدَأَ لَهُ، كُفِّرَ عَنْهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَةِ إِلَى الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

یہ حدیث حرب سے یزید ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ حَرْبِ الْأَيْزِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3125 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

حضرت نافع بن کیسان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان کے والد کیسان نے بتایا کہ وہ رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں تجارت کرتے تھے شام سے واپس آئے تو ان کے پاس مٹکے میں شراب تھی اس کو فروخت کرنے کا ارادہ تھا، وہ حضور ﷺ کے پاس آئے عرض کی: یا رسول اللہ! میں عمدہ شراب لے کر آیا ہوں حضور ﷺ نے فرمایا: تیرے جانے کے بعد شراب حرام ہو گئی تھی، حضرت کیسان نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں جاؤں اور اس کو فروخت کر دوں؟ آپ نے فرمایا: شراب بھی حرام اس کی کمائی بھی حرام ہے۔ حضرت کیسان شراب کے مٹکے کی طرف گئے اس کو نیچے سے پکڑا اور ساری شراب کو بہا دیا۔

يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ نَافِعِ بْنِ كَيْسَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَاهُ كَيْسَانَ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ يَتَّجِرُ بِالْخَمْرِ فِي زَمَانِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَقْبَلَ مِنَ الشَّامِ وَمَعَهُ خَمْرٌ فِي الزَّرْقَاقِ، يُرِيدُ التِّجَارَةَ، فَاتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي جِئْتُ بِشَرَابٍ جَيِّدٍ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ بَعْدَكَ قَالَ كَيْسَانُ: فَأَذْهَبُ فَابِيعُهَا يَا نَبِيَّ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ وَحَرَّمَ ثَمْنُهَا فَاَنْطَلَقَ كَيْسَانُ إِلَى الزَّرْقَاقِ، فَأَخَذَ بَارَ جِلْهَاتُ ثُمَّ أَهْرَاقَهَا جَمِيعًا

کیسان سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَيْسَانَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3126 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3125- أخرجه أيضًا الكبير جلد 9 صفحہ 95 رقم الحديث: 438، وأحمد جلد 4 صفحہ 335-336. وقال الحافظ

الهيثمى فى المجمع جلد 4 صفحہ 91: وفيه نافع بن كيسان وهو مستور. قلت: وفيه أيضًا ابن لهيعة، وهو مختلط،

فالحديث ضعيف الإسناد.

3126- أخرجه أيضًا أحمد جلد 2 صفحہ 220، وعزاه الحافظ الهيثمى فى المجمع جلد 8 صفحہ 25 الى الكبير، وقال: وفيه

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: ایک مسلمان اچھے اخلاق کے ساتھ ہمیشہ روزہ اور قیام کرنے والے کے برابر ثواب پالیتا ہے۔

يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو يَقُوْلُ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ الْمُسْلِمَ لَيَدْرِكُ دَرَجَةَ الصَّوْمِ الْقَوَامِ بِحُسْنِ خُلُقِهِ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ قربانی کے گوشت کے متعلق کہ ہم اس کو خشک کر کے رکھتی تھیں لوگ اس شہر کی طرف لے جاتے اس کو تین دن تک ہی کھاتے تھے یہ عزیمت نہیں ہے لیکن آپ ﷺ نے اس سے لوگوں کے کھانے کا ارادہ کیا۔

3127 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ فِي لُحُوْمِ الضَّحَايَا: كُنَّا نَصْلِحُ مِنْهُ وَيَقْدَمُ بِهِ اُنَاسٌ اِلَى الْمَدِيْنَةِ، فَلَا يَأْكُلُوْنَهُ اِلَّا ثَلَاثَةَ اَيَّامٍ، لَيْسَ بِالْعَزِيْمَةِ، وَلَكِنْ اَرَادَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ يَطْعَمُوْا مِنْهُ

یہ حدیث یحییٰ سے ہشام اور ہشام سے ابواسود اور ابواسود سے عبید اللہ بن ابی جعفر روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ يَحْيَى اِلَّا هِشَامٌ، وَلَا عَنْ هِشَامٍ اِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، وَلَا عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ اِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ کو خبر پہنچی کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ قحطان کا ہے حضرت معاویہ ناراض ہوئے اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ یہ حکومت ہمیشہ قریش میں رہے

3128 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نُعَيْْمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمُرُوْزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ قَالَ: بَلَغَ مُعَاوِيَةَ، اَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو بْنَ الْعَاصِ يُحَدِّثُ اَنَّهُ يَكُوْنُ مَلِكًا مِنْ قَحْطَانَ، فَغَضِبَ، وَقَالَ:

ابن لهيعة وفيه ضعيف وبقية رجاله رجال الصحيح .

312 - تقدم برقم (3086) .

312 - أخرجه البخارى فى المناقب جلد 6 صفحه 616 رقم الحديث: 3500، وأحمد فى المسند جلد 4 صفحه 116 رقم

الحديث: 16858، والطبرانى فى الكبير جلد 19 صفحه 337 رقم الحديث: 779 .

گی، جو کوئی ان سے لے گا اللہ عزوجل اس کو اوندھے منہ جہنم میں گرائے گا۔

یہ حدیث معمر سے صرف عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت موسیٰ بن طلحہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خبر پہنچی کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اچانک موت ایمان والوں کے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل عبد اللہ کو بخشے! حضور ﷺ نے فرمایا: اچانک موت ایمان والوں کے گناہ کم ہونے کا سبب ہے اور کافروں کے لیے ناراضگی کا سبب ہے۔

یہ حدیث عبد الملک سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عطیہ بن قیس الکلابی فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ بن ابی سفیان نے ام درداء کو حضرت ابودرداء کے نکاح کا پیغام دیا، حضرت ام الدرداء نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جس عورت کا شوہر فوت ہو جائے اس کے بعد وہ دوسرے شوہر سے شادی کر سکتی ہے، میں ابودرداء کے بعد کسی اور سے نکاح نہیں کرتی ہوں۔ حضرت معاویہ نے ان کی طرف خط لکھا کہ آپ روزے رکھیں کیونکہ روزہ ڈھال ہے۔

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَا يَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ لَا يُعَادِيهِمْ أَحَدٌ إِلَّا كَبَّهَ اللَّهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَعْمَرٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

3129 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ

مَنْصُورٍ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ مُوسَى الطَّلْحِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: بَلَغَ عَائِشَةَ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ مَوْتَ الْفَجَاءَةِ سَخِطَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَتْ: يَغْفِرُ اللَّهُ لِابْنِ عُمَرَ، إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَوْتُ الْفَجَاءَةِ تَخْفِيفٌ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، وَسَخِطَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا صَالِحٌ

3130 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ، عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسِ الْكَلَابِيِّ قَالَ: خَطَبَ مُعَاوِيَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ أُمَّ الدَّرْدَاءِ بَعْدَ وَفَاةِ أَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَتْ أُمُّ الدَّرْدَاءِ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أَيُّمَا امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا، فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ فَهِيَ لِأَخْرِ أَرْوَاجِهَا وَمَا

3129 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 6 صفحہ 136 من طريق: عبد الله بن الوليد، وقال الحافظ الهيثمي في المجموع جلد 2

صفحة 321: وفيه عبيد الله بن الوليد الصافي وهو متروك. قلت: وفي اسناد الطبرانی أيضاً متروك كما تقدم.

كُنْتُ لَا خِتَارَكَ عَلَيَّ أَبِي الدَّرْدَاءِ فَكَتَبَ إِلَيْهَا
مُعَاوِيَةَ: فَعَلَيْكَ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ مَحْسَمَةٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي
مَرِيَمَ إِلَّا الْوَلِيدُ

3131 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ
مُوسَى بْنِ حُمَيْدِ الْقُرْطِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
الْخُدْرِيِّ، أَنَّهُ أَوْصَى رَجُلًا كَانَ يَكُونُ بِالْبَادِيَةِ: إِذَا
أَنْتَ أَذْنَتَ بِالصَّلَاةِ فَشَدَّ صَوْتَكَ بِالْبَدَاءِ، فَإِنَّهُ لَا
يَسْمَعُ صَوْتَكَ جِنَّ وَلَا إِنْسٌ وَلَا شَجَرٌ وَلَا شَيْءٌ إِلَّا
شَهِدَ لَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ذَلِكَ.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَيْسَى بْنِ مُوسَى إِلَّا
يَحْيَى

3132 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مَهْدِيُّ بْنُ

جَعْفَرِ الرَّمْلِيِّ قَالَ: نَا سُؤَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ
حُمَيْدِ الطَّوْبِيلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُرِيدُ حَاجَةً،
فَقَالَ: اجْلِسِي فِي آيِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ شَتَّتِ حَتَّى

یہ حدیث ابو بکر بن ابی مریم سے صرف ولید ہی
روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
میں نے ایک آدمی جو کہ دیہاتی تھا، کو وصیت کی کہ جب
تو اذان دے نماز کے لیے تو اونچی آواز میں دے کیونکہ
تیری اذان کی آواز جو درخت یا کوئی شے بھی سنے گی وہ
قیامت کے دن تیرے لیے گواہی دے گی، میں نے رسول
اللہ ﷺ سے اسی طرح سنا ہے۔

یہ حدیث عیسیٰ بن موسیٰ سے صرف یحییٰ ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک
عورت رسول اللہ ﷺ کے پاس ایک ضرورت لے کر
آئی، آپ نے فرمایا: تو مدینہ کے جس راستے میں چاہے
بیٹھ جا یہاں تک کہ میں تیرے پاس آ کر بیٹھوں گا۔

3131- أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 104 رقم الحدیث: 609 بلفظ: فارغ صوتك..... الخ . ومالك فی الموطأ

جلد 1 صفحہ 69 رقم الحدیث: 5 بنحوه . وأحمد فی المسند وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 43 رقم

الحدیث: 11311 بنحوه .

3132- أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 257 رقم الحدیث: 4818 وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 263 رقم

الحدیث: 13246 .

أَجْلَسَ إِلَيْكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُؤِيدٍ إِلَّا مَهْدِيٌّ

یہ حدیث سوید سے صرف مہدی ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی فوت ہوا، اس نے کبھی کوئی نیکی نہیں کی تھی ماسوائے راستے میں ایک ٹہنی دور کرنے کے یا راستے کے ایک درخت کو کاٹنے کے یا کوئی نقصان دہ شے دور کی تھی اللہ عزوجل نے اس کی نیکی قبول کی اور اس کو جنت میں داخل کیا۔

3133 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَزَعَ رَجُلٌ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ غُضْنَ شَوْكُ، عَنِ الطَّرِيقِ، إِمَّا كَانَ فِي شَجَرَةٍ فَقَطَعَ، وَإِمَّا كَانَ مَوْضِعًا فَأَمَاطَهُ، فَشَكَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهُ فَأَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا مُحَمَّدٌ

یہ حدیث زید سے صرف محمد ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شراب تمام بے حیائیوں کی ماں ہے سب گناہوں میں سے بڑا گناہ ہے جس نے شراب پی اس نے اپنی ماں، اپنی خالہ، اپنی پھوپھی سے زنا کیا۔

3134 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمِيَّةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ، وَأكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمَّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا عَبْدُ الْكَرِيمِ

یہ حدیث عطاء سے صرف عبدالکریم ہی روایت

کرتے ہیں۔

3133 - أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4 صفحہ 364 رقم الحديث: 5245 وانظر الترغيب والترهيب جلد 3

صفحہ 620 رقم الحديث: 15 .

3134 - أخرجه أيضًا في الكبير؛ وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 5 صفحہ 70 وفيه عبد الكريم أبو أمية وهو ضعيف .

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر نشہ آور شے حرام ہے۔

3135 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةَ الْمِصْبِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنَّ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

یہ حدیث عمر بن مغیرہ سے صرف عبد اللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تو مومن کو دوست بنا اور پرہیزگار کو کھلا۔

3136 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ عَيَّانٍ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنِ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَصْحَبْ إِلَّا مُؤْمِنًا، وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيًّا

یہ حدیث حضور ﷺ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں سالم اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ سَالِمٌ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اللہ عزوجل کے اس ارشاد ”کالمهل“

3137 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا رِشْدِينَ بْنُ سَعْدٍ، عَنَّ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ،

3135 - أخرجه مسلم في الأشربة جلد 3 صفحہ 1587، وأبو داؤد في الأشربة جلد 3 صفحہ 326 رقم الحديث: 3679 والترمذی فی الأشربة جلد 4 صفحہ 291 رقم الحديث: 1864، والنسائی فی جلد 8 صفحہ 263 باب اثبات اسم الخمر لكل مسكر من الأشربة، وابن ماجه فی الأشربة جلد 2 صفحہ 1223 رقم الحديث: 3387، وأحمد فی المسند جلد 2 صفحہ 23 رقم الحديث: 4643.

3136 - أخرجه أبو داؤد فی الأدب جلد 4 صفحہ 260 رقم الحديث: 2832، والترمذی فی الزهد جلد 4 صفحہ 601، 600 رقم الحديث: 2395 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن، انما نعرفه من هذا الوجه. والدارمی فی الأطعمة جلد 2 صفحہ 140 رقم الحديث: 2057، والحاكم فی المستدرک جلد 4 صفحہ 128.

3137 - أخرجه الترمذی فی صفة جهنم جلد 4 صفحہ 704 رقم الحديث: 2581 وقال أبو عيسى: هذا حديث لا نعرفه الا من حديث رشدين بن سعد ورشدين قد تكلم فيه. وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 87 رقم الحديث: 11678

کے متعلق فرمایا: وہ زیتون کے درخت کا پیالہ ہوگا جب اس کے قریب کیا جائے گا تو اس کی جلن سے اس کے چہرے کا گوشت جل کر گر جائے گا۔

یہ حدیث عمرو سے رشیدین ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ لگا تار دن رات روزے رکھتے، حضرت جبریل علیہ السلام حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے عرض کی: بے شک اللہ نے آپ کے لگا تار روزے قبول کر لیے ہیں، آپ کے بعد یہ کسی کے لیے جائز نہیں ہیں، اللہ عزوجل کے اس ارشاد کا کہ ”روزہ مکمل کرو رات تک“ اس کا مطلب یہ ہے کہ رات کے بعد روزہ نہیں ہے اور مجھے حکم دیا وتر پڑھنے کا فجر کے بعد۔

یہ حدیث ثور سے یحییٰ اور یحییٰ سے ابو زریٰ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: مختلف شکلوں والوں کے عیب ان پر لوٹاتے رہو انہیں بتاتے رہو جب تک وہ حد کو نہ پہنچ جائیں۔

یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ابو بکر بن

عَنْ دَرَّاجِ أَبِي السَّمْحِ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي قَوْلِهِ: (كَأَلْمُهَلِّ) (الكهف: 29) قَالَ: كَعَكْرِ الزَّيْتِ إِذَا قَرَّبَ مِنْهُ سَقَطَتْ فَرْوَةٌ وَجْهَهُ مِنْهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا رَشِيدِينَ

3138 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصَلَ بَيْنَ يَوْمَيْنِ وَكَيْلَةٍ، فَتَاهُ جَبْرِيلُ، فَقَالَ: إِنَّ اللَّهَ قَدْ قَبِلَ وَصَالَكَ، وَلَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ بَعْدَكَ وَذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَقُولُ: (لَمَّا أَتَمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ) (البقرة: 187) ، فَلَا صِيَامَ بَعْدَ اللَّيْلِ، وَأَمَرَنِي بِالْوَتْرِ بَعْدَ الْفَجْرِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا يُرَوَى عَنْ أَبِي ذَرٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3139 - حَدَّثَنَا بَكْرُ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ

قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ نَافِعٍ، مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ بْنَ مُحَمَّدٍ بْنَ عَمْرٍو بْنَ حَزْمٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَمْرَةَ بِنْتَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: قَالَتْ عَائِشَةُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْبِلُوا ذَوِي الْهَيْئَاتِ عَشْرَاتِهِمْ، مَا لَمْ يَكُنْ حَدًّا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا مِنْ

محمد حضرت عمر سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اس ارشاد کہ ”قیامت کے ہر دن وہ الگ شان والا ہوگا“ فرمایا: شان سے گناہ معاف کرنا، مشکل دور کرنا، ایک قوم کا درجہ بلند کرنا اور ایک قوم کا درجہ کم کرنا مراد ہے۔

یہ حدیث أم الدرداء سے صرف یونس ہی روایت کرتے ہیں۔

أم المؤمنین حضرت أم سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ کے قول ”حُورٌ عِينٌ“ کے بارے خبر دیجئے! آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا: سفید رنگ کی حوریں، موٹی آنکھوں والی، باز کے پروں کی مانند ان کی پلکیں ہوں گی۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ کے فرمان ”كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ“ کے بارے خبر دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا: ان کی صفائی، موتی کی مانند ہونگی جو سیپوں میں ہوتا ہے اور اس کو ہاتھوں نے چھوا نہیں ہوتا ہے۔ میں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے خبر دیجئے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ“ کے بارے میں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بھلے اخلاق والیاں، خوبصورت چہروں والیاں۔ میں نے عرض کی:

حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَمْرَةَ

3140 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ، قَالَ: نَا الْوَزِيرُ بْنُ صُبَيْحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ مَيْسَرَةَ بْنِ حَلْبَسٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، (كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنِ) (الرحمن: 29) قَالَ: مِنْ شَأْنِهِ أَنْ يَغْفِرَ ذَنْبًا وَيُفْرَجَ كَرْبًا، وَيَرْفَعَ قَوْمًا وَيَضَعَ آخَرِينَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ إِلَّا يُونُسُ

3141 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُمِّهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (حُورٌ عِينٌ) (الواقعة: 22) قَالَ: حُورٌ بِيضٌ، عَيْنٌ صِحَّامٌ، سُفْرُ الْحُورَاءِ بِمَنْزِلَةِ جَنَاحِ النَّسْرِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ: (كَانَهُنَّ الْيَاقُوتُ وَالْمَرْجَانُ) (الرحمن: 58) قَالَ: صَفَاؤُهُنَّ كَصَفَاءِ الدَّرِّ الَّذِي فِي الْأَصْدَافِ الَّذِي لَا تَمْسُهُ الْأَيْدِي قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: (فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ) (الرحمن: 70) قَالَ: خَيْرَاتٌ الْأَخْلَاقِ، حِسَانٌ

3140- أخرجه ابن ماجة في المقدمة جلد 1 صفحہ 73 رقم الحديث: 202 قال ابن ماجة في الزوائد: اسنادہ حسن .

3141- أخرجه أيضًا في الكبير جلد 22 صفحہ 367 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 420: وفي

اسنادهما سليمان بن أبي كريمة وهو ضعيف .

الْوُجُوهُ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَأَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: (كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ) (الصفات: 49) قَالَ: رِقَّتُهُنَّ كَرِقَّةِ الْجِلْدِ الَّتِي فِي دَاخِلِ الْبَيْضَةِ مِمَّا يَلِي الْقِشْرَ وَهُوَ الْغُرْقِيُّ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ قَوْلِهِ: (عُرْبًا أَتْرَابًا) (الواقعة: 37) قَالَ: هُنَّ اللَّوَاتِي قُبِضْنَ فِي دَارِ الدُّنْيَا عَجَائِزَ رُمُضًا شُمَطًا، خَلَقَهُنَّ اللَّهُ بَعْدَ الْكَبِيرِ فَجَعَلَهُنَّ عَذَارَى قَالَ: (عُرْبًا) (الواقعة: 37) : مُعَشَّقَاتٌ مُحَبِّبَاتٌ (أَتْرَابًا) (الواقعة: 37) : عَلَى مِيلَادٍ وَاحِدٍ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أِنْسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ أَمْ الْحُورُ الْعَيْنُ؟ قَالَ: بَلْ نِسَاءُ الدُّنْيَا أَفْضَلُ مِنَ الْحُورِ الْعَيْنِ كَفَضْلِ الظَّهَارَةِ عَلَى الْبَطَانَةِ. قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَبِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: بِصَلَاتِهِنَّ وَصِيَامِهِنَّ وَعِبَادَتِهِنَّ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، أَلْبَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَجُوهَهُنَّ النُّورَ وَأَجْسَادَهُنَّ الْحَرِيرَ، بَيْضُ الْأَلْوَانِ، خُضْرُ الشِّيَابِ، صَفْرُ الْحُلِيِّ مَجَامِرُهُنَّ الدُّرُّ، وَأَمْشَاطُهُنَّ الذَّهَبُ، يَقْلُنَّ: أَلَا نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلَا نَمُوتُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحْنُ النَّاعِمَاتُ فَلَا نَبُوسُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلَا نَنْظَعُنُ أَبَدًا، أَلَا وَنَحْنُ الرَّاغِبَاتُ فَلَا نَسْخَطُ أَبَدًا، طُوبَى لِمَنْ كُنَّا لَهُ وَكَانَ لَنَا قُلْتُ: الْمَرْأَةُ مِمَّا تَتَزَوَّجُ الزَّوْجِينَ وَالثَّلَاثَةَ وَالْأَرْبَعَةَ، ثُمَّ تَمُوتُ فَتَدْخُلُ الْجَنَّةَ وَيَدْخُلُونَ مَعَهَا، مَنْ يَكُونُ زَوْجَهَا مِنْهُمْ؟ فَقَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهَا تُخَيَّرُ، فَتَخْتَارُ أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا، فَتَقُولُ: أَيُّ رَبِّ، إِنَّ هَذَا كَانَ

اے اللہ کے رسول! مجھے اللہ تعالیٰ کے قول ”كَانَهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ“ کے بارے خبر دیجئے! آپ ﷺ نے فرمایا: ان کی نرمی اس جلد کی مانند ہوگی جو انڈے کے اندر ہوتی ہے جس سے چھلکا ملا ہوا ہوتا ہے وہ انڈے کی سفیدی کی جھلی ہے۔ میں نے عرض کی: مجھے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ”عُرْبًا أَتْرَابًا“ کے بارے بتائیے! آپ ﷺ نے فرمایا: ان سے مراد وہ عورتیں ہیں جو دنیا میں اس حال میں فوت ہوئیں کہ وہ بوڑھی گھٹکھریا لے چھوٹے بالوں والی جن کے جسم جل سڑ گئے تھے ان کے بڑھاپے کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں پیدا کرے گا اور انہیں کنواریاں بنا دے گا۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ”عُرْبًا“، یعنی عشق و محبت کرنے والیاں، ”أَتْرَابًا“، یعنی وہ عورتیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئیں۔ میں نے عرض کی: حضور! کیا دنیا کی عورتیں زیادہ فضیلت والی ہیں یا جنت کی موٹی آنکھوں والی حوریں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: دنیا کی عورتیں جنت کی حوروں پر اس طرح فضیلت رکھتی ہیں جس طرح ظاہر باطن پر۔ میں نے عرض کی: اس کا سبب؟ آپ نے فرمایا: اپنی نمازوں و روزوں اور عبادات کے سبب جو انہوں نے اللہ کی رضا کے لیے کی ہوں گی ان کے چہروں کو اللہ تعالیٰ ایک نور عطا کرے گا۔ ان کے جسم ریشم کی مانند بنا دے گا۔ رنگ بالکل سفید ان پر سبز کپڑے ہوں گے۔ زرد زیورات، موتیوں کے ہار سونے کی کنگھیاں ہوں گی یہ سب کچھ دیکھ کر وہ پکاریں گی: ہم ہمیشہ رہنے والیاں ہیں ہم کبھی نہ مریں گی، ہم نعمتوں والی ہیں، ہمیں تکلیف نہ

آئے گی، ہم مقیم ہیں، مسافر نہ ہوں گی، ہم خوش رہنے والی ہیں کبھی ناراض نہ ہوں گی۔ مبارک ہو ان کو جن کی ہم ہیں اور وہ ہمارے لیے ہیں۔ میں نے عرض کی: ایک عورت بعض اوقات دو تین یا چار نکاح کرتی ہے، پھر فوت ہوتی ہے اسے جنت نصیب ہوتی ہے اور وہ مرد بھی جنت میں داخل ہو جاتے ہیں ان میں سے کون اس کا خاوند ہو گا؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اے ام سلمہ! اُسے اختیار دیا جائے گا تو وہ اُس کو چنے گی جو سب سے اچھے اخلاق والا ہو گا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی: اے میرے رب! ان میں یہ دنیا کے گھر میں میرے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آیا اب اسی کے ساتھ میرا نکاح فرمادے۔ اے ام سلمہ! اُس خلیق نے دنیا و آخرت کی سب بھلائیاں سمیٹ لی ہیں۔

اس حدیث کو ہشام بن حسان سے سلیمان بن ابی کریمہ ہی روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سونے کو سونے کے بدلے چاندی کو چاندی کے بدلے فروخت کرو، ایک دوسرے کو زیادتی کے ساتھ فروخت نہ کرو۔

یہ حدیث فلیح سے صرف سعید ہی روایت کرتے

أَحْسَنَهُمْ مَعِيَ خُلُقًا فِي دَارِ الدُّنْيَا فَزَوْجِيهِ، يَا أُمَّ
سَلْمَةَ ذَهَبَ حُسْنُ الْخَلْقِ بِخَيْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانٍ إِلَّا
سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي كَرِيمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3142 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ

مَنْصُورٍ قَالَ: نَا فُلَيْحُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ،
وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ، لَا تَسْتَفْضِلُوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فُلَيْحٍ إِلَّا سَعِيدُ

3142 - أخرجه مسلم في المساقاة جلد 3 صفحہ 1212 بلفظ: الذهب بالذهب وزنا بوزن ومثلا بمثل والفضة بالفضة وزنا

بوزن . مثلا بمثل فمن استزاد فهو ربا . ولفظ المصنف من طريق: أبي سعيد الخدري . أخرجه البخاري في البيوع من

طريق أبي سعيد الخدري جلد 4 صفحہ 444 رقم الحديث: 2177 .

ہیں۔

حضرت تمیم الداری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے ایک رات کو سو آیتیں پڑھیں، اس کے لیے اس رات قنوت کا ثواب لکھا جائے گا، یعنی ساری رات قیام کرنے کا۔

3143 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَرَأَ مِائَةَ آيَةٍ فِي لَيْلَةٍ كُتِبَ لَهُ قُنُوتُ لَيْلَةٍ

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے حج نہیں کیا، اس کا حج کرنا دس غزوات سے بہتر ہے، جس نے حج کیا اس کا جہاد کرنا دس حج کرنے سے بہتر ہے، سمندر میں جہاد کرنا خشکی کے دس جہاد سے بہتر ہے، جو سمندر میں چلا اس کے لیے ساری وادیوں میں چلنے سے بہتر ہے، سمندر میں ٹھہرنا جہاد کے لیے ایسے ہے جس طرح کوئی اپنے خون میں لت پت ہو۔

3144 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حِجَّةٌ لِمَنْ لَمْ يَحْجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ، وَغَزْوَةٌ لِمَنْ حَجَّ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ حِجَجٍ، وَغَزْوَةٌ فِي الْبَحْرِ خَيْرٌ مِنْ عَشْرِ غَزَوَاتٍ فِي الْبَرِّ، وَمَنْ أَجَازَ الْبَحْرَ فَكَأَنَّمَا أَجَازَ الْأَوْدِيَةَ كُلَّهَا، وَالْمَائِدُ فِيهِ كَأَلَمْ تَسْحَطِ فِي دَمِهِ

یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے صرف یحییٰ بن ایوب ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب چلتے تھے تو ایسے محسوس ہوتا تھا کہ آپ نے ٹیک لگائی

3145 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ

3143 - أخرجه أحمد في المسند جلد 4 صفحہ 128 رقم الحديث: 16960، والطبرانی في الكبير جلد 2 صفحہ 50 رقم

الحديث: 1252 وقال الحافظ الهيثمي: وفيه سليمان بن موسى الشامي وثقه ابن معين، وأبو حاتم، وقال البخاري:

عنده مناكير وهذا لا يقدح . انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 270 .

3145 - أخرجه أبو داؤد في الأدب جلد 4 صفحہ 268 رقم الحديث: 4863، والترمذي في اللباس جلد 4 صفحہ 233 رقم

الحديث: 1754 .

قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
مَشَى كَأَنَّهُ يَتَوَكَّأُ

یہ حدیث حمید سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے
ہیں۔

حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی پاخانہ کرے
تو تین پتھروں سے استنجاء کرے یہ اس کے لیے کافی ہے
بشرطیکہ محل صاف ہو جائے۔

3146 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ
هَاشِمٍ قَالَ: نَا الْهَقْلُ بْنُ زِيَادٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ
عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سَوْدَةَ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ الْخَضْرَمِيِّ،
عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَغَوَّطَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَمَسَّحْ
بثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ كَافِيهِ

یہ حدیث مرفوعاً اوزاعی سے صرف ہنقل ہی روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے عمرو اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ
تین رکعت وتر ادا کرتے تھے پہلی رکعت میں سبح اسم
ربك الاعلى، دوسری میں قل يا ايها الكافرون،
تیسری میں قل هو الله احد، قل اعوذ برب الفلق،
قل اعوذ برب الناس پڑھتے تھے۔ (معلوم ہوا کہ وتر
تین رکعتیں ہیں۔)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ مَرْفُوعًا إِلَّا
الْهَقْلُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو

3147 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ
يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ
الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُوتِرُ بِثَلَاثٍ، فَيَقْرَأُ فِي أَوَّلِ
رَكْعَةٍ بِسَبْحِ اسْمِ رَبِّكَ الْأَعْلَى، وَفِي الثَّانِيَةِ قُلْ يَا
أَيُّهَا الْكَافِرُونَ، وَفِي الثَّالِثَةِ بَقُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، وَقُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، وَقُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

یہ حدیث سعید سے صرف یحییٰ بن ایوب ہی روایت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا يَحْيَى بْنُ

3146 - أخرجه أيضًا الكبير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 214: ورجاله موثقون الا أن أبا شعيب
صاحب أبي أيوب لم أر فيه تعديلا ولا جرحا .

3147 - أخرجه أبو داود في الصلاة جلد 2 صفحہ 64 رقم الحديث: 1424، والترمذي في الصلاة جلد 2 صفحہ 326 رقم
الحديث: 463 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب . وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحہ 371 رقم

الحديث: 1173، وانظر نصب الراية جلد 2 صفحہ 118-119 .

أَيُّوبُ

کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر جنت کی کوئی عورت زمین میں جھانکے تو ساری زمین اس کی خوشبو اور روشنی سے بھر جائے اس کے سر کا تاج دنیا و مافیہا سے بہتر ہے۔

3148 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شَعِيبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدٍ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَطَّلَعَتِ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ إِلَى الْأَرْضِ لَمَلَأَتْ مَا بَيْنَهُمَا رِيحًا، وَلَا ضَائِتَ مَا بَيْنَهُمَا، وَتَنَاجَاهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

3149 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شَعِيبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: كُلُّكُمْ فِي الْجَنَّةِ إِلَّا مَنْ شَرَدَ عَلَى اللَّهِ عِزًّا وَجَلَّ شَرَادَ الْبَعِيرِ عَلَى أَهْلِهِ

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا آپ نے فرمایا: تم سارے جنت میں ہو گے مگر جو اللہ کی اطاعت سے نکل گیا، جس طرح اونٹ اپنے مالک کی اطاعت سے نکل جاتا ہے۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

یہ حدیث ابو امامہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

3150 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے ہاں! ایک صورت ہے وہ یہ کہ کوئی آدمی اپنے ماں باپ کو غلام پائے تو ان کو آزاد کروادے۔

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ مُصْعَبٍ، عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجْزِي

3149- أخرجه أيضًا الكبير جلد 8 صفحہ 206 رقم الحديث: 7730، وقال الحافظ الهيثمي في المجموع جلد 10 صفحہ 74 و اسنادهما حسن .

3150- أخرجه مسلم في العتق جلد 2 صفحہ 1148، وأبو داؤد في الأدب جلد 4 صفحہ 337 رقم الحديث: 5137، والترمذی فی البر جلد 4 صفحہ 315 رقم الحديث: 1906، وابن ماجة فی الأدب جلد 2 صفحہ 1207 رقم

الحديث: 3659، وأحمد في المسند جلد 2 صفحہ 586 رقم الحديث: 9758 .

وَلَدٌ وَالِدُهُ، إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَارِجَةَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ،
تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

یہ حدیث خارجہ سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں حضرت لیث اکیلے ہیں۔

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے دونوں موزوں پر مسح کیا۔

3151 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَاشِعِيبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ بِلَالٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَمَسَحَ عَلَيَّ الْخُفَّيْنِ لَمْ يَرَوْا عَنِ ابْنِ الْهَادِ إِلَّا يَحْيَى وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

یہ حدیث ابن ہاد سے صرف یحییٰ اور لیث بن سعد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رشتہ داری رحمن کی بارگاہ میں غمگین ہو کر حاضر ہوئی، اللہ عزوجل نے فرمایا: جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

3152 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَاصِبُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَاصِبُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي مُزَرِّدٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُوْمَانَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الرَّحِمُ شَجْنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلَتْهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَتْهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ الْهَادِ إِلَّا اللَّيْثُ

یہ حدیث ابن ہاد سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

3153 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَاصِبُ اللَّهِ بْنُ

3152 - أخرجه البخاری فی الأدب جلد 10 صفحہ 431 رقم الحدیث: 5989، والبیہقی فی السنن جلد 7 صفحہ 41 رقم

الحدیث: 13214 .

3153 - أخرجه ابن ماجة فی النکاح جلد 1 صفحہ 593 رقم الحدیث: 1847 قال ابن ماجة فی الزوائد: اسنادہ صحیح

ورجالہ ثقات . والبیہقی فی سننہ جلد 7 صفحہ 124 رقم الحدیث: 13453 بلفظ: (لم یرو للمتحابین فی

اللہم مثل التزویج) والحاکم فی المستدرک جلد 2 صفحہ 160 وقال الحاکم: علی شرط مسلم ولم یخرجاه

حضور ﷺ نے فرمایا: شادی کی طرح دو محبت کرنے والے نہیں دیکھے۔

يُوسُفُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَمْ يَرِ لِلْمَتَحَابِّينِ مِثْلُ التَّزْوِيجِ

یہ حدیث طاؤس سے صرف ابراہیم اور ابراہیم سے صرف محمد اور سفیان الثوری روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں امام ثوری سے مؤمل بن اسماعیل منفرد ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ طَاوُسٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ مُؤَمَّلُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

حضرت ربیعہ بن عاز فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ ﷺ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: رسول اللہ ﷺ شعبان کے مکمل یہاں تک کہ رمضان کے روزوں سے ملا دیتے تھے اور پیر اور جمعرات کے روزے کے لیے کوشش کرتے تھے۔

3154 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي ثَوْرٌ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعَةُ بْنُ الْغَزَا، أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ صَوْمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: كَانَ يَصُومُ شَعْبَانَ كُلَّهُ حَتَّى يَصِلَهُ بِرَمَضَانَ، وَكَانَ يَتَحَرَّى صِيَامَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ

یہ حدیث ثور سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَوْرٍ إِلَّا يَحْيَى

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے، جو اللہ سے ملاقات کو

3155 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ، قَالَ نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

وہو حدیث صحیح . والطبرانی فی الکبیر جلد 11 صفحہ 17 رقم الحدیث: 10895 .

3154 - أخرجه ابن ماجة في الصيام جلد 1 صفحہ 528 رقم الحدیث: 1649، وأبو داؤد في الصوم جلد 2 صفحہ 336

رقم الحدیث: 2431 .

3155 - أخرجه أحمد في المسند جلد 3 صفحہ 132 رقم الحدیث: 12053، وانظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى

جلد 4 صفحہ 334 رقم الحدیث: 2 .

ناپسند کرتا ہے اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم میں سے ہر کوئی موت کو ناپسند کرتا ہے آپ نے فرمایا: یہ مراد نہیں ہے اللہ عزوجل کی طرف سے مومن کو جب خوشخبری آتی ہے تو وہ اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کافر کے پاس جب موت آتی ہے تو وہ ناپسند کرتا ہے تو اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے جس طرح وہ اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے آپ نے فرمایا: اونٹ میں سات آدمی قربانی کے لیے شریک ہو سکتے ہیں۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے کہا گیا: گائے میں؟ فرمایا: گائے بھی اونٹ کی مثل ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں اس وقت حاضر تھا، ہم نے ستر اونٹ قربانی کیے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سراقہ بن مالک بن جعشم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں آپ کو جنت والے لوگ نہ بتاؤں اور دوزخ والے؟ میں نے

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ أَحَبَّ اللَّهُ لِقَائَهُ، وَمَنْ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ كَرِهَ اللَّهُ لِقَائَهُ. قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا مِنَّا أَحَدٌ إِلَّا وَهُوَ يَكْرَهُ الْمَوْتَ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَيْسَ ذَاكَ، إِنَّ الْمُؤْمِنَ إِذَا جَاءَ الْبَشِيرُ مِنَ اللَّهِ أَحَبَّ لِقَاءَ اللَّهِ، وَكَانَ اللَّهُ لِلْقَائِهِ أَحَبَّ، وَإِنَّ الْكَافِرَ إِذَا جَاءَهُ مَا يَكْرَهُ كَرِهَ لِقَاءَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِلْقَائِهِ أَكْرَهُ

3156 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، وَأَبِي الزُّبَيْرِ، عَنِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: نَحَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةِ نَفَرٍ فَقِيلَ لِحَابِرٍ: فَالْبَقْرَةُ؟ قَالَ: هِيَ مِثْلُهَا قَالَ: وَشَهِدَ جَابِرُ الْخُدَيْبِيَّةَ قَالَ: وَنَحَرْنَا يَوْمَئِذٍ سَبْعِينَ بَدَنَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَى

3157 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنِ أَبِيهِ، عَنْ سَرَّاقَةَ بِنِ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

3156- أخرجه مسلم في الحج جلد 2 صفحہ 955، وأبو داؤد في الضحايا جلد 3 صفحہ 98 رقم الحديث: 2809

والترمذی فی الحج جلد 3 صفحہ 239 رقم الحديث: 904، وابن ماجه فی الاضاحی جلد 2 صفحہ 1047 رقم

الحديث: 3132، والدارمی فی الاضاحی جلد 2 صفحہ 107 رقم الحديث: 1956، ومالك فی الموطأ جلد 2

صفحہ 486 رقم الحديث: 9 ولم يذكر: (ونحرننا يومئذ سبعين بدنة) اللفظة الأخيرة من الحديث .

3157- أخرجه أيضًا الكبير جلد 7 صفحہ 152 وقال المحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 268: واسناده حسن .

عرض کی: کیوں نہیں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جہنم والے سرکشی اور تکبر کرنے والے ہیں اور جنت والے وہ لوگ ہیں جو کمزور اور مغلوب ہوں۔

یہ حدیث سراقہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں موسیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن نواحہ سے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اگر تو کسی کا نمائندہ نہ ہوتا تو میں ضرور تجھے قتل کرتا، آج تو نمائندہ نہیں ہے کسی کا، اے خرشہ! اٹھو! اس کی گردن اڑادو۔ حضرت خرشہ اٹھے اور اس کی گردن اڑادی۔

یہ حدیث اعمش سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے ابو ذریہ! کون سا پہاڑ ہے؟ میں نے عرض کی: احد! فرمایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! مجھے پسند نہیں ہے کہ میرے پاس سونے کا ٹکڑا ہو اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کروں میں اس سے قیراط لوں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! قطار؟ آپ نے فرمایا: قیراط میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! قطار؟ آپ نے فرمایا: قیراط پھر مجھے تیسری مرتبہ فرمایا:

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَلَا أُخْبِرُكَ بِأَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَهْلِ النَّارِ؟ قُلْتُ: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: أَمَّا أَهْلُ النَّارِ فَكُلُّ جَعَطْرِيَّ جَوَاطِ مُسْتَكْبِرٍ، وَأَمَّا أَهْلُ الْجَنَّةِ فَالضُّعَفَاءُ الْمَغْلُوبُونَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَرَّاقَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى

3158 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَارِثَةَ بْنِ مُضَرِّبٍ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ لَابْنِ النَّوَّاحَةِ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَوْ لَا أَنَّكَ رَسُولٌ لَقَتَلْتُكَ فَأَمَّا الْيَوْمَ فَلَسْتَ بِرَسُولٍ، فَمُ يَا خَرِشَةَ، فَاضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَامَ إِلَيْهِ، فَضْرَبَ عُنُقَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ

3159 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

إِسْكَابِ الصَّفَّارِ الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ، عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَبَا ذَرٍّ، أَيُّ جَبَلٍ هَذَا؟ قُلْتُ: أُحُدٌ قَالَ: وَالَّذِي نَفْسِي بِهِ مَا يَسْرُنِي أَنَّهُ لِي ذَهَبًا قِطْعًا أَنْفَقَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، أَدْعُ مِنْهُ قِيرَاطًا. قُلْتُ: قِنْطَارًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: قِيرَاطًا. قُلْتُ: قِنْطَارًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ:

3158- أخرجه أحمد في المسند جلد 1 صفحہ 500 رقم الحدیث: 3641.

3159- أخرجه أيضًا البزار، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 242: وإسناده البزار صحيح.

قِرَاطٌ ثُمَّ قَالَ لِي فِي الثَّلَاثَةِ: يَا أَبَا ذَرٍّ، إِنَّمَا أَقُولُ
الَّذِي هُوَ أَقْلٌ، وَلَا أَقُولُ الَّذِي هُوَ أَكْثَرُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي مَنْصُورٍ إِلَّا
مُحَمَّدٌ

3160 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي
جَعْفَرٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ سَلْمَانَ الْأَعْرَجِ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ سَرِيَّةً تَخْرُجُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نُخْرَجُ
اللَّيْلَةَ أَمْ نَمُكُّ حَتَّى نُصْبِحَ؟ فَقَالَ: أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ
تَبِيْتُوا فِي خِرَافٍ مِنْ خِرَافِ الْجَنَّةِ؟

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ

3161 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ قَالَ: نَا أَبُو حَنِيفَةَ
النُّعْمَانُ بْنُ ثَابِتٍ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ
الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ: إِنَّهُ
لَيَهْوُونَ عَلَيَّ الْمَوْتَ أَنِّي أُرِيْتُكَ زَوْجَتِي فِي الْجَنَّةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا أَبُو حَنِيفَةَ

وَمُسَعَّرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ

3162 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

میں کم کہتا ہوں، میں زیادہ نہیں کہتا ہوں۔

یہ حدیث ابو منصور سے صرف محمد ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے ایک سریہ میں نکلنے کا حکم دیا، صحابہ کرام نے
عرض کی: یا رسول اللہ! ہم رات کو نکلیں یا ہم رکیں یہاں
تک کہ صبح ہو جائے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم پسند نہیں
کرتے کہ تم جنت کے باغوں میں سے کسی باغ میں رات
گزارو۔

یہ حدیث صفوان سے ابن لہیعہ ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ

نے فرمایا: اس بیماری میں جس میں آپ کا وصال ہوا مجھ
پر میرا وصال آسان ہو گیا کیونکہ جنت میں تجھے میں نے
اپنی بیوی دیکھا ہے۔

یہ حدیث حماد سے ابو حنیفہ اور مسعر روایت کرتے

ہیں اس کو روایت کرنے میں ابو معاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور

3160 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 23 صفحہ 39 رقم الحديث: 98 .

3161 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 23 صفحہ 39 رقم الحديث: 98 .

3162 - تقدم تخريجه .

ﷺ نے فرمایا: جس نے ظہر کی نماز سے پہلے چار رکعت اور چار اس کے بعد ادا کیں، اللہ عزوجل اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔

يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ، وَيَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، قَالَ: أَنَا النُّعْمَانُ بْنُ الْمُنْدَرِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ ابْنِ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ أُمِّ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ حَافَظَ عَلَيَّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ صَلَاةِ الْهَجِيرِ، وَأَرْبَعَ بَعْدَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيَّ جَهَنَّمَ

یہ حدیث نعمان سے صرف ہشیم اور یحییٰ بن مرہ روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا الْهَيْثَمُ وَيَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب اذان سنتے تھے تو وہی الفاظ دہراتے تھے جو مؤذن کہتا تھا۔

3163 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شَعِيبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ الْقُرْظِيِّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ

یہ حدیث محمد بن علی سے صرف ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ

حضرت فضالہ بن عبیدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ تم قبروں کو برابر بناؤ۔

3164 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شَعِيبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ، عَنْ فَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَوُّوا قُبُورَكُمْ

حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3165 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شَعِيبُ بْنُ

3164- أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 25 رقم الحديث: 24014، والطبرانی في الكبير جلد 18 صفحہ 313 رقم

الحديث: 810 .

3165- أخرجه ابن ماجة في الجهاد جلد 2 صفحہ 940 رقم الحديث: 2812، وأبو داؤد في العتق جلد 4 صفحہ 29 رقم

الحديث: 3966، والترمذی في فضائل الجهاد جلد 4 صفحہ 172 رقم الحديث: 1635، والنسائی في الجهاد

جلد 6 صفحہ 23 باب (نواب من رمى سهم في سبيل الله عزوجل)؛ والطبرانی في الكبير جلد 8 صفحہ 122

میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو اللہ کی راہ میں بوڑھا ہو اور وہ بڑھا پا اس کے لیے قیامت کے دن نور ہوگا، جس نے دشمن کو تیر مارا، وہ لگایا نہ لگا، اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، جس نے ایک غلام آزاد کیا، اس کے بدلے اللہ عزوجل قیامت کے دن جہنم سے اس کے عضو کے بدلے اس کا عضو آزاد کرے گا۔

یہ حدیث سلیمان سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کو ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔

یہ حدیث خالد سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

يَحْيَى قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ شُرْحَيْلِ بْنِ السَّمْطِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبْسَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ شَابَ شَيْبَةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ لَهُ نُورٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ رَمَى الْعُدُوَّ بِسَهْمٍ، أَخْطَا أَوْ أَصَابَ، كَانَ كَعَدْلِ رَقَبَةٍ، وَمَنْ أَعْتَقَ رَقَبَةً مُسْلِمَةً فَهِيَ فِكَاهُهُ مِنَ النَّارِ، كُلُّ عَضْوٍ بِعَضْوٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ

3166 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: اَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيمٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ حَسَنَةٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ

3167 - وَبِهِ عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنْ

رقم الحديث: 7556 وذكر لفظ الشيب فقط. وقال الحافظ المنذرى: أفرد الترمذى منه ذكر الشيب وأبو داؤد ذكر العتق، وابن ماجة ذكر الرمي. انظر الترغيب والترهيب للحافظ المنذرى جلد 2 صفحہ 280 رقم الحديث: 11.

3166- أخرجه أيضاً الكبير جلد 8 صفحہ 239، وأحمد جلد 5 صفحہ 265 من طريق عبيد الله بن زحر، عن علي بن زيد، عن القاسم به أمم منه وأطول، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 163: وفيه علي بن يزيد الألهاني وهو ضعيف، ولم يتعرض لاسناد الأوسط، ولا للفظه.

3167- أخرجه أحمد في المسند جلد 3 صفحہ 18 رقم الحديث: 11108.

حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا: اے ابوسعید! میں نے عرض کی: لیک! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: جس میں تین باتیں ہوں اس کے لیے جنت واجب ہوگی میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: جو اللہ کے رب ہونے اور محمد ﷺ کے نبی ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا اور اے ابوسعید! چوتھی بھی ہے جو ان سے افضل ہے اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ ہے اس سے افضل ہے سو رہے وہ جہاد ہے۔

یہ حدیث ابو عبد الرحمن سے صرف خالد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ ریشم اور سونانہ پہنے۔

یہ حدیث سلیمان سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نعیم بن ہار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے رسول اللہ ﷺ کو آواز دی اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! شہداء کون ہیں؟ فرمایا: وہ ہر اول صف میں لڑتے ہیں وہ اپنے چہروں کو نہیں پھیرتے ہیں یہاں تک

أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيِّ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ، حَدَّثَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ، فَقَالَ: يَا أَبَا سَعِيدٍ، فَقُلْتُ: لَبَّيْكَ رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: ثَلَاثٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَقُلْتُ: وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا، وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا قَالَ: وَالرَّابِعَةُ يَا أَبَا سَعِيدٍ، لَهَا مِنَ الْفَضْلِ أَفْضَلُ مِمَّا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ مِائَةَ دَرَجَةٍ، وَهِيَ الْجِهَادُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا خَالِدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3168 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَلْبَسُ حَرِيرًا، وَلَا ذَهَبًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ

3169 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

يَحْيَى قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَلِيِّ أَبِي دِينَارٍ الْهَدَلِيِّ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ هَمَّارٍ، أَنَّ رَجُلًا نَادَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَنْ

3169 - أخرجه أيضًا أحمد جلد 5 صفحہ 287، والبخاری في تاريخه الكبير، وذكره الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5

صفحہ 295 وعزاه الى الكبير، وأبي يعلى أيضًا وقال: ورجال أحمد وأبي يعلى ثقات .

کہ قتل ہو جاتے ہیں ایسے جنت کے اعلیٰ کمروں میں ہوں گے اللہ عزوجل ان کو دیکھ کر مسکرائے گا جب اللہ عزوجل کسی بندہ کو دیکھ کر مسکرائے گا تو اس سے حساب سے نہیں لے گا۔

الشَّهَدَاءُ؟ فَقَالَ: الشَّهَدَاءُ الَّذِينَ يَقَاتِلُونَ فِي الصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَلَا يَلْتَفِتُونَ بِوُجُوهِهِمْ حَتَّى يَقْتُلُوا، فَأُولَئِكَ يَلْتَفِتُونَ فِي الْغُرَفِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ، يَضْحَكُ إِلَيْهِمْ رَبُّكَ، إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ضَحِكَ إِلَى عَبْدِهِ الْمُؤْمِنِ فَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ

یہ حدیث علی بن دینار سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ أَبِي دِينَارٍ إِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! مسلمانوں میں بہتر کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔

3170 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْمُسْلِمِينَ خَيْرٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: مَنْ سَلِمَ النَّاسُ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اللہ عزوجل کی تسبیح اور حمد اور تکبیر بیان کرتا ہے اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگاتا ہے اس کی جڑ سونے کی اس کے اوپر والا حصہ جواہرات اس کی ٹہنیاں موتی اور یاقوت کی اور اس کا پھل کنواری لڑکی کے پستان کی طرح، لکھن سے زیادہ نرم شہد سے زیادہ میٹھا ہوتا ہے جب اس سے کھلایا جائے گا تو دوبارہ اس جگہ اُگے گا پھر حضور ﷺ نے یہ آیت تلاوت کی: "لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ"

3171 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَبِي كَرِيْمَةَ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا مِنْ عَبْدٍ يُسَبِّحُ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ تَسْبِيْحَةً، أَوْ يَحْمَدُهُ تَحْمِيْدَةً، أَوْ يُكَبِّرُهُ تَكْبِيْرَةً إِلَّا غَرَسَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا بِهَا شَجْرَةً فِي الْجَنَّةِ، أَصْلُهَا مِنْ ذَهَبٍ، وَأَعْلَاهَا مِنْ جَوْهَرٍ، مُكَلَّلَةٌ بِاللُّدْرِ وَالْيَاقُوتِ، ثُمَّ رَهَا كَنْدِي الْأَبْكَارِ، أَلَيْنُ مِنَ الرَّبِّدِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، كُلَّمَا جَنَى مِنْهَا شَيْئًا عَادَ مَكَانَهُ ثُمَّ تَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

3170 - أخرجه البخاری فی الأیمان جلد 1 صفحہ 69 رقم الحدیث: 10 بلفظ: (المسلم من سلم المسلمون من لسانه

وبده..... الخ) وأبو داؤد فی الجهاد جلد 3 صفحہ 4 رقم الحدیث: 2481 بنحوه، وأحمد فی المسند جلد 2

صفحہ 221 رقم الحدیث: 6522 بنحوه .

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذِهِ آيَةٌ: (لَا مَقْطُوعَةَ وَلَا مَمْنُوعَةَ) (الواقعة: 33)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف سلیمان ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

3172 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْخُرَّاسَانِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ قَالَ: نَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَمَّا طُعِنَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَأَمَرَ بِالشُّورَى، دَخَلَتْ عَلَيْهِ حَفْصَةُ ابْنَتُهُ، فَقَالَتْ: يَا أَبَتِ، إِنَّ النَّاسَ يَقُولُونَ: إِنَّ هَؤُلَاءِ الْقَوْمَ الَّذِينَ جَعَلْتَهُمْ فِي الشُّورَى لَيْسَ هُمْ بِرَضَى؟ فَقَالَ:

أَسْنِدُونِي، فَاسْنَدُوهُ، وَهُوَ لَمَّا بِهِ، فَقَالَ: مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عُثْمَانَ؟ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَوْمَ يَمُوتُ عُثْمَانُ تُصَلِّيَ عَلَيْهِ مَلَائِكَةُ السَّمَاءِ قُلْتُ: لِعُثْمَانَ خَاصَّةٌ أَمْ لِلنَّاسِ عَامَّةٌ؟ قَالَ: بَلْ لِعُثْمَانَ خَاصَّةٌ قَالَ: وَمَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ؟ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ جَاعَ جُوعًا شَدِيدًا، فَجَاءَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ رَغِيْفَيْنِ بَيْنَهُمَا إِهَالَةٌ، فَوَضَعَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: كَفَاكَ اللَّهُ أَمْرَ دُنْيَاكَ، أَمَا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي طَلْحَةَ؟ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت سالم اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا گیا تو آپ نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حکم دیا کہ صحابہ کرام کی مجلس سے مشورہ کریں، حضرت حفصہ نے عرض کی: اے ابوجان! لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ تم نے شوروی کے بنائے ہیں، ہم ان سے راضی نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا: مجھے ٹیک لگاؤ! آپ کو ٹیک لگائی گئی تو آپ نے فرمایا: وہ حضرت عثمان کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس دن حضرت عثمان دنیا سے جائے گا اس پر آسمانی فرشتے آپ کے لیے رحمت کی دعا کریں گے۔ میں نے عرض کی: یہ عثمان کے لیے خاص ہے یا عام لوگوں بھی شامل ہیں؟ آپ نے فرمایا: عثمان کے لیے خاص ہے۔ آپ نے فرمایا: عبدالرحمن کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو بھوک کی حالت میں دیکھا، حضرت عبدالرحمن برتن میں دو روٹیاں لے کر آئے اور رسول اللہ ﷺ کے آگے رکھ دیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ آپ کے لیے دنیاوی کام میں کافی ہے، میں آخرت میں آپ کا ضامن ہوں۔ تم طلحہ کے متعلق کیا

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَقَطَ رَحْلُهُ فِي لَيْلَةِ قَرَّةٍ، فَقَالَ: مَنْ
يُسَوِّي رَحْلِي وَلَهُ الْجَنَّةُ؟ فَاثْبَدَرَ طَلْحَةَ الرَّحْلُ،
فَسَوَّاهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَكَ
الْجَنَّةُ عَلَيَّ يَا طَلْحَةُ عَدَا مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي
الزُّبَيْرِ؟ رَأَيْتَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نَامَ،
فَلَمْ يَزَلْ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدُبُّ عَنْ
وَجْهِهِ حَتَّى اسْتَيْقَظَ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: لَمْ تَزَلْ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَمْ أَزَلْ، فِدَاكَ
أَبِي وَأُمِّي قَالَ: هَذَا جَبْرِيلُ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ،
وَيَقُولُ لَكَ: عَلَيَّ أَنْ أَذْبَ عَن وَجْهِكَ شَرَّ رَجَاهِمَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا عَسَى أَنْ يَقُولُوا فِي عَلِيٍّ؟ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا عَلِيُّ،
يَدُكَ مَعَ يَدِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تَدْخُلُ مَعِيَ حَيْثُ أَدْخُلُ

کہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا ہے کہ آپ کی
سواری کا کجاوہ گرا اندھیرے میں آپ نے فرمایا: جو میرا
کجاوہ سیدھی کرے گا اس کے لیے جنت ہے؟ حضرت
طلحہ نے جلدی سے آپ کا کجاوہ سیدھا کی تو حضور ﷺ
نے فرمایا: اے طلحہ! تیرے لیے جنت ہے۔ تم زبیر کے
متعلق کیا کہتے ہو؟ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ
آپ سو رہے تھے آپ کے چہرہ مبارک پر سے مسلسل
چمچر کھیاں ہٹاتے رہے یہاں تک کہ آپ اٹھے حضور
ﷺ نے فرمایا: اے ابو عبد اللہ! آپ لگے ہوئے ہیں؟
عرض کی: میں مسلسل لگا رہا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر
قربان ہوں! آپ نے فرمایا: یہ جبریل علیہ السلام آپ کو
سلام کہہ رہے ہیں عرض کر رہے ہیں کہ اس نے آپ کو
ہوادی ہے، اللہ عزوجل قیامت کے دن اس کے چہرے کو
جہنم سے دور کر دے گا۔ تم علی کے متعلق کیا کہہ رہے ہو؟
میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے علی!
قیامت کے دن آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ کے ساتھ ہوگا، تو
میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، جب میں داخل ہوں
گا۔

یہ حدیث زہری سے صرف معمر اور معمر سے صرف
ابن مبارک ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے
والے عبد اللہ بن یحییٰ اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا، عرض کی: یا رسول
اللہ! میں ایسا آدمی ہوں جو تیز زبان ہوں اور اس سے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مَعْمَرٌ،
وَلَا عَنِ مَعْمَرٍ إِلَّا ابْنُ مَبَارَكٍ. تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
يَحْيَى

3173 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: نَا كَثِيرُ بْنُ سُلَيْمٍ الْيَشْكُرِيُّ، عَنْ أَنَسِ
بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

زیادہ اپنی اہلیہ پر حضور ﷺ نے فرمایا: استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ میں دن رات میں سو مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں۔

وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي رَجُلٌ ذَرَبُ
اللِّسَانِ، وَآكَثَرُ ذَلِكَ عَلَى أَهْلِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آيَنَ أَنْتَ مِنَ الْإِسْتِغْفَارِ؟ إِنِّي
أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ مِائَةَ مَرَّةٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس گھر میں کھانا کھایا جائے اس گھر میں بھلائی اونٹ کی کوہان پر تیز چھری چلانے سے زیادہ جلدی آتی ہے۔

3174- وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْخَيْرُ أَسْرَعُ إِلَى الْبَيْتِ الَّذِي يُعْشَى
مِنَ الشَّفْرَةِ فِي سَنَامِ الْبَعِيرِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے آگے سے آپ کی ناپسند شے اٹھائی جاتی تو ساتھ وہ ردی شے بھی اٹھائی جاتی تھی۔

3175- وَبِهِ قَالَ: مَا رُفِعَ مِنْ بَيْنِ يَدَيَّ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شِوَاءَ قَطُّ إِلَّا
حُمِلَتْ مَعَهُ طَيْفَسَةٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں معراج کی رات میں فرشتوں کے جس گروہ کے پاس سے گزرا ہوں، انہوں نے عرض کی: آپ اپنی اُمت کو کچھنا لگوانے کا حکم دیں۔

3176- وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْلَةُ أُسْرِي بِي مَا مَرَرْتُ عَلَى مَلَإٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ إِلَّا قَالُوا: مَرُّ أُمَّتِكَ بِالْحِجَامَةِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3177- وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

3174- أخرجه ابن ماجة في الأطلعة جلد 2 صفحہ 1114 رقم الحديث: 3356 قال ابن ماجة في الزوائد: (في أسناده جبارة وكثير؛ هما ضعيفان).

3175- أخرجه ابن ماجة في الأطلعة جلد 2 صفحہ 1100 رقم الحديث: 3310. (وقال ابن ماجة في الزوائد: في أسناده جبارة وكثير بن سلم؛ هما ضعيفان).

3176- أخرجه ابن ماجة في الطب جلد 2 صفحہ 1151 رقم الحديث: 3479 وقال ابن ماجة في الزوائد: قلت وان ضعف جبارة وكثير في أسناده حديث أنس؛ فقد رواه في حديث ابن مسعود الترمذی في الجامع والشمائل؛ وقال: حسن غريب. ورواه الحاكم في المستدرک من حديث ابن عباس؛ وقال: صحيح الإسناد. ورواه البيهقي في مسنده من حديث ابن عمر.

3177- أخرجه الترمذی في الزهد جلد 4 صفحہ 602 رقم الحديث: 2400 قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وأبو طلال اسمه هلال.

حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل بندہ کی دو پسندیدہ چیزیں لیتا ہے ان کے ثواب کے بدلے اس کے لیے جنت ہوتی ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب نماز پڑھ لیتے تو اپنے دائیں ہاتھ کو سر پر ملتے اور پڑھتے: اللہ کے نام سے جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اے اللہ! مجھ سے غم اور پریشانی دور کر دے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک دن بیٹھنے والوں کو فرمایا: تم ڈھال لو! انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے ماں باپ آپ پر خدا ہوں! کیا دشمن سامنے ہے؟ آپ نے فرمایا: جہنم سے بچنے کے لیے ڈھال لے لو پڑھو! سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ یہ آگے کام آئیں گے یہ ہمیشہ رہنے والے اعمال ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ! خوابوں نے مجھے بیمار کر دیا ہے آپ ﷺ نے فرمایا: اچھے خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور بُرے خواب شیطان کی طرف سے جب تم میں سے کوئی بُرا خواب دیکھے تو بائیں جانب تین مرتبہ تھوکے اور اس کے شر سے پناہ مانگے وہ نقصان نہیں دے گا۔

حضرت ابراہیم بن ابی عبہ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا

وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا أَخَذَ الْجَبَّارُ عَزًّا وَجَلَّ كَرِيمَتِي عَبْدِي كَانَ ثَوَابُهُ عَلَيْهِمَا الْجَنَّةَ

3178 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا صَلَّى وَفَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ مَسَحَ بِيَمِينِهِ عَلَى رَأْسِهِ، وَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، اللَّهُمَّ أَذْهِبْ عَنِّي الْهَمَّ وَالْحَزْنَ

3179 - وَبِهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ذَاتَ يَوْمٍ لِمَجْلِسَاتِهِ: خُذُوا جُنْتَكُمْ قَالُوا: يَا بَيْنَا أَنْتَ وَأَمْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَحْضَرَ عَدُوًّا قَالَ: خُذُوا جُنْتَكُمْ مِنَ النَّارِ، قُولُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَاتَّهَنَّ مُقَدِّمَاتٍ، وَهُنَّ مُجَبَّاتٌ، وَهُنَّ مُعَقِّبَاتٌ، وَهُنَّ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ

3180 - وَبِهِ أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَرَى الرُّؤْيَا تُمَرِّضُنِي، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرُّؤْيَا الْحَسَنَةُ مِنَ اللَّهِ، وَالسَّيِّئَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، فَإِذَا رَأَى ذَلِكَ أَحَدُكُمْ فَلْيَنْفُثْ عَن يَسَارِهِ ثَلَاثًا، وَلْيَتَعَوَّذْ مِنْ شَرِّهَا، فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّهُ

3181 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

ہوا تھا کہ میرے پاس واثلہ بن اسحق، حضرت عبد اللہ بن الدیلیس پر ٹیک لگائے ہوئے گزرے آپ کو بٹھایا، پھر میرے پاس آئے اور کہا: تعجب ہے جو میرے شیخ نے یعنی واثلہ نے بیان کیا ہے میں نے کہا: آپ کو کیا بیان کیا ہے؟ فرمایا: ہم غزوہ تبوک میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے، نبی سلیم سے ایک گروہ آیا، انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے صاحب کے لیے واجب ہوگئی، حضور ﷺ نے فرمایا: تم غلام آزاد کرو! اللہ عزوجل اس کے ہر عضو کے بدلے اس کا عضو جنم سے آزاد کرے گا۔

حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہما فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کو اس کی قبر کے اندر بٹھایا جاتا ہے اس سے گواہی لی جاتی ہے اس کو کہا جاتا ہے: محمد کون ہیں؟ اگر وہ مؤمن ہوگا تو کہے گا: وہ اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اس کو کہا جائے گا: سو جا! اللہ کرے تیری آنکھیں سو جائیں، اگر مؤمن نہیں ہوگا تو کہے گا: اللہ کی قسم! میں نہیں جانتا ہوں، میں نے جو لوگوں کو کہتے ہوئے سنا میں کہتا ہوں وہ لوگ خود بھی دھوکہ میں رہے اور میں بھی دھوکہ میں رہا، اس سے کہا جائے گا: اللہ کرے تیری آنکھیں نہ سوئیں۔

یہ حدیث حضرت ابواسود سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما، حضور ﷺ

يُوسُفَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَالِمِ الْحِمَصِيِّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ قَالَ: كُنْتُ جَالِسًا بَارِيحًا، فَمَرَّ بِي وَائِلَةُ بْنُ الْأَسْقَعِ مُتَوَكِّنًا عَلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الدِّيَلَمِيِّ، فَاجْلَسَهُ، ثُمَّ جَاءَ إِلَيَّ، فَقَالَ: عَجَبًا مَا حَدَّثَنِي الشَّيْخُ، يَعْنِي: وَائِلَةَ، قُلْتُ: مَا حَدَّثَكَ؟ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَاتَاهُ نَفْرٌ مِنْ بَنِي سُلَيْمٍ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ صَاحِبَنَا قَدْ أَوْجَبَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْتَقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقُ اللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ

3182 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا أَبُو الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يَقْعُدُ فِي قَبْرِهِ حِينَ يَنْكَفُ عَنْهُ مَنْ يَشْهَدُهُ، فَيَقَالُ: مَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: مُحَمَّدٌ مَا هُوَ؟ فَإِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ: هُوَ عَبْدُ اللَّهِ وَرَسُولُ اللَّهِ، فَيَقَالُ لَهُ: نَمَّ، نَامَتْ عَيْنَاكَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَ مُؤْمِنٍ قَالَ: وَاللَّهِ مَا أَدْرِي، سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ فَقُلْتُ، وَيَخُوضُونَ فَخُضْتُ، فَيَقَالُ: لَا نَامَتْ عَيْنَاكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ

لَهَيْعَةَ

3183 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ

رقم الحديث: 16018 نحوه .

3183 - أخرجه مسلم في الحج جلد 2 صفحہ 893، وأبو داؤد في المناسك جلد 2 صفحہ 193 رقم الحديث: 1907 .

سے روایت کرتے ہیں کہ اچانک حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے پاس لوگ آئے ان میں سے بعض کہنے لگے: میں نے قربانی کرنے سے پہلے حلق کر لیا ہے؟ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں! ایک نے عرض کی: میں نے کنکری مارنے سے پہلے قربانی کی ہے؟ آپ نے فرمایا: کوئی حرج نہیں، آپ نے فرمایا: سارا عرفات اور مزدلفہ ٹھہرنے کی جگہ ہے اور مکہ شریف کی ہر گلی میں قربانی ہو سکتی ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ہم کو تین اوقات میں نماز پڑھنے یا مردے دفن کرنے سے منع کیا، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے یا غروب ہو جائے یا ڈھل جائے دوپہر کے وقت سے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عرفہ قربانی، تشریق کے دن

يَحْيَى قَالَ: اَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ اَسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ اَبِي رَبَاحٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ، عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اِذْ اَتَاهُ اَنَاسٌ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَلَقْتُ قَبْلَ اَنْ اَنْحَرَ قَالَ: لَا حَرَجَ وَقَالَ: نَحَرْتُ قَبْلَ اَنْ اَرْمِي، فَقَالَ: لَا حَرَجَ قَالَ: وَكُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ مُزْدَلِفَةَ مَوْقِفٌ، وَكُلُّ فِجَاجٍ مَكَّةَ طَرِيقٌ وَمَنْحَرٌ

3184 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نا عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رِبَاحٍ اللَّخْمِيُّ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ: ثَلَاثُ سَاعَاتٍ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُصَلِّيَ فِيهِنَّ، اَوْ نَذْفَنَ فِيهِنَّ مَوْتَانَا: حِيْنَ تَطْلُعُ الشَّمْسُ بِازِغَةٍ حَتَّى تَرْتَفِعَ، وَحِيْنَ يَقُوْمُ قَائِمٌ الظَّهِيْرَةَ حَتَّى تَمِيْلَ، وَحِيْنَ تَضِيْفُ الشَّمْسُ لِلْغُرُوْبِ حَتَّى تَغْرُبَ

3185 - وَبِهِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَاَيَّامُ التَّشْرِيقِ

وابن مساجة في المناسك جلد 2 صفحہ 1013 رقم الحديث: 3048، والدارمی فی المناسک جلد 2 صفحہ 8079 رقم الحديث: 1879 .

3184 - أخرجه الترمذی: الجنائز جلد 3 صفحہ 339 رقم الحديث: 1030 وقال: حديث حسن صحيح . والنسائی:

الجنائز جلد 4 صفحہ 67 (باب الساعات التي نهى عن اقبال الموتى فيهن) وابن مساجة: الجنائز جلد 1 صفحہ 486 رقم الحديث: 1519، وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 187 رقم الحديث: 17387 .

3185 - أخرجه أبو داؤد في الصوم جلد 2 صفحہ 332 رقم الحديث: 2419، والترمذی في الصوم جلد 3 صفحہ 134 رقم

الحديث: 773، والنسائی في المناسك جلد 5 صفحہ 203 باب (النهي عن صوم يوم عرفة) الدارمی في الصيام جلد 2 صفحہ 37 رقم الحديث: 1764 .

عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرْبٍ

ہم اہل اسلام کے عید کے دن ہیں اور یہ دن کھانے پینے کے ہیں۔

فائدہ: معلوم ہوا کہ جس دن ایمان والوں کو خوشی ملے وہ عید کا دن ہے اور جن کے صدقہ سے یہ عیدیں ملی ہیں، جس دن اس دنیا میں تشریف لائے ان کی آمد ہوئی، کیا وہ عید کا دن نہیں ہے! بلکہ وہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ اللہ ہمیں حضور ﷺ کی محبت عطا کرے! آمین۔ حرمة سید العالمین! دشگیر غفرلہ

3186 - وَبِهِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِي الصَّفَةِ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ يُحِبُّ أَنْ يَغْدُوَ فِي كُلِّ يَوْمٍ إِلَى بَطْحَانَ أَوْ الْعَقِيقِ، وَيَأْخُذَ نَاقَتَيْنِ كَوْمَاوَيْنِ زَهْرَاوَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِثْمٍ وَلَا قَطِيعَةٍ رَحِمٍ؟ قَالُوا: كُنَّا يَا رَسُولَ اللَّهِ يُحِبُّ ذَلِكَ قَالَ: فَلَا نَغْدُو أَحَدُكُمْ كُلَّ يَوْمٍ إِلَى الْمَسْجِدِ فَيَتَعَلَّمُ آيَتَيْنِ مِنْ كِتَابِ اللَّهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ نَاقَتَيْنِ، وَمِنْ ثَلَاثٍ، وَمِنْ أَعْدَادِهِنَّ مِنَ الْإِبِلِ

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نکلے ہم صفہ میں تھے آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ ہر دن مقام بطحان یا عقیق کے مقام پر آئے وہاں سے دو اونٹیاں نکیل ڈالی ہوئی خوبصورت لے آئے بغیر گناہ اور صلہ رحمی ختم کیے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: ہم سب اس کو پسند کرتے ہیں آپ نے فرمایا: تم میں سے کوئی ہر روز مسجد میں آئے اللہ کی کتاب کی دو آیتیں سیکھ لے اس کے لیے بہتر ہے دو اونٹیوں سے اور تین سے اور اونٹوں کی اتنی تعداد سے بہتر ہے۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کتاب کو سیکھو اس کا دور کرو! خوبصورت آواز میں پڑھو! اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! یہ سینوں سے اتنی ہی جلدی نکلتا ہے جتنا اونٹ ڈھنگا چھوڑ کر بھاگتا ہے۔

3187 - وَبِهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَلَّمُوا كِتَابَ اللَّهِ، وَتَعَاهَدُوهُ، وَاقْتَنُوهُ، وَتَغْنُوا بِهِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَهُوَ أَشَدُّ تَفَلُّتًا مِنْ صُدُورِ الرِّجَالِ مِنَ الْمَخَاضِ فِي الْعَقْلِ

3186- أخرجه مسلم في المسافرین جلد 1 صفحہ 552، وأبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحہ 72 رقم الحديث: 1456

وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 191 رقم الحديث: 17418 .

3187- أخرجه أحمد: المسند جلد 4 صفحہ 180 رقم الحديث: 17325، والطبرانی في الكبير جلد 17 رقم الحديث:

291-290 رقم الحديث: 801-800 وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 172: ورجال أحمد

رجال الصحيح .

3188 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَدْرُونَ مِنَ الْمُسْلِمِ؟ قَالُوا: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ يَدِهِ وَلِسَانِهِ . قَالُوا: فَمَنِ الْمُؤْمِنُ؟ قَالَ: مَنْ أَمِنَهُ الْمُؤْمِنُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ قَالُوا: فَمَنِ الْمُهَاجِرُ؟ قَالَ: مَنْ هَجَرَ السُّوءَ فَاجْتَنَبَهُ

حضرت عبداللہ بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ مسلمان کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے! صحابہ کرام نے عرض کی: مؤمن کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس سے اُن کی جانیں اور اموال محفوظ رہیں، صحابہ کرام نے عرض کی: مہاجر کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جو برائی چھوڑ دے اس سے پرہیز کرے۔

3189 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:

حَدَّثَنِي مُوسَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: خُذْ سَيْفَكَ وَسِلَاحَكَ فَآخِذْ سَيْفِي وَسِلَاحِي، ثُمَّ أَقْبَلْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَجَدْتُهُ يَتَوَضَّأُ، فَصَعَّدَ فِي النَّظَرِ، ثُمَّ طَاطَأَهُ، ثُمَّ قَالَ: يَا عَمْرُو، إِنِّي إِنْ أَبَعْتُكَ عَلَى جَيْشٍ، يُغْنِمُكَ اللَّهُ وَيُسَلِّمُكَ، وَأَزْعَبُ لَكَ فِي الْمَالِ، رَغْبَةً صَالِحَةً . فَقَالَ: وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا أَسْلَمْتُ لِمَالٍ، وَلَكِنِّي أَسْلَمْتُ رَغْبَةً فِي الْإِسْلَامِ، وَلِأَنَّ أَكُونَ مَعَكَ، فَقَالَ: يَا عَمْرُو، نِعْمًا بِالْمَالِ الصَّالِحِ لِلرَّجُلِ الصَّالِحِ

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ ﷺ کی پارگاہ میں گیا، آپ نے فرمایا: تلوار اور اسلحہ پکڑو! میں نے اسلحہ اور تلوار پکڑی، پھر میں رسول اللہ ﷺ کی طرف متوجہ ہوا، میں نے آپ کو وضو کرتے ہوئے پایا، آپ نے نظر اوپر اٹھائی، پھر نیچے کی پھر فرمایا: اے عمرو! میں چاہتا ہوں کہ آپ کو ایک لشکر کی طرف بھیجوں، اللہ آپ کو غنیمت دے اور تجھے سلامت رکھے اور میں تیرے لیے اچھے مال کو پسند کرتا ہوں۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں مال حاصل کرنے کے لیے اسلام نہیں لایا ہوں، اسلام کی محبت کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا: اے عمرو! اچھا مال اچھے آدمی کیلئے بہتر ہوتا ہے۔

3188 - أخرجه أحمد: المسند جلد2 صفحہ 277 رقم الحديث: 6939 .

3189 - أخرجه أحمد في المسند جلد4 صفحہ 242 رقم الحديث: 17779 وانظر كشف الخفا للحافظ العجلوني

جلد2 صفحہ 424 رقم الحديث: 2823 .

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب مجتہد فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ کرنے کے لیے کوشش کرتا ہے پھر وہ درست فیصلہ کرتا ہے تو اس کے دو گنا ثواب ہے جب وہ فیصلہ کرنے کوشش کرے پھر غلطی کرے تو اس کے لیے ایک اجر ہے جب یہ بات ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم کو بتائی تو فرمایا: مجھے ابوسلمہ نے حضرت ابو ہریرہ کے حوالہ سے ایسے ہی بتایا ہے۔

یہ حدیث عمرو بن عاص سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے یزید بن الہاد اکیلے ہیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ قربانی کی تو چھ ماہ کے دنبہ کے بچے کی قربانی کی۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان کے چھ روزے اور شوال کے چھ روزے رکھے اس کے لیے ایک سال

3190 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الْهَادِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ. فَحَدَّثْتُ بِهِ أَبَا بَكْرٍ بَنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، فَقَالَ: هَكَذَا حَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَزِيدُ بْنُ الْهَادِ

3191 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، أَنَّ مَعَادَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيَّ، حَدَّثَهُ، أَنَّ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ قَالَ: ضَحَيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَذَاعِ الضَّانِ

3192 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَمْرٍو بْنِ جَابِرٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّهُ سَمِعَهُ

3190 - أخرجه البخاری فی الاعتصام جلد 13 صفحہ 330 رقم الحدیث: 7352، ومسلم فی الأفضیة جلد 3

صفحہ 1342 .

3191 - وأخرجه النسائی فی الضحایا جلد 7 صفحہ 193 باب (المسنة والجذعة) .

3192 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 3 صفحہ 308، والبخاری وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 3 صفحہ 186: وفيه عمرو

بن جابر وهو ضعيف .

کے برابر روزوں کا ثواب ملے گا۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے طاعون کا ذکر کیا، فرمایا: جب یہ کسی شہر میں آئے تو اس سے بھاگنے والا ایسے ہے جیسے جنگ سے بھاگنے والا ہے، اس کے آنے پر صبر کرنے والے کے لیے شہید کا ثواب ہے۔

حضرت یحییٰ بن میمون فرماتے ہیں کہ میرے پاس سے حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ گزرے اس حال میں کہ میں مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، آپ نے فرمایا: کیا آپ کو حدیث نہ سناؤں جو میں نے آپ ﷺ سے سنی ہے؟ میں نے کہا: کیوں نہیں! فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے مسجد میں نماز کا انتظار کیا وہ نماز ہی میں ہوتا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عورت اور اس کی پھوپھی اور خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے۔

يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَسِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ فَكَأَنَّمَا صَامَ سَنَةً 3193 - وَبِهِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يُحَدِّثُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ الطَّاعُونَ، فَقَالَ: الْفَارُّ مِنْهُ كَالْفَارِّ مِنَ الزَّحْفِ، وَالصَّابِرُ فِيهِ لَهُ أَجْرُ شَهِيدٍ

3194 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عِيَّاشِ بْنِ عُقْبَةَ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: مَرَّ بِي سَهْلُ بْنُ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ، وَأَنَا جَالِسٌ فِي الْمَسْجِدِ، فَقَالَ: أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قُلْتُ: بَلَى قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ فَهُوَ فِي صَلَاةٍ

3195 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَئِهَا

3194 - وأخرجه النسائي في المساجد جلد 2 صفحہ 43 باب (صلاة الذي يمر على المسجد) وأحمد في المسند جلد 5

صفحہ 389 رقم الحديث: 22878، وابن حبان في الموارد (120/ رقم الحديث: 424) والطبرانی في الكبير

جلد 6 صفحہ 20 رقم الحديث: 6011 .

3195 - أخرجه البخاري في النكاح جلد 9 صفحہ 64 رقم الحديث: 5110، ومسلم في النكاح جلد 2 صفحہ 1029

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دعا عبادت کا مغز ہے۔

یہ حدیث ابان سے صرف عبد اللہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے نماز میں لمبا قیام کیا حالانکہ رسول اللہ ﷺ نماز میں مختصر قیام کرتے تھے، میں نے اس کا قیام میں فرماتے ہوئے سنا: اے رب! میں ان میں موجود ہوں! پھر آپ نے اپنا ہاتھ بلند کسی شی کو پکڑنے کے لیے پھر رسول اللہ ﷺ نے رکوع کیا، پھر اس کے بعد جلدی کی، جب سلام پھیرا تو آپ تشریف فرما ہوئے، ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ آپ نے فرمایا: میں جانتا ہوں کہ تم میرے لمبے قیام کے متعلق پوچھنا چاہتے ہو! ہم نے عرض کی: جی ہاں! ہم نے آپ کو عرض کرتے ہوئے سنا: اے رب! میں ان میں موجود ہوں؟ آپ نے فرمایا: اس ذات کی

3196 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ عَبِيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ ابَانَ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ، لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابَانَ إِلَّا عَبِيْدُ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3197 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: أَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ الْمُهْرِي، أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ الْجُهَنِي يَقُولُ: صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَطَالَ بِنَا الْقِيَامِ، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا صَلَّى خَفَّفَ فِي قِيَامِهِ، وَفِي ذَلِكَ نَسَمِعُ مِنْهُ، يَقُولُ: يَا رَبِّ، وَأَنَا فِيهِمْ؟، ثُمَّ أَهْوَى بِيَمِينِهِ لِيَتَنَاوَلَ شَيْئًا، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكَعَ، ثُمَّ أَسْرَعَ بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَمَّا سَلَّمَ جَلَسَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ، فَقَالَ: قَدْ عَلِمْتُ أَنَّ قَدْ رَأَيْتُمْ طُولَ قِيَامِي قُلْنَا: أَجَلُ، سَمِعْنَاكَ تَقُولُ: يَا رَبِّ، وَأَنَا فِيهِمْ؟ فَقَالَ: وَالَّذِي

3196 - أخرجه الترمذی فی الدعوات جلد 5 صفحہ 456 رقم الحدیث: 3371 قال أبو عیسی: هذا حدیث غریب من هذا

الوجه لا نعرفه الا من حدیث ابن لهیعة . والترغیب والترہیب فی الدعاء جلد 2 صفحہ 482 رقم الحدیث: 21 وقال الحافظ المنذری: الحدیث غریب . وانظر كشف الخفا للحافظ العجلونی جلد 1 صفحہ 485 رقم الحدیث: 1294 .

3197 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 17 صفحہ 315، وذكر الهیثمی فی المعجم جلد 10 صفحہ 389 لفظ الأوسط وقال:

وفیه ابن لهیعة، وهو ضعیف، وقد وثق، وكذلك بكر بن سهل وبقية رجاله ثقات .

نَفْسِي بِيَدِهِ مَا وَعَدْتُمْ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا وَقَدْ
عُرِضَ عَلَيَّ فِي مَقَامِي هَذَا، حَتَّى عُرِضَ عَلَيَّ النَّارُ،
فَأَقْبَلَ عَلَيَّ شَيْءٌ مِنْهَا حَتَّى حَادَى بِمَكَانِي، فِخْفَتْ
أَنْ تَغْشَاكُمْ، فَقُلْتُ: يَا رَبِّ وَأَنَا فِيهِمْ؟ فَصَرَفَهَا اللَّهُ
عَنْكُمْ، فَأَقْبَلَتْ قِطْعًا كَانَتْهَا الزَّرَابِيُّ، وَأَشْرَفَتْ فِيهَا
إِشْرَافَةً فَيَاذَا فِيهَا عَمْرُو بْنُ حَدَّثَانَ أَخُو بَنِي غِفَارٍ
مُتَكِنًا عَلَيَّ قَوْسِهِ فِي جَهَنَّمَ، وَإِذَا فِيهَا الْحَمِيرِيَّةُ
صَاحِبَةُ الْقِطِّ، الَّتِي رَبَطْتَهُ فَلَمْ تُطْعِمَهُ وَلَمْ تَسْقِهِ
وَلَمْ تُسَرِّحْهُ يَتَبَغَّى مَا يَأْكُلُ، حَتَّى مَاتَتْ عَلَيَّ ذَلِكَ

تسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے! جس شے
کا تمہیں آخرت میں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ شے میرے
سامنے اس مقام پر پیش کی گئی تھی یہاں تک کہ جہنم بھی
میں اس شے کی طرف متوجہ ہوا یہاں تک کہ میرے
کندھے کے قریب ہوا، میں ڈرا کہ تم کو ڈھانپ نہ لے۔
میں نے عرض کی: اے رب! میں ان میں موجود ہوں!
اللہ عزوجل نے تم سے عذاب کو پھیر دیا، میں نے اس
نکلے کو پکڑا وہ بہترین فرش تھا، میں نے جہنم میں
جھانک کر دیکھا تو ہواں پر عمرو بن حدثان تھا بنی غفار کا
بھائی وہ جہنم میں اپنی کمان پر لٹکایا ہوا تھا، اس میں وہ حمیر
قبیلے کی بلی والی عورت تھی جس نے ایک بلی کو باندھا تھا
اور اسے کھانے پینے کیلئے کچھ نہیں دیا، نہ اس کو چھوڑا تا کہ
وہ کھانے کی کوئی چیز تلاش کرے یہاں تک کہ وہ مر گئی۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ شِمَاسَةَ إِلَّا يَزِيدُ
بْنُ أَبِي حَبِيبٍ

3198 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ
يَحْيَى قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي
غَلَّابٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
مَنْ حَنَقَ نَفْسَهُ فِي الدُّنْيَا فَفَتَلَهَا حَنَقَ نَفْسَهُ فِي النَّارِ،
وَمَنْ طَعَنَ نَفْسَهُ طَعَنَهَا فِي النَّارِ، وَمَنْ افْتَحَمَ نَفْسَهُ
افْتَحَمَ فِي النَّارِ

یہ حدیث ابن شماسہ سے صرف یزید بن ابی حبیب
ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جو دنیا میں اپنا گلا گھونٹ کر مرا، وہ جہنم
میں بھی اپنا گلا گھونٹتا رہے گا، جس نے خود کو نیزہ سے مارا،
وہ جہنم میں نیزہ مارتا رہے گا، جس نے اپنے آپ کو زخم
لگایا وہ جہنم میں بھی اپنے آپ کو زخم لگاتا رہے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: روزہ دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک کی خوشبو سے زیادہ بہتر ہے۔

یہ حدیث ابواسود سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس نے قریش کو رسوا کرنا چاہا اللہ عزوجل اس کو رسوا کرے گا۔

یہ حدیث زہری سے صرف صالح ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابراہیم اکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

3199 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خِلْفَةُ فِيمَ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ رِيحِ الْمِسْكِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ إِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ

3200 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ الشَّقْفِيِّ، عَنْ يُوْسُفَ بْنِ الْحَكَمِ أَبِي الْحَجَّاجِ بْنِ يُوْسُفَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ يُرْدِ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا صَالِحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِبْرَاهِيمُ

3201 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

3199 - أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 268 رقم الحديث: 26089 بلفظ: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم

الصائم

3200 - أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 714 رقم الحديث: 3905 قال أبو عيسى: هذا حديث غريب من هذا

الوجه . وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 316 رقم الحديث: 1477

3201 - أخرجه الترمذی فی البيوع جلد 3 صفحہ 568 رقم الحديث: 1279 وقال أبو عيسى: هذا حديث في اسناده

اضطراب ولا يصح في ثمن السنور . والنسائي في البيوع جلد 7 صفحہ 272 باب (ما استثنى) وفيه زيادة . وأحمد

في المسند جلد 3 صفحہ 416 رقم الحديث: 14664 .

ﷺ نے کتے اور بلی کی قیمت لینے سے منع فرمایا (یعنی فروخت کرنے سے)۔

یہ حدیث اعمش سے عیسیٰ اور عبثر بن قاسم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کھانا کھانا چاہو تو اپنے جو توں کو اتار لو کیونکہ اس سے تمہارے قدموں کو سکون ملے گا۔

یہ حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں عقبہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن وعلہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ ہم مغرب میں جہاد کرتے ہیں وہاں اہل کتاب ہیں ان کے مشکیزے جس میں دودھ اور پانی ہوتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضور ﷺ نے فرمایا کہ دباغت (رنگنا) (کھال کو) پاک کر دیتی ہے۔

يُوسُفَ قَالَ: نَا عِيسَى بْنِ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُوَيْبَانَ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنُورِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عِيسَى وَعَبْثَرُ بْنُ الْقَاسِمِ

3202 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا عُقْبَةُ بْنُ خَالِدِ السَّكُونِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلْتُمُ الطَّعَامَ فَأَخْلَعُوا نِعَالَكُمْ فَإِنَّهُ أَرْوَحُ لَأَقْدَامِكُمْ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عُقْبَةُ

3203 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْخَيْرِ، يُخْبِرُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَعَلَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: إِنَّا نَغْزُو هَذَا الْمَغْرِبَ، وَهُمْ أَهْلُ دِينٍ، وَلَهُمْ قَرَبٌ يَكُونُ فِيهَا اللَّبَنُ وَالْمَاءُ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الدَّبَاغُ طَهُورٌ

3202- أخرجه أيضاً أبو يعلى، والبخاري، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحه 26: ورجال الطبراني ثقاة. الا ان عقبه بن خالد السكوني لم أجد له من محمد (بن ابراهيم) بن الحارث سماعاً. قلت: عقبه بن خالد يروي عن موسى بن محمد بن ابراهيم ولكن موسى سقط من اسناد الأوسط، وموسى هذا ضعيف جدا.

3203- أخرجه مسلم في الحيض جلد 1 صفحه 278، وأبو داؤد في اللباس جلد 4 صفحه 65 رقم الحديث: 4123 والنسائي في الفرع جلد 7 صفحه 153 باب (جلود الميتة)؛ وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 364 رقم الحديث: 2526.

حضرت رويفع بن ثابت انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے مناسب نہیں ہے کہ وہ زنا کرے۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنگ کے دن مسلمانوں کے خیمے مدینہ کی جانب تھے اس کو دمشق کہا جاتا تھا، وہ شام کے شہروں سے بہتر تھا۔

یہ حدیث زید بن ارطاة سے صرف ابن جابر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اپنے بستر پر آتے تھے تو یہ دعا کرتے تھے: اے رب! مجھے اپنے عذاب سے بچا جس دن تو

3204 - وَبِهِ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقِ التُّجِيبِيِّ، عَنْ حَنْشِ الصَّنَعَانِيِّ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يَوْمٍ مِنَ الْيَوْمِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَنْ يَسْقَى مَائَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

3205 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَرْطَاةَ قَالَ: سَمِعْتُ جُبَيْرَ بْنَ نُفَيْرٍ، يُحَدِّثُ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَسَطَاطُ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْطَاةَ إِلَّا ابْنُ جَابِرٍ

3206 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِشْكِيْبِ الصَّفَّارِ الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ،

3204 - أخرجه الترمذی فی النکاح جلد 3 صفحہ 428 رقم الحدیث: 1131، وأبو داؤد فی النکاح جلد 2 صفحہ 254 رقم الحدیث: 2158، وأحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 133 رقم الحدیث: 16992.

3205 - أخرجه أبو داؤد فی الملاحم جلد 4 صفحہ 109 رقم الحدیث: 4298، وأحمد فی المسند جلد 5 صفحہ 235 رقم الحدیث: 21783.

3206 - أخرجه ابن ماجة فی الدعاء جلد 2 صفحہ 1276 رقم الحدیث: 3877 قال ابن ماجة فی الزوائد: رجال اسنادہ

ثقات الا أنه منقطع. وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه شيئا. وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 512 رقم الحدیث: 3741 بلفظ: كان اذا وضع جنبه على فراشه قال: فني عذابك يوم تجمع عبادك.

اپنے بندوں کو اٹھائے گا۔

یہ حدیث ابواسحاق سے ابواحوص، ابواحوص سے صرف علی بن عابس ہی روایت کرتے ہیں۔ اسرائیل اور ان کے علاوہ نے روایت کیا ہے ابواسحاق سے وہ ابو عبیدہ سے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر نشہ آور شے حرام ہے۔

یہ حدیث عمر بن مغیرہ سے صرف عبداللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سبح اللہ من حمدہ کہتے تھے تو ”اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا نَزَاعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ“۔

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَوَى إِلَى فِرَاشِهِ قَالَ: رَبِّ قِنِي عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعُثُ عِبَادَكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ الْأَعْلِيِّ بْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَغَيْرُهُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي عَبِيدَةَ

3207 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ الْمُغِيرَةَ الْمُصِصِيُّ قَالَ: نَا أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْمُغِيرَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

3208 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ عَطِيَّةِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَزْعَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ، إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الْأَرْضِ، وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الشَّاءِ وَالْمَجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا نَزَاعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ

3- تقدم تخريجه .

3- جہ مسلم فی الصلاة جلد 1 صفحہ 347 والنسائی فی التطبيق جلد 2 صفحہ 156 باب (ما يقوله في قيامه ذلك)

المسند جلد 3 صفحہ 107 رقم الحديث: 11833 .

یہ حدیث ابوسعید سے صرف قزعة بن یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی بن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ پر یہ بات پیش کی گئی کہ آپ کے بعد آپ کی امت کو کافروں پر فتوحات دی جائیں گی اس طرح آپ کو خوش کیا گیا۔ اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل کی: ”عقرب آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔“ اللہ عزوجل نے آپ کیلئے جنت میں ایک ہزار محل تیار کیے ہیں ہر محل میں بچے اور خدام ہوں گے جو آپ کے لیے مناسب ہوں گے۔

یہ حدیث اسماعیل بن عبید اللہ سے صرف اوزاعی اور اوزاعی سے صرف عمرو بن ہاشم اور سفیان ثوری روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن یمان حضرت سفیان سے روایت کرنے میں انکیلے ہیں۔

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل نے اسلام کو ہمارے مردوں کے لیے برکت بنایا ہے اور ہمارے ذمیوں کے لیے امن بنایا ہے۔

یہ حدیث محمد بن زیاد سے صرف ادریس بن زیاد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ہاشم

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ قَزَعَةَ بْنِ يَحْيَى

3209 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ الْأَوْزَاعِيَّ، يُحَدِّثُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْمُخْزُومِيِّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْعَبَّاسِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: عُرِضَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هُوَ مَفْتُوحٌ عَلَيَّ أُمَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ كَفْرًا كَفْرًا، فَسَرَّ بِذَلِكَ، فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: (وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى) (الضحى: 5) قَالَ: فَأَعْطَاهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ أَلْفَ قَصْرٍ فِي كُلِّ قَصْرٍ مَا يَنْبَغِي لَهُ مِنَ الْوُلْدَانِ وَالْخَدَمِ.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا الْأَوْزَاعِيَّ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيَّ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ

3210 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَانِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادِ الْأَلْهَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ جَعَلَ السَّلَامَ تَحِيَّةً لَأُمَّتِنَا وَأَمَانًا لِأَهْلِ دِمَّتِنَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ إِلَّا إِدْرِيسُ بْنُ زِيَادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3209 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 10 صفحہ 337. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 142: و اسناد الكبير

حسن. قلت: اسناد الكبير هو نفسه اسناد الأوسط هذا.

اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنی ازواج سے فرمایا: تمہارا معاملہ میرے بعد غم میں ڈالتا ہے تم پر صابر کے علاوہ کوئی صبر نہ کرے گا۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اللہ عزوجل نے آپ کے والد کو سبیل سے پلائے، حضور ﷺ کی ازواج کو انہوں نے چالیس ہزار دیا تھا۔

یہ حدیث صحیح بن عبد اللہ سے صرف بکر بن مضر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مالک بن حنینہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب سجدہ کرتے تھے تو اپنی کلائیوں کو اپنے جسم سے جدا رکھتے تھے اتنا کہ آپ کی بغلوں کی سفیدی دکھائی دیتی تھی۔

یہ حدیث عبد اللہ بن حنینہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں بکر بن مضر اکیلے ہیں۔

3211 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرُ بْنُ مُضَرَ، عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَزْوَاجِهِ: إِنَّ أَمْرَكُنَّ لِيَهْمُنِي بَعْدِي، وَلَنْ يَصْبِرَ عَلَيْكُنَّ إِلَّا الصَّابِرُ ثُمَّ قَالَتْ: سَقَى اللَّهُ أَبَاكَ مِنَ السَّلْسَبِيلِ، وَكَانَ قَدْ وَصَلَ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَرْبَعِينَ أَلْفًا

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ صَخْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ

3212 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي بَكْرٌ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ هُرْمَزٍ الْأَعْرَجِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَالِكِ ابْنِ بُحَيْنَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَجَدَ جَافَى عَضُدَيْهِ عَنْ جَسَدِهِ حَتَّى يَرَى بَيَاضَ بَطْنِهِ

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ بُحَيْنَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ بَكْرُ بْنُ مُضَرَ

3211 - أخرجه أحمد في المسند جلد 6 صفحہ 87 رقم الحديث: 24539 .

3212 - أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 343 رقم الحديث: 807 . بلفظ: (كان اذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو

بياض ابطيه) . ذكره مسلم في الصلاة جلد 1 صفحہ 356 . بنحوه ولفظ الحديث من طريق عمرو بن الحارث

بنصه .

حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ رضی اللہ عنہما اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو بستر پر غیبت کرنے کے لیے بیٹھا قیامت کے دن اس پر سانپ مقرر کر دیئے جائیں گے۔

3213 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ، وَشُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى، قَالَا: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَعَدَ عَلَى فِرَاشٍ مُغَيَّبَةٍ قِيَصَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ نُعْبَانٌ

حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ موزوں اور کپڑے پر مسح کرتے تھے۔

3214 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ هَانَ، عَنْ بِلَالٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمَسِّحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ وَالْخِمَارِ

یہ حدیث حبیب سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے معتمر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَبِيبٍ إِلَّا اللَّيْثُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعْتَمِرٌ

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم خیبر میں گھوڑوں اور جنگلی گدھوں کا گوشت کھاتے تھے اور حضور ﷺ نے ہم کو پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کیا۔

3215 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، أَنَّ أَبَا الزُّبَيْرِ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: أَكَلْنَا زَمَانَ خَيْبَرَ الْخَيْلِ وَحُمَرَ الْوَحْشِ، وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ

3213 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 3 صفحہ 272 رقم الحديث: 3278. وأحمد جلد 5 صفحہ 300. وقال الحافظ الهيثمي

في المجمع جلد 6 صفحہ 216: فيه ابن لهيعة وحديثه حسن، وفيه ضعف.

3214 - أخرجه مسلم في الطهارة جلد 1 صفحہ 231، والترمذي في الطهارة جلد 1 صفحہ 172 رقم الحديث: 101

والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحہ 64 باب (المسح على العمامة). وابن ماجه في الطهارة جلد 1 صفحہ 186 رقم

الحديث: 561.

3215 - أخرجه البخاري في الذبائح جلد 9 صفحہ 570 رقم الحديث: 5524، ومسلم في الصيد جلد 3 صفحہ 1541

ولفظ الحديث عن مسلم.

یہ حدیث ابن جریج سے صرف یحییٰ بن ایوب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب چلتے تھے تو ادھر ادھر توجہ نہیں کرتے تھے بسا اوقات آپ کی چادر درخت یا کسی شی سے لٹک جاتی تھی تو آپ ادھر ادھر لکھتے تھے یہاں تک کہ صحابہ اس کو اٹھا لیتے تھے کیونکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے مزاح اور مسکراتے بھی تھے حالانکہ لوگ آپ کی توجہ کی وجہ سے مامون و محفوظ تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ایک آدمی کو مسلمانوں کے راستے سے تکلیف دہ شے ہٹانے کی وجہ سے اس کے پہلے گناہ معاف کر دیئے تھے۔

یہ حدیث ابن حجرہ سے صرف ابن ہبیرہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن ہبیرہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ اکبر کہنے کے لیے عرض کی یا فرمایا کہ تم تکبیر کو مقدم کرو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا يَحْيَىٰ بَنُ أَيُّوبَ

3216 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ يَحْيَىٰ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَلْتَفِتُ إِذَا مَشَى، وَكَانَ رُبَّمَا تَعَلَّقَ رِدَاؤُهُ بِالشَّجَرَةِ أَوْ الشَّيْءِ فَلَا يَلْتَفِتُ حَتَّى يَرْفَعُوهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَمْرُحُونَ وَيَضْحَكُونَ، وَكَانُوا قَدْ آمَنُوا الْبَتَاتَةَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3217 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ دَرَّاجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: غَفَرَ اللَّهُ لِرَجُلٍ أَمَاطَ عَنْ طَرِيقِ الْمُسْلِمِينَ غَضًّا مِنْ شَوْكٍ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ إِلَّا ابْنُ هُبَيْرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

3218 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَرَنِي جِبْرِيلُ أَنْ أَكْبِرَ أَوْ قَالَ: أَنْ

قَدِمُوا التَّكْبِيرَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ الْأَسَامَةِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

یہ حدیث نافع سے صرف اسامہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے ابن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر میرے صحابہ سے میرے بعد لغزش ہوگی لیکن میرے صحابی ہونے کی وجہ سے اللہ اُن کو بخش دے گا اور عنقریب ان کے بعد ایسی قوم آئے گی کہ اللہ عزوجل اُن کو چہروں کے بل جہنم میں گرا دے گا۔

3219 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ اَبِي الْفَيَاضِ الْبَرْقِيِّ قَالَ: نَا اَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانَ، عَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَكُوْنُ لِاصْحَابِي بَعْدِي زَلَّةٌ، يَغْفِرُهَا اللّٰهُ لَهُمْ بِصُحَّتِهِمْ، وَسَيَتَأَسَى بِهِمْ قَوْمٌ بَعْدَهُمْ، يَكْبَهُمُ اللّٰهُ عَلٰى مَنَاخِرِهِمْ فِي النَّارِ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے آہستہ آہستہ تسلی سے کام لیا وہ کامیاب ہو یا کامیابی کے قریب ہوا، جس نے جلدی کی، اس نے غلطی کی یا غلطی کے قریب ہوا۔

3220 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ مِشْرَحِ بْنِ هَاعَانَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَأَنَّى اَصَابَ اَوْ كَادَ، وَمَنْ عَجَلَ اَخْطَا اَوْ كَادَ

یہ دونوں حدیثیں مشرح سے صرف ابن لہیعہ اور ابن لہیعہ سے صرف اشہب ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابراہیم اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مِشْرَحِ اِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ، وَلَا عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ اِلَّا اَشْهَبُ، تَفَرَّدَ بِهِ اِبْرَاهِيْمُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے لوگوں کو قتل کرنے کا حکم دیا یہاں تک کہ لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں، جب وہ یہ پڑھ لیں گے تو انہوں نے مجھ سے اپنے خون اور اموال بچا لیے مگر حق کے ساتھ۔ عرض کی گئی؟ حق کے ساتھ قتل کرنا کیا ہے؟ فرمایا: شادی کرنے کے بعد زنا کرنا یا اسلام کے بعد کفر کرنا یا کسی جان کو قتل کرنا، پس اس کے

3221 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمِ الْبَيْرُوْتِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ حَيَّانَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حُمَيْدِ الطَّوِيلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمْرٌ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ، فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالَهُمْ، إِلَّا بِحَقِّهَا قِيلَ: وَمَا حَقُّهَا؟ قَالَ: زَنَى بَعْدَ احْتِصَانٍ، أَوْ كَفَرَ بَعْدَ

بدلے اس کو قتل کر دیا جائے گا۔

حمید سے حدیث کے آخری الفاظ صرف ابو خالد الاحمر ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل لوگوں کے سینوں سے علم نہیں لے گا بلکہ علماء اٹھالے گا، یہاں تک کہ جب عالم نہیں ملے گا تو لوگ جابلوں کو سردار بنائیں گے، ان سے مسائل پوچھیں گے تو وہ بغیر علم کے فتویٰ دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔

یہ حدیث عبد العزیز بن حصین سے صرف عمرو بن ہاشم ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے مغرب اور عشاء کی نماز اکٹھی پڑھی فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس طرح جلدی کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس طرح ایک مرتبہ پڑھی ہے، اس کے بعد اور اس سے پہلے کبھی بھی دو اکٹھی نمازیں نہیں پڑھیں۔

یہ حدیث عبد العزیز سے صرف یحییٰ بن حمزہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم

إِسْلَامٍ، أَوْ قَتَلَ نَفْسَ فَيَقْتُلُ بِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا اللَّفْظَ الَّذِي فِي آخِرِ الْحَدِيثِ عَنْ حُمَيْدٍ إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3222 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو قَالَ: نَا

عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ انْتِزَاعًا يَنْتَزِعُهُ مِنَ النَّاسِ، وَلَكِنْ يَقْبِضُهُ بِقَبْضِ الْعُلَمَاءِ، حَتَّى إِذَا لَمْ يَزَلْ عَالِمًا اتَّخَذَ النَّاسُ رُئُوسًا جَهَالًا فَسُيَلُوا، فَافْتَنُوا بِغَيْرِ عِلْمٍ، فَضَلُّوا وَأَضَلُّوا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3223 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ نَافِعًا، حَدَّثَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ، حِينَ جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعَجَلَ كَذَلِكَ، فَصَلَّاهَا مَرَّةً، ثُمَّ لَمْ أَرَهُ صَلَّاهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ

3224 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ:

3222 - أخرجه البخاری فی العلم جلد 1 صفحہ 234 رقم الحدیث: 100، ومسلم فی العلم جلد 4 صفحہ 2058 .

3224 - أخرجه البخاری فی الصوم جلد 4 صفحہ 215 رقم الحدیث: 1945، وأبو داؤد فی الصوم جلد 2 صفحہ 329 رقم

الحدیث: 2049، وابن ماجة فی الصیام جلد 1 صفحہ 531 رقم الحدیث: 1663 .

حضور ﷺ کے ساتھ گرمی کے دن کسی سفر میں نکلے گرمی اتنی تھی کہ آدمی اپنا ہاتھ اپنے سر پر رکھتا تھا، ہم میں سوائے حضور ﷺ اور ابن رواحہ کے کوئی روزے دار نہیں تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست ابو القاسم ﷺ نے تین چیزوں کی وصیت کی جس پر میں ہمیشگی کرتا ہوں: (۱) چاشت کی نماز کی میں نے اس کو سفر و اقامت کی حالت میں بھی نہیں چھوڑا (۲) ہر ماہ تین روزے رکھنا (۳) وتر سونے سے پہلے ادا کرنے کی ساری زندگی ایسے ہی کرتا ہوں۔

یہ حدیث ابو المنیب سے صرف زید اور زید سے صرف یحییٰ اور صدقہ بن خالد ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت بشیر بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عرض کی: ہماری حالت اور حضور ﷺ کے زمانہ میں کیا تبدیلی دیکھتے ہیں؟ فرمایا: تم صفیں مکمل نہیں کرتے ہو!

یہ حدیث بشیر سے صرف عقبہ بن عبید ہی روایت کرتے ہیں۔

نَا يَحْيَى، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ، أَنَّ إِسْمَاعِيلَ بْنَ عَبِيدِ اللَّهِ، حَدَّثَهُ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فِي يَوْمٍ حَارٍّ، وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ، فَمَا كَانَ مِنَّا صَائِمٌ إِلَّا نَبِيُّ اللَّهِ وَابْنُ رَوَاحَةَ

3225 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَاقِدٍ، أَنَّ أَبَا الْمُنِيبِ الْجُرَشِيِّ، حَدَّثَهُ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثِ أَحَافِظٍ عَلَيْهِنَّ: سُبْحَةُ الضُّحَى، أَلَّا أَدْعَهَا فِي سَفَرٍ وَلَا حَضَرٍ، وَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَلَا أَنَامُ إِلَّا عَلَى وَتَرٍ اسْتَكْمِلُ بِذَلِكَ الدَّهْرَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْمُنِيبِ إِلَّا زَيْدٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ إِلَّا يَحْيَى وَصَدَقَةُ بْنُ خَالِدٍ

3226 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَقْبَةَ بْنِ عَبِيدِ الطَّائِيِّ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَنْسٍ: مَا أَنْكَرْتَ مِنْ حَالِنَا فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنَّكُمْ لَا تُتَمُّونَ الصُّفُوفَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ يَسَارٍ إِلَّا عَقْبَةُ بْنُ عَبِيدِ

3225- أخرجه البخارى فى التهجد جلد 3 صفحه 68 رقم الحديث: 1178، ومسلم فى المسافرین جلد 1 صفحه 499 .

3226- أخرجه البخارى فى الأذان جلد 2 صفحه 245 رقم الحديث: 724، وأحمد فى المسند جلد 3 صفحه 138 رقم

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے، اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

یہ حدیث عاصم، انس سے اور عاصم سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔ ابواسامیل المؤدب، عاصم سے، وہ عمر بن بشیر سے، وہ انس سے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو ان کو آزما تا ہے۔

یہ حدیث حضرت انس سے صرف عیسیٰ اور عیسیٰ سے صرف اسحاق الزرقی البصری واسطی نہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نکلے اور ایک لشکر تیار کر کے بھیجا، حضرت عباس بن عبدالمطلب آئے، حضور ﷺ نے فرمایا: یہ تمہارے نبی کے بچے ہیں، قریش میں دینے کے لحاظ سے زیادہ سخی ہے، زیادہ صلہ رحمی کرنے والا ہے، بسا اوقات فرماتے: زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔

3227 - وَبِهِ نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلَيْتَبَوْا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَنَسِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ وَرَوَاهُ أَبُو إِسْمَاعِيلَ الْمُؤَدَّبُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَنَسِ

3228 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ، عَنْ عِيْسَى الْإِسْكَندَرِي، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسِ إِلَّا عِيْسَى، وَلَا عَنْ عِيْسَى إِلَّا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقِيُّ الْبَصْرِيُّ وَكَيْسَ بِالْوِاسِطِيِّ تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3229 - حَدَّثَنَا بَكْرُ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَادٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ التَّمِيْمِيُّ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ نَافِعِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ يُجَهِّزُ بَعْنًا، فَطَلَعَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَذَا عَمَّ نَبِيِّكُمْ، أَحْوَدُ قُرَيْشٍ كَفًّا، وَأَوْصَلُهَا وَرَبَّمَا قَالَ: وَأَخْنَاهَا

3230 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي مَرِيَمَ، أَنَّ قَزْعَةَ، حَدَّثَتْهُ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ فَلَا يَقْرَبُ مَسْجِدَنَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَزْعَةَ إِلَّا يَزِيدُ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اس درخت (پیاز وغیرہ) سے کھائے وہ ہماری مسجد کے قریب نہ آئے۔

یہ حدیث قزعه سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

3231 - وَبِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ،

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَعَظَّمَ مِنْهُ ثُمَّ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ: مَنْ كَانَ لَمْ يَطْعَمْ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ يَوْمَهُ هَذَا، وَمَنْ كَانَ قَدْ طَعِمَ مِنْكُمْ فَلْيَصُمْ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے عاشوراء کے دن کا ذکر کیا، اس کی عظمت بیان کی پھر آپ نے اردگرد والوں سے فرمایا: جس نے آج تم میں سے کھانا نہیں کھایا ہے وہ اس دن کا روزہ رکھے تم میں سے جس نے کھالیا وہ باقی دن کا روزہ رکھے۔

یہ حدیث قزعه سے صرف یزید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَزْعَةَ إِلَّا يَزِيدُ

3232 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَادٍ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، مَوْلَى أُمِّ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَخَذَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي، فَقَالَ: خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ التُّرْبَةَ يَوْمَ السَّبْتِ، وَخَلَقَ فِيهَا الْجِبَالَ يَوْمَ الْأَحَدِ، وَالشَّجَرَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَالْمَكْرَ يَوْمَ الثَّلَاثَاءِ، وَالنُّورَ يَوْمَ الْأَرْبَعَاءِ، وَبَتَّ فِيهَا الدَّوَابَّ يَوْمَ الْخَمِيسِ، وَعَدَّ كَمَا يُعَدُّ النِّسَاءُ، وَخَلَقَ آدَمَ بَعْدَ الْعَصْرِ يَوْمَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا فرمایا: اللہ عزوجل نے ہفتہ کے دن مٹی کو پیدا کیا، اس زمین میں اتوار کے دن پہاڑ بنائے اور درخت پیر کے دن ناپسند شے منگل کے دن اور بدھ کے دن جانور پھیلائے، جمعرات کے دن اس کو شمار کیا جس طرح عورتیں شمار کرتی ہیں اور آدم علیہ السلام کو عصر کے بعد جمعہ کے دن دن کی آخری گھڑیوں میں عصر سے لے کر رات تک۔

الْجُمُعَةِ آخِرَ سَاعَةٍ مِنْ سَاعَاتِ النَّهَارِ مَا بَيْنَ الْعَصْرِ
إِلَى اللَّيْلِ

یہ حدیث عبداللہ سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن جریج اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا
إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ جُرَيْجٍ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی دن و رات کو عمل کرتا ہے اس پر مہر لگتی ہے جب مؤمن بیمار ہوتا ہے تو فرشتے عرض کرتے ہیں: اے ہمارے رب! تیرا فلان بندہ روکا گیا ہے نیک عمل کرنے سے؟ اللہ عزوجل فرماتا ہے: اس کے عمل لکھتے رہو، اس پر مہر لگاؤ یہاں تک کہ وہ ٹھیک ہو جائے یا فوت ہو جائے۔

3233 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ عَمَلٍ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا يُخْتَمُ عَلَيْهِ، فَاِذَا مَرَضَ الْمُؤْمِنُ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبَّنَا عَبْدُكَ فُلَانٌ قَدْ حَبَسْتَهُ، فَيَقُوْلُ: اخْتَمُوْا لَهٗ عَلٰى عَمَلِهٖ حَتّٰى يَبْرَأَ اَوْ يَمُوْتَ

یزید سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيْدَ إِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے پہلے مجھے سر اٹھانے کے لیے اجازت ملے گی میں اپنا سر اٹھاؤں گا میں اپنی امت کو دائیں بائیں پچھانوں گا۔ آپ سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! آپ ان کو کیسے پچھائیں گے؟ فرمایا: ان کے سجدے والی جگہ چمک رہی ہوگی اور نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا۔

3234 - وَبِهِ نَا يَزِيْدُ بْنُ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ

سَعْدِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، اَنَّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمٰنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيْرٍ يُحَدِّثُ، عَنْ اَبِيْهِ، اَنَّهُ سَمِعَ اَبَا الدَّرْدَاۗءِ يُخْبِرُ، اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَنَا اَوَّلُ مَنْ يُؤَدِّنُ لَهٗ بِرَفْعِ رَاْسِهٖ، فَاَرَفَعُ رَاْسِيْ، فَاَعْرِفْ اُمَّتِيْ، عَنْ يَمِيْنِيْ، وَعَنْ شِمَالِيْ، فَقِيْلَ لَهٗ: كَيْفَ تَعْرِفُهُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُوْنَ مِنْ اَثْرِ السُّجُوْدِ، وَذَرَارِيْهُمُ نُوْرُهُمْ بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ

3233 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 17 صفحہ 284؛ وأحمد جلد 4 صفحہ 146. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 2

صفحہ 306: وفيه ابن لهيعة وفيه كلام.

3234 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 5 صفحہ 199؛ والبزار. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 347: ورجال

أحمد رجال الصحيح غير ابن لهيعة وهو ضعيف. قلت: اسناده ضعيف لاختلاط ابن لهيعة واضطرابه في السند.

یہ حدیث ابوالدرداء سے اسی سند سے روایت ہے
اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: آہستہ آہستہ قرآن پڑھنے والا
چھپ کر صدقہ کرنے والے کی طرح ہے قرآن کو اونچی
آواز میں پڑھنے والا سرعام صدقہ کرنے والے کی طرح
ہے۔

اس حدیث کو حضرت خالد سے بھی روایت
کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ معاویہ بن صالح منفرد ہیں۔
حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول
کریم ﷺ نے فرمایا: اپنے مردوں پر چار تکبیریں نماز
پڑھو رات ہو یا دن، چھوٹے ہوں یا بڑے مذکر ہوں یا
مؤنث (مرد و عورت)۔

یہ حدیث ابن زبیر سے صرف ابن لہیعہ روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ہاشم اکیلے
ہیں۔

حضرت عبداللہ بن انیس الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے
ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کبیرہ گناہ یہ ہیں کہ اللہ کے

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3235 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ
سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ مَرَّةٍ، عَنْ
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: الْمُسِرُّ بِالْقُرْآنِ كَالْمُسِرِّ بِالصَّدَقَةِ، وَالْجَاهِرُ
بِالْقُرْآنِ كَالْجَاهِرِ بِالصَّدَقَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ الْإِيْحِي،
تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

3236 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ
هَاشِمٍ الْبَيْرُوتِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي
الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَلُّوا عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ؛
الْبَصِغِيرِ وَالْكَبِيرِ، الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، أَرْبَعًا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ إِلَّا ابْنُ
لَهِيْعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ

3237 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا شُعَيْبُ بْنُ
يَحْيَى قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ،

3235 - أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحہ 39 رقم الحديث: 1333. والترمذی في فضائل القرآن جلد 5

صفحہ 180 رقم الحديث: 2919. وقال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب. والنسائي في الزكاة جلد 5

صفحہ 59-60. وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 187 رقم الحديث: 17378.

3236 - أخرجه أيضًا أحمد جلد 3 صفحہ 349 بلفظ: اذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنہ، وصلوا وقال الحافظ

الهيثمی في المعجم جلد 3 صفحہ 38. وفيه ابن لهيعة، وفيه كلام.

ساتھ شریک ٹھہرانا، والدین کی نافرمانی کرنا، یمین نموس اٹھانا، جو اللہ کی قسم اٹھاتا ہے بند کرنے والی، اس میں چھڑ کے پر کے برابر شے داخل ہوتی ہے تو وہ قیامت کے دن اس کے دل کے اندر نکتہ بن کے رہے گی۔

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْمَهَاجِرِ بْنِ قُنْفُذٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسِ الْجَهَنِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشَّرْكَ بِاللَّهِ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ، وَالْيَمِينُ الْعَمُوسُ، وَمَا حَلَفَ حَالِفٌ بِاللَّهِ يَمِينٌ صَبْرٌ فَأَدَّخَلَ فِيهَا مِثْلَ جَنَاحِ بَعُوضَةٍ إِلَّا كَانَتْ نُكْتَةً فِي قَلْبِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث عبد اللہ بن انیس سے اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہمارے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان فرق سحری کھانا ہے۔

3238 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَضْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحْرِ

یہ حدیث عمرو سے اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن علی اکیلے ہیں۔

لَمْ يُرَوْ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِوِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى بْنُ عَلِيٍّ

حضرت ابو قیس، حضرت عمرو بن عاص کے غلام فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے ام سلمہ زوجہ نبی ﷺ کی طرف بھیجا، فرمایا: آپ سے پوچھا گیا کہ کیا حضور ﷺ روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے؟ اگر وہ فرمائیں کہ نہیں! تو عرض کرنا کہ حضرت عائشہ

3239 - وَبِهِ عَنْ أَبِي قَيْسٍ، مَوْلَى عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: أَرْسَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ إِلَى أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: سَأَلَهَا: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَإِنْ قَالَتْ: لَا، فَقُلْ: أَمَا إِنَّ

3238 - أخرجه مسلم في الصيام جلد 2 صفحہ 770، وأبو داؤد في الصيام جلد 2 صفحہ 312 رقم الحديث: 2343

والنسائي في الصيام جلد 4 صفحہ 120 باب (فضل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب). والدارمي في الصيام جلد 2

صفحہ 11-12 رقم الحديث: 1697، وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 242 رقم الحديث: 17778 .

رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ روزے کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ حضرت ابو قیس فرماتے ہیں کہ میں آپ کے پاس آیا، آپ نے فرمایا: کیا آپ آزاد ہیں یا غلام؟ میں نے عرض کی: غلام! آپ نے فرمایا: قریب ہو جاؤ! میں قریب ہوا، میں نے عرض کی: عبد اللہ بن عمرو بن عاص نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے، یہ پوچھنے کے لیے کہ کیا رسول اللہ ﷺ روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے؟ آپ نے فرمایا: نہیں! میں نے عرض کی: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور ﷺ روزہ کی حالت میں بوسہ لیتے تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: ہو سکتا ہے آپ بوسہ لیتے ہوں کیونکہ کوئی آپ سے زیادہ اپنے نفس پر قابو رکھنے والا نہ تھا۔

یہ حدیث عبد اللہ بن عمرو، حضرت عائشہ سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں موسیٰ اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور آپ کے اصحاب کے لیے کھانا تیار کیا گیا، ان حضرات کو دعوت دی، جب داخل ہوئے تو کھانا رکھا گیا، قوم میں سے ایک آدمی نے کہا: میں روزہ کی حالت میں ہوں، حضور ﷺ نے فرمایا: تمہارے بھائی نے تمہاری دعوت کی ہے اور تمہارے لیے تکلف کیا ہے، تم کہتے ہو کہ میں روزہ کی حالت میں ہوں، تو روزہ توڑ دے، اس کی جگہ کسی اور دن روزہ رکھ اگر تو چاہے۔

عَائِشَةُ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ. فَقَالَ أَبُو قَيْسٍ: فَجِئْتُهَا، فَقَالَتْ: أَحْرُ أَمْ مَمْلُوكٌ؟ فَقُلْتُ: مَمْلُوكٌ، فَقَالَتْ: اذْنُهُ، فَذَنَوْتُ فَقُلْتُ: إِنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَمْرٍو أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ أَسْأَلُكَ: هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: لَا، فَقُلْتُ: إِنَّ عَائِشَةَ تَحَدَّثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُقْبَلُ وَهُوَ صَائِمٌ؟ فَقَالَتْ: لَعَلَّهُ كَانَ يُقْبَلُهَا، إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَتَمَالَكُ لَهَا حَبًّا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُوسَى

3240 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدِ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، أَنَّهُ صَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ طَعَامًا، فَدَعَاهُمْ، فَلَمَّا دَخَلُوا وَضِعَ الطَّعَامُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: إِنِّي صَائِمٌ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: دَعَاكُمْ أَخْوَكُمْ وَتَكَلَّفَ لَكُمْ ثُمَّ تَقُولُ: إِنِّي صَائِمٌ؟ أَفْطِرٌ، ثُمَّ صُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ إِنْ شِئْتَ

یہ حدیث ابوسعید سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں حماد بن ابی حمید اکیلے ہیں ان کا نام محمد بن ابی حمید ہے اہل مدینہ ان کو حماد بن ابی حمید کہتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ سے مانگے یا جس کو میری طرف دیکھنا پسند ہو وہ اشعث کو دیکھے جس کا رنگ بدلا ہوا ہے وہ ارادہ کرنے والا اینٹ پر اینٹ نہیں رکھی اور نہ لکڑی پر لکڑی دھری ہے۔ اس کے لیے علم اٹھایا جائے گا، پس وہ اس کی طرف قصد کرے گا، آج میدان تیار ہے کل دوڑ ہوگی اور انجام جنت ہے یاد دوزخ۔

یہ حدیث ہشام سے صرف سلیمان ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمر و اکیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابان بن سعید بن العاص کو مدینہ کی طرف بھیجا ایک سریہ نجد کی جانب سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم آئے ہم نے خیبر کو فتح کیا، تقسیم کرنے سے پہلے جبکہ ہمارے گھوڑوں کی لگائیں کھجور کی چھال سے ہیں۔ حضرت ابان بن سعید نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہمارے لیے تقسیم کریں، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ان کے لیے تقسیم نہ کریں، ابان نے کہا: اے اونٹ کی بہت اون والے! تم پہاڑ کی چوٹی سے گرے ہو؟ مال غنیمت سے ان کے لیے کوئی شی نہیں

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ حَمَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ، أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَقُولُونَ: حَمَادُ بْنُ أَبِي حُمَيْدٍ

3241 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ

هَاشِمِ الْبَيْرُوتِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ أَبِي كَرِيمَةَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ عَنِّي أَوْ سَرَّهَ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيَّ، فَلْيَنْظُرْ إِلَيَّ أَشَعْتَ، شَاحِبٍ، مُشَمَّرٍ، لَمْ يَضَعْ لَبَنَةً عَلَى لَبَنَةٍ، وَلَا قَصَبَةً عَلَى قَصَبَةٍ، رُفِعَ لَهُ عِلْمٌ فَشَمَّرَ إِلَيْهِ، الْيَوْمَ الْمِضْمَارُ، وَعَدَا السِّبَاقُ، وَالْغَايَةُ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا سُلَيْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو

3242 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبَسَةَ بِنْتُ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَانَ بْنَ سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ إِلَى الْمَدِينَةِ فِي سَرِيَّةٍ قَبْلَ نَجْدٍ، فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: فَاتَوْنَا وَقَدْ فَتَحْنَا خَيْبَرَ قَبْلَ أَنْ نَقْسِمَ، وَإِنَّ خِطَامَ خَيْلِهِمُ اللَّيْفُ، فَقَالَ أَبَانُ بْنُ سَعِيدٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَقْسِمُ لَنَا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا تَقْسِمُ لَهُمْ، فَقَالَ أَبَانُ: أَنْتَ يَا وَبْرُ تَحَدَّرَ

ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف محمد بن ولید الزبیدی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ہشام روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں لیث اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا جب آپ کا وصال مبارک ہو رہا تھا آپ کے پاس پانی کا ایک پیالہ تھا آپ اس پیالہ میں ہاتھ داخل کرتے اور اپنے چہرے پر پانی ملتے تھے پھر عرض کرتے: اے اللہ! میری موت کی مشکل پر مدد فرما!

یہ حدیث قاسم بن محمد سے صرف موسیٰ اور موسیٰ سے صرف ابن ہاد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے

مِنْ رَأْسِ الْجَبَلِ، فَلَمْ يَقْسِمْ لَهُمْ مِنَ الْغَنِيمَةِ شَيْئًا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيُّ

3243 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي اللَّيْثُ قَالَ: حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعَدَهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا هِشَامٌ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

3244 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

يُوسُفَ قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْهَادِ، عَنْ مُوسَى بْنِ سَرَجَسَ، عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَمُوتُ، وَعِنْدَهُ قَدْحٌ فِيهِ مَاءٌ، يُدْخِلُ يَدَهُ فِي الْقَدْحِ، ثُمَّ يَمْسَحُ وَجْهَهُ بِالْمَاءِ، ثُمَّ يَقُولُ: اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى كُرْبَاتِ الْمَوْتِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا مُوسَى، وَلَا عَنْ مُوسَى إِلَّا ابْنُ الْهَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ اللَّيْثُ

3243- أخرجه النسائي في الصيام جلد 4 صفحہ 144 باب (ثواب من صام يوما في سبيل الله) . وابن ماجه في الصيام جلد 1

صفحہ 548 رقم الحديث: 1718 . بلفظ: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار سبعين خريفاً .

3244- أخرجه الترمذی في الجنائز جلد 3 صفحہ 299 رقم الحديث: 978، وابن ماجه في الجنائز جلد 1 صفحہ 518 رقم

الحديث: 1623، وأحمد في المسند جلد 6 صفحہ 72 رقم الحديث: 24410 . ولفظهم: اللهم أعني على

(غمرات) أو سكرات الموت .

میں لیٹ اکیلے ہیں۔

حضرت نعمان بن المنذر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عطاء بن رباح سے پوچھا: کیا عورتوں کیلئے رخصت ہے کہ وہ سواریوں پر نماز پڑھیں؟ حضرت عطاء نے فرمایا: ان کے لیے کوئی رخصت نہیں خوشحالی اور تنگی میں۔

یہ حدیث نعمان سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مکحول فرماتے ہیں کہ حضرت حویطب بن عبدالعزیٰ، حضرت عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک سفر میں تھے، حضرت عبداللہ سواری پر نفل پڑھنے لگے، اپنے سر کے ساتھ اشارہ کرے تھے اس طرف جس طرف آپ جا رہے تھے۔ حضرت حویطب نے آپ سے عرض کی: کیا آپ نے اس حوالہ سے حضور ﷺ سے سنا ہے؟ حضرت عبداللہ مسکرائے، فرمایا: جی ہاں! میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ثابت بن ثوبان رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں کہ ان کے والد نے بتایا کہ انہوں نے حضرت مکحول سے نماز خوف کے متعلق پوچھا، حضرت مکحول نے فرمایا: حضرت عبداللہ بیان کرتے تھے کہ انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ ﷺ نے تکبیر کہی آپ کے پیچھے ہمارا ایک گروہ تھا، ایک

3245 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، أَنَّهُ سَأَلَ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ: هَلْ رُخِّصَ لِلنِّسَاءِ أَنْ يُصَلِّيْنَ عَلَى الدَّوَابِّ؟ فَقَالَ: لَمْ يُرَخِّصْ لَهُنَّ فِي ذَلِكَ، فِي شِدَّةِ وَلَا رَخَاءٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا يَحْيَى

3246 - وَبِهِ نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: كَانَ حُوَيْطُبُ بْنُ عَبْدِ الْعُزَّى مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللَّهِ يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ وَيَوْمَءُ بَرَأْسِهِ تَلْقَاءُ جِهَتِهِ الَّتِي يَسِيرُ إِلَيْهَا، فَقَالَ لَهُ حُوَيْطُبُ: أَسَمِعْتَ هَذَا يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَضَحِكَ عَبْدُ اللَّهِ، فَقَالَ: نَعَمْ سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3247 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ ثَابِتِ بْنِ ثُوبَانَ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ مَكْحُولًا عَنْ صَلَاةِ الْخَوْفِ، فَقَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ صَلَّاهَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: فَكَبَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَصَفَّ وَرَأَاهُ طَائِفَةٌ مِنَّا، وَأَقْبَلَتْ

3247- أخرجه البخاری فی صلاة الخوف جلد 2 صفحہ 497 رقم الحدیث: 942 من طریق شعيب عن الزهري، عن سالم

و مسلم فی المسافرین جلد 1 صفحہ 574 من طریق معمر، عن الزهري، عن سالم .

طَائِفَةٌ عَلَى الْعُدُوِّ، فَرَكَعَ بِهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُكْعَةً، وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، مِثْلَ نِصْفِ صَلَاةِ الصُّبْحِ، ثُمَّ انْصَرَفُوا، فَأَقْبَلُوا عَلَى الْعُدُوِّ، وَجَاءَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، فَصَلُّوا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ سَلَّمَ فَقَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ، فَرَكَعَ لِنَفْسِهِ رُكْعَةً وَسَجَدَتَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا ابْنُ ثَوْبَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ

3248 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ، عَنِ الزُّبَيْدِيِّ، أَنَّ الزُّهْرِيَّ، حَدَّثَهُ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَفْوَانَ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ الْأَشْعَرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّبَيْدِيِّ إِلَّا يَحْيَى

3249 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُو بْنُ عَبْسَةَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بَعُدَتْ مِنْهُ النَّارُ مَسِيرَةَ مِائَةِ عَامٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النُّعْمَانِ إِلَّا يَحْيَى

گروہ دشمن کے سامنے تھا اس گروہ نے حضور ﷺ کے ساتھ ایک رکعت پڑھی صبح کی نماز کی طرح، پھر وہ گروہ چلا گیا، دشمن کے مقابلہ والا دوسرا گروہ آیا، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کے پیچھے پہلے گروہ کی طرح ایک رکعت پڑھی پھر آپ نے سلام پھیر دیا، دونوں گروہ میں سے ہر ایک آدمی نے ایک ایک رکعت خود پڑھی۔

یہ حدیث مکحول سے صرف ثوبان ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن حمزہ اکیلے ہیں۔

حضرت کعب بن عاصم اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی نہیں ہے۔

یہ حدیث زبیدی سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ عزوجل اس کو جہنم سے ستر سال کی مسافت جتنا دور کر دیتا ہے۔

یہ حدیث نعمان سے صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

3248 - أخرجه البخاری فی الصیام جلد 4 صفحہ 146 (باب ما یکسرہ من الصیام فی السفر) . وابن ماجہ فی الصیام جلد 1 صفحہ 532 رقم الحدیث: 1664، وأحمد فی المسند جلد 5 صفحہ 506 رقم الحدیث: 23741، والطبرانی فی الکبیر جلد 19 صفحہ 171 رقم الحدیث: 385 .

3250 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ ابْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، وَكَانَ أَحَدَ النَّفَرِ الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِذَا نَ بَدَّيْنِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَحَاطَ ذَلِكَ بِمَالِهِ، وَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ صُلَحَاءِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ مُعَاذٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَاللَّهِ مَا جَعَلْتُ فِي نَفْسِي حِينَ أَسَلَمْتُ أَنْ أَبْخَلَ عَلَى الْإِسْلَامِ بِمَالٍ مَلَكَتُهُ، وَإِنِّي أَنْفَقْتُ مَالِي فِي أَمْرِ الْإِسْلَامِ، فَأَبْقَى ذَلِكَ عَلَيَّ دَيْنًا عَظِيمًا: فَأَدَعُ غُرْمَائِي، فَاسْتَرْفَقَهُمْ، فَإِنْ أَرَفَقُوا بِي فَسَبِيلُ ذَلِكَ، وَإِنْ أَبَوْا فَاخْلَعْنِي لَهُمْ مِنْ مَالِي قَالَ: فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرْمَانَهُ، فَعَرَضَ عَلَيْهِمْ أَنْ يَرْفُقُوا بِهِ فَقَالُوا: نَحْنُ نَحِبُّ أَمْوَالَنَا، فَدَفَعَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالَ مُعَاذٍ كُلَّهُ، ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا عَلَى بَعْضِ الْيَمَنِ لِيَجْبُرَهُ، فَأَصَابَ مُعَاذٌ مِنَ الْيَمَنِ مِنْ مَرَافِقِ الْإِمَارَةِ مَالًا، فَتَوَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعْضَ مُعَاذٍ بِالْيَمَنِ، فَأَرْتَدَّ بَعْضُ أَهْلِ الْيَمَنِ، فَقَاتَلَهُمْ مُعَاذٌ وَأَمْرَاءُ كَانُوا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُمْ عَلَى الْيَمَنِ حَتَّى دَخَلُوا فِي الْإِسْلَامِ، ثُمَّ قَدِمَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ بِمَالٍ عَظِيمٍ، وَأَتَاهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ،

حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جبکہ وہ اُن تین میں سے ایک ہیں جن کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی۔ فرماتے ہیں: حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ کے زمانے میں اس قدر قرض لیا کہ اس نے آپ کے سارے مال کا احاطہ کر لیا جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ صالح صحابی تھے تو حضرت معاذ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! جب سے میں نے اسلام قبول کیا ہے تو میں نے اپنے دل میں یہ بات نہیں رکھی کہ جس مال کا میں مالک ہوا اس کو اسلام پر خرچ کرنے میں بخل کروں گا اب صورت حال یہ ہے کہ مجھ پر بہت زیادہ قرض چڑھ گیا ہے میرے قرض خواہوں کو بلائیے اور انہیں فرمائیے کہ وہ مجھ پر نرمی کریں اگر وہ انکار کریں تو میرا مال اُن کے سامنے حاضر کر دیجئے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے آپ کے قرض خواہوں کو بلا لیا۔ انہیں نرمی کرنے کو کہا تو انہوں نے کہا: ہم اپنے مالوں سے محبت کرنے والے ہیں۔ تو رسول کریم ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کا سارا مال ان کے حوالے کر دیا پھر حضور ﷺ نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن کے کسی علاقہ میں مال پورا کرنے کے لیے بھیجا۔ یمن کے اس علاقہ کی امارت کے منافع سے آپ کو بہت مال ملا۔ تو رسول کریم ﷺ کا وصال ہو گیا جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ یمن میں تھے۔ کچھ یمنی مرتد ہو گئے تو حضرت معاذ نے اُن سے جہاد کیا اور وہ امیر جن کو یمن پر رسول کریم ﷺ نے مقرر فرمایا تھا اُن کو یمن پر

فَقَالَ: إِنَّكَ قَدِمْتَ بِمَالٍ عَظِيمٍ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْتِيَنِي
 أَبَا بَكْرٍ، فَتَسْتَجِلَّ مِنْهُ، فَإِنْ أَحَلَّهُ لَكَ طَابَ لَكَ،
 وَإِلَّا دَفَعْتَهُ إِلَيْهِ، فَقَالَ مُعَاذٌ: لَقَدْ عَلِمْتُ يَا عُمَرُ، مَا
 بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا
 لِيَجْبُرَنِي حِينَ دَفَعَ مَالِي إِلَى غُرْمَانِي، وَمَا كُنْتُ
 لِأَدْفَعُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ شَيْئًا مِمَّا جِئْتُ بِهِ إِلَّا أَنْ
 يَسْأَلَنِيهِ، فَإِنْ سَأَلَنِيهِ دَفَعْتُهُ إِلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَأْخُذْ
 أَمْسَكْتُهُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنِّي لَمْ أَلْكَ وَنَفْسِي إِلَّا
 خَيْرًا، ثُمَّ قَامَ عُمَرُ، فَأَنْصَرَفَ، فَلَمَّا وُلِيَ دَعَا،
 فَعَادَ، فَقَالَ: إِنِّي مُطِيعُكَ، وَلَوْلَا رُؤْيَا رَأَيْتُهَا لَمْ
 أُطِيعْكَ، إِنِّي أَرَانِي فِي نَوْمِي غَرَفْتُ فِي حَوْمَةِ مَاءٍ،
 فَأَرَاكَ أَخَذْتَ بِيَدِي، فَأَنْجَيْتَنِي مِنْهَا، فَأَنْطَلِقُ بِنَا إِلَى
 أَبِي بَكْرٍ، فَأَنْطَلِقَا حَتَّى دَخَلَا عَلَيْهِ، فَذَكَرَ لَهُ مُعَاذٌ
 كَنَحْوِ مِمَّا كَلَّمْتُمْ بِهِ عُمَرُ فِيمَا كَانَ مِنْ غُرْمَانِهِ، وَمَا
 أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ جَبْرِهِ، ثُمَّ
 أَعْلَمَهُ بِمَا جَاءَ بِهِ مِنَ الْمَالِ، حَتَّى قَالَ: وَسَوْطِي
 هَذَا مِمَّا جِئْتُ بِهِ، فَمَا رَأَيْتَ فَخُذْ، وَمَا رَأَيْتَ
 فَاطْبِئْهُ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ لَكَ كُلُّهُ يَا مُعَاذُ،
 فَالْتَفَتَ عُمَرُ إِلَى مُعَاذٍ، فَقَالَ: يَا مُعَاذُ، هَذَا حِينَ
 طَابَ لَكَ، فَكَانَ مُعَاذٌ مِنْ أَكْثَرِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالًا، وَكَانَ مُعَاذٌ أَوَّلَ رَجُلٍ
 أَصَابَ مَالًا مِنْ مَرَاتِقِ الْإِمَارَةِ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ:
 فَمَضَتْ السَّنَةُ فِي مُعَاذٍ بِأَنْ خَلَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَالِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ بِبَيْعِهِ، وَفِي

برقرار رکھا یہاں تک کہ وہ اسلام میں داخل ہو گئے پھر
 آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں
 آئے بہت زیادہ مال لے کر۔ حضرت عمر نے ان کے
 پاس آ کر فرمایا: ماشاء اللہ! آپ تو بہت مال لائے ہیں
 میرا خیال ہے کہ آپ حضرت ابو بکر کے پاس جا کر یہ مال
 پیش کر دیں۔ پس اگر انہوں نے اپنے ہاتھ سے آپ
 کو مال دیا تو وہ آپ کے لیے مبارک ہوگا ورنہ آپ مال
 ان کے حوالے کر دیں۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بولے:
 اے عمر! آپ کو معلوم ہے کہ رسول کریم ﷺ نے مجھے
 مال کی کمی دور کرنے کے لیے ہی تو بھیجا تھا جب میرے
 قرض خواہوں نے میرا سارا مال لے لیا تھا جو مال میں لایا
 ہوں اُس میں سے حضرت ابو بکر صدیق کو اس وقت تک
 کچھ نہ دوں گا جس وقت تک وہ اس کا مطالبہ نہ کریں۔
 پس اگر وہ مطالبہ کریں تو میں ان کی خدمت میں پیش کر
 دوں گا۔ اور اگر انہوں نے نہ لیا تو اپنے پاس رکھوں گا۔
 حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: مجھے میری جان
 کی قسم! میں نے تجھے اچھا مشورہ دیا ہے۔ پھر حضرت عمر
 اٹھے اور چل دیئے جب آپ تھوڑی دور گئے تو حضرت
 معاذ رضی اللہ عنہ نے پیچھے سے بلایا آپ لوٹ آئے تو
 حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں آپ کا حکم
 ماننے کو تیار ہوں اور اگر میں نے وہ خواب نہ دیکھے ہوتے
 جو میں نے دیکھے ہیں تو میں آپ کی پیروی نہ کرتا میں
 نے خواب دیکھا ہے کہ میں پانی کے حوض میں ڈوب رہا
 ہوں اور آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کر نکالا ہے۔ مجھے حضرت

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ يَرَوْهَا هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا التَّمَامِ الْأَيْزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعُمَارَةُ بْنُ غَزِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے چلیں۔ پس وہ دونوں حضرات چلتے چلتے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ پس حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے اسی طرح کلام کیا جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا اور جو حضرت عمر نے قرض خواہوں کے حوالے سے فرمایا اور یہ کہ رسول کریم ﷺ کا ارادہ یہ نہ تھا کہ آپ وہی مال پورا کریں پھر وہ جو مال لائے تھے سب سے آگاہ کیا۔ یہاں تک کہ کہا: یہ میرا ڈنڈا ہے یہ بھی میں وہیں سے لایا ہوں جو آپ چاہیں لے لیں اور جو چاہیں عطا کر دیں۔ پس حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا: یہ سارے کا سارے آپ کا ہے۔ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اب تیرے لیے اچھا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اکثر صحابہ سے زیادہ مال والے تھے حضرت معاذ وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے امارت کے منافع سے مال حاصل کیا۔ حضرت ابن شہاب فرماتے ہیں: حضرت معاذ کے بعد میں یہ طریقہ جاری ہوا کہ رسول کریم ﷺ نے ان کے مال سے قرض خواہوں کو مال دے دیا اور اسے بیچنے کا حکم نہ دیا اور اللہ کے رسول کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ یہ پوری حدیث امام زہری سے صرف یزید بن ابی حبیب نے اور عمارہ بن غزیہ نے روایت کی ہے ابن لہیعہ منفرد ہیں۔

حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور

ﷺ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے آپ کے پاس سے

3251 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنَ

صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، أَنَّ أَرْهَرَ بْنَ

3251 - أَخْرَجَهُ أَيْضًا أَحْمَدُ جلد 4 صفحہ 231 وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 4 صفحہ 295: ورجال أحمد

ایک عورت گزری آپ اپنے گھر گئے پھر ہماری طرف واپس آئے تو آپ کے سرانور سے پانی کے قطرے گر رہے تھے ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! لگتا ہے کوئی شی تھی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میرے پاس سے فلائی گزری میرے دل میں عورتوں کی محبت پیدا ہوئی میں اپنی کسی بیوی کے پاس گیا تم بھی ایسے ہی کیا کرو کیونکہ تمہارے اعمال عمدہ ہو جائیں گے حلال کام کرنے سے۔

یہ حدیث ابوکبشہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معاویہ بن صالح اکیلے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابوالقاسم کا نام سنا میں نے یہ کنیت اس سے پہلے اور اس کے بعد نہیں سنی ہے فرمایا: اللہ عزوجل نے فرمایا کہ اے عیسیٰ! میں آپ کے بعد ایک امت بھیجنے والا ہوں اگر ان کو ملے گا جو وہ پسند کریں گے وہ الحمد للہ کہیں گے اور شکر یہ ادا کریں گے وہ ملے جو وہ ناپسند کرتے ہوں گے وہ ثواب حاصل کریں گے اور صبر کریں گے اس کے پاس بردباری اور علم نہیں ہوگا۔ حضرت عیسیٰ نے عرض کی: اے رب! یہ کیسے ہوگا ان کے پاس علم اور بردباری نہیں ہو گی؟ اللہ عزوجل نے فرمایا: ان کو میرے علم اور میری بردباری سے حصہ دیا گیا ہوگا۔

یہ حدیث ام درداء سے یزید روایت کرتے ہیں اور یزید سے صرف معاویہ بن صالح ہی روایت کرتے ہیں۔

سَعِيدٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي كَبْشَةَ، صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ جَالِسٌ إِذْ مَرَّتْ بِهِ امْرَأَةٌ فَقَامَ إِلَى أَهْلِهَا، فَخَرَجَ إِلَيْنَا وَرَأْسُهُ يَقْطُرُ مَاءً، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَأَنَّهُ قَدْ كَانَ شَيْءٌ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، مَرَّتْ بِي فَلَانَةٌ، فَوَقَعَ فِي نَفْسِي شَهْوَةٌ النِّسَاءِ، فَقُمْتُ إِلَى بَعْضِ أَهْلِي، وَكَذَلِكَ فَافْعَلُوا، فَإِنَّهُ مِنْ أَمْثَلِ أَعْمَالِكُمْ اتِّبَانُ الْحَلَالِ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي كَبْشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

3252 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي حَلْبَسٍ يَزِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ الدَّرْدَاءِ تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ يَقُولُ: سَمِعْتُ أَبَا الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، مَا سَمِعْتُهُ يُكَيِّبُهَا قَبْلَهَا وَلَا بَعْدَهَا، يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: يَا عِيسَى، إِنِّي بَاعْتُكَ مِنْ بَعْدِكَ أُمَّةً، إِنْ أَصَابَهُمْ مَا يُحِبُّونَ حَمِدُوا وَشَكَرُوا، وَإِنْ أَصَابَهُمْ مَا يَكْرَهُونَ اخْتَسَبُوا وَصَبَرُوا، وَلَا حِلْمٌ وَلَا عِلْمٌ قَالَ: يَا رَبِّ، كَيْفَ يَكُونُ هَذَا وَلَا عِلْمٌ وَلَا حِلْمٌ؟ قَالَ: أُعْطِيَهُمْ مِنْ حِلْمِي وَعِلْمِي

لَمْ يَرَوْا هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أُمَّ الدَّرْدَاءِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ مَيْسَرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

3252- أخرجه أيضاً أحمد جلد 6 صفحہ 450. والبخاری وعزاه الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 70 الى الكبير أيضاً

وقال: ورجال أحمد رجال الصحيح غير الحسن بن سوار، وأبي حلبس يزيد بن ميسرة، وهما ثقتان.

حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر رات کا قیام لازم ہے کیونکہ یہ طریقہ تم سے پہلے نیک لوگوں کا ہے یہ رب کا قرب حاصل کرنے کا ذریعہ ہے اور گناہوں کا گفارہ ہے۔

یہ حدیث ابو امامہ سے صرف ابو ادریس اور ابو ادریس سے صرف ربیعہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں معاویہ بن صالح اکیلے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مؤمن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھ لیتا ہے۔

یہ حدیث ابو امامہ حضور ﷺ سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے معاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت عرباض بن ساریہ السلمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ ﷺ سے ایک اونٹ لیا میں آپ کے پاس اس کے پیسے لینے کے لیے آیا

3253 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِقِيَامِ اللَّيْلِ، فَإِنَّهُ ذَابُ الصَّالِحِينَ قَبْلَكُمْ، وَهُوَ قُرْبَةٌ إِلَى رَبِّكُمْ، وَمَكْفَرَةٌ لِلْسَّيِّئَاتِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا أَبُو إِدْرِيسَ، وَلَا عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ إِلَّا رَبِيعَةَ، تَفَرَّدَ

3254 - بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ، فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللَّهِ

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

3255 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ هَانَءٍ، عَنِ الْعَرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ السَّلْمِيِّ قَالَ: بَعَثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَكْرًا، فَجِئْتُ

3253 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 8 صفحہ 109 رقم الحديث: 7466. وقال الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 254 وفيه:

عبد الله بن صالح كاتب الليث قال عبد الملك بن شعيب بن الليث: ثقة مأمون وضعفه جماعة من الأئمة .

3254 - أخرجه الطبراني في الكبير جلد 8 صفحہ 102 رقم الحديث: 7497. وقال الحافظ الهيثمي: اسناده حسن . انظر:

مجمع الزوائد جلد 10 صفحہ 271 .

3255 - أخرجه ابن ماجة في التجارات جلد 2 صفحہ 767 رقم الحديث: 228 . وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 157

رقم الحديث: 17154 . والبيهقي في الكبرى جلد 5 صفحہ 575 رقم الحديث: 10941 .

میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے میرے اونٹ کے پیسے دے دیں! آپ نے اس سے زیادہ عمر والا اونٹ دیا! عرض کی: یا رسول اللہ! یہ تو میرے اونٹ سے بڑا ہے آپ نے فرمایا: تیرے لیے بہتر ہے لوگوں میں بہتر وہ ہے جو قرض اچھی طرح ادا کرے۔

یہ حدیث عرباض سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت حبیب بن مسلمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جہاد کے مال غنیمت کا چوتھا حصہ لیتے تھے خمس لینے کے بعد اور جب واپس آتے تو مال غنیمت سے تہائی حصہ لیتے خمس لینے کے بعد۔

یہ حدیث علاء سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عوف بن مالک الأشجعی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم جاہلیت میں دم کرتے تھے، ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کیسے دم کریں؟ آپ نے فرمایا: جو تم پڑھتے ہو دم میں وہ مجھ کو سناؤ! آپ نے فرمایا: دم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے بشرطیکہ شریکیت نہ ہوں۔

یہ حدیث عوف سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معاویہ اکیلے ہیں۔

اتَّقَاضَاهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفْضَنِي ثَمَنَ بَكْرِي، فَقَضَاهُ بَعِيرًا مُسِنًّا، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا أَفْضَلُ مِنْ بَكْرِي، فَقَالَ: هُوَ خَيْرٌ لَكَ، إِنَّ خَيْرَ الْقَوْمِ خَيْرُهُمْ قَضَاءً

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ الْعَرَبِاضِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3256 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ قَالَ: حَدَّثَنِي

الْعَلَاءُ بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ جَارِيَةَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُنْقَلُ فِي الْعَزْوِ الرَّبْعَ بَعْدَ الْخُمْسِ، وَيُنْقَلُ إِذَا قَفَلَ الثَّلَاثَ بَعْدَ الْخُمْسِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَلَاءِ إِلَّا مُعَاوِيَةَ

3257 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ، عَنْ عَبْدِ

الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ قَالَ: كُنَّا نَرْقِي فِي الْجَاهِلِيَّةِ، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ نَرْقِي فِي ذَلِكَ؟ فَقَالَ: اعْرِضُوا عَلَيَّ رُقَاكُمْ قَالَ: لَا بَأْسَ بِالرَّقِيِّ مَا لَمْ يَكُنْ شِرْكًا لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

3256- أخرجه أبو داؤد في الجهاد جلد 3 صفحہ 80 رقم الحديث: 2749 . وأحمد في المسند جلد 4 صفحہ 198 رقم

الحديث: 17477 .

3257- أخرجه مسلم في السلام جلد 4 صفحہ 1727، وأبو داؤد في الطب جلد 4 صفحہ 10 رقم الحديث: 3886

والطبرانی في الكبير جلد 18 صفحہ 49 رقم الحديث: 88 .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت سے پہلے سخت دھوکہ باز لوگ ہوں گے، اس میں امین کو خائن اور خائن کو امین سمجھا جائے گا اور اس میں روئے بھضہ چلے گی۔ صحابہ نے عرض کی: روئے بھضہ کیا ہے؟ فرمایا: بے وقوف آدمی گفتگو کرے گا امر عامہ میں۔

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

یہ حدیث حضرت علی سے اسی سند سے روایت ہے ان سے روایت کرنے والے ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تیری قوم کا زمانہ کفر کے قریب نہ ہوتا تو کعبہ کو شہید کر کے اس کے دو دروازے بنائے جاتے، اس کو داخل کرتا جس کو قریش نے چھوڑا تھا، وہ اس کو شامل کرنے سے عاجز آگئے تھے (وہ حطیم کعبہ ہے)۔

3258 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ سِنُونَ خَدَاعَةً، يَتَّهَمُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ الْمُتَّهَمُ، وَيَنْطَلِقُ فِيهَا الرَّوَيْبِضَةُ. قَالُوا: وَمَا الرَّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: السَّفِيْهُ يَنْطَلِقُ فِي أَمْرِ الْعَامَةِ

3259 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ بَنَى لِلَّهِ مَسْجِدًا، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَلِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3260 - وَبِهِ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَخِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْلَا حَدِثَانُ قَوْمِكَ بِالْكَفْرِ لَهَدَمْتُ الْكَعْبَةَ، وَجَعَلْتُ لَهَا بَابَيْنِ، وَأَدْخَلْتُ فِيهَا شَيْئًا تَرَكْتَهُ

3258 - أخرجه أيضًا أحمد جلد 3 صفحہ 220، وأبو يعلى. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 287: في

اسناد الطبرانی ابن لهيعة وهو لين .

3259 - أخرجه ابن ماجة في المساجد جلد 1 صفحہ 243 رقم الحديث: 737 في الزوائد: اسناد حديث علي ضعيف .

والوليد بن مسلم مدلس؛ وقد رواه بالنعنة . وشيخه ابن لهيعة ضعيف .

3260 - أخرجه البخاري في البخاري في الحج جلد 3 صفحہ 514 رقم الحديث: 1586 من طريق يزيد بن رومان عن

عروة . ومسلم في الحج جلد 2 صفحہ 971 عن طريق الحارث بن عبد الله بن أبي ربيعة .

قُرَيْشٌ، عَجَزُوا عَنْهُ

یہ حدیث قاسم اپنے بھائی سے روایت کرتے ہیں وہ صرف ابواسود سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَخِيهِ إِلَّا أَبُو الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3261 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں حضور ﷺ کے پاس داخل ہوا جس وقت آپ نے اپنی ازواج کو چھوڑا تھا آپ چارپائی پر آرام کر رہے تھے میں نے گھر میں نظر دوڑائی میری نگاہ نے کوئی شے نہیں دیکھی مگر چھڑے کی بو پھیل رہی تھی۔ میں نے عرض کی: آپ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے منتخب ہیں کہ یہ کسریٰ وقیصر کے لوگ ریشم اور دیباچ پہنتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اے ابن خطاب! کیا تم اپنے دل میں یہ بات نہیں پاتے ہو کہ ان سے اس کا حساب لیا جائے گا۔

مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَرْزُوقِ بْنِ أَبِي الْهَدَيْلِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ هَجَرَ نِسَانَهُ، فَإِذَا هُوَ عَلَى سَرِيرٍ رُمَالٍ، يَعْنِي: مَرْمُولٍ، فَانظَرْتُ، فَلَمْ أَرِ فِي الْبَيْتِ شَيْئًا يَرُدُّ الْبَصَرَ إِلَّا أَهْبَ عِجْلٍ، قَدْ سَطَعَ رِيحُهَا، فَقُلْتُ: أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ وَخَيْرُتَهُ، وَهَذَا كِسْرَى وَقَيْصَرُ فِي الدِّيْبَاجِ وَالْحَرِيرِ؟ فَقَالَ: أَوْ فِي نَفْسِكَ أَنْتَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ؟ أَوْلَيْكَ قَوْمٌ لَهُمْ حِسَابُهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَرْزُوقِ إِلَّا الْوَلِيدُ بْنُ

یہ حدیث مرزوق سے صرف ولید بن مسلم ہی روایت کرتے ہیں۔

مُسْلِمٍ

3262 - حَدَّثَنَا بَكْرُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ

حضرت ابوامامہ الباہلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو فرض نماز پڑھنے کے لیے باوضو ہو کر چلا اس کے لیے احرام باندھ کر حج کرنے والے کی

يُوسُفَ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ الْحَارِثِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ الْبَاهِلِيِّ

3261- أصله عند البخاری ومسلم من حدیث طویل من طریق: عبد اللہ بن عبد اللہ بن ابی ثور. أخرجه البخاری فی المظالم

جلد 5 صفحہ 137 رقم الحدیث: 2468، ومسلم فی الطلاق جلد 2 صفحہ 1111 .

3262- أخرجه أبو داؤد فی الصلاة جلد 1 صفحہ 150 رقم الحدیث: 558 بلفظ: من خرج من بیته متطهراً..... وأحمد فی

المسند جلد 5 صفحہ 316 رقم الحدیث: 22367. والطبرانی فی الکبیر جلد 8 صفحہ 176 رقم الحدیث:

. 7735-7734

مثل ثواب ہے جو چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے چلا تو اس کے لیے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ہے ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا پڑھنا بشرطیکہ لغوبات کوئی نہ ہو اس کے لیے عتین میں ثواب لکھا جاتا ہے۔

یہ حدیث یحییٰ بن حارث سے اس تمام سند سے صرف ہشیم بن حمید ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو تم میں سے سو کر اٹھے اس کے ہاتھوں کو کوئی شی لگی اس نے ہاتھ کو دھویا نہیں اس کو کسی شے نے نقصان دیا تو وہ ملامت صرف اپنے آپ ہی کو کرے۔

یہ حدیث محمد بن عمرو سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ولیمہ کا بُرا کھانا وہ ہے جس میں مال داروں کو بلایا جائے اور محتاج لوگوں کو چھوڑا جائے جس کو ولیمہ کی دعوت دی گئی اس نے قبول نہ کی تو اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی میں یہ خود نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے۔

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَسَى إِلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ وَهُوَ مُتَطَهَّرٌ فَاجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرَمِ، وَمَنْ مَسَى إِلَى تَسْبِيحِ الضُّحَى فَاجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمِرِ، وَصَلَاةٌ عَلَىٰ آثَرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوَ بَيْنَهُمَا كِتَابٌ فِي عِلِّيِّينَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَىٰ بْنِ الْحَارِثِ بِهَذَا التَّمَامِ إِلَّا الْهَيْثَمُ بْنُ حَمِيدٍ

3263 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

إشْكِيْب الصَّفَّارُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سَلِيمٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَامَ مِنْكُمْ وَقَدْ أَصَابَ مِنَ الْغَيْرِ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَغْسِلَ يَدَهُ، فَأَصَابَهُ شَيْءٌ، فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو إِلَّا لَيْثٌ تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

3264 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ سَمِيعٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: بَنَسَ الطَّعَامُ طَعَامَ الْوَلِيمَةِ يُدْعَا إِلَيْهَا الْأَغْنِيَاءُ، وَيُتْرَكَ الْفُقَرَاءُ، وَمَنْ دُعِيَ إِلَىٰ وَلِيمَةٍ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ مَا أَنَا قُلْتُهُ

3264 - أخرجه البخارى فى النكاح جلد 9 صفحہ 152 رقم الحديث: 5177 من طريق ابن شهاب عن الأعرج عن أبى

هريرة رضى الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة..... ومن ترك الدعوة فقد..... ومسلم فى النكاح جلد 2

صفحة 1054. ولفظه نحوه. ولم يذكر ما أنا قلته.

یہ حدیث اسماعیل سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فلانی نے کیا کیا؟ جو ایک یتیم لڑکی حضرت عائشہ کے پاس تھی میں نے عرض کی: اس کو اس کے شوہر کے سپرد کر دیا ہے آپ نے فرمایا: کیا تم نے اس کے ساتھ لونڈی بھیجی ہے؟ دف بجاتی اور اشعار پڑھتی؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: وہ کیا پڑھتی؟ آپ نے فرمایا: وہ پڑھتی:۔

ہم تمہارے پاس آئے ہیں ہم تمہارے پاس آئے ہیں! پس تم ہمیں سلام کرو ہم تمہیں سلام کرتے ہیں! اگر سرخ سونا نہ ہوتا تو تمہاری وادیوں میں کوئی نہ اترتا اور اگر گندم نہ ہوتی تو تمہاری کنواری عورتیں کبھی موٹی نہ ہوتیں۔

یہ حدیث ہشام بن عروہ سے صرف شریک اور شریک سے صرف رواد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن السری اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں مجھ پر فرض تھیں تمہارے لیے سنت ہیں: وتر، مسواک رات کا قیام یعنی تہجد۔

یہ حدیث ہشام سے صرف موسیٰ ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ .

3265 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِي قَالَ: نَا أَبُو عَصَامٍ رَوَّادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا فَعَلْتَ فُلَانَةُ؟، لَيْتِيَمَةٌ كَانَتْ عِنْدَهَا، فَقُلْتُ: أَهْدَيْنَاهَا إِلَى زَوْجِهَا قَالَ: فَهَلْ بَعَثْتُمْ مَعَهَا بَجَارِيَةً تَضْرِبُ بِالذَّفِّ، وَتَغْنِي؟ قَالَتْ: تَقُولُ مَاذَا؟ قَالَ: تَقُولُ: (البحر الرجز)

أَتَيْنَاكُمْ، أَتَيْنَاكُمْ... فَحَيُّونَا، نُحَيِّكُمْ
لَوْلَا الذَّهَبُ الْأَحْمَرُ... مَا حَلَّتْ بَوَادِيكُمْ
وَلَوْلَا الْحَبَّةُ السَّمْرَاءُ... مَا سَمِنَتْ عَذَارِيكُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا شَرِيكُ، وَلَا عَنْ شَرِيكِ إِلَّا رَوَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ

3266 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنُ

سَعِيدِ الثَّقَفِيِّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الصَّنَعَانِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ هُنَّ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ وَهُوَ لَكُمْ سُنَّةٌ: الْوِتْرُ، وَالسَّوَاكُ، وَقِيَامُ اللَّيْلِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ إِلَّا مُوسَى،

ہیں اس کو روایت کرنے والے عبدالغنی بن سعید اکیلے ہیں۔

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کتوں سے شکار کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: جب تو سکھایا ہوا کتا چھوڑے اور اللہ کا نام لے کر چھوڑے تو جو وہ پکڑے وہ تیرا ہے اگر مار دے پھر بھی کھاؤ اگر کھائے تو نہ کھاؤ میں خوف کرتا ہوں کہ اس نے اپنی ذات کے لیے روکا ہے اگر اس کے ساتھ دوسرے کتے بھی شریک ہو جائیں تو اس کو نہ کھاؤ۔

یہ حدیث بیان سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آل محمد ﷺ نے وصال مبارک تک پیٹ بھر کر گندم کی روٹی نہیں کھائی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ستر اصحاب صفہ کو دیکھا ان میں سے کسی کے پاس چادر نہیں تھی سوائے ایک چھوٹی چادر کے جس کو وہ اپنی

تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْغَنِيِّ بْنِ سَعِيدٍ

3267 - حَدَّثَنَا بَكْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

إِشْكِيبَ الصَّفَّارُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ بَيَانَ بْنِ بَشِيرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّا نَتَّصِدُ بِهَذِهِ الْكِلَابِ، فَقَالَ: إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبُكَ الْمُعَلَّمُ، وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، فَلَكَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْهِ، وَإِنْ قَتَلَ، إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ، فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ، فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ

3268 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلِ بْنِ

عَزْوَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَا شَبِعَ آلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ طَعَامٍ بَرٍّ حَتَّى قُبِضَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3269 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَقَدْ رَأَيْتُ

سَبْعِينَ مِنْ أَصْحَابِ الصُّفَّةِ، مَا مِنْهُمْ رَجُلٌ عَلَيْهِ كِسَاءٌ، إِلَّا بَرْدَةٌ، وَإِمَارِدَاءٌ، قَدْ رَبَطُوهَا فِي

3267 - أخرجه البخارى فى الذبائح جلد 9 صفحه 524 رقم الحديث: 5483، ومسلم فى الصيد والذبائح جلد 3

صفحه 1529 .

3268 - أخرجه البخارى فى الأطعمة جلد 9 صفحه 427 رقم الحديث: 5374 ولم يذكر لفظ بر عند البخارى ومسلم:

الزهد جلد 4 صفحه 2284، والترمذى فى الزهد جلد 4 صفحه 579 رقم الحديث: 2358 .

3269 - أخرجه البخارى فى الصلاة جلد 1 صفحه 638 رقم الحديث: 442 .

گردن سے باندھتے اور وہ نصف پنڈلی تک پہنچتی تھی، دو ٹخنوں تک نہیں پہنچتی تھی، وہ اپنے ہاتھ سے اس کو اکٹھا کرتے ہیں اس ڈر سے کہ ان کی شرمگاہ نکلی نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان اتنی آگ ہوگی کہ ایک سواری تین دن تک تیز چلتا رہے تو وہ ختم نہ ہو۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے سخت بھوک لگی، میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، آپ سے قرآن پاک کی ایک آیت کا مفہوم پوچھا، آپ نے بتایا اور اپنے گھر داخل ہو گئے، پھر میں واپس آیا، ابھی دور نہیں گیا تھا کہ میں بھوک کی وجہ سے چہرے کے بل گر پڑھا، دیکھا تو رسول اللہ ﷺ میرے سر پر کھڑے تھے۔ فرمایا: ابو ہریرہ ہو؟ میں نے عرض کی: لبیک وسعدیک یا رسول اللہ! میں نے بتایا کہ میں ہی ہوں، آپ نے میرے چہرے سے معلوم کر لیا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے لے کر اپنے گھر چلے، مجھے آپ نے دودھ کا پیالہ دیا، میں نے اس کو پیا۔ فرمایا: ابو ہریرہ اور پیو! میں نے دوبارہ پیا، میں نے اتنا پیا کہ میری کمر سیدھی ہو گئی، پیالہ کی طرح ہو گئی، پھر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملا اور اس معاملہ کا ذکر کیا، میں نے عرض کی: اللہ نے اس کا ولی اُس ہستی کو مقرر فرمایا جو آپ سے زیادہ حق دار تھی۔ میں نے آپ سے

أَعْنَاهُمْ، فَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ نِصْفَ السَّاقِ، وَمِنْهَا مَا يَبْلُغُ الْكَعْبَيْنِ، فَيَجْمَعُهُ بِيَدِهِ كَرَاهِيَةَ أَنْ تَبْدُو عَوْرَتَهُ

3270 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مَا بَيْنَ مَنْكَبِي الْكَافِرِ فِي النَّارِ مَسِيرَةٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ لِلرَّكِبِ الْمُسْرِعِ

3271 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَصَابَنِي جَهْدٌ شَدِيدٌ، فَاتَيْتُ عُمَرَ، فَاسْتَفْتَحْتُهُ آيَةً مِنْ كِتَابِ اللَّهِ، فَدَخَلَ دَارَهُ، ثُمَّ فَتَحَهَا عَلَيَّ، فَذَهَبْتُ غَيْرَ بَعِيدٍ، فَخَرَزْتُ لِرُؤُوسِي مِنَ الْجَهْدِ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَيَّ رَأْسِي، فَقَالَ: أَبُو هُرَيْرَةَ قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدِيكَ، فَأَخْبَرْتُهُ مَا أَنَا فِيهِ، فَعَرَفَ الَّذِي بِي فَأَنْطَلَقَ إِلَيَّ رَحِيلِي، فَأَمَرَ لِي بِعَسٍّ مِنْ لَبْنٍ، فَشَرِبْتُ مِنْهُ، فَقَالَ: عُدْ، يَا أَبَا هُرَيْرَةَ، فَعُدْتُ، فَشَرِبْتُ حَتَّى اسْتَوَى ظَهْرِي وَصَارَ كَالْقِدْحِ، فَلَقِيْتُ عُمَرَ، فَذَكَرْتُ الَّذِي كَانَ مِنْ أَمْرِي، وَقُلْتُ لَهُ: تَوَلَّى اللَّهُ ذَلِكَ مَنْ كَانَ أَحَقَّ بِهِ مِنْكُمْ، وَلَقَدْ اسْتَقْرَأْتُكَ الْآيَةَ وَأَنَا أَقْرَأُ لَهَا مِنْكَ، فَقَالَ عُمَرُ: وَاللَّهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي كُنْتُ أَذْخَلْتُكَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ

3270 - أخرجه البخاری فی الرقاق جلد 11 صفحہ 423 رقم الحدیث: 6551، ومسلم فی الجنة وصفة نعيمها جلد 4

صفحہ 2189 رقم الحدیث: 2852 .

3271 - أخرجه البخاری فی الأطعمة جلد 9 صفحہ 427 رقم الحدیث: 5375 .

ایک آیت پڑھنے کی درخواست کی حالانکہ میں بھی اس کو زیادہ پڑھنے والا تھا حضرت عمر نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگر بتا سکتا تو میں آپ کو اپنے گھر داخل کر کے کھانا کھلاتا تو مجھے سرخ اونٹ (صدقہ) کرنے سے زیادہ محبوب تھا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا تاکہ آپ اس کی مہمان نوازی کریں (بظاہراً) آپ کے پاس کچھ نہیں تھا آپ نے فرمایا: کیا کوئی آدمی اس کی مہمان نوازی کرے گا تو اللہ اس پر رحم کرے گا؟ انصار کا ایک آدمی آیا وہ اس کو اپنے گھر لے گیا اس نے اپنی بیوی سے کہا: رسول اللہ ﷺ کے مہمان کی عزت کرنا۔ بیوی نے کہا: اللہ کی قسم! صرف بچوں کا کھانا ہے اس نے کہا: تو بچوں کو سلا دے اور چراغ جلا دے اور کھانا مہمان کے قریب کر دینا وہ خیال کرے گا کہ اس کے ساتھ ہم بھی کھا رہے ہیں تم چراغ بجھا دینا اور رسول اللہ ﷺ کے مہمان کے لیے چھوڑ دینا بیوی نے ایسے ہی کیا۔ ابو طلحہ صبح حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اللہ نے پسند کیا یا فرمایا: اللہ فلاں فلاں کے کام کو دیکھ کر خوش ہوا ہے۔ یعنی ابو طلحہ اور اس کی بیوی سے۔ یہ آیت اتری: ”وہ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے اگرچہ وہ خود ضرورت مند ہوتے ہیں“۔

یہ حدیث فضیل بن عزوان سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

3272 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضِيفَهُ، فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ، فَقَالَ: أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا، رَحِمَهُ اللَّهُ؟ فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ، فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ: أَكْرَمِي ضَيْفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: وَاللَّهِ مَا عِنْدَنَا إِلَّا قُوتُ الصَّبِيَّةِ، فَقَالَ لَهَا: نَوْمِي الصَّبِيَّةَ، وَأَضِئِي السِّرَاجَ، وَقَرِّبِيهِ إِلَى ضَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَرِيهِ كَمَا نَأْتِطَعُ مَعَهُ، وَأَطْفِئِي السِّرَاجَ، وَاتْرُكِيهِ لِضَيْفِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَفَعَلَتْ قَالَ: وَآتَى أَبُو طَلْحَةَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْعَدِي، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ، أَوْ ضَحِكَ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةَ يَعْنِي: أَبَا طَلْحَةَ وَامْرَأَتَهُ، وَأَنْزَلَ فِيهِمْ هَذِهِ الْآيَةَ: (وَيُؤْتُونَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ) (الحشر: 9)

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ عَزْوَانَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ

3273 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ

عُمَارَةَ بْنِ الْقَعْقَاعِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَوَّلُ
زُمْرَةٍ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي عَلَى صُورَةِ الْقَمَرِ
لَيْلَةَ الْبَدْرِ، وَالَّذِينَ يَلُونَهُمْ عَلَى ضَوْءِ أَشَدِّ كَوْكَبٍ
فِي السَّمَاءِ إِضَاءَةً، لَا يَبُولُونَ، وَلَا يَتَغَوَّطُونَ، وَلَا
يَتَفَلْسُونَ، وَلَا يَمْتَحِطُونَ، أَمْشَاطُهُمُ الذَّهَبُ،
وَرَشْحُهُمُ الْمِسْكُ، وَمَجَامِرُهُمُ الْأَلْوَةُ، وَأَزْوَاجُهُمُ
الْحُورُ الْعَيْنُ، أَخْلَافُهُمْ عَلَى خُلُقِ رَجُلٍ وَاحِدٍ عَلَى
صُورَةِ أَبِيهِمْ آدَمَ سِتِينَ ذِرَاعًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُمَارَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ

فُضَيْلٍ

3274 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ
قَالَ: نَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُ الْأَنْبِيَاءِ كَمَثَلِ رَجُلٍ
بَنَى دَارًا فَأَكْمَلَهَا وَحَسَنَهَا، وَبَقِيَتْ مِنْ زَاوِيَةٍ مِنْ
زَوَايَاهَا مَوْضِعُ لَبَنَةٍ، فَجَعَلَ النَّاسُ يُطِيفُونَ بِبَنِيَانِهِ،
يَتَعَجَّبُونَ، وَيَقُولُونَ: فَهَلَّا وَضَعَ هَاهُنَا لَبَنَةً فَأَكْمَلَ
بِهَا بِنَانَهُ؟ فَأَنَا ذَلِكَ، أَنَا خَاتَمُ النَّبِيِّينَ، لَا نَبِيَّ بَعْدِي

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: میری امت سے پہلا گروہ جو جنت میں
داخل ہوگا، ان کی صورتیں چودھویں رات کے چاند کی
طرح ہوں گے، جو اس کے بعد ہوں گے ان کے چہروں
کی سفیدی آسمان کے ستاروں سے زیادہ ہوگی، وہ نہ
پیشاب نہ پاخانہ نہ ناک صاف کرتے اور نہ تھوک کریں
گے، ان کے کنگن سونے کے ہوں گے، ان کا پینا مشک کی
خوشبو کی طرح ہوگا، ان کی آنکھیوں میں خوشبو ہوگی، انکی
بیویاں حور العین ہوں گی، ان کے اخلاق ایک جیسے ہوں
گے، وہ اپنے باپ آدم کی صورت پر ہوں گے ساٹھ ہاتھ۔
یہ حدیث عمارہ سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میری اور پہلے انبیاء کی مثال
اُس آدمی کی ہے جس نے ایک عمارت بنائی، اس کو مکمل کیا
اور خوبصورت بنایا، اس کے کونوں میں سے ایک کونے
میں ایک اینٹ کی جگہ رہ گئی۔ لوگ اس کے ارد گرد چکر لگا
کر دیکھتے ہیں اور خوش ہوتے ہیں اور حیرانی سے کہتے
ہیں: اس جگہ اینٹ کیوں نہ رکھی گئی کہ اس کے ساتھ اس
کی تعمیر مکمل ہو جاتی؟ پس میں اس اینٹ کی مانند ہوں
میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔

3273 - أخرجه البخاری فی أحادیث الأنبياء جلد 6 صفحہ 417 رقم الحدیث: 3327 من طریق أبي زرعة . ومسلم فی

الجنة وصفة نعیمها جلد 4 صفحہ 2179 .

3274 - أصله متفق عليه: من طریق أبي الح . أخرجه البخاری فی المناقب جلد 6 صفحہ 645 رقم الحدیث: 3535 ومسلم

فی الفضائل جلد 4 صفحہ 1791 .

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری مثال اور تمہاری اس آدمی کی طرح ہے جس نے آگ روشن کی، اس میں کیڑے مکوڑے گرنے لگے، وہ اس سے نکال رہا ہے وہ اس میں گر رہے ہیں، میں بھی تمہیں تمہاری پشتوں سے پکڑتا ہوں، جہنم کی آگ سے بچو، جہنم کی آگ سے بچو، تم مجھ پر غالب آ رہے ہو، تم اس میں گر رہے ہو۔

یہ دونوں حدیثیں حبیب بن سالم سے صرف محمد بن سعد ہی روایت کرتے ہیں، ان دونوں حدیثوں کو محمد بن فضیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضور ﷺ خندق کھود رہے تھے تو صحابہ کرام کو سخت بھوک لگی، یہاں تک کہ حضور ﷺ نے بھوک کی وجہ سے پتھر پیٹ پر باندھے ہوئے تھے اور آپ کے صحابہ نے، میں نے ایک دنبہ کا بچہ ذبح کیا اور اپنی بیوی کو بھوک کی روٹی پکانے کا حکم دیا، جو ان کے پاس تھے۔ وہ دنبہ کا بچہ پک گیا تو پھر میں نے حضور ﷺ کو دعوت دی، میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے تیار کیا تھا، آپ نے فرمایا: تم چلو جو آپ کے پاس ہے وہ تیار کرو، میں آیا میں نے تیار کیا جو

3275 - وَبِإِسْنَادِهِ حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا مَثَلِي وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ نَارًا، فَجَعَلَتْ هَذِهِ الدَّوَابُّ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيهِ، وَيَزْعُهْنَ عَنْهَا، وَيَقْتَحِمْنَ فِيهَا، وَإِنِّي آخِذٌ بِحِجْزِكُمْ، هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ، هَلُمُّوا عَنِ النَّارِ، فَتَقْتَحِمُونَ فِيهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ حَبِيبِ بْنِ سَالِمٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِمَا: مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ

3276 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: لَمَّا حَفَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَنْدَقَ أَصَابَ الْمُسْلِمِينَ جَهْدٌ شَدِيدٌ، حَتَّى رَبَطَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بَطْنِهِ صَخْرَةً مِنَ الْجُوعِ، وَأَصْحَابُهُ، فَذَبَحَتْ عَنَاقًا وَأَمَرَتْ أَهْلِي فَخَبَزُوا شَيْئًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَهُمْ، وَطَبَخُوا الْعَنَاقَ، ثُمَّ دَعَوْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي صَنَعْتُ، فَقَالَ: فَاَنْطَلِقْ، فَهِيَءُ مَا

3275 - أصله عند البخاری ومسلم . أخرجه البخاری فی الرقاق جلد 11 صفحہ 323 رقم الحدیث: 6483 . من طریق شعيب حدثنا أبو الزناد عن عبد الرحمن . ومسلم فی الفضائل جلد 4 صفحہ 1789 من طریق معمر عن همام بن منبه . ولفظ مسلم نحوه .

3276 - أخرجه البخاری فی المغازی جلد 7 صفحہ 456 رقم الحدیث: 4101 بنحوه . ومسلم فی الأشربة جلد 3 صفحہ 1610 . وعند مسلم من طریق حنظلة بن أبي سفيان، حدثنا سعيد بن ميناء، قال: سمعت جابر بن عبد الله وذكر نحوه .

ہمارے پاس تھا، حضور ﷺ خود اور آپ کے غلام بھی آئے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک دنبہ کا بچہ ہے میں نے آپ کیلئے اور آپ کے چند غلاموں کے لیے۔ آپ نے فرمایا: پیالہ لاؤ! میں آپ کے پاس پیالہ لایا، پھر فرمایا: اس میں سالن ڈالو! پھر آپ نے اس پر برکت کے لیے دعا کی، پھر فرمایا: اللہ کے نام سے! پھر فرمایا: دس افراد داخل ہوں، میں نے ایسے ہی کیا، چنانچہ ان حضرات نے کھایا اور سیر ہو گئے، وہ تشریف لے گئے اور دوسرے دس افراد داخل ہوئے، یہاں تک کہ سارے غلاموں نے لنگر کھایا تو لنگر ویسے کا ویسے ہی تھا۔

یہ حدیث عبدالواحد بن ایمن سے صرف محمد بن فضیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری اُمت پر ایسا زمانہ آئے گا کہ قاری زیادہ ہوں گے، فقہاء کم ہوں گے، علم اٹھالیا جائے گا، قتل زیادہ ہوں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کی: ہرج کیا ہے؟ فرمایا: قتل و غارت، پھر اس کے بعد ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن اُن کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، پھر ایک زمانہ آئے گا کہ منافق مشرک مؤمن سے لڑے گا۔

یہ حدیث ابن حجرہ سے صرف دراج روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

عِنْدَكَ حَتَّى آتِيكَ فَذَهَبْتُ، فَهَيَّاتُ مَا كَانَ عِنْدَنَا، فَجَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْجَيْشُ جَمِيعًا، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّمَا هِيَ عَنَاقٌ، جَعَلْتَهَا لَكَ وَلِنَفَرٍ مِنْ أَصْحَابِكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتِ بِقِصْعَةٍ فَاتَيْتُهُ بِقِصْعَةٍ، ثُمَّ قَالَ: أَنْدِمُ فِيهَا ثُمَّ دَعَا عَلَيْهَا بِالْبَرَكَةِ، ثُمَّ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ ثُمَّ قَالَ: أَدْخِلْ عَشْرَةَ رِجَالٍ فَفَعَلْتُ، فَإِذَا طَعِمُوا وَشَبِعُوا خَرَجُوا، وَأَدْخَلْتُ عَشْرَةَ أُخْرَى، حَتَّى بَلَغَ الْجَيْشُ جَمِيعًا، وَالطَّعَامُ كَمَا هُوَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ أَيْمَنٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ

3277 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا دَرَّاجٌ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُجَيْرَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ، يَكْثُرُ الْقُرَاءُ، وَيَقِلُّ الْفَقَهَاءُ، وَيَقْبُضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيهِمْ، ثُمَّ يَأْتِي زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْمُشْرِكُ الْمُؤْمِنَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ إِلَّا دَرَّاجٌ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دو سینگوں والے کالے مینڈھوں کی قربانی کی فرمایا: تجھ پر تیرے اللہ کے نام سے محمد اور آل محمد کی طرف سے پھر دوسرا ذبح کیا تو فرمایا: اللہ کے نام سے تجھے اور تیرے لیے میری امت میں سے ان کی طرف سے جو لا الہ الا اللہ پڑھیں گے (اور قربانی کی طاقت نہ رکھیں گے)۔

یہ حدیث حجاج سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جو اس رشتے دار کو دیا جائے جو تم سے دُوری اختیار کرے اور اعراض کرے۔

یہ حدیث زہری سے صرف حجاج بن ارطاة روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے ایک عورت سے سونے کی ایک ڈلی کے وزن کے برابر مہر کے بدلے شادی کی۔

یہ حدیث حجاج سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3278 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: ضَحَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَبْشَيْنِ أَقْرَبَيْنِ أَمْلَحَيْنِ، قَرَّبَ أَحَدَهُمَا، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَهْلِ بَيْتِهِ - ثُمَّ قَرَّبَ الْآخَرَ، فَقَالَ: بِسْمِ اللَّهِ مِنْكَ وَلَكَ، هَذَا عَنْ مَنْ وَحَدَّثَكَ مِنْ أُمَّتِي لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ

3279 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ

3280 - وَبِهِ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ، تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى وَزْنِ نَوَاقٍ مِنْ ذَهَبٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا أَبُو مُعَاوِيَةَ

3279 - أخرجه أحمد في المسند جلد 5 صفحہ 486 رقم الحديث: 23591، والطبرانی في الكبير جلد 4 صفحہ 138

رقم الحديث: 3923. وقال الحافظ الهيثمي: وفيه الحجاج بن أرطاة وفيه كلام. انظر: مجمع الزوائد جلد 3

صفحہ 119.

3280 - أخرجه البخاري في النكاح جلد 9 صفحہ 111 رقم الحديث: 5148، ومسلم في النكاح جلد 2 صفحہ 1042.

یہ حدیث صالح سے صرف خالد بن ایاس روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابو معاویہ اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز میں قدموں کے بل اٹھتے تھے۔

یہ حدیث صالح سے خالد بن ایاس روایت کرتے ہیں اور خالد سے صرف ابو معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: حج و عمرہ کے لیے حاضر ہوں (یعنی حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا تلبیہ کہا)۔

یہ حدیث زہری سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حمیر قبیلہ کے کچھ لوگ حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے، آپ سے پوچھنے لگے، اُن میں سے ایک آدمی نے عرض کی:

وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْيَاسِ، عَنْ صَالِحٍ، مَوْلَى النَّوَامَةِ،

3281 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَضُ فِي الصَّلَاةِ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَالِحِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ الْيَاسِ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو مُعَاوِيَةَ

3282 - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: لَبَيْكَ بِحَجَّةٍ وَعُمْرَةٍ مَعًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ

3283 - وَبِهِ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَنْشِ الصَّنْعَانِيِّ، عَنِ ابْنِ

3281 - أخرجه الترمذی فی الصلاة جلد 2 صفحہ 80 رقم الحدیث: 288. وقال: فیہ خالد بن الیاس ضعیف عند أهل الحدیث. وعزاه الحافظ الزیلعی أيضاً الی ابن عدی فی الکامل. انظر: نصب الرایة جلد 1 صفحہ 389.

3282 - أخرجه البخاری فی المغازی جلد 7 صفحہ 669 رقم الحدیث: 4353-4354. من طریق حمید الطویل حدثنا بكر أنه ذکر لابن عمر أن أنسًا حدثهم أن النبی ﷺ أهل بعمره وحجة. ومسلم فی الحج جلد 2 صفحہ 905 بلفظ: سمعت النبی ﷺ یلبی بالحج والعمره جميعًا. وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 225 رقم الحدیث: 12903 ولفظه عنده.

3283 - أخرجه الطبرانی فی الکبیر جلد 12 صفحہ 236 رقم الحدیث: 12983 وعزاه الحافظ السیوطی فی الدر المنثور أيضاً الی ابن جریر وابن أبی حاتم والخرائطی. انظر: الدر المنثور جلد 1 صفحہ 262-263.

میں عورتوں سے محبت کرتا ہوں، میں پسند کرتا ہوں کہ پیچھے سے اُن کے ساتھ جماع کروں (یعنی اگلے حصے میں) آپ کیا خیال کرتے ہیں؟ اللہ عزوجل نے یہ آیت نازل فرمائی: ”تمہاری عورتیں تمہاری بھتی ہیں، اپنی کھیتوں میں آؤ جس طرح چاہو“۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: آگے یا پیچھے سے آؤ جب کہ فرج میں ہو۔

یہ حدیث یزید بن ابی حبیب سے صرف ابن لہیعہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے رمضان کا مہینہ پایا اس کے ذمہ دوسرے رمضان کے روزوں کی قضاء تھی تو اس نے وہ قضاء نہیں کیے تھے اس کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے والے ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت رویف بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے مجھ پر درود پڑھا اور عرض کی: ”اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“ اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

عَبَّاسٌ، أَنَّ أَنَسًا مِنْ حَمِيرٍ أَتَوَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُونَهُ، فَقَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ: إِنِّي أَحْبَبْتُ النِّسَاءَ، وَأَحْبَبْتُ أَنْ آتِيَ امْرَأَتِي مُجَبَّيَةً، فَكَيْفَ تَرَى؟ فَانزَلَ اللَّهُ تَعَالَى: (نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ) (البقرة: 223) فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: آئِهَا مُقْبِلَةٌ وَمُدْبِرَةٌ، إِذَا كَانَ ذَلِكَ فِي الْفَرْجِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ إِلَّا ابْنَ لَهِيْعَةَ

3284 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَافِعٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَدْرَكَهُ رَمَضَانٌ وَعَلَيْهِ رَمَضَانُ آخِرُ لَمْ يَقْضِهِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُ لَا يَرُوي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3285 - وَبِهِ عَنِ ابْنِ لَهِيْعَةَ، عَنْ بَكْرِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ نَعِيمٍ، عَنْ وِقَاءِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٍ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَجَبَتْ لَهُ

3284 - أخرجه أحمد في المسند جلد 2 صفحہ 468 رقم الحديث: 8642. وقال الحافظ الهيثمي: وفيه ابن لهيعة وحديثه

حسن وفيه كلام وبقيته رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 152.

3285 - أخرجه أيضاً الكبير، والبخاري، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 166: وأسانيدهم حسنة.

شَفَاعَتِي

یہ حدیث روایع سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے حمام کے متعلق پوچھا آپ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد حمام ہوں گے عورتوں کے حمام میں خیر نہیں ہے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! تہبند پہن کر داخل ہوں؟ آپ نے فرمایا: نہیں! اگرچہ وہ تہبند چادر اور اوڑھنی چادر پہن کر داخل ہوں جو عورت اپنے شوہر کے گھر کے علاوہ اپنا کپڑا اتارتی ہے تو اللہ اور اس کے درمیان جو پردہ ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث عروہ سے صرف ابواسود روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جمعہ کے دن ہر بالغ پر غسل فرض ہے اور خوشبو لگانا اگرچہ اپنی اہلیہ کی ہو۔

یہ حدیث عمرو بن سلیم سے صرف ابوبکر بن منذر روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے بکیر بن عبداللہ اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رُوَيْفِعِ إِلَّا بِهِذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3286 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ أَبِي
الْأَسْوَدِ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَمَامِ، فَقَالَ: إِنَّهُ
سَيَكُونُ بَعْدِي حَمَامَاتٌ، وَلَا خَيْرَ فِي الْحَمَامَاتِ
لِلنِّسَاءِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَإِنَّهَا تَدْخُلُهُ بِأَزَارٍ؟
فَقَالَ: لَا، وَإِنْ دَخَلَتْهُ بِأَزَارٍ وَدِرْعٍ وَحِمَارٍ، وَمَا مِنْ
أَمْرَاءَةٍ تَنْزِعُ حِمَارَهَا فِي غَيْرِ بَيْتٍ زَوْجَهَا إِلَّا
كَشَفَتِ السِّرَّ فِيمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ رَبِّهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو
الْأَسْوَدِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهِيْعَةَ

3287 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي
سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى
كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطَّيِّبِ، وَلَوْ مِنْ طَيْبِ
أَهْلِيهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمِ إِلَّا
أَبُو بَكْرِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، تَفَرَّدَ بِهِ بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کے ساتھ اللہ عزوجل بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے۔

یہ حدیث سالم سے صرف عباد اور عباد سے صرف ابن لہیعہ اور عمرو بن حارث روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن عدیس بلوی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: کچھ لوگ نکلیں گے وہ دین سے اس طرح نکلیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے وہ لبنان کے پہاڑ او ر جلیل کے پہاڑ والوں کو قتل کریں گے۔ ابن لہیعہ فرماتے ہیں: ابن عدیس کو لبنان یا جلیل کے پہاڑ کے پاس قتل کیا گیا۔

یہ حدیث عبدالرحمن بن عدیس سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تیج کو گالی نہ دو کیونکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔

یہ حدیث سہل بن سعد سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن لہیعہ اکیلے ہیں۔

3288 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبَّادِ بْنِ سَالِمٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا فَقَّهَهُ فِي الدِّينِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمٍ إِلَّا عَبَّادٌ، وَلَا عَنْ عَبَّادٍ إِلَّا ابْنُ لَهَيْعَةَ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ

3289 - وَبِهِ نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ شِمَاسَةَ، حَدَّثَهُ، عَنْ تَبِيعِ الْحَجْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسِ الْبَلَوِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَخْرُجُ أَنَاسٌ يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُقْتَلُونَ بِجَبَلِ لُبْنَانَ، أَوْ بِجَبَلِ الْجَلِيلِ قَالَ ابْنُ لَهَيْعَةَ: فَقَتِلَ ابْنُ عُدَيْسٍ بِجَبَلِ لُبْنَانَ، أَوْ بِجَبَلِ الْجَلِيلِ

لَا يَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عُدَيْسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3290 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا أَبُو زُرْعَةَ عَمْرُو بْنُ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَسْبُوا تَبَعًا، فَإِنَّهُ قَدْ أَسْلَمَ

لَا يَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ لَهَيْعَةَ

حضرت ابورافع فرماتے ہیں جو صاحب ذراع ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے بکری کی دستی دو! میں نے آپ کو دی تو پھر مجھے فرمایا: مجھے دستی دو! میں نے آپ کو دی پھر فرمایا: مجھے دستی دو! میں نے عرض کی: اے اللہ کے نبی! بکری کی دو ہی دستی ہوتی ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر تو مجھے پکڑاتا جاتا تو میں نے مسلسل پکڑتے رہنا تھا۔

یہ حدیث حسن بن علی بن رافع سے صرف بکیر بن عبداللہ بن اشج ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی کہ ہم کو غزوہ تبوک کے متعلق بتائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم حضور ﷺ کے ساتھ تبوک کی طرف سخت گرمی میں نکلے، ہمیں پیاس لگی، قریب تھا کہ ہماری گردنیں الگ ہو جائیں، یہاں تک کہ ایک آدمی پانی تلاش کرنے کے لیے جاتا واپس آتا تو گمان ہوتا کہ اس کی گردن ٹوٹ جائے گی، یہاں تک کہ ایک آدمی اپنا اونٹ نحر کرتا اس کا پیشاب نچوڑتا اور اس کو پیتا اور باقی اپنے پاس رکھتا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! بے شک اللہ نے آپ کی دعا میں برکت

3291 - وَيَه نَابِن لِهَيْعَةَ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، أَنَّهُ حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَاهُ، حَدَّثَهُ أَنَّ أَبَا رَافِعٍ، حَدَّثَهُ، أَنَّهُ كَانَ صَاحِبَ الذَّرَاعِ قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ، فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ فَنَاوَلْتُهُ، ثُمَّ قَالَ: نَاوِلْنِي الذَّرَاعَ. فَقُلْتُ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، وَلِلشَّاةِ غَيْرُ ذِرَاعَيْنِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ نَاوَلْتَنِي مَا زِلْتُ تَنَاوِلْنِي لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي رَافِعٍ إِلَّا بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ

3292 - وَيَه حَدَّثَنَا ابْنُ لِهَيْعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هَلَالٍ، عَنْ عُبَيْةَ بْنِ أَبِي عُتْبَةَ، حَدَّثَهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قِيلَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ: جَدَّثَنَا عَنْ شَانَ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ، فَقَالَ عُمَرُ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى تَبُوكَ فِي قَيْظٍ شَدِيدٍ، فَزَلْنَا مَنْزِلًا أَصَابَنَا فِيهِ عَطَشٌ، ظَنْنَا أَنَّ رِقَابَنَا سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لِيَذْهَبُ يَلْتَمِسُ الْمَاءَ يَرْجِعُ حَتَّى يَظَنَّ أَنَّ رِقَبَتَهُ سَتَنْقَطِعُ، حَتَّى إِنْ كَانَ الرَّجُلُ لَيَنْحَرُ بَعِيرَهُ، فَيَعْصُرُ قَرْنَهُ، فَيَشْرَبُهُ، وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ عَلَى كَبِدِهِ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ

3291 - أخرجه أيضاً الكبير، وأحمد جلد 6 صفحہ 392.. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 8 صفحہ 314. وأحد

اسنادی أحمد حسن .

3292 - أخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار جلد 2 صفحہ 354). وقال الهيثمي في المعجم جلد 6 صفحہ 198: ورجال

البزار ثقات .

رکھی ہے، آپ ہمارے لیے دعا کریں، آپ نے فرمایا: کیا آپ پسند کرتے ہیں؟ حضرت ابو بکر نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے دونوں دست مبارک اٹھائے، آپ ہاتھ واپس نہیں لائے تھے یہاں تک کہ بادل آئے اور برسے یہاں تک کہ جو برتن پاس تھے وہ بھر گئے۔

یہ حدیث نافع بن جبیر سے صرف عتبہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے والے سعید بن ابی ہلال اکیلے ہیں۔

حضرت سالم بن عبد اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی عادت تھی کہ جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا تو آپ فرماتے تھے: اس کو آگے کرو! ہمارے عثمان بن مظعون سے وہ اچھی سبقت لے جانے والے ہیں۔

یہ حدیث سالم سے صرف موسیٰ بن عمرو بن قدامہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبدالرحمن بن سائب الہلالی، حضرت میمونہ زوجہ نبی ﷺ کے بھائی کے بیٹے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اے میرے بھائی کے بیٹے! آؤ! تجھے رسول اللہ ﷺ والا دم کرتے

اللَّهُ، إِنَّ اللَّهَ قَدْ عَوَّذَكَ فِي الدُّعَاءِ خَيْرًا، فَادْعُ لَنَا، فَقَالَ: اتَّحِبُّ ذَلِكَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَرَفَعَ يَدَيْهِ، فَلَمْ يُرْجِعْهُمَا حَتَّى انْقَمَاتِ السَّحَابُ، فَأَمْطَرَتْ، ثُمَّ سَكَنْتُ فَمَلَأُوا مَا مَعَهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ إِلَّا عُتْبَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ أَبِي هَلَالٍ

3293 - وَبِهِ حَدَّثَنَا ابْنُ لَهَيْعَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ الْمَدَنِيُّ، أَنَّ مُوسَى بْنَ عَمْرٍو بْنِ قَدَامَةَ بْنِ مَطْعُونٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا مَاتَ مَيِّتٌ قَالَ: قَدِمُوهُ عَلَيَّ فَرَطْنَا عُثْمَانَ بْنَ مَطْعُونٍ، فَنِعْمَ الْفَرَطُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَالِمِ إِلَّا مُوسَى بْنَ عَمْرٍو بْنِ قَدَامَةَ

3294 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَزْهَرَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ السَّائِبِ الْهَلَالِيِّ، وَهُوَ: ابْنُ أَخِي مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى

3293 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 12 صفحہ 295. وقال الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحہ 305: واسناد الكبير ضعيف وفي اسناد الأوسط من لم أعرفهم .

3294 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 23 صفحہ 438. وقال الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 116: وفيه عبد الله بن صالح . كاتب الليث وقد وثق وفيه ضعف وعلى كل حال اسناده حسن، وسند الأوسط أجود . قلت: اسناد الكبير هو نفس اسناد الأوسط .

ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے پڑھا: ”بِسْمِ اللّٰهِ اِلٰی آخِرِهِ“۔

اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: قَالَتْ مَيْمُونَةُ: يَا ابْنَ اٰحِي، تَعَالَ اَرْقِيكَ بِرُقِيَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: بِسْمِ اللّٰهِ اَرْقِيكَ، وَاللّٰهُ يَشْفِيكَ مِنْ كُلِّ دَاءٍ فِيكَ، اَذْهَبِ الْبَاسَ رَبَّ النَّاسِ، اَشْفِ لَا شَافِيَ اِلَّا اَنْتَ

یہ حدیث کعب بن عیاض سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں معاویہ بن صالح اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوٰی هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَيْمُونَةَ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

حضرت کعب بن عیاض رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہر امت کے لیے کوئی فتنہ تھا میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔

3295 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، اَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ لِكُلِّ اُمَّةٍ فِتْنَةً، وَاِنَّ فِتْنَةَ اُمَّتِي الْمَالُ

یہ حدیث کعب بن عیاض سے صرف اسی سند سے مروی ہے اس کو روایت کرنے والے معاویہ بن صالح اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوٰی هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ كَعْبِ بْنِ عِيَاضٍ اِلَّا بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ

حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں خدمت کے لیے نلام دینا، یا سایہ کیلئے خیمہ دینا یا دودھ دینے والا جانور دینا۔

3296 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ كَثِيْرِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ الْقَاسِمِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ، اَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ، اَتَى الصَّدَقَةَ اَفْضَلُ؟ فَقَالَ: خِدْمَةُ عَبْدٍ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، اَوْ

3295- أخرجه الترمذی فی الزهد جلد 4 صفحہ 569 رقم الحدیث: 2336 وقال: هذا حدیث حسن صحیح غریب انما

نعرفه من حدیث معاویة بن صالح . و أحمد فی المسند جلد 4 صفحہ 198 رقم الحدیث: 17483 .

3296- أخرجه الترمذی فی فضائل الجهاد جلد 4 صفحہ 168 رقم الحدیث: 1626، والطبرانی فی الکبیر جلد 17

صفحہ 105-106 رقم الحدیث: 255، والحاکم فی المستدرک جلد 2 صفحہ 90-91 . انظر: الدر المنثور

للسیوطی جلد 1 صفحہ 226 .

ظَلَّ فُسْطَاطٍ، أَوْ طَرَوْقَةً فَحَلَّ

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

یہ حدیث عدی بن حاتم سے صرف اسی سند سے
روایت ہے اس کو روایت کرنے والے معاویہ اکیلے
ہیں۔

3297 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، عَنْ ضَمْرَةَ بِنِ

حَبِيبٍ، عَنْ عَنبَسَةَ بِنِ أَبِي سُفْيَانَ، أَنَّهُ سَمِعَ أُمَّ
حَبِيبَةَ، زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ:
كُنْتُ أَنَا وَرَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصَلِّي
فِي الثُّوبِ الْوَّاحِدِ، وَفِيهِ كَانَ مَا كَانَ، قَالَتْ: أَصَلِّي
فِيهِ وَبُصَلِّي فِيهِ، يَعْنِي: الثُّوبَ الَّذِي يُجَامَعُ فِيهِ.

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور
حضور ﷺ ایک کپڑے میں نماز پڑھتے تھے۔ فرماتی
ہیں: میں اس کپڑے میں اور آپ بھی اس کپڑے میں
یعنی جس میں جماع کرتے تھے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَنبَسَةَ إِلَّا ضَمْرَةَ،
تَفَرَّدَ بِهِ مُعَاوِيَةُ

یہ حدیث عنبہ سے صرف ضمیرہ ہی روایت کرتے
ہیں ان سے روایت کرنے والے معاویہ اکیلے ہیں۔

3298 - وَبِهِ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ، أَنَّ عَبْدَ

الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ
عَمْرِو بْنِ الْحَمِقِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِعَبْدٍ خَيْرًا
عَسَلَهُ. قَالَ: وَهَلْ تَدْرِي مَا عَسَلَهُ؟. قَالُوا: اللَّهُ
وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: يَفْتَحُ لَهُ عَمَلًا صَالِحًا بَيْنَ يَدَيْ

حضرت عمرو بن حتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں
نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب اللہ
عزوجل کسی بندے سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو
عمل کرنے دیتا ہے۔ فرمایا: جانتے ہو غسل سے کیا مراد
ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: اللہ اور اس کا رسول زیادہ
جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: بندہ کو مرنے سے پہلے نیک

3297 - أخرجه أبو داؤد والنسائي وابن ماجه والدارمي وأحمد بلفظ: عن معاوية بن أبي سفيان: أنه سأل أخته أم حبيبة زوج

النبي ﷺ: هل كان رسول الله ﷺ يصلي في الثوب الذي يجامعها فيه؟ فقالت: نعم، إذا لم يرى فيه أذى. أخرجه

أبو داؤد في الطهارة جلد 1 صفحہ 98 رقم الحديث: 366، والنسائي في الطهارة جلد 1 صفحہ 127 (باب المنى

يصب الثوب) وابن ماجه في الطهارة جلد 1 صفحہ 179 رقم الحديث: 540، والدارمي في الصلاة جلد 1

صفحہ 369 رقم الحديث: 1376، وأحمد في المسند جلد 6 صفحہ 453 رقم الحديث: 27471.

3298 - أخرجه أيضاً أحمد جلد 5 صفحہ 224، والبخاري (كشف الأستار جلد 4 صفحہ 25) وعزاه الهيثمي في المجمع

جلد 7 صفحہ 217 الى الكبير، وقال: ورجال أحمد والبخاري رجال الصحيح.

مَوْتِهِ، حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ حَبِيبُهُ وَمَنْ حَوَّلَهُ

عمل کی توفیق دیتا ہے یہاں تک کہ اس سے اس کا دوست
اور ارد گرد والے خوش ہو جاتے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِوِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُعَاوِيَةُ

حضرت عمرو سے اس حدیث کو اسی سند سے روایت
کیا گیا، اس کے ساتھ حضرت معاویہ منفرد ہیں۔

3299 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ الدِّمَاطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ
الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ
جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الشَّهِيدُ يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ
دَفْقَةٍ مِنْ دَمِهِ، وَيُزَوَّجُ حَوْرًا وَوَيْنَ، وَيُشْفَعُ فِي سَبْعِينَ
مِنْ أَهْلِهِ، وَالْمُرَابِطُ إِذَا مَاتَ فِي رِبَاطِهِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ
أَجْرَ عَمَلِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَغَدَى وَرِيحٌ عَلَيْهِ
بِرِّزْقِهِ، وَزَوْجٌ سَبْعِينَ حَوْرَاءَ، وَقِيلَ لَهُ: قِفْ، فَاشْفَعْ
إِلَى أَنْ يَفْرَغَ الْحِسَابُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: شہید کے سارے گناہ خون کے پہلے
قطرے سے معاف ہو جاتے ہیں، اس کی شادی کئی
حوروں سے کی جاتی ہے، وہ اپنے ستر گھر والوں کی
شفاعت کرے گا، اللہ کی راہ میں نگہبانی کرنے والا جب
نگہبانی کرتے ہوئے مرتا ہے تو اللہ عزوجل اس کا اجر
قیمت تک لکھتا رہے گا، صبح و شام اس کو رزق دیا جائے گا
(یعنی درجات بلند کیے جائیں گے) اس سے کہا جائے گا:
رُک جا! میں حساب سے فارغ ہونے تک تیری شفاعت
قبول کروں گا۔

لَمْ يُرَوِ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا ابْنُ
أَبِي رَوَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف ابن ابی رواد
روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمن بن
ابی جعفر اکیلے ہیں۔

3300 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ قَالَ: نَا
مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا شُعَيْبُ
بْنُ إِسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الصَّلْتِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَطِئَ امْرَأَتَهُ
وَهِيَ حَائِضٌ، فَقَضَى بَيْنَهُمَا وَلَدٌ، فَاصَابَهُ جَدَامٌ فَلَا
يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے حالت حیض میں اپنی بیوی
سے جماع کیا، اس دوران کہ وہ حاملہ ہو گئی، اس کو کوڑھ کی
بیماری لگی تو وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے۔

یہ حدیث زہری سے صرف حسن بن صلت جو شام والوں کے بزرگ ہیں روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن ابی سری اکیلے ہیں۔

حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جب مجھے یمن کی طرف بھیجا تو فرمایا: قرآن کو نہ چھو نا مگر اس حالت میں کہ تو پاک ہو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا الْحَسَنُ بَنُ الصَّلْتِ، شَيْخٌ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ

3301 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلِ الْبُصْرِيِّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْقُوصِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: حَدَّثَنَا سُؤَيْدُ أَبُو حَاتِمٍ قَالَ: نَا مَطَرُ الْوَرَّاقِ، عَنْ حَسَّانَ بْنِ بِلَالٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ قَالَ: لَا تَمَسَّ الْقُرْآنَ إِلَّا وَأَنْتَ طَاهِرٌ

یہ حدیث مطر الوراق سے صرف سوید بن ابوحاتم روایت کرتے ہیں اور حکیم بن حزام سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَطَرِ الْوَرَّاقِ إِلَّا سُؤَيْدُ أَبُو حَاتِمٍ، وَلَا يَرَوِي عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن کا آپس میں دور کیا کرو! یہ سینوں سے اتنا ہی جلدی نکلتا ہے جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں کو جلدی جلدی واپس آتے ہیں۔

3302 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُقْبِلِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هُوْدَةَ بْنِ خَلِيفَةَ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نَا عَمِي عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عُبَيْدَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَاهَدُوا الْقُرْآنَ، فَلَهُوَ أَشَدُّ تَفْصِيًّا مِنْ صُدُورِ الرَّجَالِ مِنْ نَوَازِعِ الطَّيْرِ إِلَى أَوْطَانِهَا

یہ حدیث ابن عون سے صرف عمرو بن خلیفہ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالملک بن ہوذہ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ إِلَّا عَمْرُو بْنُ خَلِيفَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ هُوْدَةَ

3301 - أخرجه أيضًا الكبير، وقال الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 280: وفيه سويد أبو حاتم فذكر ما تقدم .

3302 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 110، والكبير، إلا أن فيه الأبل بدل الطير . وقال الهيثمي في المجمع

جلد 7 صفحہ 172: ورجال الصغير والأوسط ثقات .

اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ (نماز میں) سلام پھیرنے کے بعد اتنی دیر بیٹھے تھے جتنی دیر میں یہ کلمات پڑھ لیتے: ”اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ إِلَى آخِرِهِ“۔

یہ حدیث ہشام سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف عبداللہ بن معاویہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ام فروہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل کو اعمال میں زیادہ پسند یہ ہے کہ نماز اول وقت پر ادا کی جائے۔

عبید اللہ بن عمر سے صرف قزعة بن سوید ہی روایت کرتے ہیں۔

3303 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمْحِيُّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْلِسُ بَعْدَمَا يُسَلِّمُ حَتَّى يَقُولَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامٍ إِلَّا وَهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وَهَيْبٍ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ

3304 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سَعْدَوِيَةَ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ: نَا قَزْعَةَ بْنُ سُوَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَنَامٍ، عَنْ بَعْضِ أُمَّهَاتِهِ، عَنْ أُمِّ فَرَوَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا قَزْعَةَ بْنُ سُوَيْدٍ



- 3303 -** أخرجه مسلم في المساجد جلد 1 صفحہ 414؛ وأبو داؤد في الصلاة جلد 2 صفحہ 85 رقم الحديث: 1513؛ والترمذی في الصلاة جلد 2 صفحہ 95 رقم الحديث: 298؛ والنسائی في السهو جلد 3 صفحہ 58 (باب الذكر بعد الاستغفار)؛ وابن ماجة في الاقامة جلد 1 صفحہ 298 رقم الحديث: 924؛ والدارمی: في الصلاة جلد 1 صفحہ 358 رقم الحديث: 1347؛ وأحمد في المسند جلد 6 صفحہ 70 رقم الحديث: 24392.
- 3304 -** أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 113 رقم الحديث: 426؛ والترمذی في الصلاة جلد 1 صفحہ 320 رقم الحديث: 170؛ وأحمد في المسند جلد 6 صفحہ 464 رقم الحديث: 27544.

اس شیخ کے نام سے جس کا نام بشران ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی زمین کو کرایہ پر دی مجھے رافع بن خدیج نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے زمین کو کرایہ پر دینے سے منع کرتے تھے میں نے چھوڑ دیا۔

یہ حدیث برد بن سنان سے صرف ثابت بن یزید روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں غسان بن ربیع اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ڈر ہے جو آدمی اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے اللہ عزوجل اس کے سر کو گدھے کے سر سے نہ بدل دے۔

مَنْ اسْمُهُ بُشْرَانُ

3305 - حَدَّثَنَا بُشْرَانُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ

الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُؤَاجِرُ أَرْضَهُ، حَتَّى حَدَّثَهُ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كَرِي الْأَرْضِ، فَتَرَكَ ذَلِكَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ بُرْدِ بْنِ سِنَانَ إِلَّا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ

3306 - حَدَّثَنَا بُشْرَانُ قَالَ: نَا غَسَّانُ قَالَ:

نَا ثَابِتٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَمَا يَخْشَى الَّذِي يَرْفَعُ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ؟



3305 - أخرجه مسلم في البيوع جلد 3 صفحہ 1180 .

3306 - أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 214 رقم الحدیث: 691، ومسلم فی الصلاة جلد 1 صفحہ 320 رقم

الحدیث: 427 .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام بجیر ہے

مَنْ اسْمُهُ بَجِيرٌ

حضرت طارق بن عبد اللہ المزنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تو نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے آگے اور دائیں جانب نہ تھوک، اگر تھوکنا ہے تو بائیں جانب یا اپنے پاؤں کے نیچے تھوک۔

یہ حدیث غیلان سے صرف یعلیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے منع فرمایا کہ کوئی آدمی نماز سے پہلے قربانی کرے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

3307 - حَدَّثَنَا بَجِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ جَابِرِ الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى بْنِ الْحَارِثِ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعِ الْمُحَارِبِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُحَارِبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا صَلَّيْتَ فَلَا تَبْزُقْ بَيْنَ يَدَيْكَ، وَلَا عَنْ يَمِينِكَ، وَلَكِنْ ابْزُقْ تَلْقَاءَ شِمَالِكَ إِنْ كَانَ فَارِغًا، أَوْ تَحْتَ قَدَمَيْكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غِيلَانَ إِلَّا يَعْلَى

3308 - وَبِهِ عَنْ غِيلَانَ بْنِ جَامِعٍ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَذْبَحَ الرَّجُلُ أُضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ

3309 - وَبِهِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى، عَنْ

3307 - أخرجه أبو داؤد في الصلاة جلد 1 صفحہ 126 رقم الحديث: 478، والترمذی في الصلاة جلد 2 صفحہ 460 رقم الحديث: 571 وقال: هذا حديث حسن صحيح، والنسائی في المساجد جلد 2 صفحہ 40 (باب الرخصة المصلى أن يصدق خلفه أو تلقاء شماله) وابن ماجه في اقامة الصلاة جلد 1 صفحہ 326 رقم الحديث: 1021 بنحوه .

3308 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 112 وقال: ولم يروه عن غيلان بن جامع الا يعلی بن الحرث تفرد به ابنه يحيى وأصله في البخاری ومسلم بغير هذا اللفظ .

3309 - أخرجه البخاری في الصوم جلد 4 صفحہ 152 رقم الحديث: 1914، ومسلم في الصيام جلد 2 صفحہ 762 ولفظ

عند البخاری .

ﷺ نے فرمایا: کوئی بھی رمضان سے پہلے ایک یا دو دن پہلے روزے نہ رکھے ہاں اگر کسی کی عادت ہو کہ وہ اس دن روزہ رکھتا تھا تو وہ رکھ سکتا ہے۔

أَبِيهِ، عَنْ بَكْرِ بْنِ وَاثِلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ،
عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا
يُتَقَدَّمَنَّ بِصِيَامِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ قَبْلَ رَمَضَانَ، إِلَّا أَنْ
يَكُونَ صِيَامًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ بَكْرِ
إِلَّا يَعْلَى



اس شیخ کے نام سے جس کا نام بابویہ ہے

مِنْ اسْمِهِ بَابُويِهِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہمیں دو پہر کی نمازوں میں سے یعنی ظہر یا عصر میں سے ایک پڑھائی تو دو رکعتوں میں کھڑے ہو گئے۔ ایک آدمی اٹھ کر آگے ہوا۔ اُسے ذوالیدین کہا جاتا تھا۔ کہا: اے اللہ کے رسول! کیا نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: بلکہ میں بھولا ہوں، آپ اٹھے اور دو مزید رکعتیں پڑھائیں پھر بیٹھے بیٹھے دو سجدے کر کے سجدہ سہو کیا پھر سلام پھیرا۔

3310 - حَدَّثَنَا بَابُويِهِ بْنُ خَالِدِ بْنِ بَابُويِهِ الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةَ بْنَ عَبْدِ الْكَرِيمِ الضَّالُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: صَلَّى بِنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدَى صَلَاتِي الْعَشِيِّ: الظُّهْرَ أَوْ الْعَصْرَ، فَقَامَ فِي الرَّكَعَتَيْنِ، فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: ذُو الْيَدَيْنِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْسَيْتَ أَوْ قَصِرْتَ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: بَلْ نَسَيْتُ فَقَامَ فَصَلَّى الرَّكَعَتَيْنِ، ثُمَّ سَجَدَ سَجَدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ، ثُمَّ سَلَّمَ

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے سونا پہننے اور چاندی کے برتن بنانے سے منع فرمایا، عورتوں نے سونا پہننے کے متعلق بات کی، آپ نے ہم کو سونا پہننے کی رخصت نہ دی اور ہم کو پیالوں پر چاندی چڑھانے کی رخصت دی۔

3311 - وَبِهِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ الضَّالُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أُخْتِهِ، عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ قَالَتْ: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الذَّهَبِ، وَتَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ، فَكَلَّمَهُ النِّسَاءُ فِي لُبْسِ الذَّهَبِ، فَأَبَى عَلَيْنَا، وَرَخَّصَ لَنَا فِي تَفْضِيضِ الْأَقْدَاحِ

یہ دونوں حدیثیں معاویہ سے صرف عمر بن یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں ان دونوں نے اس شیخ سے سنا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا عُمَرُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا سَمِعْنَاهَا إِلَّا مِنْ هَذَا الشَّيْخِ



3310 - أخرجه البخارى فى الصلاة جلد 1 صفحه 674 رقم الحديث: 482، ومسلم فى المساجد جلد 1 صفحه 403.

3311 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 25 صفحه 68، وقال الهيثمى فى المجمع جلد 5 صفحه 152: وفيه عمر بن يحيى الأيلى.

ولم أعرّفه، وبقية رجاله ثقات. قلت: هو معروف لكنه ضعيف.

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام بہلول ہے

مَنْ اسْمُهُ
بُهْلُولٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! میری امت کے صبح کے کاموں
میں برکت دے۔

3312 - حَدَّثَنَا بُهْلُولُ بْنُ اسْحَاقَ بْنِ
بُهْلُولِ الْأَنْبَارِيِّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجَدْعَانِيُّ،
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اللَّهُمَّ بَارِكْ
لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا مُحَمَّدٌ
تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ

یہ حدیث عبد اللہ سے صرف محمد ہی روایت کرتے
ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن ابی اویس اکیلے ہیں۔



3312 - أخرجه ابن ماجة فى التجارات جلد 2 صفحہ 752 رقم الحديث: 2238، والطبرانى فى الكبير جلد 12
صفحہ 375 رقم الحديث: 13390 . وقال الحافظ الهيثمى: وفيه محمد بن عبد الرحمن الجدعانى وثقه أحمد
وأبو زرعة، وقال النسائى وغيره متروك . انظر: مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 65 .

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام بختری ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور ﷺ احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگاتے تھے۔

یہ حدیث ابو عوانہ سے صرف کامل بن طلحہ ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے صبح اور عشاء کی نماز کے لیے عورتوں کو مسجد میں
آنے کی رخصت دی۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ
نے فرمایا: نخروہ ہے جس دن تم نحر کرتے ہو اور عید الفطر اسی
دن ہے جس دن تم عید مناتے ہو۔

مَنْ اسْمُهُ
الْبَخْتَرِيُّ

3313 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ
الْبَخْتَرِيِّ اللَّخْمِيُّ الْبَغْدَادِيُّ أَبُو صَالِحٍ قَالَ: نَا
كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ الْجَحْدَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَطَيَّبَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ إِلَّا كَامِلُ
بْنُ طَلْحَةَ

3314 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَمَاعَةَ قَالَ: نَا أَبُو يُونُسَ الْقَاصِي، عَنْ أَبِي حَنِيْفَةَ،
عَنْ أَبِي الْهَدَيْلِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِلنِّسَاءِ فِي الْخُرُوجِ لِصَلَاةِ
الْعَدَاةِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ

3315 - حَدَّثَنَا الْبَخْتَرِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ
الْجَعْدِ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عِيَاضٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَزْمٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ،
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: النَّحْرُ يَوْمَ
تَنْحَرُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُونَ



3313 - أصله عند البخاری ومسلم من طريق عبد الرحمن بن القاسم، عن أبيه . أخرجه البخاری في الحج جلد 3 صفحہ 463

رقم الحدیث: 1539 بلفظ: كنت أطيب رسول الله ﷺ لأحرامه حين يحرم، ومسلم في الحج جلد 2

صفحہ 849 .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام بدر ہے

مَنْ اسْمُهُ بَدْرٌ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بنو آدم کے مختلف طبقات ہیں ان میں سے کچھ ایمان پر پیدا ہوئے اور ایمان کی حالت میں جئے اور ایمان کی حالت میں اس دنیا سے گئے ان میں سے کچھ حالت کفر میں پیدا ہوئے اور حالت کفر میں جئے اور حالت کفر میں مرے ان میں سے کچھ حالت ایمان میں پیدا ہوئے اور حالت ایمان میں جئے اور حالت کفر میں فوت ہوئے ان میں سے کچھ حالت کفر میں پیدا ہوئے اور حالت کفر میں جئے اور حالت ایمان میں مرے۔

یہ حدیث داؤد بن ابی ہند سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف معلیٰ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن احمد بن جراح اکیلے ہیں۔

3316 - حَدَّثَنَا بَدْرُ بْنُ الْهَيْثَمِ الْقَاضِي الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَرَّاحِ الْجَوْرَجَانِيَّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدِ الْعَمِّيَّ قَالَ: نَا وَهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَنُو آدَمَ عَلَى طَبَقَاتٍ شَتَّى مِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ مُؤْمِنًا وَيَحْيَى مُؤْمِنًا وَيَمُوتُ كَافِرًا، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَلَّدُ كَافِرًا وَيَحْيَى كَافِرًا وَيَمُوتُ مُؤْمِنًا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا وَهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وَهَيْبٍ إِلَّا مُعَلَّى، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْجَرَّاحِ



3316 - أخرجه الترمذی فی الفتن جلد 4 صفحہ 483 رقم الحدیث: 2191 وقال: حدیث حسن صحیح وأحمد فی المسند

جلد 3 صفحہ 24 رقم الحدیث: 11149 -

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام بلبل ہے

حضرت سمرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے اصحاب سمندر میں کشتیوں پر چل کر تجارت کرتے ہوئے ملک شام تک جایا کرتے تھے۔

مَنْ اسْمُهُ
بَلْبُلٌ

3317 - حَدَّثَنَا بَلْبُلُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ بَلْبُلٍ
الْخَلَّالُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ
قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ
سَمُرَةَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَجَرُّونَ فِي الْبَحْرِ، إِلَى الشَّامِ



بَابُ التَّاءِ مَنْ اسْمُهُ تَمِيمٌ

باب التاء اس شیخ کے نام سے جس کا نام تمیم ہے

3318 - حَدَّثَنِي تَمِيمٌ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَارِسِيُّ قَالَ: نَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ رَاشِدٍ الْمَدِينِيُّ، مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: فَقَدَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَى كَانَ يُجَالِسُهُ، فَقَالَ: مَالِي فَقَدْتُ فَلَانًا؟ فَقَالُوا: اغْتَبَطَ، وَكَانُوا يُسَمُّونَ الْوَعَكَ الْإِعْتِبَاطَ، فَقَالَ: فُومُوا بِنَا حَتَّى نَعُودَهُ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ بَغَى الْغُلَامُ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَبْكُ، فَإِنَّ جَبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَخْبَرَنِي أَنَّ الْحَمَى حَظُّ أُمَّتِي مِنْ جَهَنَّمَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم ﷺ نے فرمایا: ایک جوان کو گم پایا گیا جو آپ کے ساتھ بیٹھا کرتا تھا آپ نے فرمایا: کیا وجہ ہے کہ میں فلاں کو گم پارہا ہوں؟ صحابہ نے عرض کی: اسے بخار ہو گیا ہے وہ بخار کو اغتباط کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا: اٹھو! تاکہ ہم اس کی عیادت کریں پس جب آپ اس کے پاس داخل ہوئے تو وہ لڑکارو نے لگا۔ نبی اکرم ﷺ نے اس سے فرمایا: تُو نہ رو کیونکہ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ بخار میری امت کے لیے جہنم سے حصہ ہے جو بخار کی صورت میں انہیں تپش کی صورت میں ملتا ہے۔



3318 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 113 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 309: وفيه عمر بن راشد ضعفه أحمد وغيره ووثقه العجلي قلت: لم يوثق العجلي عمر بن راشد هذا وإنما وثق عمر بن راشد بن شجرة اليمامي وأما عمر بن راشد المدني فاتفقوا على ضعفه بل هو متهم بالوضع .

بَابُ الثَّاءِ مِنْ اسْمِهِ ثَابِتٌ

باب الثاء اس شیخ کے نام سے جس کا نام ثابت ہے

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فجر خوب سفید کر کے پڑھا کرو کیونکہ اس وقت میں پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے۔

3319 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ ثَابِتُ بْنُ نُعَيْمٍ الْهُوَجِيُّ قَالَ: نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسِ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مَحْمُودِ بْنِ كَيْدٍ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَوَرَّوْا بِالْفَجْرِ، فَإِنَّهُ أَغْظَمُ لِلْأَجْرِ

شعبہ سے یہ حدیث آدم اور بقیہ بن ولید روایت کرتے ہیں اور بقیہ شعبہ سے وہ داؤد بصری سے۔ یہ بھی کہا گیا کہ داؤد بن ابی ہند۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا آدَمَ وَبَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ دَاوُدَ الْبَصْرِيِّ وَقَدْ قِيلَ: إِنَّهُ: دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ متعہ حضور ﷺ کے اصحاب کے ساتھ ہی خاص تھا۔

3320 - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ أَبُو مَعْنٍ قَالَ: نَا آدَمُ قَالَ: نَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: مَا كَانَتْ الْمُتْعَةُ إِلَّا لِأَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَاصَّةً

ابو حصین سے صرف قیس بن الربیع ہی روایت

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ إِلَّا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ

3319 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 4 صفحہ 251 رقم الحديث: 4292. انظر: نصب الرایة للحافظ الزیلعی جلد 1 صفحہ 236.

3320 - أخرجه مسلم في الحج جلد 2 صفحہ 897 رقم الحديث: 1224، والنسائی في المناسك جلد 5 صفحہ 139-142 (باب اباحة فسح الحج بعمرة لمن لم يسق الهدى) وابن ماجة في المناسك جلد 2 صفحہ 994 رقم الحديث: 2985 بلفظ: كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد ﷺ خاصة.

کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رحم (رشتہ داری) پریشان ہو کر رحمٰن کی بارگاہ میں آئی، رحمٰن کی رحمت سے متعلق ہوئی تو عرض کیا: اے اللہ! جو مجھ سے تعلق جوڑے تو اس سے تعلق جوڑ اور جو مجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق توڑ۔

یہ حدیث عبداللہ بن دینار سے صرف ابو جعفر الرازی اور ابو جعفر سے صرف آدم اور ابو النضر ہاشم بن قاسم روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس سے علم کے متعلق پوچھا گیا اور اس نے چھپایا تو اس کو قیامت کے دن جہنم کی آگ کی لگام پہنائی جائے گی۔

یہ حدیث سلیمان تیمی سے صرف ان کے بیٹے ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابن ابی السری اکیلے ہیں۔

3321 - وَبِهِ حَدَّثَنَا آدَمُ قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ

الرَّازِيُّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ بُشَيْرِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الرَّحِمُ شَجَنَةٌ مِنَ الرَّحْمَنِ مُعَلَّقَةٌ بِحَقْوِي الرَّحْمَنِ، تَقُولُ: اللَّهُمَّ صَلِّ مَنْ وَصَلَنِي، وَاقْطَعْ مَنْ قَطَعَنِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ إِلَّا أَبُو جَعْفَرٍ الرَّازِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ إِلَّا آدَمُ وَأَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ

3322 - حَدَّثَنَا ثَابِتٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي

السَّرِيِّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سَأَلَ عَنْ عِلْمٍ فَكْتَمَهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِلِجَامٍ مِنْ نَارٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ



3321 - أصله في البخارى من طريق عبد الله بن دينار عن أبي صالح، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي ﷺ: ان الرحم شجنة من الرحمن فقال الله: من وصلك وصلته، ومن قطعك قطعته. أخرجه البخارى في الأدب جلد 10 صفحہ 430 رقم الحديث: 5988.

3322 - أخرجه أبو داؤد في العلم جلد 3 صفحہ 320 رقم الحديث: 3658، والترمذى في العلم جلد 5 صفحہ 29 رقم الحديث: 2649. وقال: هذا حديث حسن. وابن ماجه في المقدمة جلد 1 صفحہ 98 رقم الحديث: 266، و أحمد في المسند جلد 2 صفحہ 353 رقم الحديث: 7588.

بَابُ الْجِيمِ مِنْ اسْمِهِ جَعْفَرٌ

باب الجیم اس شیخ کے نام سے جس کا نام جعفر ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو فرمایا: میں تم سے تبلیغ دین پر معاوضہ نہیں مانگتا ہے، مگر اس پر اجرت یہ مانگتا ہوں کہ تم میرے رشتہ داروں سے محبت کرنا اور رشتہ داری کا خیال رکھنا، میرے اور تمہارے درمیان ہے، مجھے اس حوالہ سے تکلیف نہ دینا۔

حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: مسلمانوں میں سے جس کے تین بچے نابالغ فوت ہو جائیں تو اللہ عزوجل اس کے ماں باپ دونوں کو اپنے فضل سے بخش دے گا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! اللہ آپ پر رحم کرے! حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو مسلمان اللہ کی راہ میں اپنے مال میں سے جوڑا خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے جنت میں استقبال کیا جائے گا، اس کو بلایا جائے گا،

3323 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ الرَّمْلِيُّ قَالَ: نَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَّاسٍ قَالَ: نَا شَرِيكٌ، عَنْ خُصَيْفٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا أَنْ تُوَدُّونِي فِي نَفْسِي لِقَرَابَتِي مِنْكُمْ وَتَحْفَظُوا إِلَيَّ الْقَرَابَةَ الَّتِي بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ فَلَا تُؤْذُونِي

3324 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ الْحَجَبِيُّ قَالَ: نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ صَعْصَعَةَ بْنِ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ يَمُوتُ لَهُمَا ثَلَاثَةٌ، لَمْ يَلْغُوا الْحِنْتَ، إِلَّا غُفِرَ لَهُمَا بِفَضْلِ رَحْمَتِهِ أَيَّاهُمْ. قُلْتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُنْفِقُ زَوْجَيْنِ مِنْ مَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا

3323 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 435 رقم الحديث: 12233 .

3324 - أخرجه النسائي في الجنائز جلد 4 صفحہ 21 (باب من يتوفى له ثلاثة) حتى قوله الا غفر لهما بفضل رحمته ايها .

والنسائي في الجهاد جلد 6 صفحہ 39-41 (باب فضل النفقة في سبيل الله تعالى) حتى قوله: كلهم تدعو الي ما

عنده . وأحمد في المسند جلد 5 صفحہ 196 رقم الحديث: 21509 .

اس کی طرف جو ان کے پاس ہے۔
حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: نمازی کے آگے سے گدھا، عورت اور
کالا کتا گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔

یہ دونوں حدیثیں عمرو سے صرف حماد اور حماد سے
صرف جچی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو عبیدہ بن محمد بن عمار بن یاسر اپنے والد
سے وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ قرآن کو تروتازہ اس طرح
پڑھے جس طرح نازل ہوا تھا، وہ ابن مسعود کی قرأت پر
پڑھے۔

یہ حدیث حضرت عمار سے اسی سند سے روایت ہے
اس کو روایت کرنے میں اولیس اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: لوگ سواؤنوں کی طرح ہیں، آپ اس

3325- أخرجه مسلم في الصلاة جلد 1 صفحہ 365 والنسائي في القبلة جلد 2 صفحہ 50 (ذكر ما يقطع الصلاة وما لا يقطع

إذا لم يكن بين يدي المصلي سترة) وابن ماجه في الاقامة جلد 1 صفحہ 306 رقم الحديث: 952 وأحمد في

المسند جلد 5 صفحہ 192 رقم الحديث: 21486 .

3326- أخرجه أيضًا البزار (كشف الأستار جلد 3 صفحہ 249) والبخاري في تاريخه .

3327- أخرجه البخاري في الرقاق جلد 11 صفحہ 341 رقم الحديث: 6498، ومسلم في فضائل الصحابة جلد 4

صفحہ 1973 من طريق سالم بن عبد الله ولفظه عند البخاري .

اسْتَقْبَلَتْهُ حَجَبَةُ الْجَنَّةِ، كُلُّهُمْ تَدْعُوهُ إِلَى مَا عِنْدَهُ

3325- وَبِهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ صَالِحٍ، عَنْ

حُمَيْدِ بْنِ هَلَالٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِي
ذَرٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الْحِمَارُ وَالْمَرْأَةُ وَالْكَلْبُ الْأَسْوَدُ

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ عَنْ عَمْرِو إِلَّا حَمَادًا،

وَلَا عَنْ حَمَادٍ إِلَّا الْحَجَبِيُّ

3326- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ النَّوْفَلِيُّ

الْمَدِينِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْيسِيُّ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي

إِسْمَاعِيلُ بْنُ صَخْرٍ الْأَيْلِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدَةَ

بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ

سَرَّهُ أَنْ يَقْرَأَ الْقُرْآنَ غَضًّا كَمَا أَنْزَلَ فَلْيَقْرَأْهُ عَلَى

قِرَاءَةِ ابْنِ أُمِّ عَبْدِ

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمَّارٍ إِلَّا بِهِذَا

الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْأَوْيسِيُّ

3327- حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

الْمُنْذِرِ الْحِزَامِيِّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ دَاوُدَ

میں کوئی ایک بھی سوار ہونے کے لیے سواری نہ پائیں گے۔

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ہشام بن سعد روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں اسماعیل اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: یہ جبریل ہیں، وہ آپ کو سلام کرتے ہیں۔ میں نے عرض کی: 'وعلیک السلام ورحمة اللہ وبرکاتہ'۔

یہ حدیث زکریا سے صرف عمر بن ابی بکر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے کلابیہ سے شادی کی، جب اس کے پاس داخل ہوئے اور رسول اللہ ﷺ اس کے قریب ہوئے تو اس عورت نے کہا: میں آپ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا: تو نے بڑی ہستی کی پناہ مانگی ہے اپنے گھروالوں سے مل جا۔

الْمُخْرَفِيُّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا النَّاسُ كَابِلٍ مِائَةٍ، لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً وَاحِدَةً لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ إِلَّا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْمَاعِيلُ

3328 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ:

نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمَوْصِلِيُّ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا بْنُ عَيْسَى الشَّعْبِيُّ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: هَذَا جِبْرِيْلُ وَهُوَ يَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ، فَقُلْتُ: وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكْرِيَّا إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ

3329 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ قَالَ:

نَا عُمَرُ قَالَ: نَا زَكْرِيَّا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: تَزَوَّجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَلَابِيَّةَ، فَلَمَّا دَخَلَتْ عَلَيْهِ دَنَا مِنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: إِنِّي أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ عُدَّتْ بَعْظِيمٍ، الْحَقِي بِأَهْلِكَ

3328- أخرجه البخارى فى فضائل الصحابة جلد7 صفحه133 رقم الحديث: 3768، ومسلم فى فضائل الصحابة جلد 4

صفحة1896 .

3329- أخرجه البخارى فى الطلاق جلد 9 صفحه286 رقم الحديث: 5254، والنسائى فى الطلاق جلد 6 صفحه122

(باب م واجهة الرجل المرأة بالطلاق) .

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكْرِيَّا إِلَّا عُمَرُ

یہ حدیث زکریا سے صرف عمر ہی روایت کرتے ہیں۔

3330 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْيَاسِ بْنِ صَدَقَةَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے حق عمر کی زبان اور دل میں رکھ دی ہے۔

الْكَبَّاشُ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ صَالِحٍ قَالَ:

حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ جَعَلَ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُمَرَ، وَقَلْبِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ مَالِكِ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ وَلَا عَنِ ابْنِ وَهْبٍ إِلَّا صَالِحٌ

یہ حدیث مالک سے صرف ابن وہب اور ابن وہب ابن صالح روایت کرتے ہیں۔

3331 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا نَعِيمٌ بْنُ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

حَمَادٍ قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ أَبِي مَرِيَمَ، عَنِ السُّدِّيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السُّدِّيِّ إِلَّا نُوحٌ، تَفَرَّدَ بِهِ نَعِيمٌ

یہ حدیث سدی سے صرف نوح روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے نعیم اکیلے ہیں۔

3332 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا نَعِيمٌ قَالَ: نَا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے آل محمد کے متعلق پوچھا گیا کہ وہ کون ہیں؟ آپ نے فرمایا: پرہیزگار اور آپ نے یہ آیت تلاوت کی: ”اللہ کے دوست صرف پرہیزگار ہیں۔“

نُوحٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آلُ مُحَمَّدٍ؟ فَقَالَ: كُلُّ نَقِيٍّ وَتَلَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: (إِنْ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ) (الانفال: 34)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى إِلَّا نُوحٌ، تَفَرَّدَ

یہ حدیث یحییٰ سے صرف نوح روایت کرتے ہیں

3331 - أخرجه البخارى فى العلم جلد 1 صفحه 244 رقم الحديث: 110، ومسلم فى المقدمة جلد 1 صفحه 10

3332 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحه 115، وقال الهيثمى فى المجمع جلد 10 صفحه 272: وفيه نوح بن أبى مريم

ومر صعيق

بِهِ نُعِيمُ

اس کو روایت کرنے میں نعیم اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو چاندی اور سونے کے برتنوں میں پیتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔

3333 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ الْهَجِيمِيُّ قَالَ: نَا سَلِيمُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَشَابُ قَالَ: نَا النَّضْرُ بْنُ عَرَبِيِّ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الَّذِي يَشْرَبُ فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ إِنَّمَا يُجْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ النَّضْرِ إِلَّا سَلِيمٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ

یہ حدیث نصر سے صرف سلیم روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن بحر اکیلے ہیں۔

3334 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا أَبُو جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَوْنِ بْنِ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَيْدِ، فَإِنَّهُ يُبْتُ الشَّعْرَ وَيُدْهِبُ الْقَدَى مِصْفَاةً لِلْبَصْرِ

حضرت عون بن محمد بن حنیفہ اپنے والد وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر اٹھرا سہ لازم ہے کیونکہ وہ بالوں کو اگاتا ہے اور تکلیف ختم کرتا ہے اور بینائی تیز کرتا ہے۔

3335 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَحْيَى الْمَرُورِيُّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْبُكَائِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سَلِيمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَنَامِهِ فَارَادَ أَنْ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے اور اس کا وضو کرنے کا ارادہ ہے تو وہ برتن میں ہاتھ داخل نہ کرے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔

3333 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 115، والكبير جلد 11 صفحہ 373، وأبو يعلى جلد 5 صفحہ 101 عن محمد بن يحيى به وقال الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 80: وفيه محمد بن يحيى بن أبي سميحة وقد وثقه أبو حاتم وابن حبان وغيرهما وفيه كلام لا يضر، وبقيه رجاله ثقات: قلت: في اسناده أبي يعلى أيضًا سليمان بن مسلم: وهو متردد كما تقدم .

3335 - أخرجه ابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحہ 139 رقم الحديث: 395 بلفظ: اذا قام..... انظر: نصب الراية جلد 1 صفحہ 2.

يَتَوَضَّأُ فَلَا يُدْخِلَنَّ يَدَهُ فِي الْإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا، فَإِنَّهُ
لَا يَدْرِي أَيَّنَ بَاتَتْ يَدُهُ

عبدالملک سے صرف زیاد روایت کرتے ہیں اس کو
روایت کرنے میں موسیٰ اکیلے ہیں اور حضرت جابر سے یہ
حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ إِلَّا زِيَادًا، تَفَرَّدَ بِهِ
مُوسَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد
صحابہ سے ملنے والوں کا اس کے بعد صحابہ کے ملنے والوں
کے ملنے والوں کا پھر ایسی قوم آئے گی کہ ان میں کوئی
بھلائی نہیں ہوگی۔

3336 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ
يَحْيَى قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ السُّلَمِيُّ قَالَ: نَا
الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْأَجْلَحِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِي، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ
الثَّلَاثُ، ثُمَّ يَجِيءُ قَوْمٌ لَا خَيْرَ فِيهِمْ

حسن بن صالح سے صرف یحییٰ اور علقمہ سے یہ اسی
سند سے روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا
يُرْوَى عَنْ عَلْقَمَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ پچھنا لگواتے تھے اور لگانے والے کو اجرت
دینے میں کمی نہیں کرتے تھے۔

3337 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْهَيْمَمُ بْنُ
أَيُّوبَ الطَّالِقَانِيَّ قَالَ: نَا النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ، عَنْ
مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو الْأَنْصَارِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ
أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ يَحْتَجِمُ، وَلَا يَظْلِمُ الْحَجَّامَ أَجْرَهُ

یہ حدیث محمد سے صرف نظر ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدٍ إِلَّا النَّضْرُ
3338 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ

3336 - أخرجه البخاری فی الشهادات جلد 5 صفحہ 306 رقم الحدیث: 2652، ومسلم فی فضائل الصحابة جلد 4
صفحہ 1963 ولفظهما خير الناس قرنی، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ثم يجيء أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه
ويمينه شهادته .

3337 - أخرجه البخاری فی الاجارة جلد 4 صفحہ 536 رقم الحدیث: 2280، ومسلم فی السلام جلد 4 صفحہ 1731 .

3338 - أخرجه أيضًا الكبير، وقال الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 95: وفيه اسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف .

حضور ﷺ نے فرمایا: تم پر پہلی صف میں شریک ہونا ضروری ہے اور دائیں طرف لازم ہے صف کے درمیان کھڑے ہونے سے بچو۔

یہ حدیث ابو یزید سے صرف اسماعیل ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن مبارک اکیلے ہیں۔

حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا ہے اللہ اس پر رحم نہیں کرتا ہے اور حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے ام الكتاب میں زمین و آسمان پیدا کرنے سے پہلے لکھا تھا کہ میں رحمن رحیم ہوں اور صلہ رحمی کو اپنے نام سے نکال رہا ہوں جو اس کو جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا جو اس کو توڑے گا میں اس کو توڑوں گا۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف ابو مطیع روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن یزید اکیلے ہیں۔

قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّاقَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْمَكِّيِّ، عَنْ أَبِي يَزِيدَ الْمَدِينِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَيْكُمْ بِالصَّفِّ الْأَوَّلِ، وَعَلَيْكُمْ بِالْمَيْمَنَةِ، وَإِيَّاكُمْ وَالصَّفِّ بَيْنَ السَّوَارِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي يَزِيدَ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ الْمُبَارَكِ

3339 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

يَزِيدَ الْبَكْرِيُّ الْجَوْزَجَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو مُطِيعٍ الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ السُّلَمِيُّ قَالَ: نَا شُعْبَةُ، عَنْ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَا يَرْحَمِ النَّاسَ لَا يَرْحَمُهُ اللَّهُ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى كَتَبَ فِي أُمَّ الْكِتَابِ قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ: إِنِّي أَنَا اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ، خَلَقْتُ الرَّحِمَ، وَشَقَقْتُ لَهُمَا اسْمًا مِنْ اسْمِي، فَمَنْ وَصَلَهَا وَصَلْتُهُ، وَمَنْ قَطَعَهَا بَتَّتَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو مُطِيعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ

حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ظلم سے بچو، بے شک ظلم قیامت کے اندھیروں میں سے ہے، بخل سے بچو کیونکہ تم سے پہلے لوگ بخل کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں انہوں نے اپنے لوگوں کو صلہ رجمی نہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے صلہ رجمی کو توڑا، انہوں نے ان کو خون بہانے کا حکم دیا، انہوں نے خون بہایا۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کون سا اسلام افضل ہے؟ حضور ﷺ نے فرمایا: افضل اسلام یہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابو مطیع اکیلے ہیں، حضرت معاذ صرف اسی سند سے حدیث روایت کرتے ہیں۔

حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم کو جنازوں میں شریک ہونے سے منع کیا گیا لیکن سختی نہیں کی گئی، ہم کو عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا، کنواری اور حیض والیوں کو نکلنے کا حکم دیا گیا اور حیض والیوں کو نماز میں شریک ہونے سے منع کیا گیا، مسلمانوں کی جماعت اور دعوت میں شریک ہونے کا حکم دیا گیا۔

3340 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ:
 نَا أَبُو مُطِيعٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عُرْوَةَ، عَنْ قَتَادَةَ،
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ:
 قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَاكُمْ
 الظُّلْمُ، فَإِنَّ الظُّلْمَ ظُلَمَاتُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَيَاكُمْ
 الشُّحَّ، فَإِنَّهُ أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، وَأَمْرَهُمْ
 بِالْقَطِيعَةِ فَقَطَعُوا أَرْحَامَهُمْ، وَأَمْرَهُمْ بِسَفْكِ الدِّمَاءِ
 فَسَفَكُوا دِمَائِهِمْ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ،
 أَيُّ الْإِسْلَامِ أَفْضَلُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَفْضَلَ الْإِسْلَامِ: مَنْ سَلِمَ
 الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ
 بِهِ: أَبُو مُطِيعٍ، لَا يُرْوَى عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3341 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ
 حَكِيمٍ السَّمَرَقَنْدِيُّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ مَخْلَدٍ، عَنِ
 الصَّلْتِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ
 عَطِيَّةَ قَالَتْ: نُهِينَا عَنْ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ، وَلَمْ يُعَزَّمْ
 عَلَيْنَا، وَأَمَرْنَا بِالْخُرُوجِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى،
 وَأَنْ يَخْرُجَ ذَوَاتُ الْخُدُورِ وَالْحَيْضُ وَيُنْحَى
 الْحَيْضُ عَنْ مُصَلَّى النَّاسِ، لِيَشْهَدَنَ جَمَاعَةَ
 الْمُسْلِمِينَ وَدَعْوَتَهُمْ

3341 - أخرجه البخاری فی الجنائز جلد 3 صفحہ 173 رقم الحدیث: 1278، ومسلم فی الجنائز جلد 2 صفحہ 646.

وأما حتى قوله: ليشهد جماعة المسلمين ودعوتهم. أخرجه البخاری فی الصلاة جلد 1 صفحہ 566 رقم الحدیث:

351، ومسلم فی العیدین جلد 2 صفحہ 605 رقم الحدیث: 890.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الصَّلْتِ إِلَّا هَاشِمٌ،
تَفَرَّدَ بِهِ عَلِيُّ

3342 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ
عَمْرٍو بْنِ شَقِيقٍ، وَكَتَبْتُهُ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ قَالَ: نَا
يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ عُلْفَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الظُّهْرَ حَمْسًا، فَقِيلَ: يَا
رَسُولَ اللَّهِ، زِيدَ فِي الصَّلَاةِ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟
فَقَالُوا: صَلَّيْتَ حَمْسًا قَالَ: فَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ
زُرَيْعٍ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ شَقِيقٍ

3343 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا أَبُو
جَعْفَرٍ النَّفِيلِيُّ قَالَ: نَا مِسْكِينُ بْنُ بُكَيْرٍ، عَنْ
الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ
الْأَصَمِّ، عَنْ مَيْمُونَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
رَخَّصَ فِي الرُّقِيَةِ مِنْ كُلِّ ذِي حُمَةٍ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْاَوْزَاعِيِّ إِلَّا
مِسْكِينُ

3344 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: الْحَسَنُ بْنُ
عَمْرٍو بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ
صَالِحِ بْنِ رُسْتَمِ الْحَزَّازِ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ
عَائِشَةَ قَالَتْ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صَلَّى اللَّهُ

یہ حدیث صلت سے صرف ہاشم روایت کرتے ہیں
اس کو روایت کرنے والے علی اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھائیں، آپ
سے عرض کی گئی: یا رسول اللہ! نماز میں اضافہ ہوا ہے؟
آپ نے فرمایا: کیا ہوا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی:
آپ نے پانچ رکعتیں پڑھائی ہیں، پس آپ نے دو
سجدے (سہو کے) کیے۔

یہ حدیث شعبہ سے صرف یزید بن زریع روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے والے حسن بن عمرو بن
شقیق اکیلے ہیں۔

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ
نے ہر بیماری میں دم کرنے کی رخصت دی۔

یہ حدیث اوزاعی سے صرف مسکین ہی روایت
کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے
عرض کی: یا رسول اللہ! اللہ عزوجل کے ارشاد کہ ”وہ لوگ
جن کے دل ٹیڑھے ہیں“ کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا: وہ
لوگ جو قرآن میں بغیر علم کے گفتگو کرتے ہیں جب تم ان

3342- أخرجه البخاری فی الصلاة جلد 1 صفحہ 605 رقم الحدیث: 404، ومسلم فی المساجد جلد 1 صفحہ 501

3344- أخرجه البخاری فی التفسیر جلد 8 صفحہ 57 رقم الحدیث: 4547، ومسلم فی العلم جلد 4 صفحہ 2053

کو دیکھو کہ وہ اللہ کے کلام میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان سے بچو۔

عَلَيْكَ، (فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ) (آل عمران: 7) قَالَ: الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِيهِ، فَإِذَا رَأَيْتَهُمْ فَهُمْ الَّذِينَ عَنِ اللَّهِ، فَأَحْذَرُوهُمْ

یہ حدیث ابو عامر سے صرف جعفر ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي عَامِرٍ إِلَّا جَعْفَرُ

حضرت محمد بن ابی السری العسقلانی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو خواب میں دیکھا میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے لیے بخشش مانگیں! آپ میرا جواب دینے سے خاموش رہے میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کو سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں کہ محمد بن مکرر نے ان کو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے جب بھی کوئی شے مانگی جاتی آپ لانا نہیں فرماتے تھے آپ میرے چہرے کو دیکھ کر مسکرائے اور عرض کی: اے اللہ! اس کو بخش دے!

3345 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَنَامِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اسْتَغْفِرْ لِي، فَسَكَتَ عَنِّي، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ سَفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، حَدَّثَنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ؛ عَنْ جَابِرٍ، أَنَّكَ مَا سُئِلْتَ شَيْئًا قَطُّ فَقُلْتَ: لَا فَتَبَسَّمْ فِي وَجْهِهِ، وَقَالَ: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آسمان سے دو امان اترتے ہیں ایک گزر چکے ہیں وہ رسول اللہ ﷺ ہیں دوسرا استغفار ہیں۔

3346 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ

عَبْدِ اللَّهِ الْهَرَوِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيَّةَ قَالَ: نَا عُمَرُ كَسْرَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: أَمَا إِنَّهُ نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ أَمَانَانِ، أَمَا أَحَدُهُمَا فَقَدْ مَضَى وَهُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَمَا الْآخَرُ: فَهُوَ الْإِسْتِغْفَارُ

عمر کسریٰ سے یہ حدیث اس سند کے علاوہ منقول نہیں ہے اور اس کو روایت کرنے والے ابن علیہ اکیلے

لَمْ يُسْنِدْ عُمَرُ كَسْرَى حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا رَوَاهُ إِلَّا ابْنُ عَلِيَّةَ

3346 - أخرجه الترمذی فی التفسیر جلد 5 صفحہ 270 رقم الحدیث: 3082 وقال: حدیث غریب . وأحمد فی المسند

جلد 4 صفحہ 480 رقم الحدیث: 18525 نحو لفظ المصنف .

ہیں۔

حضرت ازرق بن قیس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کو دیکھا آپ نماز میں جب اٹھتے تو سہارا لے کر اٹھتے، میں نے عرض کی: یہ کیا ہے؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے کرتے ہوئے دیکھا۔

3347 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْحَنَاطُ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ الْحِمَانِيُّ قَالَ: نَا الْهَيْثَمُ بْنُ عَلِيَّةَ الْبَصْرِيُّ، عَنِ الْأَزْرَقِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ، فِي الصَّلَاةِ يَتَعَمَّدُ إِذَا قَامَ، فَقُلْتُ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُهُ

یہ حدیث ازرق سے صرف بیثم ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حمائی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَزْرَقِ إِلَّا الْهَيْثَمُ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحِمَانِيُّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی بے شک اس نے کھلا کفر کیا۔

3348 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ الْأَنْبَارِيُّ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ مُتَعَمِّدًا فَقَدْ كَفَرَ جَهَارًا

یہ ابو جعفر الرازی سے صرف ہاشم بن قاسم روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن ابوداؤد اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ إِلَّا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کے پاس عمر کے زیادہ ہونے کا ذکر کیا، حضور ﷺ نے فرمایا: جب موت کا وقت آئے گا تو کسی جان کو صحت نہ دی جائے گی۔ زیادہ عمر یہ ہے کہ نیک اولاد اللہ عزوجل کا اس سے فائدہ ایسے بندے کو دیتا رہے گا جو اس

3349 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مُسَرِّحِ الْحَرَّانِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ مَسْلَمَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ، عَنِ عَمِّهِ أَبِي مَشْجَعَةَ بْنِ رَبِيعٍ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: ذُكِرَ زِيَادَةُ الْعُمَرِ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

3347 - وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص في الطبرانی في الأوسط عن الأزرق بن قيس رأيت عبد الله بن عمر وهو يعجن

في الصلاة، يعتمد على يديه إذا قام كما يفعل الذي يعجن العجين. انظر: تلخيص الحبير جلد 1 صفحہ 178-277

رقم الحديث: 64 .

کے لیے اس کے مرنے کے بعد دعا کریں گے، اُن کی دعا اس کو قبر میں بھی ملے گی یہ عمر کا زیادہ ہونا ہے۔

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُوَخَّرُ نَفْسٌ إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، وَإِنَّمَا زِيَادَةُ الْعُمْرِ: الذَّرِيَّةُ الصَّالِحَةُ يَرْزُقُهَا اللَّهُ الْعَبْدَ، فَتَدْعُو لَهُ مِنْ بَعْدِهِ، فَيَلْحَقَهُ دُعَاؤُهُمْ فِي قَبْرِهِ، فَذَلِكَ زِيَادَةُ الْعُمْرِ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک قوم کے پاس سے گزرے ان میں ایک آدمی تھا اس نے خلق کا خوشبو لگایا ہوا تھا آپ نے تمام لوگوں کو سلام کیا اس آدمی سے اعراض کیا اس آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے ان کو سلام کیا ہے اور مجھ سے اعراض کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: تیری دونوں آنکھوں کے درمیان میں سرخی ہے۔

3350 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَرِّيَابِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى اللُّؤْلُؤِيُّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ الْحَكَمِ الْعُرَيْنِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَرَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَوْمٍ فِيهِمْ رَجُلٌ مُتَخَلِّقٌ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِمْ، وَأَعْرَضَ عَنِ الرَّجُلِ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، سَلَّمْتَ عَلَيْهِمْ، وَأَعْرَضْتَ عَنِّي؟ فَقَالَ: إِنَّ بَيْنَ عَيْنِكَ حُمْرَةً

یہ حدیث علی بن ربیعہ سے صرف سعید بن عبید اور سعید سے صرف قاسم ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں زکریا بن یحیی اللؤلؤی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ عَلِيِّ بْنِ رَبِيعَةَ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ إِلَّا الْقَاسِمُ، فَتَفَرَّدَ بِهِ: زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى اللُّؤْلُؤِيُّ

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قرآن بے غور و فکر یا غور و فکر کر کے پڑھا، اس کو جنت میں ایک درخت دیا جائے گا، اگر کو اس درخت کے پتوں کے نیچے سے اڑتا رہے اور وہ بوڑھا ہو جائے (وہ مر جائے گا)، لیکن اس کی مسافت ختم نہیں ہوگی۔

3351 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرِ الْهَجِيمِيِّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ الْقُرْآنَ ظَاهِرًا أَوْ نَظَرًا أُعْطِيَ شَجَرَةً فِي الْجَنَّةِ، لَوْ أَنَّ غُرَابًا أَفْرَخَ تَحْتِ وَرَقَةٍ مِنْهَا ثُمَّ أَدْرَكَ ذَلِكَ الْفَرْخَ فَهَضَّ لَأَدْرَكَهُ الْهَرَمُ قَبْلَ أَنْ يَقْطَعَ

3351- أخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار جلد 3 صفحہ 93)؛ فذكر الهيمى فى المجمع جلد 7 صفحہ 168 وقال: وفيه

محمد بن محمد الهجيمى ولم أعرّفه؛ وسعيد بن سالم القداح؛ مختلف فيه؛ وبقية رجاله ثقات؛ قلت: محمد بن بحر

الهجيمى ضعيف كما تقدم؛ وليس هو محمد بن محمد الهجيمى .

تِلْكَ الْوَرَقَةَ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف سعید بن سالم ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن بحر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ إِلَّا سَعِيدُ بَنِ سَالِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اپنے مسلمان بھائی کی ضرورت پوری کرنے کے لیے چلا اللہ عزوجل اس کے لیے ہر قدم اٹھانے کے بدلے ستر نیکیاں لکھے گا۔

3352 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدٌ قَالَ:

نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بَنُ زَيْدِ الْعَمِيِّ، عَنِ أَبِيهِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ مَشَى فِي حَاجَةِ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ يَخْطُوهَا سَبْعِينَ حَسَنَةً

یہ حدیث حسن سے صرف زید اور زید سے ان کے بیٹے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن بحر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا زَيْدٌ، وَلَا عَنْ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُهُ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ بَحْرٍ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: عصر کے بعد سورج غروب ہونے تک اور صبح کی نماز کے بعد سورج طلوع ہونے تک کوئی نماز نہیں ہے۔

3353 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا صَفْوَانُ بَنُ

صَالِحٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بَنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بَنُ نُمَيْرِ الْيَحْصِبِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ عَطَاءِ بَنِ يَسَارٍ، عَنِ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا صَلَاةَ بَعْدَ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ، وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ الصُّبْحِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ

3352 - أخرجه ابن الجوزي في الموضوعات جلد 2 صفحہ 173 من طريق عبد الرحيم بن زيد به وقال: لا يصح. وقال

الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 194: وفيه عبد الرحيم بن زيد العمي وهو متروك.

3353 - أخرجه البخاري في المواقيت جلد 2 صفحہ 73 رقم الحديث: 586، ومسلم في المسافرين جلد 1 صفحہ 567

ولفظه عنده.

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب سونے کا ارادہ کرتے تو اپنی ہتھیلی میں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونکتے، پھر دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر ملتے۔

یہ حدیث قرہ سے صرف رشیدین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں سے ایک آدمی رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے غلام خریدا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ نے فرمایا: وہ تمہارا اسلام میں بھائی ہے، اس کو اتنے ہی کام کی تکلیف دے جتنی وہ طاقت رکھتا ہے، اس کو وہی لباس پہنا جو تو خود پہنتا ہے، وہی کھلا جو خود کھاتا ہے، اگر تو اس کو ناپسند کرے تو اس کو فروخت کر دے۔

یہ حدیث حلام سے صرف سعید ہی روایت کرتے ہیں، حذیفہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کے لیے وضو کا پانی رکھا، میں اس دن اپنی خالہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر تھا، جب آپ نکلے تو آپ نے فرمایا: میرے لیے وضو کا پانی کس نے رکھا ہے؟ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول

3354 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا رِشْدِينَ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ عَقِيلٍ، وَقِرَّةَ، وَيُونُسَ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَنَامَ نَفَثَ فِي كَفَّيْهِ وَعَوَّذَ فِيهِمَا بِالْمُعَوِّذَاتِ، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا عَلَى وَجْهِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قِرَّةَ إِلَّا رِشْدِينَ

3355 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ حَكِيمٍ السَّمَرَقَنْدِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَرَّاقُ قَالَ: نَا حَلَّامُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ رَبِيعَةَ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ: أَتَى رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْتَعْتُ عَبْدًا، فَمَا أَصْنَعُ بِهِ؟ فَقَالَ: أَخُوكَ فِي الْإِسْلَامِ، لَا تُكَلِّفُهُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا أَطَاقَ، وَأَطْعِمُهُ مِنْ طَعَامِكَ، وَأَكْسُهُ مِنْ لِبَاسِكَ، فَإِنْ كَرِهْتَهُ فَبِعْهُ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَلَّامٍ إِلَّا سَعِيدٌ، وَلَا يُرَوَى عَنْ حُذَيْفَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3356 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ هَاشِمٍ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ شَيْبِ بْنِ عَبَّادٍ الْمَكِّيِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنْتُ أَسْكُبُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضُوئَهُ وَهُوَ عِنْدَ خَالَتِي مَيْمُونَةَ، فَلَمَّا خَرَجَ

اللہ! میری بہن کے بیٹے نے، یعنی ابن عباس نے۔ آپ نے فرمایا: اے اللہ! اس کو دین کی سمجھ عطا فرما اور تفسیر قرآن کا علم دے!

یہ حدیث سلیمان سے صرف ثبل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ٹھیکری مارنے سے منع کیا۔

یونس سے صرف سلام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل فرماتا ہے جو ایک دوسرے سے بڑھ کر بغض و حسد رکھتے ہیں میں ان سے انتقام لوں گا اور پھر سب کو جہنمی بنا دوں گا۔

یہ حدیث ابن منکدر سے صرف حجاج اور حجاج سے صرف معتمر روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عروہ بن مروان اکیلے ہیں۔

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: جو دنیا کو چھوڑ کر اللہ کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اُسے کافی ہو جائے گا ہر تکلیف سے اور

قَالَ: مَنْ وَضَعَ لِي وَضُوءِي؟ قَالَتْ: ابْنُ أُخْتِي، يَا رَسُولَ اللَّهِ، ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: اللَّهُمَّ فَفِّهْهُ فِي الدِّينِ، وَعَلِّمَهُ التَّوْبِيلَ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا شِبْلٌ

3357 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ اللَّيْثِ

الزِّيَادِيُّ قَالَ: نَا عَسَّانُ بْنُ مَالِكِ السُّلَمِيُّ قَالَ: نَا سَلَامُ أَبُو الْمُنْدَرِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَغْفَلٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَذْفِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ يُونُسَ إِلَّا سَلَامٌ

3358 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَاجِدٍ

قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ بَكْرِ الْبَالِسِيُّ قَالَ: نَا عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ الْعِرْقِيُّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: أَنْتُمْ مِمَّنْ أَبْغَضُ بِمَنْ أَبْغَضُ، ثُمَّ أَصِيرُ كُلًّا إِلَى النَّارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ إِلَّا الْحَجَّاجُ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ عُرْوَةُ بْنُ مَرْوَانَ

3359 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَقِيقٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْأَشْعَثِ صَاحِبُ الْفُضَيْلِ بْنِ عِيَاضٍ قَالَ: نَا

اُسے اُس طرف سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہ ہوگا اور جو اللہ کو چھوڑ کر دنیا کا ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اُسے دنیا کے حوالے کر دے گا (اور اس کی کوئی امداد نہ فرمائے گا)۔

الْفُضَيْلُ بْنُ عِيَّاضٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ انْقَطَعَ إِلَى اللَّهِ كَفَاهُ اللَّهُ كُلَّ مُؤْنَةٍ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، وَمَنْ انْقَطَعَ إِلَى الدُّنْيَا وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَيْهَا

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: سب سے سچی بات وہ ہوتی ہے جو چھینک کے وقت ہوتی ہے۔

3360 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ بْنِ شُجَاعِ الْحَرَائِثِيِّ، بِالرَّقَّةِ قَالَ: نَا النُّخَيْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُجَاعٍ قَالَ: نَا عَفِيفُ بْنُ سَالِمٍ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ زَادَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَصْدَقُ الْحَدِيثِ مَا عَطَسَ عِنْدَهُ

یہ حدیث ثابت سے صرف عمارہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں خضر اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ إِلَّا عُمَارَةُ، تَفَرَّدَ بِهِ النُّخَيْرُ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین کام جس نے ایمان کی حالت میں کیے وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے گا داخل ہو جائے گا، جس حور سے چاہے شادی کرے گا، جس نے قرض چھپا کر ادا کیا، جس نے قاتل کو معاف کیا، ہر فرض نماز کے بعد دس مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! اگر ایک بات ہو تو؟ آپ نے فرمایا: ایک ہو تو تب بھی۔

3361 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَادٍ النَّبَسِيُّ قَالَ: نَا بَشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ نُبَيْهَانَ، عَنْ أَبِي شَدَّادٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ مَنْ جَاءَ بِهِنَّ مَعَ إِيْمَانٍ دَخَلَ مِنْ آيَةِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَ، وَزَوْجٍ مِنَ الْحُورِ الْعِينِ كَمْ شَاءَ: مَنْ أَدَّى دَيْنًا خَفِيًّا، وَعَفَا عَنْ نَاتِلِيهِ، وَقَرَأَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ عَشْرَ مَرَّاتٍ: قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَوْ إِحْدَاهُنَّ لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ إِلَّا بِهِذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ

یہ حدیث اسی سند سے ہی روایت ہے اس کو

بِهِ بَشْرُ بْنُ مَنْصُورٍ

روایت کرنے میں بشر بن منصور اکیلے ہیں۔

حضرت جعفر بن حمید بن عبدالکریم بن فروخ بن

دیزج بن بلال بن سعد الانصاری دمشقی فرماتے ہیں کہ مجھے میری والدہ کے دادا عمر بن ابان بن مفضل المدنی نے فرمایا: مجھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے وضو کے متعلق بتایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پانی کا ایک برتن لیا، اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر رکھا اور اس کو اپنے دائیں ہاتھ پر ڈالا اس کو تین مرتبہ دھویا، پھر پانی کا برتن دائیں ہاتھ پر رکھ کر سارے اعضاء کو تین مرتبہ دھویا اور سر کا تین مرتبہ مسح کیا اور کان پر مسح کے لیے نیا پانی لیا۔ میں نے آپ سے عرض کی: آپ نے کان کا مسح کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: اے لڑکے! کان سر میں شامل ہے، چہرے کی حد میں شامل نہیں ہے۔ پھر فرمایا: اے لڑکے! کیا تم نے دیکھا اور سمجھ لیا یا آپ کے سامنے دوبارہ کروں! میں نے عرض کی: میرے لیے کافی ہے اور میں سمجھ گیا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو میں ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔

عمرو بن ابان سے حضرت انس اس حدیث کے

علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3362 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ

الْكَرِيمِ بْنِ فَرُوحِ بْنِ دِيْزَجِ بْنِ بِلَالِ بْنِ سَعْدِ الْاَنْصَارِيِّ الدِّمَشْقِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي لَأُمِّي عُمَرُ بْنُ اَبَانَ بْنِ مُفَضَّلِ الْمَدَنِيِّ قَالَ: اَرَانِي اَنَّسُ بْنُ مَالِكٍ، الْوُضُوءَ، اَخَذَ رِكْوَةً فَوَضَعَهَا عَنْ يَسَارِهِ، وَصَبَّ عَلَيَّ يَدِهِ الْيُمْنَى فَفَسَلَهَا ثَلَاثًا، ثُمَّ اَدَارَ الرِّكْوَةَ عَلَيَّ يَدِهِ الْيُمْنَى فَتَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَاَخَذَ مَاءً جَدِيدًا لِسِمَاحِهِ فَمَسَحَ سِمَاحَهُ، فَقُلْتُ لَهُ: قَدْ مَسَحْتَ اُذُنَكَ، فَقَالَ: يَا غُلَامُ، اِنَّهُنَّ مِنَ الرَّاسِ، لَيْسَ هُنَّ مِنَ الْوَجْهِ، ثُمَّ قَالَ: يَا غُلَامُ، هَلْ رَأَيْتَ وَفَهَيْتَ اَمْ اُعِيدُ عَلَيْكَ؟ فَقُلْتُ: قَدْ كَفَانِي، وَقَدْ فَهَيْتُ قَالَ: فَهَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَوَضَّأُ

لَمْ يَرَوْ عُمَرُ بْنُ اَبَانَ عَنْ اَنَّسٍ غَيْرَ هَذَا

الْحَدِيثِ

3363 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ

3362- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 116 . وقال في المجمع للهيثمي جلد 1 صفحہ 238 بعد نقله كلام الذهبي في

عمر بن أبان . قلت: ذكره ابن حبان في الثقات . قلت: عمر بن أبان في الثقات لابن حبان جلد 5 صفحہ 153 يروى

عن ابن عمر، روى عنه ابنه ابراهيم بن عمر، فلفل هذا رواه آخر .

3363- أخرجه الطبراني في الكبير جلد 1 صفحہ 256 رقم الحديث: 740 . وقال الحافظ الهيثمي: رواه الطبراني عن

شيخه جعفر بن سليمان بن حاجب ولم أعرفه، وبقيته رجاله ثقات . انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 327 .

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کے ساتھ جہاد کے لیے عورتیں بھی نکلیں؟ آپ نے فرمایا: اے ام سلمہ! عورتوں کے ذمہ جہاد فرض نہیں ہے؟ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی: زخم پر پیٹی باندھنے اور علاج کرنے اور پانی پلانے کے لیے؟ آپ نے فرمایا: پھر ٹھیک ہے! نکل سکتی ہیں۔

حسن سے صرف عبدالرحمن اور عبدالرحمن سے ابواسحاق روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابوصالح اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

یہ حدیث شععی سے صرف جابر اور جابر سے صرف ابوجزہ ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

حَاجِبِ الْأَنْطَاكِيِّ قَالَ: نَا أَبُو صَالِحِ الْفَرَاءِ قَالَ: نَا أَبُو اسْحَاقِ الْفَزَارِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ اسْحَاقَ، عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْرُجْ مَعَكَ إِلَى الْغَزْوِ؟ قَالَ: يَا أُمَّ سَلَمَةَ، إِنَّهُ لَمْ يَكْتَبْ عَلَى النِّسَاءِ الْجِهَادَ قَالَتْ: أَدَاوِي الْجَرَحَى وَأَعَالِجِ الْعَيْرِ وَأَسْقِي الْمَاءَ؟ قَالَ: فَتَنَعَمُ إِذَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا أَبُو اسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو صَالِحٍ

3364 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ بَرِيْقِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نَا أَبُو تَمِيمَةَ يَحْيَى بْنُ وَاضِحٍ قَالَ: نَا أَبُو حَمْرَةَ الشُّكْرِيُّ، عَنْ جَابِرِ الْجُعْفِيِّ، عَنْ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ إِلَّا جَابِرٌ، وَلَا عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو حَمْرَةَ

3365 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ،

3364 - أخرجه الترمذی فی الفتن جلد 4 صفحہ 524 رقم الحدیث: 2257 وقال: حدیث حسن صحیح. وابن ماجة فی

المقدمة جلد 1 صفحہ 131 رقم الحدیث: 30، وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 506 رقم الحدیث: 3693

والطبرانی فی الكبير جلد 10 صفحہ 96 رقم الحدیث: 10074.

3365 - أخرجه أبو داؤد فی العلم جلد 3 صفحہ 322 رقم الحدیث: 3666، وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 78 رقم

الحدیث: 1161 نحوه.

حضور ﷺ نے فرمایا: غریب مہاجرین مال داروں سے پانچ سو سال پہلے جنت میں جائیں گے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھا آپ سواری پر سوار ہو کر جا رہے تھے سواری آپ سے ڈرنے لگی میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کی سواری کو کیا ہوا ہے یہ ڈرنے لگی ہے؟ آپ نے فرمایا: اس نے اس قبر کے اندر ایک آدمی کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا ہے اس لیے یہ ڈرنے لگی ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک غزوہ میں گھنٹیاں بند کرنے کا حکم دیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جب جنبی ہوتے تو آپ نماز جیسا وضو کر کے آپ کھانا کھاتے تھے۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن کچھ لوگ لائے جائیں گے ان کے نامہ عمل میں پہاڑوں کے برابر ظلم ہوں گے اور ان کے حقوق اللہ عزوجل اس کو کم کرتا رہے گا یہاں تک کہ اس سے کوئی شی باقی نہیں رہے گی۔

یہ احادیث حضرت جابر سے صرف ابوہریرہ ہی

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَدْخُلَنَّ صَعَالِيكَ الْمُهَاجِرِينَ الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ بِخَمْسِمِائَةِ سَنَةٍ

3366 - وَبِهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ وَهُوَ يَسِيرُ عَلَيَّ رَاحِلَتِهِ، فَفَرَرْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا شَأْنُ رَاحِلَتِكَ فَفَرَرْتُ؟ قَالَ: إِنَّهَا سَمِعَتْ صَوْتَ رَجُلٍ يُعَذَّبُ فِي قَبْرِهِ، فَفَرَرْتُ لِذَلِكَ

3367 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ عَزَاةَ بِالْأَجْرَاسِ أَنْ تُقَطَّعَ

3368 - وَبِهِ عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَابِطٍ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَجَنَّبَ لَمْ يَطْعَمْ حَتَّى يَتَوَضَّأَ وَضُوئَهُ لِلصَّلَاةِ

3369 - وَبِهِ نَا جَابِرٌ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِأَمْثَالِ الْجِبَالِ مِنْ مَظَالِمِ النَّاسِ بَيْنَهُمْ وَحُقُوقِهِمْ، فَمَا يَزَالُ اللَّهُ يَقْضِيهَا حَتَّى لَا يَبْقَى مِنْهَا شَيْءٌ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ جَابِرٍ إِلَّا أَبُو

3368 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 117، وقال الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 277: وفيه جابر الجعفي، وقد

اختلاف في الاحتجاج به .

روایت کرتے ہیں اور ابو حازم، شیبان نحوی، اس کی روایت میں شریک ہیں۔

حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صاحبِ عریہ کو اندازہ سے ناپ کر فروخت کرنے کی رخصت دی۔

نافع بن ابی نعیم سے صرف خالد بن مخلد روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ابو کریب اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کسی آدمی کو چھینک آئے تو وہ الحمد للہ کہے تو فرشتے الحمد للہ کہتے ہیں، جب وہ رب العالمین کہتا ہے تو فرشتے رحمک اللہ کہتے ہیں۔

عطاء بن سائب سے صباح بن یحییٰ مرفوعاً روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے

حَمْزَةً، إِلَّا حَدِيثَ أَبِي حَازِمٍ، فَإِنَّ شَيْبَانَ النَّحْوِيَّ شَارَكَهُ فِي رِوَايَتِهِ

3370 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ الشَّامِيُّ

الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ: نَا نَافِعُ بْنُ أَبِي نُعَيْمٍ قَالَ: نَا نَافِعٌ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍ، عَنِ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَخَّصَ لِصَاحِبِ الْعَرِيَّةِ أَنْ يَبِعَهَا بِخَرْصِهَا كَيْلًا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ نَافِعِ بْنِ أَبِي نُعَيْمٍ إِلَّا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو كُرَيْبٍ

3371 - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ

بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا صَبَّاحُ بْنُ يَحْيَى الْمَزْنِيُّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا عَطَسَ الرَّجُلُ، فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَبِّ الْعَالَمِينَ، فَإِذَا قَالَ: رَبِّ الْعَالَمِينَ، قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: رَحِمَكَ اللَّهُ

لَمْ يَرَفَعُهُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا صَبَّاحُ بْنُ يَحْيَى

3372 - وَبِهِ حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا

3370 - أخرجه البخاری فی البيوع جلد 4 صفحہ 456 رقم الحدیث: 2192، ومسلم فی البيوع جلد 3 صفحہ 1169 رقم

الحدیث: 1539 .

3371 - أخرجه أيضاً الكبير جلد 11 صفحہ 453، وقال الهیثمی فی المجمع جلد 8 صفحہ 60: وفيه عطاء بن السائب وقد

اختلط . قلت هذا تعليل قاصر، وفيه من هو أضعف منه كما تقدم .

ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر پیدا ہونے والا بچہ عقیقہ کا مرتہن ہوتا ہے۔

عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ قَالَ: نَا
إِبْرَاهِيمُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَانَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ حَيَّانَ، عَنْ ابْنِ
بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ: كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ صَالِحِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ، وَلَا عَنْ
إِبْرَاهِيمَ، إِلَّا يَحْيَى، وَلَا عَنْ يَحْيَى إِلَّا عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ
بِهِ: أَبُو كُرَيْبٍ

3373 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ

مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْأَسَدِيِّ قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ
رَاشِدٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ
سُئِلَ: أَيْنَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حِينَ دَخَلَ الْبَيْتَ؟ قَالَ: بَيْنَ الْعَمُودَيْنِ

3374 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُجَيْرِ الْعَطَّارِ

الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَفَّانَ أَبُو بَكْرٍ
قَالَ: نَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ
أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يُصَلِّي مِنَ اللَّيْلِ حَتَّى
وَرِمَ قَدَمَاهُ، فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَيْسَ قَدْ غَفَرَ اللَّهُ
لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ؟ قَالَ: أَفَلَا أَكُونُ
عَبْدًا شَكُورًا

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا حَجَّاجُ،
تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

صالح سے صرف ابراہیم اور ابراہیم سے یحییٰ اور
یحییٰ سے صرف عثمان روایت کرتے ہیں، اس کو روایت
کرنے میں ابو کریب اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
پوچھا گیا: حضور ﷺ نے خانہ کعبہ کے اندر کہاں نماز
پڑھی تھی؟ فرمایا: دو ستونوں کے درمیان۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ رات کو نماز پڑھتے تھے اتنی دیر تک کہ
آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ گئے، آپ سے عرض
کی گئی: یا رسول اللہ! کیا اللہ عزوجل نے آپ کے وسیلہ
سے آپ کی امت کے پہلے اور اگلے گناہ معاف نہیں کیے
ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا میں اللہ کا شکر گزار ہندہ بندہ نہ بن
جاؤں!

یہ حدیث شعبہ سے صرف حججاج روایت کرتے ہیں،
اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمن اکیلے ہیں۔

3374 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 118 . وقال الهيثمي في المعجم جلد 2 صفحہ 274: وفيه عبد الرحمن بن عفان

وهو ضعيف وقد وثقه ابن حبان .

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ چل رہے تھے کہ ایک عورت آئی اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی تھا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا اس کے لیے حج ہے؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! اور ثواب تیرے لیے ہے۔ اس نے عرض کی: عرفات میں ٹھہرنے کا کیا ثواب ہے؟ آپ نے فرمایا: اس کے والدین کے لیے جو وہاں لوگ ٹھہرے ہوں گے ان کے سروں کے بالوں کی تعداد کے برابر ثواب لکھا جائے گا۔

یہ حدیث زہری سے صرف اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ترجمانی اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے حج کیا اور اس کے بعد میری وفات کے بعد میری قبر کی زیارت کی اس نے گویا میری زندگی میں میری زیارت کی۔

یہ حدیث لیث سے صرف حفص ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنے مسلمان بھائی کو بادشاہ سے خدمت کروائی یا اس کو خوشی دی اللہ عزوجل اس کے جنت میں درجات بلند کرے گا۔

3375 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التَّرْجَمَانِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّلْحِيُّ، عَنْ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ الْمَخْزُومِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسِيرُ إِذَا امْرَأَةً قَدْ أَقْبَلَتْ مَعَهَا ابْنُ لَهَا، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِلَهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ قَالَتْ: فَمَا ثَوَابُهُ إِذَا وَقَفَ بِعَرَفَةَ؟ قَالَ: يُكْتَبُ لَوَالِدَيْهِ بَعْدَ كُلِّ مَنْ وَقَفَ بِالْمَوْقِفِ عَدَدُ شَعْرِ رُئُوسِهِمْ حَسَنَاتٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ التَّرْجَمَانِيُّ

3376 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُجَيْرٍ قَالَ: ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ الرِّيَّانِ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ كَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ فَرَارَ قَبْرِي بَعْدَ مَوْتِي كَانَ كَمَنْ زَارَنِي فِي حَيَاتِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ كَيْثِ إِلَّا حَفْصُ

3377 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّيْسَابُورِيُّ الْأَعْرَجُ قَالَ: نَا إِدْرِيسُ بْنُ يُونُسَ الْحَرَّانِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ عُمَرَ بْنِ سَاحٍ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ وَهَبٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عُبَلَةَ، عَنْ

3376 - أخرجه أيضاً في المجمع صفحہ 514: وفيه حفص بن أبي داؤد القاري وثقه أحمد وضعفه جماعة من الأئمة قلت:

سليمان هذا متروك .

خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ وَصَلَةً لِأَخِيهِ
الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مَبْلَغٍ بَرٍّ أَوْ إِدْخَالِ
سُرُورٍ رَفَعَهُ اللَّهُ فِي الدَّرَجَاتِ الْعُلَى مِنَ الْجَنَّةِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا سُلَيْمَانُ،
وَلَا عَنْ سُلَيْمَانَ إِلَّا يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ إِدْرِيسُ بْنُ
يُونُسَ

یہ حدیث ابراہیم سے صرف سلیمان اور سلیمان سے
صرف یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے
میں ادریس بن یونس اکیلے ہیں۔

3378 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَوَّارٍ
النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصٍ قَالَ: حَدَّثَنِي
أَبِي قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ
الْحَجَّاجِ، عَنْ عَبَادِ بْنِ مَنْصُورٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ
مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُ الصَّدَقَاتِ، وَلَا يَقْبَلُ
مِنْهَا إِلَّا طَيِّبًا، وَيَقْبَلُهَا بِيَمِينِهِ، ثُمَّ يَرِيهَا لِصَاحِبِهَا
كَمَا يُرِي رَبِّي الرَّجُلَ مِنْكُمْ مُهْرَهُ وَفَصِيلَهُ، حَتَّىٰ إِنَّ
اللَّقْمَةَ لَتَصِيرُ مِثْلَ أَحَدٍ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل صدقات قبول کرتا
ہے اور حلال قبول کرتا ہے، اپنے دائیں (دست مبارک)
میں قبول کرتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے اس کے مالک کے
لیے، جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑے کا بچہ یا اونٹنی
کا بچہ بڑھتا، وہ ایک لقمہ بھی اُحد پہاڑ کی مثل ہو جاتا ہے۔

یہ حدیث حجج سے صرف ابراہیم ہی روایت کرتے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا إِبْرَاهِيمَ

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

3379 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ

3378 - أخرجہ الترمذی فی الزکاة جلد 3 صفحہ 41 رقم الحدیث: 662، وأحمد فی المسند جلد 2 صفحہ 620 رقم
الحدیث: 10100. وأصله متفق عليه. أخرجہ البخاری فی الزکاة جلد 3 صفحہ 326 رقم الحدیث: 1410
ومسلم فی الزکاة جلد 2 صفحہ 702.

3379 - أخرجہ ابن ماجة فی الجنائز جلد 1 صفحہ 476 رقم الحدیث: 1485، والطبرانی فی الکبیر جلد 18 صفحہ
239-240 رقم الحدیث: 601 وقال: اسنادہ واہ جدًا فیہ نفع بن الحارث أبو داؤد الأعمی وهو کذاب متہم
بالوضع وعلی بن الحزبور متروک.

حضور ﷺ ایک جنازہ میں شریک تھے کہ آپ نے ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بغیر چادروں کے چل رہے تھے آپ نے فرمایا: میری موجودگی میں یہ کام کیا جاتا ہے؟ میں نے ارادہ کیا کہ ان کے خلاف ایسی دعا کروں کہ تم اپنی صورتوں کے علاوہ پر چلو! حضرت عمران فرماتے ہیں: ہم نے اس کے بعد کسی کو بھی بغیر تہبند کے نہیں دیکھا۔

الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَادٍ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَزْوَرِيِّ، عَنْ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي جِنَازَةٍ، فَرَأَى قَوْمًا يَمْشُونَ بِغَيْرِ أَرْدِيَةٍ، فَقَالَ: بِحَضْرَتِي يُفْعَلُ هَذَا؟ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَدْعُو عَلَيْكُمْ دَعْوَةَ تَمْشُونَ فِي غَيْرِ صُورِكُمْ قَالَ: فَمَا رَأَيْ أَحَدًا بَعْدَ ذَلِكَ يَمْشِي بِغَيْرِ رِدَاءٍ

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے اسی سند سے روایت ہے۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ عزت میرا تہبند ہے اور بڑائی میری چادر ہے جو ان دونوں کو کھینچے گا، میں اس کو عذاب دوں گا۔

3380 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَالِكِ الْفَزَارِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْقَطَّانُ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْأَسَدِيُّ، عَنْ زِيَادِ بْنِ الْمُنْذِرِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ يَسَّارٍ، عَنْ زَادَانَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ: إِنَّ الْعِزَّةَ إِزَارِي، وَالْكَبْرِيَاءَ رِدَائِي، فَمَنْ نَارَ عَيْنَيْهِمَا أَعْدَبَهُ

حضرت علی سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے یہ کوئی نہیں جانتا ہے کہ رذان سے اس سند کے علاوہ روایت ہے۔

لَا يُرَوَى عَنْ عَلِيٍّ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَا يُعْلَمُ حَبِيبٌ حَدَّثَ عَنْ زَادَانَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔

3381 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو طَلْحَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ

3380 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 119، وقال الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 103: وفيه عبد الله بن الزبير

والد أبي أحمد ضعفه أبو زرعة وغيره، قلت: فيه أيضاً زياد بن المنذر وهو منهم بالوضع كما تقدم.

قَالَ: نَا وَهَيْبٌ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ

یہ حدیث عطاء سے صرف وہیب اور وہیب سے صرف احمد ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابو طلحہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا وَهَيْبٌ، وَلَا عَنْ وَهَيْبٍ إِلَّا أَحْمَدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو طَلْحَةَ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ ﷺ جنازہ کو عزت دینے کے لیے کھڑے ہوئے جو آپ کے پاس سے گزرا، کیونکہ وہ یہودی کا جنازہ تھا آپ اس کے لیے صرف کھڑے ہوئے (اس کے ساتھ شریک نہیں ہوئے)۔

3382 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ عَيْسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الْمَدَنِيُّ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا قَامَ لِلْجَنَازَةِ الَّتِي مَرَّتْ بِهِ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ جِنَازَةً يَهُودِيٍّ، فَقَامَ لَهَا

یہ حدیث زہری سے صرف معاویہ اور معاویہ سے محمد واسطی ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں قاسم بن عیسیٰ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ إِلَّا مُعَاوِيَةَ، وَلَا عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ، وَهُوَ وَاسِطِيٌّ، تَفَرَّدَ بِهِ الْقَاسِمُ بْنُ عَيْسَى

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مریض کو شلوار پہننے کی رخصت دی جب تہبت نہ پائے اور خفین کی اجازت دی جب کہ نعلین نہ پائے۔

3383 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سِنَانَ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ عَيْسَى الطَّائِيُّ قَالَ: نَا طَلْحَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: رَخَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السَّرَوَائِلِ لِلْمَرِيضِ إِذَا لَمْ يَجِدْ إِزَارًا، وَفِي الْخَفَيْنِ

3382 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحه 119-120 .

3383 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحه 157 رقم الحديث: 1135 وأصله في البخاری ومسلم من طريق جابر

بن زيد . أخرجه البخاری في جزاء الصيد جلد 4 صفحه 69 رقم الحديث: 1841، ومسلم في الحج جلد 2

صفحة 835 .

إِذَا لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا طَلْحَةَ

یہ حدیث قتادہ سے صرف طلحہ ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میرا حوض ایلہ سے صنعاء کے درمیان جتنی مسافت پر ہے ایک طرف سونے کا دوسری طرف چاندی کا ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، مشک خوشبو سے زیادہ خوشبودار ہوگا جو اس سے پئے گا وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔

3384 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ

وَكَيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ قَالَ: نَا أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ، عَنْ مُطِيعِ الْغَزَالِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: حَوْضِي مَا بَيْنَ آيَلَةَ إِلَى صَنْعَاءَ، لَهُ مِيزَابَانِ، أَحَدَاهُمَا مِنْ ذَهَبٍ وَالْآخَرُ مِنْ فِضَّةٍ، آيَتُهُ عَدَدُ نُجُومِ السَّمَاءِ، أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ، وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ، وَرِيحُهُ أَطْيَبُ مِنَ الْمِسْكِ، مَنْ شَرِبَ مِنْهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا

یہ حدیث مطیع سے صرف ابوداؤد روایت کرتے ہیں

اس کو روایت کرنے میں سفیان اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے کالا عمامہ پہنا ہوا تھا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطِيعٍ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ سُفْيَانُ

3385 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ

صُدْرَانَ قَالَ: نَا عَبْسَةَ بْنُ سَالِمٍ، صَاحِبِ الْأَلْوَاحِ قَالَ: نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّهُ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَعَمَّ بِعِمَامَةٍ سَوْدَاءَ

یہ حدیث عبید اللہ سے صرف عبسہ روایت کرتے

ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن صفوان اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے کوئی بھی رات کے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ إِلَّا عَبْسَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ صُدْرَانَ

3386 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ

بْنُ بَيَانَ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ الْأَزْرُقِيُّ، عَنْ شَرِيكِ، عَنْ

3386 - أصله عند البخاري ومسلم. أخرجه البخاري في النكاح جلد 9 صفحہ 251 رقم الحديث: 5243، ومسلم في

الإمارة جلد 3 صفحہ 1527 رقم الحديث: 182-183 (باب كراهية الطروق) وهو الدخول ليلاً لمن ورد من

سفر) .

وقت (سفر سے واپس آئے تو) اپنی بیوی کے پاس نہ آئے۔

مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَأْتِيَنَّ أَحَدُكُمْ أَهْلَهُ طُرُوقًا

یہ حدیث شریک سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں اسحاق اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُغِيرَةَ إِلَّا شَرِيكٌ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْحَاقُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ آئے ہم حج کے لیے صرف تلبیہ پڑھ رہے تھے ہمیں رسول اللہ ﷺ نے عمرہ کرنے کا اور احرام کھولنے کا حکم دیا ہم نے عمرہ کا احرام کھول دیا۔

3387 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ بْنِ الرَّوَّاسِ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ عُلْقَمَةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَدِمْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَصْرُحُ بِالْحَجِّ صِرَاحًا، فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عَمْرَةً، وَأَنْ نُحِلَّ، فَاحْلَلْنَا

یہ حدیث داؤد سے صرف سلمہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ إِلَّا سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدٌ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہم پر نکلے ہم کماة (کھنٹی) کا ذکر کر رہے تھے آپ نے فرمایا: کماة (کھنٹی) من سے ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے۔

3388 - حَدَّثَنَا جَعْفَرٌ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى، عَنْ أَبِي إِسْرَائِيلَ الْمَلَانِيِّ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِيَّاسٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ

3387- أصله عند البخاری ومسلم . أخرجه البخاری فی الحج جلد 3 صفحہ 505 رقم الحدیث: 1570 من طریق ایوب قال سمعت مجاهدًا يقول: حدثنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قدمنا مع رسول الله ﷺ ونحن نقول: لبيك اللهم ليك بالحج فامرنا رسول الله ﷺ فجعلناها عمرة . ومسلم في الحج جلد 2 صفحہ 884 من طريق عبد الملك بن أبي سليمان عن عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما . قال: اهلنا مع رسول الله ﷺ . نحوه .

3388- أخرجه الترمذی فی الطب جلد 4 صفحہ 401 رقم الحدیث: 2068 وقال: حدیث حسن . وأحمد فی المسند جلد 2 صفحہ 434 رقم الحدیث: 8327 . انظر: مجمع الزوائد جلد 1 صفحہ 70 .

عَدَاكَرُ الْكَمَاءِ، فَقَالَ: الْكَمَاءُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا
بِفَاءٍ لِلْعَيْنِ

یہ حدیث ابان سے صرف اسرائیل ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبید اللہ اکیلے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی دھوکہ یا فریب دے اس کی دھوکہ بازی کے مطابق قیامت کے دن اس کی پشت پر جھنڈا لگایا جائے گا جس کی وجہ سے وہ پہچانا جائے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابَانَ إِلَّا إِسْرَائِيلُ،
تَفَرَّدَ بِهِ عُبَيْدُ اللَّهِ

3389 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ الْفَضْلِ بْنِ الْيَمَانِ
الْمَخْزُومِيُّ الْمُؤَدَّبُ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ شَيْبَةَ الْحِزَامِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ أَبِي فَدْيِكِ
قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ يَعْقُوبَ الزَّمْعِيُّ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
بْنِ إِسْحَاقَ، أَنَّ أَبَا حَازِمٍ، أَخْبَرَهُ، أَنَّ نَافِعًا مَوْلَى ابْنِ
عُمَرَ أَخْبَرَهُ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مِنْ غَادِرٍ إِلَّا وَلَهُ لَوَاءٌ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ

یہ حدیث ابو حازم سے صرف عبدالرحمن اور عبدالرحمن سے صرف موسیٰ اور موسیٰ سے ابن فدیك روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبدالرحمن اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ إِلَّا عَبْدُ
الرَّحْمَنِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَّا مُوسَى، وَلَا عَنْ
مُوسَى إِلَّا ابْنُ فَدْيِكِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے زبان مارے تو اس میں قصاص نہیں ہے پوشیدہ خزانوں میں خنس ہے۔

3390 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخَارِجِيُّ
الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ
الْجَعْدِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
الْعَجْمَاءُ جَبَّارٌ وَقَضَى فِي الرِّكَازِ الْخُمْسَ

338 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحه 120 وأصله في البخاری ومسلم . وأخرجه البخاری في الحيل جلد 12

صفحة 354 رقم الحديث: 6966، ومسلم في الجهاد جلد 3 صفحه 1360 عن طريق عبد الله بن دينار .

3390 - أخرجه البخاری في الديات جلد 12 صفحه 265 رقم الحديث: 6912، ومسلم في الحدود جلد 3

صفحة 1334 .

یہ حدیث قتادہ سے صرف حماد اور ابو مریم عبدالغفار بن قاسم روایت کرتے ہیں۔

حضرت معاویہ بن سفیان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم مجھ سے کسی شی کا جلدی مطالبہ نہ کیا کرو کہ تم گمان کرتے ہو کہ یہ شے جلدی جلدی مل جائے گی، تم سے کوئی شے روکی نہ جائے گی، یہاں تک کہ تم گمان کرتے ہو کہ وہ شے چلی جائے گی، اگر اللہ نے تیرے مقدر میں لکھی ہے تو تجھے ملے گی۔

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے صرف معاویہ ہی روایت کرتے ہیں اور معاویہ سے اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں عبدالوہاب اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بڑا چور وہ ہے جو نماز میں چوری کرتا ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! نماز میں کیسے چوری ہوتی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: رکوع اور سجود مکمل نہ کرنا اور لوگوں میں سے بڑا بخیل وہ ہے جو سلام کرنے میں بخل کرتا ہے۔

یہ حدیث عبداللہ سے صرف حسن اور حسن سے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا حَمَادًا، وَأَبُو مَرِيَمَ عَبْدَ الْغَفَّارِ بْنِ الْقَاسِمِ

3391 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مَعْدَانَ الْأَهْوَازِيُّ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ الْحَرِيْشِ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الشَّقْفِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْوَهَّابِ بْنِ مُجَاهِدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَعْجَلَنَّ إِلَى شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنِ اسْتَعْجَلْتَ إِلَيْهِ أَنَّكَ مُدْرِكُهُ، وَلَا تَسْتَأْخِرَنَّ عَنِ شَيْءٍ تَظُنُّ أَنَّكَ إِنِ اسْتَأْخَرْتَ عَنْهُ أَنَّهُ مَدْفُوعٌ عَنْكَ، إِنْ كَانَ اللَّهُ قَدْ قَدَّرَهُ عَلَيْكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُعَاوِيَةَ، وَلَا يَرُوى عَنْ مُعَاوِيَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْوَهَّابِ

3392 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ قَالَ: نَا زَيْدُ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ قَالَ: نَا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ أَسْرَقَ النَّاسُ مِنْ سَرَقِ صَلَاتِهِ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَهُ؟ قَالَ: لَا يَتَمُّ رُكُوعَهَا وَلَا سُجُودَهَا، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخَلَ بِالسَّلَامِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا الْحَسَنُ،

3391 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 17 صفحہ 347. وقال الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 202. وفيه عبد الوهاب ابن

مجاهد وهو ضعيف .

3392 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 121. وقال الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 123 رواه الطبرانی في الثلاثة

، ، حاله ثقات .

صرف عوف اور عوف سے صرف عثمان روایت کرتا ہے اس کو روایت کرنے میں زید اکیلا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم خیبر کے دن حضور ﷺ کے ساتھ تھے آپ ﷺ نے ایک آدمی کے لیے فرمایا جو آپ کے ساتھ تھا: یہ جہنمی ہے۔ جب لڑائی شروع ہوئی تو وہ بہت لڑا یہاں تک کہ اس کو بڑے زخم لگے، صحابہ کرام حضور ﷺ کے پاس آئے انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! وہ آدمی جس کے متعلق آپ یقین کرتے تھے کہ وہ جہنمی ہے، وہ بڑا سخت لڑا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ ابھی جہنمی ہو جائے گا، جب زخموں نے اس کو تنگ کیا تو اس نے کمان لی، اس سے تیر نکالا اور اس کو اپنے جسم میں لگایا اور مر گیا۔ صحابہ کرام حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کرنے لگے: یا رسول اللہ! اللہ عزوجل نے آپ کے ارشاد کو سچ کر دکھایا، جو آپ نے ہمیں فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے، اس نے کمان سے ایک تیرا نکالا اور اس نے اپنے گلے میں گھونپا۔ آپ ﷺ نے حضرت بلال کو فرمایا: لوگوں میں اعلان کر دو کہ اس جنت میں صرف مومن ہی جائے گا اور اللہ عزوجل اس دین کی مدد دے آدمی سے کرتا ہے۔

غالب نے سعید سے، وہ ابو ہریرہ سے اس سند کے علاوہ منسوب نہیں کرتے، اس کو روایت کرنے میں ابو بکر اکیلا ہے۔

وَلَا عَنِ الْحَسَنِ إِلَّا عَوْفٌ، وَلَا عَنِ عَوْفٍ إِلَّا عَثْمَانُ، تَفَرَّدَ بِهِ زَيْدٌ

3393 - حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَهْمَزْدَ

التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْأَشْعَثِ أَحْمَدُ بْنُ مِقْدَامٍ الْعِجْلِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ الْحَنْفِيُّ: قَالَ غَالِبُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الْجَزْرِيُّ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيْبِ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ خَيْبَرَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مَعَهُ: هَذَا مِنْ أَهْلِ النَّارِ فَلَمَّا حَضَرَ الْقِتَالُ قَاتَلَ أَشَدَّ الْقِتَالِ حَتَّى أَثْقَلَتْهُ الْجِرَاحَاتُ، فَجَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الَّذِي زَعَمْتَ أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ قَاتَلَ قِتَالًا شَدِيدًا، فَقَالَ: أَمَا وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، فَلَمَّا آمَتَهُ الْجِرَاحَاتُ، نَالَ الْكِنَانَةَ، وَأَخْرَجَ سَهْمًا، فَانْتَحَرَ بِهِ، فَجَاءُوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ صَدَّقَ اللَّهُ قَوْلَكَ، إِنَّ الَّذِي أَخْبَرْتَنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ أَخْرَجَ مِنْ كِنَانَتِهِ سَهْمًا فَانْتَحَرَ بِهِ، فَأَمَرَ بِلَالًا يَنَادِي فِي النَّاسِ: أَلَا إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا مُؤْمِنٌ، وَإِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا

الَّذِينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ

لَمْ يُسْنِدْ غَالِبٌ عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو بَكْرٍ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام جبیر ہے

مِنْ اسْمِهِ

جَبِيرٌ

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کیا میں تمہیں ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرتے وقت سکھائے گا؟ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیوں نہیں! آپ نے فرمایا: ”اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ“۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے شقیق سے سنا ہے ہم نے ان کلمات کو کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت شقیق فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ سے جب سے سنا ہے میں نے کبھی نہیں چھوڑا۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب سے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے میں نے کبھی ان کلمات پڑھنا نہیں چھوڑا۔ حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ میرے خواب میں ایک آنے والا آیا اس نے کہا: اے مسلمان! ان کلمات میں یہ کلمات زیادہ کر لو؟ ”وَنَسْتَعِينُكَ عَلَى فَسَادِ هَوِّنَا وَنَسْأَلُكَ صَلَاحَ أَمْرِنَا كَلِمَةً“۔

یہ حدیث اعمش سے صرف وکیج اور وکیج سے زکریا روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں جعفر اکیلے ہیں رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

3394 - حَدَّثَنَا جَبِيرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ

قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ الْفَضْلِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ فَرُّوخَ التَّمَارِ، عَنْ وَكَيْعِ بْنِ الْجَرَّاحِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَعْلِمُكُمْ الْكَلِمَاتِ الَّتِي تَكَلَّمُ بِهَا مُوسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ حِينَ جَاوَزَ الْبَحْرَ بِنَبِيِّ إِسْرَائِيلَ؟ فَقُلْنَا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: فَوَلُّوا: اللَّهُمَّ لَكَ الْحَمْدُ، وَإِلَيْكَ الْمُشْتَكَى، وَأَنْتَ الْمُسْتَعَانُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَظِيمِ قَالَ: فَمَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ شَقِيقٍ وَقَالَ شَقِيقٌ: مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: مَا تَرَكَتُهُنَّ مِنْذُ سَمِعْتُهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْأَعْمَشُ: فَاتَانِي آتٍ فِي مَنَامِي، فَقَالَ: يَا سَلِيمَانُ، زِدْ فِي هَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ: وَنَسْتَعِينُكَ عَلَى فَسَادِ هَوِّنَا، وَنَسْأَلُكَ صَلَاحَ أَمْرِنَا كَلِمَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا وَكَيْعٌ، وَلَا عَنْ وَكَيْعٍ إِلَّا زَكَرِيَّا، تَفَرَّدَ بِهِ جَعْفَرٌ، وَلَا يَرُوى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے دوست سے ایک حد تک محبت کرو ممکن ہے ایک دن وہی تمہارا دشمن ہو اور دشمن سے دشمنی ایک حد تک رکھو ممکن ہے وہی ایک دن تمہارا دوست ہو۔

حضرت ابو الزناد سے یہ حدیث صرف عباد نے روایت کی ہے اور محمد بن ماہان اس کے ساتھ منفرد ہیں۔ حضرت سلیمان بن بريدة اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ جب کوئی سر یہ بھیجتے تو فرماتے: جہاد کرو اللہ کا نام لے کر اللہ کی راہ میں اس سے لڑو جو اللہ کا انکار کرنے کی خیانت نہ کرو دھوکہ نہ کرو زیادتی نہ کرو بزدلی نہ دکھاؤ۔

3395 - حَدَّثَنَا جُبَيْرٌ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مَاهَانَ بْنِ أَبِي حَنيفَةَ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ عَبَّادِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَحِبِّ حَبِيبِكَ هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ بَغِيضَكَ يَوْمًا مَا، وَأَبْغِضْ بَغِيضَكَ هَوْنَا مَا عَسَى أَنْ يَكُونَ حَبِيبَكَ يَوْمًا مَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ إِلَّا عَبَّادٌ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ مَاهَانَ

3396 - حَدَّثَنَا جُبَيْرٌ بْنُ هَارُونَ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الطَّنَافِيسِيُّ قَالَ: نَا وَكِيعٌ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً قَالَ: اغْزُوا بِسْمِ اللَّهِ، فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ، لَا تَغْلُوا، وَلَا تَغْدِرُوا، وَلَا تَجُنُّوا



3395- أخرجه الترمذی فی البر والصلة جلد 4 صفحہ 360 رقم الحدیث: 1997 . وقال: هذا حدیث غریب .

3396- أخرجه مسلم فی الجهاد جلد 3 صفحہ 1357 من حدیث طویل وأبو داؤد فی الجهاد جلد 3 صفحہ 38 رقم

الحدیث: 2613، والترمذی فی السير جلد 4 صفحہ 162 رقم الحدیث: 1617 .

مَنْ اسْمُهُ جَبْرُونُ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام جبرون ہے

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے جمعہ کے دن غسل کیا اس کے گناہ اور غلطیاں معاف ہوں گے اور جب کوئی جمعہ کے لیے چلتا ہے تو ہر قدم کے بدلے بیس سال کے برابر نیکیاں ملتی ہیں؛ جب جمعہ کی نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو دو سو سال عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔

3397 - حَدَّثَنَا جَبْرُونُ بْنُ عَيْسَى الْمَغْرِبِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَفْرِيُّ الْمَغْرِبِيُّ قَالَ: نَا عَبَادُ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ أَبُو مَعْمَرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ غُفِرَتْ لَهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا أَخَذَ فِي الْمَشْيِ إِلَى الْجُمُعَةِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عَمَلٌ عِشْرِينَ سَنَةً، فَإِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاةِ الْجُمُعَةِ أُجِيزَ بِعَمَلِ مِائَتِي سَنَةٍ

ابو بکر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن سلیمان اکیلے ہیں۔

لَا يُرْوَى عَنْ أَبِي بَكْرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تجھے کوئی ضرورت پیش آئے اور تو اس سے نجات پانے کو پسند کرے تو پڑھ: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْحَلِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يُؤْعَدُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ

3398 - وَبِهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ قَالَ: إِذَا طَلَبْتَ حَاجَةً فَاحْبَبْتَ أَنْ تَنْجَحَ، فَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، بِسْمِ اللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْحَلِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (كَانَهُمْ يَوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَمْ يَلْتَبُوا) (الاحقاف: 35) إِلَّا سَاعَةً مِنْ

3398- أخرجه أيضا الصغير جلد 1 صفحہ 123. وقال الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 170: وفيه عباد بن عبد

الصمد وهو ضعيف .

يَلْبُثُوا) (الاحقاف: 35) اِلَّا سَاعَةً مِّنْ نَّهَارٍ بَلَاغٌ
 فَهَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، (كَانَهُمْ يَوْمَ
 يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا)
 (النازعات: 46)، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
 رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ،
 وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا
 غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا
 حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ
 قَضَيْتَهَا بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ“ -

یہ حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت ہے
 اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن سلیمان اکیلے ہیں۔

نَهَارٍ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلِكُ اِلَّا الْقَوْمَ الْفَاسِقُونَ، (كَانَهُمْ
 يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبُثُوا اِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا)
 (النازعات: 46)، اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْأَلُكَ مُوجِبَاتِ
 رَحْمَتِكَ، وَعَزَائِمَ مَغْفِرَتِكَ، وَالْغَنِيْمَةَ مِنْ كُلِّ بَرٍّ،
 وَالسَّلَامَةَ مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ، اَللّٰهُمَّ لَا تَدْعُ لِيْ ذَنْبًا اِلَّا
 غَفَرْتَهُ، وَلَا هَمًّا اِلَّا فَرَّجْتَهُ، وَلَا دَيْنًا اِلَّا قَضَيْتَهُ، وَلَا
 حَاجَةً مِنْ حَوَائِجِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اِلَّا قَضَيْتَهَا
 بِرَحْمَتِكَ يَا اَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ اَنَسٍ اِلَّا بِهَذَا
 الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ يَحْيَى بْنُ سَلِيْمَانَ



بَابُ الْحَاءِ

مَنْ اسْمُهُ
الْحَسَنُباب الحاء
اس شیخ کے نام سے
جس کا نام حسن ہے

حضرت عبدالرحمن بن عبداللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں حضور ﷺ کے ساتھ تھے کہ ہم چیونٹیوں کی ایک وادی سے گزرے اس کو آگ لگا دی گئی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی انسان کے لیے مناسب نہیں ہے کہ اللہ عزوجل والا عذاب دے۔

یہ حدیث سفیان، عبدالرزاق کے علاوہ کوئی نہیں روایت کرتا۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھ سے میرے چار لاکھ امتی (بغیر حساب کے) جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ زیادہ سوال کریں۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: اور اس طرح اور اپنی دونوں ہتھیلیوں کو اکٹھا کیا۔ اتنے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ بولے: اے ابو بکر! اب تجھے کافی ہے۔ حضرت ابو بکر

3399 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبُوسِيُّ الصَّنَعَانِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا الثَّوْرِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَمَرَرْنَا بِقَرْيَةٍ نَمَلٍ قَدْ أُحْرِقَتْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِبَشَرٍ أَنْ يُعَذَّبَ بِعَذَابِ اللَّهِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ غَيْرَ عَبْدِ الرَّزَّاقِ

3400 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْبُوسِيُّ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ وَعَدَنِي أَنْ يَدْخَلَ الْجَنَّةَ مِنْ أُمَّتِي أَرْبَعِمِائَةِ أَلْفٍ . فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: زِدْنَا، يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهَكَذَا وَجَمَعَ كَفَّيْهِ، فَقَالَ عُمَرُ: حَسْبُكَ يَا أَبَا بَكْرٍ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: دَعْنِي يَا عُمَرُ، وَمَا عَلَيْكَ أَنْ

3400- أخرجه أيضاً أحمد جلد 3 صفحہ 165 عن عبد الرزاق به . وقال الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 407:

ورجالهما رجال الصحيح .

رضی اللہ عنہ نے فرمایا: مجھے چھوڑ دو! اے عمر! تیرے اوپر لازم نہیں کہ تو ہم سب کو جنت میں داخل فرما دے۔ حضرت عمر نے کہا: بے شک اگر اللہ چاہے تو ایک ہی ہتھیلی سے ساری مخلوق کو جنت میں داخل کر دے۔ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: حضرت عمر نے سچ کہا ہے۔

اسی طرح معمر نے اس حدیث کو قنادہ سے انہوں نے نضر بن انس سے اور انہوں نے انس سے روایت کیا ہے اور اس کو معاذ بن ہشام اپنے والد سے وہ قنادہ سے وہ ابوبکر بن انس سے وہ ابوبکر بن عمیر سے اور وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ ایک بار انصاری عورتوں کے پاس سے گزرے وہ شادی میں موجود تھیں اور یوں گارہی تھیں:

يَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ كُلَّنَا، فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ اللَّهَ إِنْ شَاءَ أَدْخَلَ خَلْقَهُ الْجَنَّةَ بِكَفِّ وَاحِدٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: صَدَقَ عُمَرُ

هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ وَرَوَاهُ مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ

3401 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ

الصُّورِيُّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ، نَا أَبِي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِنِسَاءٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فِي عُرْسٍ لَهُنَّ يُغْنِينَ:

(البحر الرجز)

وَأَهْدَى لَهَا كَبْشًا... تَنَحَّحَ فِي الْمَرْبِدِ

وَرَزَّوَجِكَ فِي النَّادِي... وَيَعْلَمُ مَا فِي غَدِ

فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يَعْلَمُ مَا فِي غَدِ إِلَّا اللَّهُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

إِلَّا أَبُو أُوَيْسٍ

اور اس نے اس کے لیے مینڈھا ہدیہ کیا وہ اپنے باڑے میں کھانتا ہے آوازیں نکالتا ہے اور تیرا خاوند دُوری پر ہے اور وہ جانتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔

تو یہ سن کر آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی نہیں جانتا کہ کل کیا ہوگا مگر اللہ۔ یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے ابو اویس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ ہم دونوں نے رسول اللہ ﷺ

3402 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا

سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّمَشَقِيِّ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ

3401 - أَخْرَجَهُ أَيْضًا الصَّغِيرُ جلد 1 صفحہ 124 . وقال الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحہ 292-293 . ورجاله رجال

کی بیعت کی، ہم دونوں سات سال کے تھے جب رسول اللہ ﷺ نے ہم دونوں کو دیکھا تو آپ نے تبسم فرمایا اور اپنا ہاتھ پھیلا کر آپ نے بیعت کی۔

عِيَّاشٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ، أَنَّهُمَا بَايَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِينَ، فَلَمَّا رَأَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَبَسَّمَ، وَنَسَطَ يَدَهُ فَبَايَعَهُمَا

ہشام بن عروہ سے صرف اسماعیل بن عیاش اور اسماعیل سے صرف ابن بنت شرحبیل روایت کرتے ہیں اور عبد اللہ بن زبیر اور عبد اللہ بن جعفر سے صرف اسی سند سے روایت ہے اور حضور ﷺ کی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا إِسْمَاعِيلَ بْنَ عِيَّاشٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ إِلَّا ابْنُ بِنْتِ شَرْحِبِيلَ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین آدمیوں سے قلم اٹھایا جاتا ہے: (۱) سونے والا یہاں تک کہ جاگ جائے (۲) پاگل یہاں تک کہ درست ہو جائے (۳) بچہ یہاں تک کہ عقل مند یا بالغ ہو جائے۔

3403 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، نَا أَبُو الْجَمَاهِرِ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثٍ: عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ، وَالْمَعْتُورِ حَتَّى يَفِيقَ، وَالصَّبِيِّ حَتَّى يَفْقَلَ، أَوْ يَحْتَلِمَ لَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا أَبُو الْجَمَاهِرِ

ابن عباس سے یہ حدیث اسی وجہ سے روایت ہے اور اس کو صرف ابو جماہر روایت کرتے ہیں۔

3404 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ طَلْحَةَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ رُكَّانَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدِ بْنِ

حضرت ابراہیم بن سعد بن ابی وقاص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک پتھر پر اترنے لوگوں سے اس کنواں کا پانی مانگا پھر وہاں آرام کیا جب لوگ زیادہ ہوئے تو آپ نے لوگوں کو حکم دیا کہ اس پانی

3403- أخرجه أيضًا الكبير جلد 11 صفحہ 89 رقم الحدیث: 11141، وقال الهيثمي في المجمع جلد 6 صفحہ 254:

وفيه عبد العزيز بن عبد الله بن حمزة وهو ضعيف .

سے نہ پیو نہ اس سے وضو کرو نہ اس پانی سے آنا گوندھو۔ تو لوگوں نے ایسے ہی کیا۔

حضرت سعد سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں ابن بنت شرحبیل اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مسلمانوں سے ایک بالشت بھی جدا ہوا، اس نے اسلام کا طوق اپنی گردن سے اتار دیا، جو اس حالت میں مرا کہ اس کا کوئی امام نہ ہو وہ جاہلیت کی موت مرا، جو عصیت کے جھنڈے کے تحت مرا اس عصیت کی مدد کرتا رہا تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

حضرت قتادہ سے صرف خلید بن دینج روایت کرتے ہیں اور ابن عباس سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کماة (کھنسی) من سے ہے اس کا پانی آنکھوں کے لیے شفاء ہے اور عجوہ جنت سے ہے یہ

أَبِي وَقَاصٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجْرِ، وَاسْتَسْقَى النَّاسُ مِنْ بَيْرِهَا ثُمَّ رَاحَ مِنْهَا فَلَمَّا اسْتَقَلَّ أَمَرَ النَّاسَ أَنْ لَا يَشْرَبُوا مِنْ مَائِهَا، وَلَا يَتَوَضَّئُوا مِنْهَا، وَمَا كَانَ مِنْ عَجِينٍ عُجِنَ مِنْ مَائِهَا أَنْ يُعْلَفَ، فَفَعَلَ النَّاسُ لَا يُرَوَى عَنْ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ ابْنُ بِنْتِ شَرْحِبِيلَ

3405 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ جَرِيرٍ الصُّورِيُّ، نا أَبُو الْجَمَاهِرِ، نا خَلِيدُ بْنُ دَعْلَجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْمُسْلِمِينَ قَيْدَ شِبْرِ فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ، وَمَنْ مَاتَ لَيْسَ عَلَيْهِ إِمَامٌ فَمِيتُهُ جَاهِلِيَّةٌ، وَمَنْ مَاتَ تَحْتَ رَايَةِ عِمِّيَّةٍ يَنْصُرُ عَصِيَّةً فَقَتَلَتْهُ جَاهِلِيَّةٌ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ قَتَادَةَ إِلَّا خَلِيدُ بْنُ دَعْلَجٍ، وَلَا يُرَوَى عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3406 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غَلِيْبٍ الْمِصْرِيُّ، نا مَهْدِيُّ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمْلِيِّ، نا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنْ ابْنِ

3405- أخرجه أيضاً البزار (كشف الأستار جلد 2 صفحہ 252). وقال الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 227. وفيه خلید

بن دعلج وهو ضعيف .

3406- أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 125، والكبير جلد 12 صفحہ 63. وقال الهيثمي في المجمع جلد 5

صفحہ 91-92: وفيه مهدي بن جعفر الرملي وهو ثقة، وفيه ضعيف، وبقية رجاله ثقات .

جادو سے شفاء ہے۔ راوی کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے عرق النساء کے لیے مینڈھے کی چربی کی تعریف فرمائی۔

جَرِيحٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ، وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ، وَالْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ، وَهِيَ شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ. قَالَ: وَنَعَتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ عَرَقِ النَّسَاءِ أَلِيَّةَ كَبَشٍ

امام طبرانی فرماتے ہیں: ہم نے ابن غلیب سے ہی اسے اور ابن عباس سے اس سند سے روایت ہے۔

لَمْ نَسْمَعُهُ إِلَّا مِنْ ابْنِ غَلِيْبٍ، وَلَا يَرَوِي عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔

3407 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غَلِيْبٍ، نَا يَحْيَى بْنُ سَلِيْمَانَ الْجُعْفِيُّ، نَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، نَا عُمَانَ بْنَ الْأَسْوَدِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

یحییٰ بن یحییٰ سے ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَحْيَى الْجُعْفِيُّ

حضرت ابی بن عمارہ الانصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے موزوں پر مسح کیا؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! میں نے عرض کی: ایک دن؟ فرمایا: دو دن، میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! تین دن؟ فرمایا: جی

3408 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ غَلِيْبٍ، نَا سَعِيدُ بْنُ عَفِيْرٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ رَزِيْنٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ قَطَنِ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ نَسِيٍّ، عَنْ أَبِي بِنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3407 - أخرجه البخارى فى الجمعة جلد 2 صفحه 462 رقم الحديث: 919 من طريق: سالم عن أبيه قال: سمعت النسي

ﷺ يخطب على المنبر فقال: من جاء الى الجمعة فليغتسل. ومسلم فى الجمعة جلد 2 صفحه 579 بلفظ: اذا أراد

أحدكم أن يأتى الجمعة فليغتسل. والترمذى فى الصلاة جلد 2 صفحه 364 رقم الحديث: 492 وابن ماجة فى

الإقامة جلد 1 صفحه 346 رقم الحديث: 1088. وأحمد فى المسند جلد 2 صفحه 58 رقم الحديث: 5004.

انظر: نصب الرأية جلد 1 صفحه 86.

3408 - أخرجه الطبرانى فى الكبير جلد 1 صفحه 203 رقم الحديث: 546.

صَلَّى فِي بَيْتِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَمَسَحَ عَلَيَّ
الْخُفَّيْنِ؟ قَالَ: نَعَمْ، قُلْتُ: يَوْمًا؟ قَالَ: وَيَوْمَيْنِ.
قُلْتُ: وَثَلَاثَةً يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا بَدَأَ لَكَ
رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، فَلَمْ يَذْكُرُوا
عِبَادَةَ بْنِ نَسِيِّ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ عَفِيرٍ

ہاں! جو تیرے لیے ظاہر ہو۔
یجی بن ایوب سے ایک جماعت نے روایت کیا
ہے اور انہوں نے عبادہ بن نسی کا ذکر نہیں کیا اور صرف
سعید بن عفیر کا ذکر کیا ہے۔

3409 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زُوَلَقٍ
الْمِصْرِيُّ، نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُّ، نَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
صَلَاةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيتَ الصُّبْحَ فَأَوْتِرْ
بِوَاحِدَةٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: رات کی نماز دو دو رکعت ہے جب صبح
ہونے کا خوف ہو تو ایک رکعت ملا کر وتر کر لیا کرو۔

لَمْ يَرَوْهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ

3410 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زُوَلَقٍ،
نَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، نَا السَّرِيُّ بْنُ يَحْيَى،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا قَعَدَ بَيْنَ شُعْبَيْهَا الْأَرْبَعِ،
وَالزُّوقِ الْخِتَانِ بِالْخِتَانِ، وَجَبَ الْغُسْلُ

اسے صرف یجی بن سلیمان ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جب آدمی اپنی عورت کے چار شانوں
کے درمیان بیٹھے اور شرمگاہ شرمگاہ سے مل جائے تو غسل
فرض ہو جاتا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ السَّرِيِّ بْنِ يَحْيَى إِلَّا
عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ

یہ حدیث سری بن یجی سے صرف عمرو بن ربیع بن
طارق روایت کرتے ہیں۔

3411 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ زُوَلَقٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور

3409- أخرجه البخاری فی الصلاة جلد 1 صفحہ 669 رقم الحدیث: 473، ومسلم فی المسافرین جلد 1 صفحہ 516 .

3410- أخرجه البخاری فی الغسل جلد 1 صفحہ 470 رقم الحدیث: 291، ومسلم فی الحيض جلد 1 صفحہ 271 بلفظ:

إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل . وأبو داؤد فی الطهارة جلد 1 صفحہ 54 واللفظ عدو .

3411- عند البخاری ومسلم بلفظ: لا تمتعوا اماء الله مساجد الله . أخرجه البخاری فی الجمعة جلد 2 صفحہ 444

ﷺ نے فرمایا: اللہ کی لوٹڈیوں کی اللہ کی مسجدوں میں آنے سے نہ روکو وہ باپردہ ہو کر نکلیں۔

المِصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ، نَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تَمْنَعُوا إِمَاءَ اللَّهِ مَسَاجِدَ اللَّهِ، وَلْيَخْرُجَنَّ تَفَلَاتٍ

یہ حدیث محمد بن عجلان سے صرف یحییٰ بن ایوب روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ربیع بن طارق روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجَلَانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ طَارِقٍ

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کون ہے جو شہر آئے وہ کسی قبر اور بت کو ختم کر دے اور تصویر کو مٹا دے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں کرتا ہوں۔ پھر وہ اس شہر والوں سے ڈر گیا اور بیٹھ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں جاتا ہوں۔ پس میں گیا پھر واپس آیا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے شہر میں ساری قبروں کو برابر کر دیا ہے اور ہر بت کو توڑ دیا ہے اور تصویر کو مٹا دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اے علی! فتنہ پھیلانے والے تکبر کرنے والے نہ ہونا اچھے تاجر ہونا۔

3412 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا سُلَيْمَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْمُبَارَكِيُّ، نَا أَبُو شَهَابٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ أَبِي الْمَوَرِّعِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يَأْتِي الْمَدِينَةَ، فَلَا يَدْعُ قَبْرًا وَلَا وَثْنَا إِلَّا كَسْرَهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخَهَا؟ فَقَامَ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، ثُمَّ هَابَ أَهْلَ الْمَدِينَةَ فَجَلَسَ. قَالَ عَلِيٌّ: فَذَهَبْتُ، ثُمَّ جِئْتُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَمْ أَدْعُ قَبْرًا بِالْمَدِينَةَ إِلَّا سَوَّيْتُهُ، وَلَا وَثْنَا إِلَّا كَسَرْتُهُ، وَلَا صُورَةً إِلَّا لَطَخْتُهَا، فَقَالَ: يَا عَلِيُّ، لَا تَكُونَنَّ فِتْنَانًا وَلَا مُخْتَلًا وَلَا تَاجِرًا، إِلَّا تَاجَرَ خَيْرٍ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو شَهَابٍ

اسے شعبہ سے صرف ابوشہاب ہی روایت کرتے ہیں۔

رقم الحديث: 900، ومسلم في الصلاة جلد 1 صفحہ 327.

3412 - أخرجه أحمد في المسند جلد 1 صفحہ 173 رقم الحديث: 1174. وقال الحافظ الهيثمي: وفيه أبو محمد الهدلي ويقال أبو مورع ولم أحد من وثقه وقد روى عند جماعة ولم يضعفه أحد، وبقيت رجاله رجال الصحيح. انظر: مجمع الزوائد جلد 5 صفحہ 175-176. وقال الحافظ المنذرى: اسناده جيد. انظر: الترغيب جلد 4 صفحہ 44-45.

حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا: چوہا جب گھی میں گر جائے تو اس کا کیا حکم ہے؟ فرمایا: اس کے ارد گرد لگا ہوا لے لو اور اس کو پھینک دو۔

زبیری کے علاوہ میمونہ سے کسی نے روایت نہیں کی

ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: باجماعت نماز، اکیلے نماز پڑھنے سے پچیس گنا زیادہ ثواب کا درجہ رکھتی ہے۔

عمرو بن دینار سے صرف حماد اور حماد سے داؤد بن بلال روایت کرتے ہیں۔

حضرت عاصم بن ضمیرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے عرض کی گئی: ہم کو حضور ﷺ کے دن کے نفلوں کے متعلق بتائیں! آپ رضی اللہ عنہ

3413 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، نَا سَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ الزُّبَيْرِيُّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ، أَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ فَارِغَةٍ وَقَعَتْ فِي سَمْنٍ، فَقَالَ: خَذُوهَا وَمَا حَوْلَهَا، فَاطْرَحُوهُ لَمْ يَقُلْ عَنْ مَيْمُونَةَ غَيْرَ الزُّبَيْرِيِّ

3414 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، نَا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ السَّعْدِيُّ، نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَفْضُلُ صَلَاةِ الْجَمْعِ عَلَى صَلَاةِ الْفِدَى خَمْسًا وَعِشْرِينَ صَلَاةً

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا حَمَادًا، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَمَادٍ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ بِلَالٍ

3415 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ، نَا عَبْدُ الْقَفَّارِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْمُوَصِّلِيُّ، نَا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ

3413 - أخرجه البخاری فی الرضوء جلد 1 صفحہ 410 رقم الحدیث: 236؛ والنسائی فی الفرع جلد 7 صفحہ 157 (باب الفأرة تقع فی السمن)۔

3414 - أصله عند البخاری ومسلم۔ أخرجه البخاری فی الأذان جلد 2 صفحہ 160 رقم الحدیث: 648؛ ومسلم فی المساجد جلد 1 صفحہ 450؛ وأحمد فی المسند جلد 2 صفحہ 689 رقم الحدیث: 10808 ولفظه عنده۔

3415 - أخرجه الترمذی فی الصلاة جلد 2 صفحہ 493 رقم الحدیث: 598؛ وقال: هذا حدیث حسن۔ وابن ماجه فی الإقامة جلد 1 صفحہ 367 رقم الحدیث: 1161؛ وأحمد فی المسند جلد 1 صفحہ 107 رقم الحدیث: 752۔

نے فرمایا: تم اس کی طاقت نہیں رکھتے ہو انہوں نے عرض کی: آپ ہمیں بتائیں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: جب سورج عصر کے وقت غروب ہونے کے قریب ہوتا تو آپ دو رکعت ادا کرتے پھر رک جاتے جب دوپہر کے وقت سے ڈھل جاتا تو آپ چار رکعت (سنتیں) ادا کرتے پھر ظہر کے بعد دو رکعت ادا کرتے۔

خالد سے صرف ابوشہاب اور ابوشہاب سے صرف عبدالغفار روایت کرتے ہیں۔

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما جب احرام باندھنے کا ارادہ کرتے تو ذی الحلیفہ آتے یہاں رات گزارتے جب صبح ہوتی تو آپ سواری پر سوار ہوتے جب سیدھا بیٹھ جاتے تو آپ تلبیہ پڑھتے اور بتاتے تھے کہ حضور ﷺ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔

قرہ سے صرف امیہ اور امیہ سے صرف محمد بن عمرو بن جلد ہی روایت کرتے ہیں قرہ سے نافع کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس امت میں انبیاء کے بعد بہتر ابوبکر اور عمر ہیں۔

صُمْرَةَ قَالَ: قِيلَ لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ: أَخْبِرْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالنَّهَارِ تَطَوُّعًا، فَقَالَ: لَا تُطِيقُوهَا، فَقَالُوا: حَدِّثْنَا عَنْكَ، فَقَالَ: كَانَ إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ عِنْدِ الْعَصْرِ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ يُمَهِّلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ مِنْ هَاهُنَا مِنْ عِنْدِ الظُّهْرِ صَلَّى أَرْبَعًا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الظُّهْرِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ خَالِدِ إِلَّا أَبُو شَهَابٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي شَهَابٍ إِلَّا عَبْدُ الغَفَّارِ

3416 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ المَعْمَرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ، نَا أُمِيَّةُ بْنُ خَالِدٍ، نَا قُرَّةُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ، أَتَى ذَا الحَلِيفَةِ فَبَاتَ بِهَا، فَإِذَا أَصْبَحَ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ، فَإِذَا اسْتَوَتْ أَهْلًا، وَرَزَعَمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَفْعَلُهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ قُرَّةِ إِلَّا أُمِيَّةَ، وَلَا رَوَاهُ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ، وَلَا أَسْنَدَ قُرَّةَ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ هَذَا تَرْجَمَةً

3417 - حَدَّثَنَا الحَسَنُ بْنُ العَبَّاسِ الرَّازِيُّ، نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، نَا عُبَيْدُ بْنُ حَسَابِ الصَّيْدِ لَانِي، عَنْ الصَّلْتِ بْنِ بَهْرَامَ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:

3416- أخرجه البخاری فی الحج جلد3 صفحہ482 رقم الحدیث: 1553 بنحوه .

3417- أصله فی البخاری من طریق محمد ابن الحنفیة قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ أخرجه

البخاری فی فضائل الصحابة جلد7 صفحہ24 رقم الحدیث: 3671 وأبو داؤد فی السنة جلد4 صفحہ206 رقم

الحدیث: 4629 .

خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا: أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الصَّلَاتِ بْنِ بَهْرَامَ إِلَّا عُيَيْدُ بْنُ حَسَابٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُيَيْدِ إِلَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ

3418 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ الرَّازِيُّ،

نَا عَبْدَ الْمُؤْمِنِ بْنِ عَلِيٍّ، نَا عَبْدَ السَّلَامِ بْنَ حَرْبٍ،

عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالِنِيِّ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ

عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ: سُورَةَ حَمِ فَرَحْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا أَنَا

بِرَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ، قُلْتُ لَهُ: اتَّقِرْ هَذِهِ

السُّورَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ فَقَرَأْتُ أُخْرَى، لَا أَقْرَأُهَا، قُلْتُ: مَنْ

أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ، قُلْتُ: رَسُولُ اللَّهِ أَقْرَأَنِي،

فَلَقِيتُ أُخْرَى، فَقُلْتُ: اتَّقِرْ هَذِهِ السُّورَةَ؟ قَالَ: نَعَمْ،

فَقُلْتُ: اقْرَأْ، فَإِذَا هُوَ يَقْرَأُ قِرَاءَةً صَاحِبِي، قُلْتُ: مَنْ

أَقْرَأَكَ؟ قَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قُلْتُ:

وَأَنَا أَقْرَأَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

فَانْطَلَقْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ

جَالِسٌ قُلْتُ: خَالَفَنِي هَذَا فِي الْقِرَاءَةِ، فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ

وَعَضِبَ فَأَشَارَ إِلَى عَلِيٍّ، وَكَانَ عِنْدَهُ، فَتَكَلَّمَ

رَسُولُ اللَّهِ وَقَالَ عَلِيُّ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يَأْمُرُ أَنْ يَقْرَأَ

كُلُّ رَجُلٍ مِنْكُمْ مَا عَلِمَ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ

بِالْاِخْتِلَافِ

صلت بن بھرام سے صرف عبید بن حساب اور عبید سے صرف سہل بن عثمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے

مجھے سورہ حم پڑھائی، میں مسجد کی طرف گیا تو مسجد میں ایک

آدمی تھا، میں نے اس کو کہا: کیا تم نے یہ سورت پڑھی

ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! تو اُس نے دوسری قرأت پر

پڑھی جو میں نے نہیں پڑھی تھی، میں نے کہا: تمہیں کس نے

پڑھایا ہے؟ اس نے کہا: رسول اللہ ﷺ نے۔ میں نے

کہا: مجھے بھی رسول اللہ ﷺ نے پڑھائی ہے۔ پھر میں

دوسرے آدمی سے ملا تو میں نے کہا: آپ نے یہ سورہ

پڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! میں نے کہا: آپ نے

اس قرأت کے علاوہ پڑھی جو قرأت میرے ساتھی نے

پڑھی تھی۔ میں نے کہا: آپ کو کس نے پڑھائی ہے؟ اس

نے کہا: حضور ﷺ نے۔ میں نے کہا: مجھے بھی رسول

اللہ ﷺ نے پڑھائی ہے۔ پھر میں حضور ﷺ کی بارگاہ

میں گیا، آپ ﷺ تشریف فرما تھے، میں نے عرض کی:

مجھے آپ نے کوئی اور قرأت پڑھائی ہے۔ آپ کے چہرہ

مبارک کا رنگ بدل گیا اور غصہ آیا، آپ ﷺ نے

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا، آپ رضی اللہ

عنہ رسول اللہ ﷺ کے پاس ہی تھے، رسول اللہ ﷺ نے گفتگو کی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: بے شک

3418- أخرجه أحمد في المسند جلد 1 صفحہ 586 رقم الحديث: 4321 بنحوه والحاكم في المستدرک جلد 2

صفحہ 223-224 وقال: هذا حديث صحيح الاسناد وعزاه أيضا الحافظ السيوطي الى ابن الضريس . انظر: الدر

المنثور جلد 6 صفحہ 37 .

رسول اللہ ﷺ حکم دیتے ہیں کہ ہر آدمی جو جانتا ہے وہی پڑھے، تم سے پہلے لوگ اختلاف کی وجہ سے ہلاک ہوئے تھے۔

ابو خالد الدالانی سے صرف عبدالسلام بن حرب روایت کرتے ہیں اور اعمش، عاصم سے روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کو اعمش کے علاوہ نے بھی روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ نے جو اپنی امت دیکھی نہیں ہے آپ انہیں قیامت کے دن کیسے پہچانیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اُن کے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوں گے، جس طرح گھوڑے کے پاؤں چمک رہے ہوتے ہیں۔

شعبہ سے صرف ابوداؤد اور ابوداؤد سے صرف عبداللہ بن عمران روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں انبیاء علیہم السلام کے بعد بہتر حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما ہیں، پھر ایک آدمی یعنی خود اپنی ذات کا نام لیا۔

اعمش سے صرف وکیع اور وکیع سے صرف احمد بن عمر روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي خَالِدِ الدَّالَانِيِّ الْأَعْبُدِ السَّلَامِ
بُنْ حَرْبٍ وَقَدْ رَوَاهُ الْأَعْمَشُ، عَنْ عَاصِمٍ - وَرَوَاهُ
غَيْرُ الْأَعْمَشِ

3419 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْعَبَّاسِ، نَا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ، نَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، نَا شُعْبَةُ بْنُ
الْحَجَّاجِ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ:
قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَيْفَ تَعْرِفُ مَنْ لَمْ تَرِ مِنْ أُمَّتِكَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟ قَالَ: غُرٌّ مُحَجَّلُونَ بُلُقٌ مِنْ آثَارِ
الطَّهْوَرِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ شُعْبَةَ إِلَّا أَبُو دَاوُدَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ
أَبِي دَاوُدَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عِمْرَانَ

3420 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَاسِرٍ
الْبَغْدَادِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكَيْعِيُّ، نَا وَكَيْعٌ،
عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ عَبْدِ
خَيْرٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو
بَكْرٍ، ثُمَّ عُمَرُ، ثُمَّ رَجُلٌ، يَعْنِي نَفْسَهُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ الْأَعْمَشِ إِلَّا وَكَيْعٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ
وَكَيْعٍ إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ

3419- أخرجه ابن ماجة في الطهارة جلد 1 صفحه 104 رقم الحديث: 284 في الزوائد: أصل هذا الحديث في الصحيحين

من حديث أبي هريرة وحذيفة. وهذا حديث حسن. وحماذ هو ابن سلمة. وعاصم هو ابن النجود، كوفي صدوق

في حفظه شيء. وأحمد في المسند جلد 1 صفحه 587 رقم الحديث: 4328.

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھے فرمایا: کیا میں آپ کو ایسے کلمات نہ سکھاؤں کہ اگر اگر تو ان کو پڑھ لے تو آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں وہ کلمات یہ ہیں: "لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ"۔

حسن بن صالح سے صرف یہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں علی بن مدینی اکیلے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میری امت کی فناء طعن اور طاعون کے سبب ہوگی۔ عرض کی گئی: اے اللہ کے رسول! اس طعن کو تو ہم نے جان لیا، طاعون کیا ہے؟ فرمایا: تمہارے دشمن کی رسوائی اور ہر ایک میں شہادت ہے۔

3421 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ هِشَامِ الشَّطَوِيِّ، نَا عَلِيَّ بْنَ الْمَدِينِيِّ، نَا يَحْيَى بْنَ آدَمَ، نَا الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ صَالِحٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عَلِيٍّ، ح قَالَ عَلِيُّ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ آدَمَ، نَا إِسْرَائِيلَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أَعْلَمُكَ كَلِمَاتٍ إِنْ قُلْتَهُنَّ غُفِرَ لَكَ، عَلَيَّ أَنَّهُ مَغْفُورٌ لَكَ؟ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ إِلَّا يَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ

3422 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوَيْهِ الْقَطَّانُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيْسَى الْقَطَّارُ، نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّا، عَنْ سُفْيَانَ، وَمُسْعَرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَنَاءُ أُمَّتِي بِالطَّعْنِ وَالطَّاعُونَ قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَذَا الطَّعْنُ قَدْ عَرَفْنَا، فَمَا الطَّاعُونَ؟ قَالَ: وَخَزْرُ أَعْدَائِكُمْ مَن

3421 - أخرجه الترمذی فی الدعوات جلد 5 صفحہ 529 رقم الحدیث: 3504 وقال: هذا حديث غريب. وأحمد في

المسند جلد 1 صفحہ 198 رقم الحدیث: 1367.

3422 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 127، وأحمد جلد 4 صفحہ 395، 417، وعزاه الحافظ الهيثمي في المسح

جلد 2 صفحہ 314-315 الى الكبير أيضاً وقال رواه أحمد بأسانيد، ورجال بعضها رجال الصحيح.

الْجَنِّ، وَفِي كُلِّ شَهَادَةٍ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُسْعَرٍ إِلَّا إِسْمَاعِيلَ بْنَ زَكْرِيَّاءَ،
وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيسَى

3423 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ،
نَا إِسْمَاعِيلَ بْنَ عِيسَى الْعَطَّارُ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ،
عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عِيَّاشٍ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ،
عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ أَبِي
بَزَّةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: هَلْ
لِمَنْ قُتِلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا تَوْبَةٌ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَأَيْنَ
قَوْلُهُ: (الَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا
يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزُنُونَ
وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ
عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ)
(الفرقان: 69)؟ قَالَ: هَذِهِ آيَةٌ مَكِّيَّةٌ نَسَخَتْهَا آيَةٌ
مَدَنِيَّةٌ: (وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ
خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا
عَظِيمًا) (النساء: 93)

مسعر سے اس کو اسماعیل بن زکریا اور ان سے اس کو
اسماعیل بن عیسیٰ نے روایت کیا ہے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے عرض کی کہ کیا
جو کسی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی توبہ قبول ہو
سکتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہما نے فرمایا: نہیں! میں نے
عرض کی: اللہ کا یہ قول کہاں گیا ”وہ لوگ جو اللہ کے ساتھ
کسی معبود کو نہیں پکارتے اور نہ اس جان کو قتل کرتے ہیں
جس کو اللہ نے حرام کیا ہے مگر حق کے ساتھ زنا نہیں کرتے
اور جس نے یہ کام کیا وہ گناہ سے ملا“ قیامت کے دن اس
کے لیے دُہرا عذاب ہوگا اور وہ اس میں ذلیل ہوتا رہے گا
مگر جس نے توبہ کی ایمان لایا اور نیک اعمال کیے سو اللہ
ان کی بُرائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا۔“ آپ نے
فرمایا: یہ آیت مکی ہے اس کو مدنی آیت نے منسوخ کر دیا
ہے۔ وہی ہے: ”جو آدمی مؤمن کو جان بوجھ کر قتل کرے
اس کی سزا جہنم ہے اس میں ہمیشہ رہے گا اللہ اس پر
ناراض ہوگا لعنت فرمائے گا اور اس کے لیے اس نے بڑا
عذاب تیار کیا ہے۔“

یہ حدیث جعفر بن حارث سے صرف اسماعیل بن
عیاش روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں محمد
بن حسین اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ الْحَارِثِ
إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عِيَّاشٍ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ حُسَيْنٍ

3424 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلَوِيَّةَ الْقَطَّانُ،

حضور ﷺ نے پچھنا لگوا یا پچھنا لگانے والے نے آپ سے عرض کی اور رو پڑا آپ ﷺ نے اپنے غلام کو بلا کر اس کے دکھ کو ہلکا کر دیا۔

نَا عَبِيدُ بْنُ جَنَادٍ الْحَلْبِيُّ، نَا عَبِيدُ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ، وَإِنَّ الْحَاجِمَ شَكِيَ إِلَيْهِ حَتَّى بَكَى، فَأَرْسَلَ إِلَى مَوَالِيهِ أَنْ يُخَفِّقُوا عَنْهُ ضَرْبَتَهُ

عبد الکریم سے صرف عبید اللہ اور عبید اللہ سے صرف عبید اللہ بن جناد روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ إِلَّا عَبِيدُ بْنُ جَنَادٍ

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہتر زمانہ میرا ہے اس کے بعد تابعین کا اس کے بعد تبع تابعین کا پھر چوتھا زمانہ آئے گا اللہ عزوجل کو ان لوگوں کی پروا نہیں ہوگی۔

3425 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْفَسَوِيُّ، نَا الْفَيْضُ بْنُ وَثِيْقِ الثَّقَفِيِّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْبَانَ، نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: خَيْرُ قَرْنِ الْقَرْنِ الَّذِي آتَى فِيهِ، ثُمَّ الثَّانِي، ثُمَّ الثَّلَاثُ، ثُمَّ الرَّابِعُ فَلَا يَعَا اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا لَا يَرَوَى عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

أعمش سے یہ حدیث اسی وجہ سے روایت ہے۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ جب اذان سنتے تھے تو جب مؤذن پڑھتا: اشہد ان لا الہ الا اللہ! آپ جواب فرماتے: میں بھی گواہی دیتا ہوں جب مؤذن اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھتا تو آپ ﷺ فرماتے: میں ہوں میں ہوں۔

3426 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ دَلْوَيْهِ الْبَغْدَادِيُّ، نَا أَحْمَدُ بْنُ ثَابِتِ الْجَحْدَرِيُّ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، وَمُجَمِّعٍ، عَنْ أَبِي أَمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُنَادِيَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَ: وَأَنَا، وَأَنَا، فَإِذَا قَالَ: وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا

3425- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 127، والبخاري (كشف الأستار جلد 3 صفحہ 289). وقال الهيثمي في المعجم

جلد 10 صفحہ 22: ورجال البزار ثقات، وفي رجال الطبراني اسحاق بن ابراهيم صاحب البان، ولم أعرفه، وبقية

رجالہ ثقات .

3426- أخرجه البخاري في الجمعة جلد 2 صفحہ 460 رقم الحديث: 914 .

رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: وَأَنَا، وَأَنَا

یہ حدیث سفیان، عمرو سے اور عمرو سے احمد بن ثابت الحدری روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرِو
إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ تَابِتِ الْجَحْدَرِيِّ

3427 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُلَيْمَانَ

حضرت ابوسعید الحدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو بلند درجات والے اپنے سے نیچے درجات والوں کو دیکھیں گے، جس طرح کوکب الدری آسمان کے افق میں دیکھا جا سکتا ہے بے شک ابوبکر و عمر ان میں سے ہیں دونوں انعام والے ہیں۔

الدَّارِمِيُّ أَبُو مَعْشَرٍ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، نَا
حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، عَنِ الْهَيْثِمِ بْنِ حَبِيبِ
الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ أَهْلَ
الدَّرَجَاتِ الْعُلَى لَيَرَاهُمْ مَنْ أَسْفَلَ مِنْهُمْ كَمَا تَرَوْنَ
الْكُوكَبَ الدَّرِّيَّ فِي أَفْقِ السَّمَاءِ، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ
وَعُمَرَ لَمِنْهُمْ وَأَنْعَمَا

یہ حدیث ہیشم بن حبیب صیرفی سے صرف حفص بن ابوداؤد کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابوریع الزہرانی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْهَيْثِمِ بْنِ حَبِيبِ
الصَّيْرَفِيِّ إِلَّا حَفْصُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو
الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ

3428 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْعَنْزِيُّ،

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا: رات کے کس حصے میں دعا قبول ہوتی ہے: فرمایا: رات کے آخری حصے میں۔

نَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ سَالِمِ الْأَزْدِيُّ، نَا الْأَشْجَعِيُّ،
عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ
ابْنِ عُمَرَ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: أَيُّ اللَّيْلِ أَحْوَبُ دَعْوَةٌ؟ قَالَ: جَوْفُ اللَّيْلِ
الْآخِرِ

یہ حدیث سفیان سے صرف اشجعی ہی روایت کرتے

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْأَشْجَعِيُّ

3427 - أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 607 رقم الحدیث: 3658 . وقال: هذا حدیث حسن . وابن ماجہ فی

المقدمة جلد 1 صفحہ 37 رقم الحدیث: 96 . وأحمد فی المسند جلد 3 صفحہ 33 رقم الحدیث: 11219 .

3428 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 128 ، والبخاری (كشف الأستار جلد 4 صفحہ 43) وعزاه الهیثمی فی المجمع

جلد 10 صفحہ 158 الی الكبير أيضًا وقال: رجال البخاری والكبير رجال الصحيح .

تَرْجَمَةٌ

ہیں۔

حضرت براء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور ﷺ نے حکم دیا کہ جب تو اپنے بستر پر آئے تو یہ پڑھ: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنَجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ“۔ اگر رات کو مر گیا تو فطرت پر مرے گا اور اگر صبح پڑھ لے تو صبح بہتر ہوگی۔

3429 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبَاشٍ الْحِمَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ أَبِي اسْحَاقَ، عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ: أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَخَذْتَ مَضْجَعَكَ فَقُلْ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَسَلْتُ نَفْسِي إِلَيْكَ، وَوَجَّهْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ، وَفَوَّضْتُ أَمْرِي إِلَيْكَ، وَالْجَأْتُ ظَهْرِي إِلَيْكَ، رَهْبَةً وَرَغْبَةً إِلَيْكَ، لَا مَنَجَا وَلَا مَلْجَأَ مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ، آمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ، وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ، فَإِنْ مِتُّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتُّ عَلَى الْفِطْرَةِ، وَإِنْ أَصْبَحْتُ أَصَبْتُ خَيْرًا

ابان سے صرف سیف بن عمیرہ روایت کرتے

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبَانَ إِلَّا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ

ہیں۔

حضرت شہر بن حوشب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پاس تھے کہ ہم نے آپ سے قرآن کے حروف کے متعلق پوچھا۔ ایک آدمی نے عرض کی: اے ام المؤمنین! میں اپنے دل میں ایسی بات پاتا ہوں کہ اگر میں اس کی گفتگو کروں تو میری نیکیاں ضائع ہو جائیں، اگر مجھ پر کوئی مطلع ہو جائے تو میری گردن اڑا دے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے

3430 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَبَاشٍ الْحِمَّانِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْعَطَّارُ، نَا سَيْفُ بْنُ عَمِيرَةَ، عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ أُمِّ سَلَمَةَ، نَسْأَلُهَا عَنْ حُرُوفِ الْقُرْآنِ، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، إِنِّي لِأَحَدْتُ نَفْسِي بِالشَّيْءِ لَوْ تَكَلَّمْتُ بِهِ لَأَحْبَطْتُ أَجْرِي، وَلَوْ أُطْلِعَ عَلَيَّ

3429 - أخرجه البخاری فی الوضوء جلد 1 صفحہ 426 رقم الحدیث: 247 ولم يذكر: وان أصبحت أصبت خيرًا . ومسلم

فی الذکر جلد 4 صفحہ 2081 .

3430 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 129 . وقال الهیثمی فی المجمع جلد 1 صفحہ 37: فی اسنادہ سیف بن عمیرة

قال الأزدي يتكلمون فيه .

فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا آپ سے وہی پوچھا گیا جو تم پوچھ رہے ہو۔ آپ ﷺ نے فرمایا: مؤمن کے دل میں ایسی بات (امتحاناً) ڈالی جاتی ہے۔

ابان سے صرف سیف ہی روایت کرتے ہیں۔ ام سلمہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے پوچھا گیا کہ بدر کے دن حضور ﷺ کہاں ٹھہرے تھے؟ میں نے کہا: بدر کا دن ہم پر بڑا سخت تھا، حضور ﷺ کے ٹھہرنے کی جگہ کیسے دیکھتے۔

ابان سے صرف سیف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو آب زمزم کھڑے ہو کر پیتے دیکھا۔

یہ حدیث داؤد بن ابی ہند سے صرف ابو یونس انصاف روایت کرتے ہیں اور یونس سے صرف قرہ بن علاء روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حسن بن محمد النحاس اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

لَضُرْبَتْ عُنُقِي. قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَ عَنْهُ، فَقَالَ: لَا يُلْقَى ذَلِكَ الْكَلَامَ إِلَّا مُؤْمِنٌ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبَانَ إِلَّا سَيْفٌ وَلَا يَرَوِي عَنْ ام سلمة الا بهذا الاسناد

3431 - وَبِهِ عَنْ أَبَانَ بْنِ تَغْلِبٍ، حَدَّثَنِي أَبُو اسْحَاقَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ مَوْقِفِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ بَدْرٍ؟ فَقَالَ: كَانَ أَشَدَّنَا يَوْمَ بَدْرٍ مَنْ حَادَى بِرُكْبَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبَانَ إِلَّا سَيْفٌ

3432 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ نَصْرِ النَّحَّاسُ أَبُو سَعِيدٍ، نَافِرَةُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ مِرَّةَ السَّعِدِيُّ، نَا أَبُو يُونُسَ الْخِصَّافُ، نَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، أَنَّهُ حَجَّ، فَاتَى سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، فَقَالَ: سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ: حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَشْرَبُ مِنْ هَذَا الْبُئْرِ فَائِمًا، وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى زَمْزَمَ.

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ إِلَّا أَبُو يُونُسَ الْخِصَّافُ، وَلَا عَنْ أَبِي يُونُسَ إِلَّا قَرَّةُ بْنُ الْعَلَاءِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحَّاسُ

3433 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

3432 - أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 129. وقال الهيثمي في المعجم جلد 5 صفحہ 83: وفيه جماعة لم أعرفهم.

3433 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 129. وقال الحافظ الهيثمي: رجاله ثقات. انظر: مجمع الزوائد جلد 2 صفحہ 176.

ﷺ نے مزدلفہ میں جمعہ کے دن فرمایا: اے مسلمانوں کے گروہ! یہ دن اللہ عزوجل نے تمہارے لیے عید کا دن بنایا ہے اس میں غسل کرو اور مسواک کرو۔

مالک سے یزید بن سعید اور معن بن عیسیٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر کوئی جان لے کہ مرنے کے بعد کون آتا ہے؟ تو کوئی کھانا نہ کھائے اور نہ پانی پئے، مگر روتا رہے اپنے سینہ کو مارتے ہوئے۔

سفیان سے صرف ابراہیم بن ہراسہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خود میری کنیت رکھی۔

مُطَرِحِ الْخَوْلَانِيِّ الْمِصْرِيِّ، نَا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدِ الصَّبَاحِيِّ، نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي جُمُعَةٍ مِنَ الْجُمُعِ: مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ، إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللَّهُ لَكُمْ عِيدًا، فَاغْتَسِلُوا، وَعَلَيْكُمْ بِالسَّوَاكِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مَالِكِ إِلَّا يَزِيدُ بْنُ سَعِيدٍ، وَمَعْنُ بْنُ عَيْسَى

3434 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَهْرَبَارٍ، نَا زُرَيْقُ بْنُ الْوَرْدِ الرَّقِيُّ، نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَّاسَةَ، نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ يَعْلَمُ الْمَرْءُ مَا يَأْتِيهِ بَعْدَ الْمَوْتِ مَا أَكَلَ أَكْلَةً، وَلَا شَرِبَ شَرْبَةً، إِلَّا وَهُوَ يَبْكِي وَيَضْرِبُ عَلَى صَدْرِهِ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ هَرَّاسَةَ تَرْجَمَةً

3435 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّحَّاسُ الْكُوفِيُّ، نَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَنَادٍ الْجُهَنِيُّ، نَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَنْقَرِيُّ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ أَبِي

3434- أخرجه أيضًا الصغير جلد 1 صفحہ 130. وقال الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 337: وفيه ابراهيم بن هراسه وهو متروك.

3435- أخرجه الترمذی فی المناقب جلد 5 صفحہ 682 رقم الحدیث: 383، وقال: هذا حدیث لا نعرفه الا من حدیث جابر الجعفی عن أبي نصر. وأبو نصر هو خيشمة البصري روى عن أنس أحاديث. وأحمد في المسند جلد 3 صفحہ 157 رقم الحدیث: 12294.

نَضْرٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كُنَّابِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْعَنْقَرِيَّ

3436 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ النَّحَّاسُ،

نَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَسَدِيَّ، نَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْمَاطِيُّ،

مَوْلَى ابْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كَهَيْلٍ، عَنْ جَارِيَةِ

بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَارِيَةَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنْتُ

عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ إِذَا لَمْ

يُحْفَظُ اسْمَ الرَّجُلِ قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ

لَا يُرَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

سفيان سے صرف عنقری ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت جاریہ بن یزید بن جاریہ انصاری رضی اللہ

عنه اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے

ساتھ تھا آپ ﷺ کو جب کسی آدمی کا نام معلوم نہ

ہوتا تو آپ فرماتے: اے اللہ کے بندے!

رسول اللہ ﷺ سے یہ حدیث اسی وجہ سے روایت

ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے حج قرآن کیا اور ان دونوں کا طواف ایک کیا۔

3437 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ سَلَامَةَ

الدَّهَّانُ، نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ يُونُسَ الصَّيْرَفِيُّ، نَا يَحْيَى

بْنُ يَمَانَ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَبِيدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ

نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَرَنَ رَسُولُ اللَّهِ بَيْنَ الْحَجِّ

وَالْعُمْرَةِ، وَطَافَ لَهُمَا طَوَافًا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا يَحْيَى بْنُ يَمَانَ

3438 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَهْدٍ

النَّرْسِيُّ، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، نَا عَبِيدَةُ بْنُ

الْأَسْوَدِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ

أَنَسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَطَعَ فِي مَجَنِّ

ثَمَنُهُ خَمْسَةَ دَرَاهِمَ

سفيان سے صرف یحییٰ بن یمان روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

نے پانچ درہم کی چوری پر چور کے ہاتھ کاٹے۔

سعید سے مرفوعاً عبیدہ ہی روایت کرتے ہیں۔

3437 - أخرجه الطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 130 .

3438 - أخرجه السناني في السارق جلد 8 صفحہ 69-70 (باب القدر الذي اذا سرقه السارق قطعت يده) .

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک دوسری سے بڑی کتاب اللہ جو آسمان سے زمین کی طرف بھیجی گئی اور اپنی اہل بیت دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ حوض کوثر پر ملیں گے۔

3439 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ مُصْعَبِ الْأَشْنَانِيِّ الْكُوفِيُّ، نَا عَبَادُ بْنُ يَعْقُوبَ، نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَاءِ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، أَحَدُهُمَا أَكْبَرُ مِنَ الْآخَرِ: كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، وَعَتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَإِنَّهُمَا لَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ كَثِيرِ النَّوَاءِ إِلَّا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ

کثیر نواء سے صرف ابوعبدالرحمن المسعودی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ شراب کو فروخت کرنا اور پینا حرام کیا گیا۔

3440 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ الْمُجَوِّزُ الْبَصْرِيُّ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ دِينَارٍ، عَنْ حَمَادٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بَعَيْنِهَا، وَالسُّكْرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ

3441 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنْ عَثْمَانَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا نَزَلَ مَنْزِلًا لَمْ يَرْتَحِلْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ، أَوْ صَلَاةً يُودَّعُ بِهَا الْمَنْزِلَ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جب کسی جگہ اترے تو اس جگہ سے نہ جاتے تھے یہاں تک کہ آپ دو رکعت نفل نہ ادا کر لیتے۔

3440 - أخرجه النسائي في الأشربة جلد 8 صفحہ 285-293 (باب ذكر الأخبار التي اعتل بها من أباح شراب المسكر).

والدارقطني في سننه جلد 4 صفحہ 256 رقم الحديث: 56؛ وأبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 224؛ والطبرانی في

الكبير جلد 12 صفحہ 34 رقم الحديث: 12389. انظر: نصب الراية للحافظ الزيلعي جلد 4 صفحہ 306.

3441 - أخرجه أيضاً أبو يعلى، والبخاري، وقال الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 286؛ وفيه عثمان ابن سعد، وثقه أبو نعيم

وأبو حاتم، وضعفه جماعة. قلت: لم يوثقه أبو حاتم، وإنما قال فيه: شيخ، والصواب أنه ضعيف.

حضرت زید بن وہب فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے مسجد کے متعلق پوچھا گیا تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضرت عبدالرحمن بن عوف نے مجھے بتایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجوسی اہل کتاب کا ایک گروہ ہے، (یا دوسرا ترجمہ:) ان کو اہل کتاب کی طرح سمجھو۔

اعمش سے ابورجاء روایت کرتے ہیں ابورجاء کا نام روح بن مسیب ہے۔

حضرت سلیمان بن یسار فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے (حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف) خط لکھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ نماز رسول اللہ ﷺ کے زمانہ میں دو رکعت فرض ہوئی، مقیم کی نماز میں اضافہ کیا گیا اور مسافر کے لیے اسی نماز کو برقرار رکھا گیا جس حالت میں فرض ہوئی تھی۔

عمر بن عبدالعزیز سے اسی سند سے روایت ہے، حماد بن زید اور ان کے علاوہ یحییٰ بن سعید سے وہ عروہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ بغیر احلام کے جنبی ہوتے تھے، آپ غسل کرتے اور روزہ رکھتے تھے۔

3442 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سَهْلٍ، نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ الْحَجَّاجِ، نَا أَبُو رَجَاءٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ؛ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ، أَنَّ عُمَرَ سَأَلَ عَنِ الْمَجُوسِ، فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَنَّهُ قَالَ: الْمَجُوسُ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، فَاحْمِلُوهُمْ عَلَى مَا تَحْمِلُونَ عَلَيْهِ أَهْلَ الْكِتَابِ لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَبُو رَجَاءٍ وَهُوَ رَوْحُ بْنُ الْمُسَيْبِ

3443 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْأَشْعَثِ الْبَزَّازُ الْمِصْرِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سَلَامٍ الْإِفْرِيقِيُّ، نَا أَبِي، نَا عُثْمَانُ بْنُ مِقْسَمٍ الْبُرِّيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ: أَنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ، وَزَيْدٌ فِي صَلَاةِ الْمُقِيمِ، وَأُثْبِتَ صَلَاةَ الْمُسَافِرِ كَمَا هِيَ

لَا يُرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ وَقَدْ رَوَاهُ حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، وَغَيْرُهُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُرْوَةَ

3444 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحَجَّاجِ حَمَّصَةً، نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجَمَحِيُّ، نَا حَمَادُ، نَا أَيُّوبُ، عَنْ زَيْدِ الرَّشِكِ، عَنْ مُعَاذَةَ،

عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُصْبِحُ جُنْبًا مِنْ غَيْرِ احْتِلَامٍ، فَيَغْتَسِلُ وَيَصُومُ لَمْ يَرَوْا أَيُّوبَ عَنْ يَزِيدَ غَيْرَ هَذَا، وَلَمْ يَسْمَعُوهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الشَّيْخِ

یہ حدیث ایوب یزید سے اس کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں اس شیخ سے ہی سنی ہے۔

3445 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ

حضرت مطعم بن مقدم فرماتے ہیں کہ میں نے محمد بن مسلمہ کی طرف دیکھا کہ آپ اپنی چھت پر ضحاک بن قیس کی بہن کو دیکھ رہے ہیں میں نے عرض کی: آپ ایسے کرتے ہیں حالانکہ آپ رسول اللہ ﷺ کے صحابی ہیں؟ فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب اللہ عزوجل کسی بندے کے دل میں کسی عورت کے نکاح کا پیغام ڈالے تو اس کو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

الْحَجَّاجِ حَمَّصَةَ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبيدِ بْنِ حَسَابٍ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطْعِمِ بْنِ الْمُقَدَّامِ قَالَ: رَأَيْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مَسْلَمَةَ وَاقِفًا عَلَى ظَهْرِ إِجَارٍ يَنْظُرُ إِلَى أُخْتِ الضَّحَّاكِ بْنِ قَيْسٍ، فَقُلْتُ: تَفْعَلُ هَذَا وَأَنْتَ صَاحِبُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا أَوْقَعَ اللَّهُ فِي قَلْبِ امْرِئٍ خِطْبَةَ امْرَأَةٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَأَمَّلَ خَلْقَهَا

ثور بن یزید سے صرف محمد بن عیسیٰ السعدی روایت کرتے ہیں اور مطعم سے صرف ثور بن یزید روایت کرتے ہیں ہمارے نزدیک یہ شامی نہیں ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى السَّعْدِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنِ الْمُطْعِمِ إِلَّا ثَوْرُ بْنُ يَزِيدَ وَكَيْسَ هُوَ عِنْدَنَا بِالشَّامِيِّ

3446 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ هَارُونَ بْنِ

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جو اپنے گھر سے علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے فرشتے اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے پر بچھاتے ہیں

سُلَيْمَانَ الْأَصْبَهَانِيِّ، نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، نَا زِيَادُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ، عَنْ زُرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنِ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

3445- أخرجه ابن ماجة في النكاح جلد 1 صفحه 599 رقم الحديث: 1864، وأحمد في المسند جلد 4 صفحه 275 رقم

الحديث: 17999، والطبرانی في الكبير جلد 19 صفحه 223 رقم الحديث: 499-505 كلهم بلفظ: اذا

لقى..... . انظر: نصب الراية جلد 4 صفحه 241 .

3446- أخرجه أحمد في المسند جلد 4 صفحه 294 رقم الحديث: 18119 بنحوه والطبرانی في الكبير جلد 8

صفحة 66-67 رقم الحديث: 7388 .

اور میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ عزوجل نے مغرب کی طرف ایک دروازہ کھولا ہے اس کی چوڑائی ستر سال تک چلتے رہنے سے بھی ختم نہیں ہوگی پھر قیامت تک بند بھی نہیں ہوگا۔ میں نے عرض کی: میرے لیے اضافہ کریں! اللہ تجھ پر رحم کرے! فرمایا: ہم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ ایک دیہاتی آیا اس نے اونچی آواز میں عرض کی: اے محمد! رکئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں! اے محمد! رکئے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں! رسول اللہ ﷺ نے اسی طرح کا جواب دیا، فرمایا: آؤ! اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! ایک آدمی کسی سے محبت کرتا ہے اس کی فضیلت جانتا ہے لیکن ان جیسے عمل نہیں کر سکتا ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وہ قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا۔ میں نے عرض کی: مجھے موزوں پر مسح کے متعلق بتائیں! فرمایا: ہم ایک غزوہ میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ نے اعلان کا حکم دیا کہ تین دن تک موزے نہ اتارو ہاں! اگر غسل فرض ہو گیا تو اتار دو! اگر بول و براز آئے تو مسح کرو۔

زیاد بن ریح سے صرف علی بن مدینی اور محمد بن ثنی اور حسن بن خالد الحمرانی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ غَدَا مِنْ بَيْتِهِ يَطْلُبُ عِلْمًا فَرَسَتْ لَهُ الْمَلَائِكَةُ أَجْنِحَتَهَا رِضَىٰ بِمَا يَصْنَعُ وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ بَابًا قَبْلَ الْمَغْرِبِ، عَرْضُهُ سَبْعُونَ عَامًا، ثُمَّ لَا يُغْلَقُهُ حَتَّىٰ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ، قُلْتُ: زِدْنِي رَحِمَكَ اللَّهُ. قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ، فَجَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ جَهْوَرِيٌّ الصَّوْتِ، فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُ، قِفْ أَسْأَلُكَ، يَا مُحَمَّدُ، قِفْ أَسْأَلُكَ، فَاجَابَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ مَنْ صَوْتِهِ قَالَ: هَاؤُمْ هَاؤُمْ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ، وَيَعْرِفُ فَضْلَهُمْ، وَلَا يَعْمَلُ بِمِثْلِ عَمَلِهِمْ؟ قَالَ: هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ مَنْ أَحَبَّ، قُلْتُ: حَدِّثْنِي عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ، فَأَمَرَ مُنَادِيًّا، فَنَادَى: أَنْ لَا تَخْلَعُوا الْخُفَّافَ، ثَلَاثًا، إِلَّا مِنْ جَنَابَةٍ، وَلَكِنْ مِنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ زِيَادِ بْنِ الرَّبِيعِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَالْحَسَنُ بْنُ خَالِدِ الْحَرَّانِيِّ

3447 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ

نے فتح خیبر کے دن عورتوں سے متعہ کرنے سے منع فرمایا۔

السَّرْحَيْسِيُّ، نَا حَمْدَانُ بْنُ ذِي النُّونِ اللَّخْمِيُّ، نَا شَدَّادُ بْنُ حَكِيمٍ، نَا زُفَرُ بْنُ الْهَدَيْلِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَالْحَسَنِ ابْنِي مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ أَبِيهِمَا، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرٍ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو وضو کروایا، آپ نے دونوں ہاتھ دھوئے اور کھٹی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور کلائیوں کو دھویا اور ناصیہ کی مقدار مسح کیا اور عمامہ اور موزوں پر بھی۔

3448 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مَهْرَانَ الصَّفَّارُ الْمُؤَصِّلِيُّ، نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ، نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ هِشَامٍ، وَأَيُّوبَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ وَهَبٍ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ: صَبَّتْ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَغَسَلَ يَدَيْهِ، وَمَضْمَضَ وَاسْتَنْشَرَ، وَغَسَلَ وَجْهَهُ وَذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِنَاصِيَتِهِ، وَعَلَى الْعِمَامَةِ وَالْحَقَيْنِ

یہ حدیث حبیب بن شہید سے صرف حماد بن زید روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ إِلَّا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ

حضرت سعد بن ابراہیم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے مجھے حضرت ابن مسعود اور ابوسعود انصاری اور ابودرداء کی طرف بھیجا، فرمایا: وہ کون سی حدیث ہے کہ تم رسول اللہ ﷺ کی کثرت سے بیان کرتے ہو؟ ان حضرات کو مدینہ روک لیا گیا یہاں تک کہ شہید ہوئے۔

3449 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ فَيْلٍ الْأَنْطَاكِيُّ، نَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيِّ، نَا مَعْنُ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ إِبرَاهِيمَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: بَعَثَ عَمْرُ بْنُ الْحَطَّابِ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ، وَأَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ، وَأَبِي الدَّرْدَاءِ، فَقَالَ: مَا هَذَا الْحَدِيثُ

الَّذِي تَكْثُرُونَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ؟ فَحَبَسَهُمْ بِالْمَدِينَةِ حَتَّى اسْتُشْهِدَ

لَمْ يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا اسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ

3450 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ نَصْرِ

الطُّوسِيُّ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَوْصِلِيُّ، نَا عَمْرُو

بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّيْسِيُّ، نَا صَدَقَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ

الْأَصْبَغِ يَعْنِي ابْنَ زَيْدِ الْوَرَّاقِ، عَنِ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ،

عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

قَالَ: إِنَّ صَدَقَةَ السِّرِّ تَطْفِئُ غَضَبَ الرَّبِّ تَبَارَكَ

وَتَعَالَى

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ إِلَّا

الْأَصْبَغُ بْنُ زَيْدِ الْوَرَّاقِ، وَلَا عَنِ الْأَصْبَغِ إِلَّا صَدَقَةُ

تَفَرَّدَ بِهِ عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

3451 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ السَّرَّاجُ

الْقَاضِي، نَا الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ الْجَزْرِيُّ، نَا مَخْلَدُ

بْنُ يَزِيدَ، نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنِ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ،

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَرِجَسَ قَالَ: رَأَى رَسُولُ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا يُصَلِّي رُكْعَتِي الْفَجْرِ،

وَهُمْ يُصَلُّونَ صَلَاةَ الصُّبْحِ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّهُمَا جَعَلْتَ صَلَاتَكَ؟

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ إِلَّا

مَخْلَدُ بْنُ يَزِيدَ، تَفَرَّدَ بِهِ الْفَضْلُ بْنُ يَعْقُوبَ، وَمَخْلَدُ

یہ حدیث اسحاق بن موسیٰ ہی روایت کرتے ہیں۔
حضرت بہز بن حکیم کے والد محترم اپنے والد سے
اور وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ چھپا کر
صدقہ کرنا اللہ کے غضب کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔

یہ حدیث بہز بن حکیم سے صرف اصبح بن زید وراق
اور اصبح سے صدقہ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے
میں عمرو بن ابی سلمہ اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن سر جس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک آدمی کو اس حالت میں فجر
کی دو رکعتیں ادا کرتے ہوئے دیکھا کہ صحابہ کرام صبح کی
نماز پڑھ رہے تھے آپ ﷺ نے اس سے فرمایا: تو نے
ان دو رکعتوں کو کون سی نماز بنایا ہے؟

یہ حدیث روح بن قاسم سے صرف مخلد بن یزید
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں فضل بن

3450 - أخرجه أيضًا الكبير جلد 19 صفحہ 421 .

3451 - أخرجه مسلم في المسافرین جلد 1 صفحہ 494، وابن ماجه في الإقامة جلد 1 صفحہ 364 رقم الحديث: 1152

بُنْ يَزِيدَ هَذَا بَصْرِيٌّ، وَكَيْسَ هُوَ الْحِرَانِيُّ

يعقوب اور مخلد بن يزيد اکیلے ہیں، مخلد بصری ہیں حیرانی نہیں ہیں۔

3452 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الْمَثْنَى بْنِ مُعَاذِ

الْعَنْبَرِيِّ؛ نَا أَبُو حُدَيْفَةَ، نَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ،
عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَا حَقُّ الْإِبِلِ؟ قَالَ: أَنْ تَنْحَرَ سَمِينَهَا، وَأَنْ
تَطْرُقَ فَحَلَهَا، وَأَنْ تَحْلُبَهَا يَوْمَ وَرْدِهَا

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ اونٹ کا حق مالک پر کیا ہے؟ فرمایا: اسے موٹا تازہ کر کے ذبح کرنا، اس کے دودھ کو چھوڑنا یہاں تک کہ زیادہ ہو جائے پھر نکالنا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَبُو حُدَيْفَةَ
وَالْأَشَجِيُّ

یہ حدیث سفیان سے صرف ابو حذیفہ اور اشجعی روایت کرتے ہیں۔

3453 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ،

نَا عَارِمُ أَبُو النُّعْمَانِ، نَا الصَّعْقُ بْنُ حَزْنٍ، نَا قَتَادَةُ،
عَنْ زُهْدِمِ الْجَرْمِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا ابْنُ عَبَّاسٍ، فَقَالَ:
لَوْلَا أَنَّ النَّاسَ، طَلَبُوا بِدَمِ عُمَانَ لُرَجِمُوا بِالْحِجَارَةِ
مِنَ السَّمَاءِ

حضرت زہدیم الجرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خطبہ دیا، فرمایا: اگر لوگ حضرت عثمان کے خون کا مطالبہ نہ کرتے تو ان پر آسمان سے پتھر برس کر رہ گیا جاتا۔

3454 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارِ

الْعَلَّافِ الْبَصْرِيِّ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ، نَا جَرِيرُ
بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ رَقِبةِ بْنِ مَصْقَلَةَ قَالَ: رَأَيْتُ
رَبَّ الْعِزَّةِ فِي الْمَنَامِ، فَقَالَ: وَعِزَّتِي وَجَلَالِي
لَا كَرِمًا مَثْوَاهُ يَعْنِي: سُلَيْمَانَ التَّيْمِيَّ

حضرت رقبہ بن مصقلہ فرماتے ہیں کہ میں نے رب العزت کو خواب میں دیکھا، فرمایا: میری عزت و جلال کی قسم! میں سلیمان تیمی کو ضرور اچھا ٹھکانہ دوں گا۔

3455 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَكَّارِ

الْعَلَّافِ، سَمِعْتُ أَبَا الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيَّ، يَقُولُ:
سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْمُبَارَكِ يَقُولُ:

حضرت ابو الربیع الزہرانی فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ عنہ کو فرماتے ہوئے سنا:

(البحر الرمل)

أَيُّهَا الطَّالِبُ عِلْمًا... إِبْتِ حَمَادَ بْنَ زَيْدٍ

فَاسْتَفِدْ حِلْمًا وَعِلْمًا... ثُمَّ قَبِدْهُ بِقَبِيدٍ

3456 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ

حَبِيبِ الْكُرْمَانِيِّ الطَّرْسُوسِيِّ، نَا أَبُو الرَّبِيعِ

الزَّهْرَانِيُّ، نَا عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ،

عَنْ دَاوُدَ أَبِي الْجَحَافِ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي

سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ فِي قَوْلِهِ: (إِنَّمَا يُزِيدُ اللَّهُ لِيُدْهِبَ

عَنْكُمْ الرَّجْسَ) (الاحزاب: 3) (أَهْلُ الْبَيْتِ

قَالَ: نَزَلَتْ فِي خَمْسَةِ: فِي رَسُولِ اللَّهِ، وَعَلِيٍّ،

وَفَاطِمَةَ، وَالْحَسَنَ، وَالْحُسَيْنَ

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ إِلَّا

عَمَّارُ بْنُ مُحَمَّدٍ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُحَمَّدٍ إِلَّا

أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ الشَّاذُكُونِيُّ تَرَجَمَهُ

3457 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ شَهْرِبَارَ

الْمِصْرِيُّ، نَا عَلِيُّ بْنُ مَيْمُونِ الرَّقِيِّ، نَا عَطَاءُ بْنُ

مُسْلِمِ الْخَقَّافِ الْحَلَبِيِّ، عَنْ إِسْمَاعِيلِ الْكُوفِيِّ، عَنْ

عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عَثْمَانَ التَّهْدِي، عَنْ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: مَرَّ بِهِ رَجُلٌ مُسَبِّلٌ عَبَانَةً أَوْ

كِسَائَهُ، فَنَادَاهُ: يَا عَبْدَ اللَّهِ ارْفَعْ ثَوْبَكَ، فَإِنِّي

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ:

مَنْ جَرَّ ثِيَابَهُ خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ فِي حَلَالٍ وَلَا

حَرَامٍ

اے علم کے طالب..... حماد بن زید کے پاس چلا

جا۔ ان سے استفادہ کر، حلم اور علم میں پھر اس کو لکھ لے۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ

اللہ عزوجل کے اس ارشاد: ”اللہ عزوجل اہل بیت سے

پلیدی دُور کرنے کا ارادہ کرتا ہے“ کے متعلق کہ یہ پانچ

افراد کے حق میں نازل ہوئی ہے: رسول اللہ ﷺ اور

حضرت علی اور حضرت فاطمہ اور حضرت حسن اور حضرت

حسین رضی اللہ عنہم۔

یہ حدیث سفیان ثوری سے صرف عمار بن محمد روایت

کرتے ہیں اور عمار بن محمد سے صرف ابوالربیع الزہرانی

اور سلیمان الشاذکونی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میرا گزر ایک آدمی کے پاس سے ہوا وہ اپنا تہبند یا

چادر لٹکائے ہوئے تھا، اس کو آواز دی: اے اللہ کے

بندے! اپنا کپڑا اٹھا کیونکہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو

فرماتے ہوئے سنا کہ جو اپنا کپڑا تکبر سے لٹکاتا ہے اللہ

عزوجل اس کو حلال و حرام میں فرق کی مہلت نہیں دیتا

ہے۔

اسماعیل کوئی میرے نزدیک اسماعیل بن ابی خالد ہیں اسماعیل سے صرف عطاء بن مسلم روایت کرتے ہیں۔

حضرت محمد بن حنفیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے عرض کی: رسول اللہ ﷺ کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا: ابوبکر! میں نے عرض کی: اس کے بعد؟ فرمایا: عمر۔

یہ حدیث ہارون بن سعد سے صرف یونس بن ارقم روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبد الحمید اکیلے ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ کی بارگاہ میں ایک زخمی آدمی کا مقدمہ لایا گیا تو آپ نے فرمایا: اس کا علاج کرواؤ اور پورے سال کی مہلت دی۔

اس حدیث کو زید بن ابی ائیمہ سے صرف محمد بن عبد اللہ ذماری روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے ساتھ سلیمان بن عبد الرحمن منفرد ہیں۔

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں ایک مقدمہ پیش کیا گیا۔ ایک آدمی

إِسْمَاعِيلُ الْكُوفِيُّ هُوَ عِنْدِي: إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ، لَمْ يَرَوْهُ عَنْ إِسْمَاعِيلِ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ

3458 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُسْلِمٍ بْنِ الطَّيِّبِ الصَّنَعَانِيُّ، نَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ صَبِيحِ الصَّنَعَانِيُّ، نَا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ مُنْدِرِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: أَبُو بَكْرٍ، قُلْتُ: ثُمَّ مَنْ؟ فَقَالَ: ثُمَّ عُمَرُ لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا يُونُسُ بْنُ أَرْقَمَ، تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْحَمِيدِ

3459 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلْفِ الضَّرَّابِ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رَفَعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِرَاحَهُ رَجُلٍ، فَقَالَ: دَاوُوهَا وَاجْلَهُ سَنَةً لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3460 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ خَلْفِ الضَّرَّابِ الدِّمَشْقِيُّ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، نَا

3458 - تقدم تخريجه حديث رقم: 3417 .

3460 - أخرجه أيضاً الصغير جلد 1 صفحہ 135، وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 6 صفحہ 299: وفيه محمد بن عبد

الله بن نمران وهو ضعيف .

نے دوسرے آدمی کی ران پر سینگ کو نیزہ بنا کر مارا تھا جس کی ران پر نیزہ مارا گیا تھا اس نے عرض کی: حضور! مجھے بدلہ دلوائیے! آپ ﷺ نے فرمایا: اس کا علاج کرواؤ! مجھے اس حوالے سے کچھ وقت دوتا کہ ہم دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ اس آدمی نے پھر عرض کی: مجھے بدلہ دلوائیے! اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے اسے پہلے قول کی مثل فرمایا۔ آدمی نے پھر کہا: بدلہ دلوائیے! اے اللہ کے رسول! تو رسول کریم ﷺ نے اسے بدلہ دلوایا جس نے بدلہ طلب کیا اس کی ٹانگ خٹک (خراب) ہوگئی اور جس سے بدلہ لیا گیا اس کی ٹانگ کا زخم چھوٹ گیا، تو رسول کریم ﷺ نے اس کی دیت کو باطل کر دیا۔ زید بن ابی اُنیسہ سے اس حدیث کو محمد بن عبد اللہ ذماری روایت کرتے ہیں، سلیمان بن عبد الرحمن اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت فاطمہ بنت عمیس رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ رسول اللہ ﷺ نے میرے لیے طلاق کے بعد گھر اور نفقہ مقرر نہیں کیا تھا۔

یہ حدیث عطاء سے صرف حجاج بن ارطاة اور حجاج سے صرف عبد الواحد بن زیاد اور ابوشہاب الحنظلی روایت کرتے ہیں۔

مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَارِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ طَعَنَ رَجُلًا عَلَى فِخْذِهِ بِقَرْنٍ، فَقَالَ: الَّذِي طَعَنَ فِخْذَهُ: أَقْدَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ: دَاوُوْهَا، وَاسْتَأْنِي بِهَا حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى مَا تَصِيرُ. فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقْدَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ، فَقَالَ الرَّجُلُ: أَقْدَنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَبَسَّتْ رِجْلُ الَّذِي اسْتَقَادَ، وَبَرَأَ الَّذِي اسْتُقِيدَ مِنْهُ، فَابْتَطَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَهَا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الدِّمَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3461 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَادٍ بْنِ فَضَالَةَ

الصَّيْرَفِيُّ الْبَصْرِيُّ، نَا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ غِيَاثٍ، نَا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، حَدَّثَنِي فَاطِمَةُ بِنْتُ عَمِيْسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَجْعَلْ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ إِلَّا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، وَلَا عَنِ الْحَجَّاجِ إِلَّا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنِ زِيَادٍ، وَأَبُو شَهَابِ الْحَنْطَاطِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جام اور زانیہ عورت کی کمائی کھانے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث حماد بن زید سے صرف یحییٰ بن حبیب بن عربی روایت کرتے ہیں۔

3462 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ، نَا يَحْيَى

بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الْحَجَّاجِ
بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَهَى عَنْ
كَسْبِ الْحَجَّامِ، وَمَهْرِ الْبَغِيِّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا

يَحْيَى بْنُ حَبِيبِ بْنِ عَرَبِيِّ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حسین ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور آزاد کرنا ان کا مہر بنایا گیا۔

یہ حدیث مسعر سے صرف ابن مبارک روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

حضرت اعمش فرماتے ہیں کہ حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم حجاج کے پاس بیٹھے ہوئے تھے حجاج نے حضرت سالم سے کہا: اٹھو اور اس کی گردن اڑا دو! حضرت سالم نے تلوار پکڑی اور آدمی کو پکڑا اور قلعہ کے دروازہ پر لے گئے۔ آپ نے اپنے والد حضرت عبد اللہ کی طرف دیکھا کہ وہ آدمی کی طرف دیکھ رہے تھے فرمایا: کیا آپ اس کو مارنے لگے ہیں دو مرتبہ یا تین مرتبہ یہی کہا جب آپ نکلے تو حضرت سالم نے اس کو کہا: تُو نے فجر کی نماز پڑھی ہے؟ اس نے کہا: جی ہاں! حضرت

مَنْ اسْمُهُ الْحُسَيْنُ

3463 - حَدَّثَنِي الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِ عِ
الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيِّ قَالَ: نَا
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ
أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا ابْنُ
الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

3464 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِ عِ
الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيِّ قَالَ: نَا
عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ الْخَفَّافُ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: كَانَ
سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَاعِدًا عِنْدَ الْحَجَّاجِ،
فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: قُمْ فَاصْرِبْ عُنُقَ هَذَا، فَأَخَذَ
سَالِمُ السَّيْفَ وَأَخَذَ الرَّجُلَ وَتَوَجَّهَ بَابَ الْقَصْرِ،
فَنَظَرَ إِلَيْهِ أَبُوهُ وَهُوَ يَتَوَجَّهُ بِالرَّجُلِ، فَقَالَ: أَرَأَاهُ
فَاعِلًا - فَرَدَّهُ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا، -، فَلَمَّا خَرَجَ بِهِ قَالَ لَهُ
سَالِمٌ: صَلَّىتِ الْغَدَاةَ؟ قَالَ: نَعَمْ قَالَ: فَخُذْ أَيَّ

3463 - أخرجه البخاری: النکاح جلد 9 صفحہ 140 رقم الحدیث: 5169، ومسلم: النکاح جلد 2 صفحہ 1045 رقم

الحدیث: 85 (باب فضیلة اعتاق أمة ثم یتزوجها) -

3464 - أخرجه أيضًا فی الكبير جلد 12 صفحہ 213 من طریق یحیی الحماني، ثنا اسحاق بن سعید بن عمرو بن سعید، ثنا

أبي، أن الحجاج أمر سالم بن عبد الله بقتل رجل، فذكر نحوه، وذكر الهشمي هذه الطريق جلد 1 صفحہ 299 وقال:

وفيه يحيى بن عبد الله الحماني ضعفه أحمد ووثقه يحيى بن معين -

سالم نے فرمایا: جس راستے سے تم جانا چاہتے ہو جاؤ! پھر حضرت سالم آئے تو آپ نے تلوار پھینک دی تھی۔ حجاج نے حضرت سالم سے کہا: کیا آپ نے اس کی گردن اڑا دی ہے؟ حضرت سالم نے فرمایا: نہیں! حجاج نے کہا: کیوں؟ فرمایا: میں نے اپنے والد کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ شام تک اللہ کے ذمہ میں ہوتا ہے۔ حضرت سالم کے والد نے فرمایا: تو سمجھ دار ہے، ہم نے تمہارا نام سالم رکھا ہے، ہلا متی کی وجہ سے۔

یہ حدیث اعمش سے صرف عطاء بن مسلم روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور حضور ﷺ ایک ہی برتن سے غسل کرتے تھے۔

یہ حدیث اعمش، شقیق سے وہ عروہ سے اور عروہ سے ابواسحاق الفزازی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن ایوب اکیلے ہیں۔

حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ جہاد کرتے تھے، ہم اپنا اجر اللہ کے سپرد کرتے تھے، ہم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جو دنیا سے

الطَّرِيقِ شِئْتُ، ثُمَّ جَاءَ فَطَرَاحَ السَّيْفِ، فَقَالَ لَهُ الْحَجَّاجُ: أَضْرَبْتُ عُنُقَهُ؟ قَالَ: لَا قَالَ: وَلِمَ ذَاكَ؟ قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ أَبِي هَذَا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْغَدَاةَ فَهُوَ فِي ذِمَّةِ اللَّهِ حَتَّى يُمْسِيَ فَقَالَ لَهُ أَبُوهُ: مُكَيِّسٌ، إِنَّمَا سَمَّيْنَاكَ سَالِمًا لِتَسْلَمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَطَاءُ بْنُ مُسْلِمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

3465 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ السَّمِيدِ ع

قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ النَّصِيبِيُّ قَالَ: نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَعْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ، عَنْ عُرْوَةَ إِلَّا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَيُّوبَ

3466 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ

الرُّمَّانِيُّ الْمِصْبِصِيُّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ مَعَاذٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُنَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ

3465- أخرجه البخاری: الغسل جلد 1 صفحہ 433 رقم الحدیث: 250، ومسلم: الحیض جلد 1 صفحہ 256 .

3466- أخرجه البخاری: المغازی جلد 7 صفحہ 433 رقم الحدیث: 4082، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 135 رقم

الحدیث: 21134، والطبرانی الكبير جلد 4 صفحہ 68 رقم الحدیث: 3657-3664 .

چلے گئے اس نے اس اجر سے کچھ نہیں کھایا ان میں سے حضرت مصعب بن عمیر تھے جو اُحد کے دن شہید ہوئے ہیں انہوں نے صرف چادر پائی جب آپ کے سر کو ڈھانپا جاتا تو آپ کے پاؤں ننگے ہو جاتے جب آپ کے پاؤں ڈھانپے جاتے تو آپ کا سر ننگا ہو جاتا اس بات کا ذکر حضور ﷺ کے ہاں ہوا آپ نے فرمایا: اس کا سر ڈھانپ دو اور اس کے پاؤں پر اذخر گھاس رکھ دو ہم میں سے کچھ وہ ہیں جنہوں نے پھل دار درخت لگائے اور وہ اس کو کھارے ہیں۔

یہ حدیث محمد بن مجاہد سے صرف عبدالوارث اور عبدالوارث سے صرف داؤد روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: غسل ایک صاع پانی سے اور وضو ایک مد پانی سے کیا جائے۔

یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے صرف حکیم بن نافع روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں معافی بن سلیمان اکیلے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کبھی اپنی ازواج پاک سے جھگڑا کرتے، ایک ہی برتن میں غسل کرنے کے سلسلے میں۔

الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَإِثْلٍ، عَنْ خَبَّابٍ قَالَ: هَاجَرْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَوَقَعَ أَجْرُنَا عَلَى اللَّهِ فَمِنَّا مَنْ قُبِضَ لَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا، مِنْهُمْ: مُصْعَبُ بْنُ عَمِيرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، لَمْ يُوَجَدْ لَهُ إِلَّا نَمِيرَةٌ، كَانَ إِذَا أُعْطِيَ بِهَا رَأْسُهُ خَرَجَتْ رِجْلَاهُ، وَإِذَا أُعْطِيَ بِهَا رِجْلَاهُ خَرَجَ رَأْسُهُ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَيْهِ إِذْخِرًا وَمِنَّا مَنْ آيَنَعَتْ لَهُ ثَمَرَتُهُ، فَهُوَ يَهْدِي بِهَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُحَادَةَ إِلَّا عَبْدَ الْوَارِثِ وَلَا رَوَاهُ عَنْ عَبْدِ الْوَارِثِ إِلَّا دَاوُدُ

3467 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمْثَانِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَاذِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُسْلُ صَاعٌ وَالْوُضُوءُ مَدٌّ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عَقْبَةَ إِلَّا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ تَفَرَّدَ بِهِ: الْمُعَاذِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ

3468 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ الرَّمْثَانِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَاذِيُّ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عَقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عَمَرَ قَالَ: رَبَّمَا نَارَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْضَ أَرْوَاجِهِ فِي إِنْاءٍ وَاحِدٍ يَغْتَسِلَانِ

3469 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مَنْصُورٍ
الرَّمْثَانِيُّ قَالَ: نَا الْمُعَاوِيَّ بْنَ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا حَكِيمُ
بْنُ نَافِعٍ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ: مَاتَ مَيْتٌ فَمَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَوْهُ لِلصَّلَاةِ عَلَيْهِ فَقَالَ عَلَى
صَاحِبِكُمْ دَيْنٌ؟ قَالُوا: نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، دِينَارَيْنِ
قَالَ صَلُّوا عَلَى صَاحِبِكُمْ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ قَرَابَتِهِ: هُوَ
عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: هُوَ عَلَيْكَ وَهُوَ بَرِيءٌ مِنْهَا
قَالَ: نَعَمْ فَصَلَّى عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ: فَلَقِيَهُ بَعْدُ، فَقَالَ:
مَا صَنَعْتَ؟ فَقَالَ: مَا فَرَعْتُ قَالَ: بَرِّدْ عَلَى
صَاحِبِكَ، ثُمَّ عَجِّلْ قَضَاءَهُ ثُمَّ لَقِيَهُ، فَقَالَ: قَدْ قَضَيْتُهُ
يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: الْآنَ حِينَ بَرَّدْتُ عَلَى صَاحِبِكَ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک
آدمی فوت ہوا تو حضور ﷺ اس کے پاس سے گزرے
آپ کو اس کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے بلایا گیا، آپ
نے فرمایا: تمہارے ساتھی کے ذمہ قرض ہے؟ انہوں نے
عرض کی: یا رسول اللہ! جی ہاں! اس کے ذمہ دو دینار
ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم خود اس کی نماز جنازہ پڑھو۔ اس
کے ایک قریبی آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! اس کا
قرض میرے ذمہ ہے، آپ نے فرمایا: اب تیرے ذمہ
قرض ہے، یہ اس سے بری ہے۔ اس نے عرض کی: جی
ہاں! پھر آپ ﷺ نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی، اس
کے بعد آپ کی اس سے ملاقات ہوئی تو آپ نے فرمایا:
تُو نے اس کے قرض کا کیا کیا؟ اس نے عرض کیا: ابھی
فارغ نہیں ہوا ہوں، فرمایا: تیرے ساتھی پر بوجھ ہے، پھر
اس نے جلدی جلدی اس کا قرض ادا کیا، پھر آپ سے
ملاقات ہوئی تو اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں نے
اس کا قرض ادا کر دیا ہے، آپ نے فرمایا: اب تیرے
ساتھی کا بوجھ کم ہوا ہے۔

یہ تینوں احادیث موسیٰ بن عقبہ سے صرف حکیم بن
نافع ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ کی طرف سے آنے والے
عذاب کو کوئی برداشت نہیں کر سکے گا؟ تم اللہ کے لیے
شریک ٹھہراتے ہو حالانکہ وہ تمہیں رزق اور عافیت دیتا

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الثَّلَاثَةَ الْآحَادِيثِ عَنْ مُوسَى بْنِ
عُقْبَةَ إِلَّا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ

3470 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حَمِيدٍ الْعَكِّيُّ
الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ،
عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ، يَقُولُ:

نا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى
الْأَشْعَرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
لَيْسَ أَحَدٌ أَصْبَرَ عَلَى آذَى مِنَ اللَّهِ، يَدْعُونَ لَهُ نِدًّا
وَهُوَ يَرْزُقُهُمْ وَيُعَافِيهِمْ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى،
وَالْحَمِيدِيُّ

یہ حدیث سفیان سے حامد بن یحییٰ اور حمیدی روایت
کرتے ہیں۔

3471 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ حُمَيْدٍ الْعَمِّيُّ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ هِشَامِ السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ اللَّيْثِيُّ قَالَ: نَا رَوْحُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَثْمَانَ بْنِ حُثَيْمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ
ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضُ، فَأَلْبِسُوهَا
أَحْيَاءَكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ
أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدُ، فَإِنَّهُ يَجْلُو الْبَصَرَ وَيُنْبِتُ الشَّعْرَ
لَمْ يَرَوْهُ عَنْ رَوْحِ بْنِ الْقَاسِمِ، إِلَّا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ
اللَّهِ اللَّيْثِيُّ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ نے فرمایا: بہتر کپڑے جو تم پہنتے ہو وہ سفید
کپڑے ہیں تم زندگی میں بھی پہنو اور اپنے مردوں کو اس
میں کفن دو، بہتر سرمہ جو تم لگاتے ہو وہ اشمہ سرمہ ہے یہ آنکھ
کی بینائی کو تیز کرتا ہے اور بالوں کو اگاتا ہے۔

روح بن قاسم سے صرف بکر بن عبداللہ لیشی روایت
کرتے ہیں۔

3472 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ
الْحَرَائِيُّ أَبُو عَرُوبَةَ قَالَ: نَا هَاشِمُ بْنُ الْحَارِثِ
الْحَرَائِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ
سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحِيمِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَيُّسَةَ،

حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے ہوئے سنا کہ موت کے بعد تین چیزیں ملتی ہیں:
نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرتی رہے صدقہ جاریہ کہ

3471 - أخرجه أبو داود: الطب جلد 4 صفحہ 8 رقم الحديث: 3878 ولفظه: ألبسوا من ثيابكم البياض و أحمد في

المسند جلد 1 صفحہ 462 رقم الحديث: 3341 والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 139 والطبرانی في الكبير

جلد 12 صفحہ 66 رقم الحديث: 12493 ولفظه عندهم .

3472 - أخرجه ابن ماجه: المقدمة جلد 1 صفحہ 88 رقم الحديث: 241 وابن حبان (84/موارد الظمان) انظر تلخيص

الجبر جلد 3 صفحہ 78 رقم الحديث: 2 .

اس کا اجر ملتا رہے گا ایسا علم جس پر اس کے بعد بھی عمل کیا جاتا رہا۔

زید بن اسلم سے صرف فلیح اور فلیح سے صرف زید بن ابی ایسہ اور زید سے صرف ابو عبد الرحیم روایت کرتے ہیں، اس کو عمدہ طور پر صرف ابو معافی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابو قتادہ سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت سعید بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر انسان کے لیے مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ خواہش کرے گا کہ تیسری وادی بھی ہو ابن آدم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھرے گی اور اللہ عزوجل جس کی توبہ قبول کرنا چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔

سفیان سے صرف حامد بن یحییٰ اور اسماعیل سے صرف سفیان ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت سعد سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل زمین و آسمانوں کو اپنے دائیں دست

عَنْ فُلَيْحِ بْنِ سُلَيْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: خَيْرُ مَا يَخْلُفُ الْمَرْءَ بَعْدَ مَوْتِهِ ثَلَاثٌ: وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُهَا، وَعِلْمٌ يُعْمَلُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، إِلَّا فُلَيْحٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ فُلَيْحٍ، إِلَّا زَيْدُ بْنُ أَبِي أَنَيْسَةَ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زَيْدٍ، إِلَّا أَبُو عَبْدِ الرَّحِيمِ، وَلَمْ يَرَوْهُ مُجَوِّدًا إِلَّا أَبُو الْمُعَاذِيِّ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي قَتَادَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3473 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَتَمَنَّى إِلَيْهِمَا الثَّلَاثَ، وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ، وَيَتَوَبُّ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى، وَلَا رَوَاهُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ، إِلَّا سُفْيَانُ، وَلَا يُرْوَى عَنْ سَعْدِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3474 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ

التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو الْحَنْفِيُّ قَالَ: نَا

3474 - أخرجه البخاری: التوحيد جلد 13 صفحہ 404 رقم الحديث: 7412 بلفظ: أن الله يقبض يوم القيامة الأرض

وتكون السماوات بيمينه ثم يقول: أنا الملك. ومسلم: المناقین جلد 4 صفحہ 2148 بلفظ: يطوى الله عزوجل

السماوات يوم القيامة، ثم يأخذهن بيده اليمنى. ثم يقول: أنا الملك..... ثم يطوى الأرضين بشماله. ثم يقول: أن

الملك..... واللفظ عند البخاری أقرب.

قدرت سے لپیٹے گا پھر انہیں ہلائے گا پھر فرمائے گا: میں بادشاہ ہوں۔

عبداللہ بن ادریس سے صرف علاء بن عمرو ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نکاح صرف ولی ہی کر سکتا ہے۔

ابن عبدالمبارک، خالد الخذاء سے، وہ سہل بن عثمان سے، وہ حجاج بن ارطاة سے، وہ عکرمہ سے۔ لوگوں نے ابن مبارک سے، وہ حجاج بن ارطاة سے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ رات کو سجدہ قرآن میں یہ پڑھتے تھے: "سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ" (میں نے اُس ذات کو سجدہ کیا جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے کان

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَقْبِضُ اللَّهُ عَلَى الْأَرْضِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتِ مَطْوِيَّاتٍ بِيَمِينِهِ ثُمَّ يَهْزُهُنَّ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا الْمَلِكُ لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِدْرِيسَ، إِلَّا الْعَلَاءُ بْنُ عَمْرٍو

3475 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

لَمْ يَرَوْهُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، إِلَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَرَوَاهُ النَّسَائُ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنِ الْحَجَّاجِ بْنِ أَرْطَاةَ

3476 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ: نَا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى قَالَ: نَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ: حَدَّثَنِي حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ وَهْبِ بْنِ خَالِدٍ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ

3475 - أخرجه ابن ماجة: النكاح جلد 1 صفحہ 605 رقم الحديث: 1880، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 329 رقم

الحديث: 2264. وقال الحافظ الزيلعي: والحجاج ضعيف، وفي سماعه من عكرمة نظر. انظر نصب الراية جلد 3

صفحہ 188، والطبرانی في الكبير جلد 12 صفحہ 64 رقم الحديث: 12483 من طريق آخر.

3476 - أخرجه أبو داود: الصلاة جلد 2 صفحہ 61 رقم الحديث: 1414، والترمذي: الصلاة جلد 2 صفحہ 474 رقم

الحديث: 580 وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي: التطبيق جلد 2 صفحہ 176 (باب نوع آخر) وأحمد:

المسند جلد 6 صفحہ 35 رقم الحديث: 24077.

اور آنکھیں بنائیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ فِي سُجُودِ الْقُرْآنِ
بِالْيَسْرِ: سَجَدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَهُ، وَشَقَّ سَمْعَهُ
وَبَصَرَهُ

حماد بن زید سے صرف ابن وہب اور ابن وہب
سے صرف حرملة بن یحییٰ روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا ابْنُ وَهْبٍ، وَلَا
عَنِ ابْنِ وَهْبٍ إِلَّا حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى

حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے
ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا:
میری امت کے فقراء جنت میں داخل ہوں گے امیر
لوگوں سے چالیس سال پہلے۔ میں نے عرض کی: یا رسول
اللہ! ہم کو ان کی حالت بتائیں؟ فرمایا: ان کے کپڑے
میلے میلے ہوں گے بال بکھرے ہوئے ہوں گے ان کو
اپنے گھروں میں نہیں آنے دیا جائے گا وہ نعمتوں والیوں
سے نکاح نہ کریں گے تو اپنے حقوق ادا کریں گے جو ان
پر لازم ہوں گے لیکن ان کے حقوق کوئی نہیں ادا کرے
گا۔

3477 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ:
نَا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ قَالَ: نَا قَتَادَةُ بْنُ الْفُضَيْلِ بْنِ قَتَادَةَ
الرُّهَاقِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا حَاضِرٍ، عَنِ الْوَضِيِّ
الثَّقَفِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَدْخُلُ فَقَرَاءُ أُمَّتِي
الْجَنَّةَ قَبْلَ أَغْنِيَانِهِمْ بَارَبَعِينَ خَرِيفًا قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، صَفَهُمْ لَنَا، قَالَ: هُمُ الدَّنَسَةُ ثِيَابُهُمْ، الشَّعِثَةُ
رُئُوسُهُمْ، الَّذِينَ لَا يُؤْذَنُ لَهُمْ عَلَى السُّدَاتِ، وَلَا
يَنْكِحُونَ الْمُتَنَعِمَاتِ، يُعْطُونَ كُلَّ الْأَذَى عَلَيْهِمْ وَلَا
يُعْطُونَ كُلَّ الْأَذَى لَهُمْ

ابن عمر سے صرف اسی سند سے روایت ہے علی بن
بحر بیان کرتے ہیں۔

لَا يُرَوَى عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَلَمْ
يُحَدِّثْ بِهِ إِلَّا عَلِيُّ بْنُ بَحْرٍ

حضرت حنش بن معتمر روایت کرتے ہیں کہ میں
نے حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ کو کعبہ کے دروازے کی
چوکھٹ پکڑے ہوئے دیکھا آپ فرما رہے تھے: جس
نے مجھے پہچانا اس نے مجھے پہچانا جس نے مجھے نہیں پہچانا
تو میں ابوذر غفاری ہوں میں نے رسول اللہ ﷺ کو
فرماتے سنا آپ نے فرمایا: میری اہل بیت کی مثال تم

3478 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
مَنْصُورٍ سَجَّادَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ دَاهِرِ الرَّازِيِّ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُوسِ، عَنِ الْأَعْمَشِ،
عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ حَنْشِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ قَالَ: رَأَيْتُ
أَبَا ذَرَّ الْغِفَارِيَّ أَخَذَ بَعْضَانَدَتِي بَابِ الْكَعْبَةِ، وَهُوَ
يَقُولُ: مَنْ عَرَفَنِي، فَقَدْ عَرَفَنِي وَمَنْ لَمْ يَعْرِفَنِي فَأَنَا

میں کشتی نوح کی طرح ہے، جس طرح کشتی نوح میں لوگ سوار ہوئے اور وہ نجات پا گئے، جو سوار نہیں ہوئے وہ ہلاک ہو گئے اور بنی اسرائیل کے بابِ حطہ والی ہے۔

اعمش سے صرف عبداللہ بن عبدالقدوس ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابوعلیٰ اکابلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں حضرت ابوموسیٰ رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، فرمایا: ہمیں رسول اللہ ﷺ نے خطبہ دیا، فرمایا: اے لوگو! شرک سے بچو کیونکہ شرک چیونٹی کے بل سے زیادہ مخفی ہے، فرمایا: جو اللہ کہنا چاہے! ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم اس سے کیسے بچیں، وہ چیونٹی کے بل سے زیادہ پوشیدہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تم پڑھو: "اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا تَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ"۔

عبدالملک بن ابی سلیمان سے صرف ابن نمیر اور ابوموسیٰ سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک جبریل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے تھے تو پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔

أَبُو ذَرِّ الْغِفَارِيِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ أَهْلِ بَيْتِي فِيكُمْ كَمَثَلِ سَفِينَةِ نُوحٍ فِي قَوْمِ نُوحٍ، مَنْ رَكِبَهَا نَجَا، وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا هَلَكَ، وَمَثَلُ بَابِ حِطَّةٍ فِي بَنِي إِسْرَائِيلَ لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْأَعْمَشِ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْقُدُّوسِ

3479 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ الْوَكَيْعِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نَمِيرٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْكَاهِلِيِّ قَالَ: خَطَبَنَا أَبُو مُوسَى، فَقَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا الشِّرْكَ، فَإِنَّهُ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ فَقَالَ: مَنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ: وَكَيْفَ نَتَّقِيهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَهُوَ أَخْفَى مِنْ دَبِيبِ النَّمْلِ؟ قَالَ: قُولُوا: اللَّهُمَّ إِنَّا نَعُوذُ بِكَ أَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا تَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ إِلَّا ابْنَ نَمِيرٍ، وَلَا يُرَوَى عَنْ أَبِي مُوسَى إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3480 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرِ الْقَتَّاتِ الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدِ الطَّلِحِيِّ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءِ الْمَدَنِيِّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ جِبْرِيْلَ إِذَا جَاءَ بِالْوَحْيِ فَإِنَّ أَوَّلَ مَا

موسیٰ بن عقبہ سے صرف داؤد بن عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو مسلمانوں کے کاموں میں کسے شے کا ولی بنا، وہ آگ میں جلے گا (یعنی جب اس میں خیانت کرے، اگر اچھے طریقے اور دینداری سے کرے تو اس وعید میں داخل نہیں ہوگا)۔

ابوبکر بن عبید اللہ سے صرف ابویعلیٰ ہی روایت کرتے ہیں، حضرت انس سے اسی طریقے سے روایت ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ساری کھیاں جہنم میں جائیں گی مگر شہد کی مکھی کے سوا۔

سفیان سے صرف قاسم الجرمی روایت کرتے ہیں اور ان سے روایت کرنے میں ابن عمار اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: رات کو اٹح کے مقام پر پڑاؤ ڈالنا سنت طریقے سے ہے۔

يُلْقَى عَلَيَّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ إِلَّا دَاوُدُ بْنُ عَطَاءٍ

3481 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَنَاتُ

قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا أَبُو كَيْلَى، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَعَشَّهْمُ فَهُوَ فِي النَّارِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ إِلَّا أَبُو كَيْلَى، وَلَا يَرُوى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

3482 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حَاتِمِ الْعِجَلُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارٍ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الذَّبَابُ كُلُّهُ فِي النَّارِ إِلَّا النُّحْلَ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ عَمَّارٍ

3483 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حَاتِمِ الْعِجَلُ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَدْرَمِيُّ، قَالَ نَا الْقَاسِمُ بْنُ زَيْدٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عُمَرَ بْنِ

الْخَطَابِ، قَالَ مِنَ السَّنَةِ النَّزُولِ بِالْأَبْطَحِ عَشِيَّةَ النَّفْرِ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا الْقَاسِمُ الْجَرْمِيُّ

3484 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حَاتِمٍ قَالَ: نَا أَبُو مُصْعَبٍ قَالَ: نَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ

حَرْبِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ، وَالْحَنْتَمِ، وَالنَّقِيرِ

لَا نَعْلَمُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي سَلَمَةَ رَوَى عَنْ عِرَاكِ بْنِ مَالِكٍ غَيْرَ هَذَا وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ عَنِ الْمُغِيرَةَ إِلَّا

أَبُو مُصْعَبٍ

3485 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حَاتِمٍ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَّارِ الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَيُّوبَ، عَنْ مُعَاذِ بْنِ عُقَبَةَ، عَنْ زِيَادِ بْنِ

سَعْدٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا

يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَيَّ مُصْحِحٌ

لَا يُرَوَى عَنْ زِيَادِ بْنِ سَعْدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3486 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ

حَاتِمٍ قَالَ: نَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ يَزِيدَ الصُّدَائِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا حَفْصُ الْغَاضِرِيُّ، عَنْ

سفيان سے صرف قاسم الجرمی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے دباء، حنتم اور نقیر کے برتنوں میں پینے سے منع فرمایا۔

ہم نہیں جانتے کہ عبداللہ بن ابی سلمہ، عراق بن

مالک سے اس کے علاوہ روایت کرتے ہیں، مغیرہ سے

صرف ابو مصعب ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے فرمایا: مریض کو تندرست کے پاس نہ لے جاؤ۔

زیاد بن سعد سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

ﷺ نے فرمایا: جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، اس کو پوری زندگی اس کا نفع ملے گا، اس کے بعد اس کو عذاب نہیں

3484- أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3 صفحہ 1578، وأبو داؤد: الأشربة جلد 3 صفحہ 329 رقم الحديث: 3693

وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 373 رقم الحديث: 7770 .

3485- أخرجه البخاری: الطب جلد 10 صفحہ 251 رقم الحديث: 5771، ومسلم: السلام جلد 4 صفحہ 1744 .

مُوسَى الصَّغِيرِ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ،
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفَعْتُهُ يَوْمًا مِنْ دَهْرِهِ
وَلَوْ بَعْدَ مَا يُصِيبُهُ الْعَذَابُ

عبید اللہ بن عبد اللہ سے اسی وجہ سے روایت ہے۔

لَا يُرْوَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ هَذَا
الْوَجْهِ وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ مُوسَى الْأَحْفَصِ، تَفَرَّدَ بِهِ:
الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ.

3487 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ

الْخَرَقِيُّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُرْدَاسٍ
الْأَنْصَارِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْوَانَ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ: نَا
عُمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
عَنْ مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ، قَالَتْ: أَصْبَحَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ خَائِرُ النَّفْسِ،
وَأَمْسَى وَهُوَ كَذَلِكَ، وَأَصْبَحَ وَهُوَ كَذَلِكَ، فَقُلْتُ:
يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا لِي أَرَاكَ خَائِرًا قَالَ: إِنَّ جَبْرِيلَ
وَعَدَنِي أَنْ يَأْتِيَنِي وَمَا أَخْلَفَنِي قَطُّ فَنَظَرُوا فَإِذَا جَرُّو
كَلْبٌ تَحْتَ نَضْدٍ لَهُمْ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ الْجَرِّو فَأُخْرِجَ، وَأَمَرَ بِذَلِكَ
الْمَكَانِ فَعُغِلَ بِالْمَاءِ، فَجَاءَ جَبْرِيلُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّكَ وَعَدْتَنِي أَنْ تَأْتِيَنِي
وَمَا أَخْلَفْتَنِي قَطُّ؟ قَالَ: أَمَا عَلِمْتَ أَنَا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا

حضرت ميمونہ بنت حارث رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں
کہ حضور ﷺ نے صبح پریشانی کی حالت میں کی اور شام
بھی اسی طرح پریشانی کی حالت میں دوسری صبح بھی
پریشان حالت میں کی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ!
میں آپ کو پریشان دیکھ رہی ہوں؟ آپ نے فرمایا:
حضرت جبریل نے میرے پاس آنے کا وعدہ کیا تھا
انہوں نے میرے ساتھ کبھی وعدہ خلافی نہیں کی۔ پھر
آپ نے دیکھا تو ایک کتے کا بچہ آپ کی چارپائی کے
نیچے تھا، حضور ﷺ نے اس کو نکلنے کا حکم دیا، اس کو نکالا
گیا اور اس جگہ کو دھویا گیا، اس کے بعد حضرت جبریل
علیہ السلام آپ کے پاس آئے۔ حضور ﷺ نے
حضرت جبریل سے فرمایا: آپ نے میرے پاس آنے کا
وعدہ کیا تھا، آپ نے میرے ساتھ کبھی وعدہ خلافی نہیں
کی ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی: کیا
آپ کو معلوم نہیں کہ ہم اس گھر میں داخل نہیں ہوتے ہیں

3487 - أخرجه أبو داود: اللباس جلد 4 صفحہ 72 رقم الحديث: 4157 والنسائي: الصيد جلد 7 صفحہ 163 (باب امتناع

الملائكة من دخول بيت فيه كلب) ولفظهما نحوه. وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 363 رقم الحديث: 26857

ولفظه عنده.

فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ؟

جس میں کتا اور تصویر ہو۔

هَكَذَا رَوَاهُ عَمَارَةُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،
وَرَوَاهُ أَصْحَابُ الزُّهْرِيِّ، مِنْهُمْ: يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ،
وَسُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، وَغَيْرُهُمَا، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ
عَبِيدِ بْنِ السَّبَّاقِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ مَيْمُونَةَ

عمارہ بن ابی حفصہ زہری سے وہ عبید اللہ بن
عبد اللہ سے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے۔
زہری کے اصحاب یونس بن یزید اور سفیان بن عیینہ اور
ان دونوں کے علاوہ روایت کرتے ہیں وہ زہری سے وہ
عبید اللہ بن سباق سے وہ ابن عباس سے وہ حضرت میمونہ
سے۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ إِلَّا مُحَمَّدَ
بْنَ مَرْوَانَ

عمارہ بن ابی حفصہ سے صرف محمد بن مروان ہی
روایت کرتے ہیں۔

3488 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
الْحَرَقِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مِرْدَاسٍ قَالَ: نَا مَحْبُوبُ
بْنُ الْحَسَنِ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ سَيَّارِ أَبِي
الْحَكِّمِ، عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
مَسْعُودٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ
هَاتَيْنِ السُّورَتَيْنِ؟ فَقَالَ: قِيلَ لِي فَقُلْتُ فَقُولُوا كَمَا
قُلْتُ

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ سے دو سورتوں کے متعلق پوچھا گیا تو
آپ نے فرمایا: یہ کہا گیا ہے میں پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو
جیسے میں پڑھتا ہوں۔

ابن مسعود سے اسی سند سے روایت ہے لوگ زر
بن حبیش سے وہ ابی بن کعب سے۔

لَا يُرَوَى عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ
وَأَنَّمَا رَوَى النَّاسُ عَنْ زَرِّ بْنِ حُبَيْشٍ، عَنْ أَبِي بِنِ
كَعْبٍ

حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن اپنے والد عبد الرحمن
بن عوف سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ ہمارے
پاس سے گزرے ہم بیلو کے پھل چن رہے تھے۔ آپ
نے فرمایا: تم کالے دانے چنو! میں چنتا رہا ہوں کیونکہ

3489 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَالِكِيُّ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْمٍ الْأَنْطَاكِيُّ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ
يُونُسَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ،
عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ

3488- أخرجه أيضاً الطبرانی في الكبير جلد 10 صفحہ 163 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 153 . وفيه

اسماعیل بن مسلم المکی وهو ضعيف .

میں بکریاں چراتا رہا ہوں۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ بکریاں چراتے رہے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔

مسعر سے صرف عیسیٰ بن یونس اور عیسیٰ سے صرف ابن سہم روایت کرتے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف سے صرف اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: حاملہ عورت جسے اپنی جان پہ خطرہ ہو وہ افطار کر سکتی ہے، دودھ پلانے والی جسے اپنے بچے پر خوف ہو وہ بھی افطار کر سکتی ہے۔

جناب جریری سے اسے صرف ربیع بن بدر ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: مکاتب آزاد ہونے کے لیے آزاد کی دیت کے برابر ادائیگی کرے اور غلامی میں غلام کی دیت کی مقدار۔

الرَّحْمَنُ بْنُ عَوْفٍ قَالَ: مَرَّ بِنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ نَجْتَنِي ثَمَرَ الْأَرَاكِ: فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ، فَإِنِّي كُنْتُ أَجْتَنِيهِ وَأَنَا أَرَعَى الْغَنَمَ فَقَالُوا: رَعَيْتَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ مِسْعَرٍ إِلَّا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَيْسَى إِلَّا ابْنُ سَهْمٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3490 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ حُرَيْثِ الْمِصْرِيِّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ التَّمِيمِيُّ قَالَ: نَا الْجُرَيْرِيُّ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فِي الْجَبَلِيَّاتِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى نَفْسِهَا أَنْ تَفْطِرَ، وَالْمَرْضِعِ الَّتِي تَخَافُ عَلَى وَلَدِهَا لَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، إِلَّا الرَّبِيعُ بْنُ بَدْرِ

3491 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِدْرِيسَ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ النَّرْسِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُؤَدَّى

3490- أخرجه ابن ماجه: الصيام جلد 1 صفحہ 533 رقم الحديث: 1668، والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 141.

3491- أخرجه النسائي: القسامة جلد 8 صفحہ 40 (باب دية المكاتب). وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 341 رقم

الحديث: 2360، والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 142، والطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 353 رقم

الحديث: 11991-11994.

الْمُكَاتِبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ الْحُرِّ، وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ الْعَبْدِ

حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: میں نے جس کی دو معزز چیزیں لے لیں اس نے صبر کیا اور رضائے الہی کی نیت کی تو میں اس کے لیے جنت سے کم ثواب پر راضی نہ ہوں گا۔

3492 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَذْهَبَتْ كَرِيمَتِيهِ فَصَبَّرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ أَرْضَ لَهُ ثَوَابًا دُونَ الْجَنَّةِ

حضرت عاصم سے اس کو ابوالاحوص اور ابوالاحوص سے حضرت سہل روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَاصِمٍ، إِلَّا أَبُو الْأَحْوَصِ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، إِلَّا سَهْلٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قسم اٹھا کر سودا فروخت کرنے والے کی کمائی سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔

3493 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ بَيَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْخَلْفَ يُنْفِقُ السِّلْعَةَ وَيَمْحَقُ الْكُسْبَ

ادریس اودی سے صرف حفص اور حفص سے صرف سہل بن عثمان روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ إِدْرِيسَ الْأَوْدِيِّ، إِلَّا حَفْصٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ حَفْصٍ، إِلَّا سَهْلُ بْنُ عُثْمَانَ

حضرت ہشام بن عروہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک دن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے

3494 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْخِطَّاطُ الرَّامَهُرْمِزِيُّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ رَاشِدٍ الْأَدَمِيُّ قَالَ:

3492 - أخرجه الترمذی: الزهد جلد 4 صفحہ 602 رقم الحدیث: 2400 بلفظ: اذا أخذت کریمی عبدی فی الدنیالیم بلکن له جزاء عندی الا الجنة. وقال: هذا حدیث حسن غریب. وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 347 رقم الحدیث: 14029، و الطبرانی فی الصغیر جلد 1 صفحہ 142 ولفظهما .

3493 - أخرجه البخاری: البیوع جلد 4 صفحہ 369 رقم الحدیث: 2087، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1228 .

3494 - أخرجه الطبرانی فی الصغیر جلد 1 صفحہ 142 وقال: لم یروہ عن عمران الامحمد بن بلال. وقال الحافظ الهیثمی فی المعجم جلد 1 صفحہ 92: ورجاله موثقون .

نماز کھڑی کروائی تو قوم میں سے ایک آدمی سے فرمایا: آگے ہو اور نماز پڑھا! کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا آپ فرما رہے تھے: جب تم میں سے کوئی ایک گھنڈی والا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کرے۔

عمران القطان سے اسے محمد بن بلال ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم ﷺ نے حضرت علاء بن حضرمی کو بحرین کی طرف بھیجا تو میں اس کے پیچھے چلا میں نے اس سے تین خوبیوں کو ملاحظہ کیا، میں نہیں جانتا کہ ان تین میں سے کون سی زیادہ خوش کرنے والی تھی۔ ہم سمندر کے کنارے پہنچے تو انہوں نے کہا: اللہ کا نام لے کر سمندر میں داخل ہو جاؤ۔ آپ فرماتے ہیں: ہم نے اللہ کا نام لیا اور گھس گئے، سو ہم نے سمندر پار کر لیا، لیکن تری ہمارے اونٹوں کے کھروں کے نیچے تک ہی پہنچی۔ پس جب ہم واپس لوٹے تو ہم ان کے ساتھ ایک چھیل میدان میں تھے۔ ہمارے پاس پانی نہ تھا، ہم نے ان کی بارگاہ میں شکایت کی تو انہوں نے دو رکعت نماز پڑھی پھر دعا مانگی تو اچانک بادل ڈھال کی مانند آ گئے، پھر خوب برسے، ہم نے جانوروں کو پلایا اور خود پیا۔ وہ فوت ہوئے ہم نے انہیں ریت میں دفن کیا۔ ہم زیادہ دور نہ چلے، ہم نے کہا: مردہ خور آئے گا اور اسے کھا جائے گا۔ پس ہم واپس لوٹے تو ہم نے اسے نہ دیکھا۔

نَا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ قَالَ: نَا عِمْرَانُ الْقَطَّانُ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: أَقَامَ ابْنُ عُمَرَ ذَاتَ يَوْمٍ الصَّلَاةَ، فَقَالَ لِرَجُلٍ مِنَ الْقَوْمِ: تَقَدَّمَ فَصَلِّ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِذَا كَانَ أَحَدُكُمْ رِزًّا فَلْيَتَوَضَّأْ

لَمْ يَرَوْهُ عَنْ عِمْرَانَ الْقَطَّانِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ بِلَالٍ

3495 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ بَسْطَامٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِي كَعْبٍ، صَاحِبِ الْحَرِيرِ، عَنِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي السَّلِيلِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: لَمَّا بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْعَلَاءَ بْنَ الْحَضْرَمِيِّ إِلَى الْبَحْرَيْنِ، تَبِعْتُهُ فَرَأَيْتُ مِنْهُ ثَلَاثَ خِصَالٍ، لَا أَدْرِي أَيُّنَهُنَّ أَعْجَبُ: أَنْتَهَيْتَنَا إِلَى شَاطِئِ الْبَحْرِ، فَقَالَ: سَمُّوا وَاقْتَحِمُوا، فَقَالَ: فَسَمَّيْنَا وَاقْتَحَمْنَا فَعَبَرْنَا فَمَا بَلَّ الْمَاءُ إِلَّا أَسْفَلَ خِفافِ إِبِلِنَا، فَلَمَّا قَفَلْنَا صِرْنَا مَعَهُ بِفَلَاةٍ مِنَ الْأَرْضِ وَلَيْسَ مَعَنَا مَاءٌ، فَشَكُونَا إِلَيْهِ، فَصَلَّى رُكْعَتَيْنِ ثُمَّ دَعَا فَاذًا سَحَابَةٌ مِثْلُ التُّرْسِ، ثُمَّ أَرَحَتْ غَزَالِيهَا، فَسَقَيْنَا وَاسْتَقَيْنَا، وَمَاتَ فَدَفَنَاهُ فِي الرَّمْلِ، فَلَمَّا سِرْنَا غَيْرَ بَعِيدٍ قُلْنَا: يَجِيءُ سَبْعُ فَيَأْكُلُهُ، فَرَجَعْنَا، فَلَمْ نَرَهُ

ابی بن کعب سے اس حدیث کو ابراہیم صاحب
الھروی ہی روایت کرتے ہیں۔ حریری سے ابو کعب
روایت کرتے ہیں اور ابی السلیل کا نام ضریب بن نفیر
ہے۔

حضرت شبیرہ جچی اپنے بچے سے روایت کرتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تین چیزیں تمہارے لیے
تیرے بھائی سے محبت کو خالص کریں گی۔ مجلس میں
اس کے لیے تیری کشادگی چاہیں کہ اچھے نام سے پکارو
جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو۔

یہ حدیث موسیٰ بن عبد الملک سے صرف ابراہیم بن
وزیر روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اللہ عزوجل نے صبح کو پیدا کیا
ہے آسمان و آسمان کا ایک فرشتہ جانتا ہے کہ اللہ عزوجل
نے آج کے دن میں کیا کرنا ہے اور اپنے بندہ کو کیا رزق
دینا ہے اگر انسان و جن جمع ہو جائیں کہ اس سے کوئی
شے روکیں تو وہ اس سے روکنے کی طاقت نہیں رکھیں
گے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي كَعْبٍ، إِلَّا
إِبْرَاهِيمُ صَاحِبُ الْهَرَوِيِّ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنِ الْجَرِيرِيِّ
إِلَّا أَبُو كَعْبٍ وَاسْمُ أَبِي السَّلِيلِ: ضَرِيبُ بْنُ نَفِيرٍ

3496 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ
بِسْطَامٍ قَالَ: نَا أَبُو هُرَيْرَةَ مُحَمَّدُ بْنُ فِرَاسِ
الصَّرَفِيِّ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، عَنْ مُوسَى
بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ شَيْبَةَ
الْحَجَبِيِّ، عَنْ عَمِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ يُصْفِينَ لَكَ وَذُو أَخِيكَ: تَوَسَّعَ لَهُ
فِي الْمَجْلِسِ، وَتَدَعَوْهُ بِأَحَبِّ الْأَسْمَاءِ إِلَيْهِ،
وَتَعَوَّدَهُ إِذَا مَرِضَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عَبْدِ
الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ إِلَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ

3497 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ تَقِيِّ بْنِ أَبِي
تَقِيٍّ الْحَمَصِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي أَبُو تَقِيٍّ هِشَامُ بْنُ عَبْدِ
الْمَلِكِ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو
صَالِحِ الْقُرَشِيُّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَارٍ، عَنْ حَكِيمِ بْنِ عَمِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا خَلَقَ
اللَّهُ مِنْ صَبَاحٍ يَعْلَمُ مَلَكٌ فِي السَّمَاءِ وَلَا فِي
الْأَرْضِ بِمَا يَصْنَعُ اللَّهُ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَهُ
رِزْقُهُ فَلَوْ اجْتَمَعَ عَلَيْهِ الثَّقَلَانِ الْجَنُّ وَالْأَنْسُ، أَنْ
يُصَدُّوا عَنْهُ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ مَا اسْتَطَاعُوا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ہر قرض صدقہ ہے۔

3498 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ قَالَ:

نَا غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ الْأَشْجَعِيُّ، عَنْ هَلَالِ أَبِي ضِيَاءٍ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ قَرْضٍ صَدَقَةٌ

یہ حدیث ربیع سے صرف ہلال ابو ضیاء اور ہلال ضیاء، وَلَا عَنْ هَلَالٍ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الرَّبِيعِ، إِلَّا هَلَالُ أَبُو ضِيَاءٍ، وَلَا عَنْ هَلَالٍ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ مَيْسَرَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: غَسَّانُ بْنُ الرَّبِيعِ

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں حضور ﷺ کے ساتھ نکلے وہ جنازہ انصار کے ایک آدمی کا تھا جب ہم اس کو قبر کے پاس لے گئے تو ہم دفن کرنے لگے حضور ﷺ بیٹھ گئے ہم آپ کے ارد گرد بیٹھ گئے اس طرح کہ ہمارے سروں کے اوپر پرندے ہیں اس کے بعد لمبی حدیث ذکر کی۔

3499 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْكُمَيْتِ

الْمُوصِلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ بْنِ فَرَوَةَ قَالَ: نَا أَبُو شَهَابٍ الْحَنَاطُ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنِ الْمُنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ زَادَانَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَنَازَةِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ، فَأَنْتَهَيْنَا إِلَى الْقَبْرِ، وَلَمَّا نَلَجْنَاهُ، فَجَلَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْنَا حَوْلَهُ كَمَا عَلَي رُئُوسِنَا الطَّيْرُ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِطَوْلِهِ

حضرت عوف سے صرف ابو شہاب روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن زیاد بن فروہ اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَوْفٍ، إِلَّا أَبُو شَهَابٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زِيَادٍ بْنِ فَرَوَةَ



مَنْ اسْمُهُ حَسُنُونُ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حسنون ہے

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لوگ سوا اونٹوں کی طرح ہیں، اس میں سواری کوئی نہیں ہے۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا: اس سے ان سو میں کوئی بھلائی کی شے نہیں سوائے مومن بندے کے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اسی سند کے ساتھ روایت ہے۔

3500 - حَدَّثَنَا حَسُنُونُ بْنُ أَحْمَدَ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ النَّاسَ كَمَا بِلِ مَائَةٍ لَا تَجِدُ فِيهَا رَاحِلَةً قَالَ: وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا نَعْلَمُ شَيْئًا خَيْرًا مِنْ مَائَةٍ مِثْلِهِ إِلَّا الرَّجُلَ الْمُؤْمِنَ لَا يَرُوى عَنْ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ.



3500 - أخرجه أحمد: المسند جلد 2 صفحہ 149 رقم الحديث: 5885, 5886 من حديثين وفيه سحنون بن أحمد المصري لم أجده، وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 67 أيضًا الى الصغير..... ومداره على أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف جدًا .

مِنْ اسْمِهِ حَبَابٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حباب ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے میری طرف وحی کی ہے کہ میں اپنی دونوں بیٹیوں کی شادی عثمان سے کروں۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف عمیر بن عمران روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن حرب اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عثمان جنتی ہے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف اسماعیل بن یحییٰ تمیمی ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مریض کی عیادت تین دن کے بعد کرو۔

3501 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ الْحَنْفِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ أُزَوِّجَ كَرِيمَتِي عُثْمَانَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا عُمَيْرُ بْنُ عِمْرَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ

3502 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّمِيمِيُّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: عُثْمَانُ فِي الْجَنَّةِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ

3503 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَاسِطِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ حَمَادٍ أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ، عَنْ رَوْحِ بْنِ جَنَاحٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

3501 - أخرجه أيضاً الطبرانی في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 9 صفحہ 86: وفيه عسیر بن عسیر .

الحنفی وهو ضعيف بهذا الحديث وغيره .

قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعَادُ
الْمَرِيضُ إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثِ

یہ حدیث زہری سے روح بن جناح روایت کرتے
ہیں ان سے روایت کرنے میں ابو حارث و زاق ایسے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا رَوْحُ
بْنِ جَنَاحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو الْحَارِثِ الْوَرَّاقُ



مِنْ اسْمِهِ حَبَابٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حباب ہے

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ چل رہے تھے کہ آپ کا گزرا ایک ایسی قوم کے پاس سے ہوا جنہوں نے نشانہ بازی کے لیے پرندے باندھے ہوئے تھے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: حضور ﷺ نے ایسا کرنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔

3504 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَبَابِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصِ التَّوَمِيِّ قَالَ: نَا سَلَامُ بْنُ أَبِي خُبْرَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقَصَافِ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ قَالَ: كُنْتُ أَمْشِي مَعَ ابْنِ عُمَرَ، فَمَرَّ عَلَيَّ قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا طَائِرًا غَرَضًا يَرْمُونَهُ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

داؤد بن قصاب سے اس حدیث کو روایت نہیں کیا گیا یہ بصری کے ثقہ شیخ ہیں۔

لَمْ يُسَيِّدْ دَاوُدُ بْنُ أَبِي الْقَصَافِ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ ثَقَّةٌ

آل زیاد کے غلام حضرت مہاجر فرماتے ہیں کہ ایک بار میں اپنے گدھے پر سوار تھا اور گدھا چھوٹا تھا اس وجہ سے میری ٹانگیں زمین پر لگ رہی تھیں اسی دوران امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ عنہ اچانک چمکتے نظر آئے۔ میں نے عرض کی: کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ایک کام ہے۔ میں نے عرض کی: سوار نہیں ہوں گے؟ فرمایا: کیوں نہیں! میں نے اپنا گدھا آپ کے پیچھے کر لیا، میں نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! اب آپ سوار ہوں! آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میں سوار نہ ہوں گا کیونکہ میں نے رسول کریم ﷺ سے سنا ہے کہ سواری

3505 - حَدَّثَنَا حَبَابُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْحَبَابِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ حَفْصِ التَّوَمِيِّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ أَبُو النَّضْرِ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدِ بْنِ جُدْعَانَ، عَنِ الْمُهَاجِرِ، مَوْلَى آلِ زِيَادٍ قَالَ: بَيْنَمَا أَنَا عَلَى حِمَارٍ لِي تَكَادُ تُصِيبُ رِجْلِي الْأَرْضَ مِنْ صِغَرِ الْحِمَارِ، إِذْ أَنَا بِصَلْعَةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ تَبَصُّ فِي الْقَمَرَاءِ، فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ: أَيْنَ تُرِيدُ؟ قَالَ: حَاجَةٌ لِي، قُلْتُ: أَلَا تَرَكْبُ؟ قَالَ: بَلَى. فَتَخَلَّفْتُ عَلَى عَجْرِ الْحِمَارِ، فَقُلْتُ: أَرَكْبُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، فَقَالَ: لَا أَفْعَلُ،

کا مالک آگے بیٹھنے کا زیادہ حقدار ہے اور گھوڑے کا مالک گھوڑے پر آگے بیٹھنے کا زیادہ حق رکھتا ہے۔

یہ حدیث حضرت علی بن زید سے صرف یحییٰ بن کثیر اور مہاجر مولیٰ آل زیاد حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتے ہیں۔

إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: صَاحِبُ الدَّابَّةِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الدَّابَّةِ، وَصَاحِبُ الْفَرَسِ أَحَقُّ بِصَدْرِ الْفَرَسِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ، وَلَا رَوَى الْمُهَاجِرُ مَوْلَى آلِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيٍّ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حاجب ہے

حضرت ایمن بن خریم بن فاکک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بہتر نوجوان خریم ہے اگر بال کم کروائے اور اپنے تہبند کو اونچا رکھے۔ حضرت خریم فرماتے ہیں کہ یہ ارشاد سننے کے بعد میرے بال میرے کانوں کی لو سے نیچے نہیں گئے اور میرا تہبند ٹخنوں سے نیچے نہیں کیا۔

یہ حدیث عبدالملک بن عمیر سے صرف مسعودی ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یونس بن بکر اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے دوست ﷺ نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی جب سے میں نے سنا ہے میں نے ان کو چھوڑا نہیں ہے: رات کو سونے سے پہلے وتر پڑھنے کی ہر ماہ تین روزے رکھنے کی چاشت کی نماز کی۔

یہ حدیث حماد فسطاط سے صرف نصیب بن ناصح روایت کرتے ہیں نصیب بصری کے شیخ ہی مصر میں اترے۔

مِنْ اسْمِهِ حَاجِبٌ

3506 - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكَينَ الْفَرَّغَانِيُّ

قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْمُفَضَّلِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمَ الْفَتَى خُرَيْمٌ لَوْ قَصَرَ مِنْ شَعْرِهِ وَرَفَعَ مِنْ إِزَارِهِ فَقَالَ خُرَيْمٌ: لَا يُجَاوِزُ شَعْرِي أُذُنِي وَلَا إِزَارِي عَقِبِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، إِلَّا الْمَسْعُودِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ

3507 - حَدَّثَنَا حَاجِبُ بْنُ أَرْكَينَ الْفَرَّغَانِيُّ

قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ شُعَيْبِ الْكَيْسَانِيُّ قَالَ: نَا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ قَالَ: نَا حَمَادُ الْفُسْطَاطُ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِثَلَاثٍ لَا أَدْعُهُنَّ حَتَّى آتَوْسَدَّ يَمِينِي: أَنْ لَا آبِيتَ إِلَّا عَلَى وَتَرٍ، وَأَنْ أَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي كُلِّ شَهْرٍ، وَصَلَاةَ الضُّحَى

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ الْفُسْطَاطِ إِلَّا الْخَصِيبُ بْنُ نَاصِحٍ، وَهُوَ شَيْخٌ بَصْرِيُّ نَزَلَ مِصْرَ

اس شخص کے نام سے
جس کا نام حملہ ہے

مِنْ اسْمِهِ
حَمَلَةٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع کرنے سے
منع فرمایا، یعنی بھتیجی اور بھانجی کے ساتھ۔

یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے صرف زہیر بن محمد
روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ابی
سلمہ اکیلے ہیں۔

3508 - حَدَّثَنَا حَمَلَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْغَزِيُّ

قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْغَزِيُّ قَالَ: نَا
عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ التَّيْسِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرٌ، عَنْ
مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ
عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ خَالَتِهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، إِلَّا
زُهَيْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ



مَنْ اسْمُهُ حَمِيدٌ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام حمید ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے سورہ یاسین دن اور رات کو اللہ
کی رضا کے لیے پڑھی اس کو بخش دیا جائے گا۔

یہ حدیث غالب القطان سے صرف اغلب بن تمیم
روایت کرتے ہیں۔

3509 - حَدَّثَنَا حَمِيدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ مَخْلَدِ الْوَاسِطِيِّ الْبَزَّازُ قَالَ: نَا وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةَ
قَالَ: نَا أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ، عَنْ جَسْرِ أَبِي جَعْفَرٍ، عَنْ
غَالِبِ الْقَطَّانِ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَرَأَ
يَاسِينَ فِي يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ابْتِغَاءً وَجَّهَ اللَّهُ غُفْرَانَهُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ غَالِبِ الْقَطَّانِ، إِلَّا
أَغْلَبُ بْنُ تَمِيمٍ



3509- أخرجه أيضاً الطبرانی في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحہ 100: وفيه أغلب بن تميم وهو
ضعيف . قلت هبل هو ضعيف جداً، وشيخه جسر متروك، وأخرجه أيضاً العقبلي في ترجمة جسر، وابن عدی في
ترجمة أغلب، وفي ترجمة الحسن بن دينار .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حمد ہے

مِنْ اسْمِهِ حَمْدٌ

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ ﷺ کے چچا ان حضرات میں سے تھے جو آپ کی حفاظت پر مامور تھے پس جب یہ آیت نازل ہوئی: ”اے رسول! آپ کے رب کی طرف سے جو آپ پر نازل ہوا ہے پہنچا دیجئے! اگر آپ نے نہ کیا تو آپ نے اپنی رسالت کو لوگوں تک نہیں پہنچایا اور اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا“ (المائدہ: ۶۷)۔ رسول کریم ﷺ نے محافظ دستے کو وہیں چھوڑ دیا۔

فضیل بن مرزوق سے یہ حدیث معلی بن عبد الرحمن ہی روایت کرتے ہیں اور حضرت ابوسعید خدری سے اسی سند سے روایت ہے۔

3510 - حَدَّثَنَا حَمْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمْدٍ أَبُو نَضْرِ الْكَاتِبُ قَالَ: نَا كُرْدُوسُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَ الْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيمَنْ يَحْرُسُهُ، فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ آيَةُ (يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ النَّاسِ) (المائدة: 67) تَرَكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَرَسَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فَضِيلِ بْنِ مَرْزُوقٍ، إِلَّا مُعَلَّى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حذاقی ہے

حضرت زیادہ بن جہور رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول کریم ﷺ کا خط ملا جس میں لکھا تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم! محمد رسول اللہ کی طرف سے زیادہ بن جہور کی طرف! سلام ہو آپ کو! میں تیری طرف اللہ کی حمد لکھ رہا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اما بعد! میں تجھے اللہ اور یوم آخرت کی یاد دلا رہا ہوں۔ اما بعد! ہر دین کے ساتھ لوگوں کی بہتری ہے، اسلام بھی دین ہے اس کو اچھی طرح جان لے۔

مِنْ اسْمِهِ حُذَاقِي

3511 - حَدَّثَنَا حُذَاقِي بْنُ حُمَيْدٍ بِنِ

الْمُسْتَنْبِرِ بْنِ حُذَاقِي بْنِ عَامِرِ بْنِ عِيَاضِ بْنِ مُخَرَّقِ الْعَمِّيِّ اللَّخْمِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي حُمَيْدُ بْنُ الْمُسْتَنْبِرِ، عَنْ خَالِهِ أَخِي أُمِّهِ وَهُوَ خَالِدُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ زِيَادَةَ بْنِ جَهْوَرٍ قَالَ: وَرَدَ عَلَيَّ كِتَابُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهِ: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، مِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ إِلَى زِيَادَةَ بْنِ جَهْوَرٍ، سَلَامٌ أَنْتَ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، أَمَا بَعْدُ: فَإِنِّي أذْكُرُكَ اللَّهُ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ، أَمَا بَعْدُ: فَلْيُوضَعَنَّ كُلُّ دِينٍ دَانَ بِهِ النَّاسُ إِلَّا الْإِسْلَامَ، فَأَعْلَمَ ذَلِكَ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حمزہ ہے

مَنْ اسْمُهُ حَمَزَةٌ

حضرت ابو ثعلبہ حسنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ جہاد کیا، ہم کو پالتو گدھے ملے تو ہم نے ان کو ذبح کیا اور کھایا، حضور ﷺ کو خبر دی گئی تو آپ نے اعلان کا حکم دیا، منادی نے لوگوں میں اعلان کیا کہ پالتو گدھے حلال نہیں ہیں، حضور ﷺ نے حرام کیا، اس باغ میں پیاز و لہسن پایا، اس کو لوگوں نے کھایا، پھر لوگوں نے ڈکار مارنے شروع کیے، اس کی بدبو یعنی پیاز اور لہسن کی بدبو مسجد میں پھیل گئی، حضور ﷺ نے فرمایا: جو اس بُرے درخت سے کھائے وہ ہماری مسجدوں کے قریب نہ آئے۔

3512 - حَدَّثَنَا حَمَزَةُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْكَاتِبُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا نَعِيمُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَرْوَزِيُّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ بَحِيرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاصْبْنَا حُمْرًا مِنْ حُمْرِ الْبُيُوتِ فَذَبَحْنَاهَا، وَطَبَخْنَاهَا، فَأَخْبَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَرَ مُنَادِيًا، فَنَادَى فِي النَّاسِ: أَنْ لِحُومِ حُمْرِ الْإِنْسِ لَا تَحُلُّ، حَرَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصَابُوا فِي حَيْطَانِهَا بَصَلًا وَثُومًا، فَاكْلُوا مِنْهُ، وَالْقَوْمُ جِيَاعٌ، فَرَأَوْا، فَاذَارِبُحِ الْمَسْجِدِ بَصَلًا وَثُومًا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ هَذِهِ الشَّجَرَةَ الْخَبِيثَةَ فَلَا يَقْرَبُنَا فِي مَسْجِدِنَا

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وعدہ قرض ہے۔

3513 - حَدَّثَنَا حَمَزَةُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ الْحَكَمِ بْنِ الْحَجَّاجِ بْنِ يُونُسَ الثَّقَفِيُّ الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَالِكِ بْنِ عَيْسَى الْأَيْلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَشْعَثِ الْحُدَّانِيُّ، عَنْ

3512 - أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 22 صفحہ 215 رقم الحديث: 574 . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 21: و اسنادہ حسن . وذكر الحافظ المنذرى في الترغيب جلد 1 صفحہ 224 رقم الحديث: 7 وقال: اسنادہ حسن .

الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْعِدَّةُ دَيْنٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَدَّانِيُّ، وَلَا رَوَاهُ عَنْهُ إِلَّا سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3514 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ الثَّقَفِيُّ الْأُبُلِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ بْنِ عَيْسَى الْأُبُلِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ الْحَدَّانِيُّ قَالَ: نَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْعِدَّةُ دَيْنٌ، زَادَ عَلِيُّ فِي حَدِيثِهِ: وَيَلُ لِمَنْ وَعَدَ ثُمَّ أَخْلَفَ يَقُولُهَا ثَلَاثًا،

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ الْأَشْعَثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ

3515 - حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ دَاوُدَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا جَعْفَرُ بْنُ النَّضْرِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنْ سَعِيدِ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ اذْكُرُوا يَوْمَ الْخَلَاصِ قَالَهَا

یہ حدیث اعمش سے صرف عبد اللہ بن محمد حدانی روایت کرتے ہیں اور حدانی سے صرف سعید بن مالک روایت کرتے ہیں اور حضور ﷺ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: وعدہ قرض ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اضافہ ہے فرمایا: ہلاکت ہے اس کے لیے جو وعدہ خلافی کرے تین مرتبہ فرمایا۔

یہ حدیث اعمش سے صرف عبد اللہ بن محمد بن اشعث روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سعید بن مالک اکیلے ہیں۔

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے اہل مدینہ! خلاص کا دن یاد کرو! آپ نے تین مرتبہ ارشاد فرمایا صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! خلاص کا دن کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: دجال آئے گا یہاں تک کہ کھیاں آئیں گی، مدینہ

3514- تقدم تخريجه انظر الحديث المتقدم .

3515- انظر مجمع الزوائد جلد3 صفحہ 311 .

ثَلَاثًا قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ قَالَ: يَأْتِي الدَّجَالُ حَتَّى يَنْزِلَ بِذُبَابٍ فَلَا يَبْقَى بِالْمَدِينَةِ كَافِرٌ، وَلَا كَافِرَةٌ، وَلَا مُشْرِكٌ، وَلَا مُشْرِكَةٌ، وَلَا مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، إِلَّا خَرَجُوا إِلَيْهِ فَيُخَلِّصُ يَوْمَئِذٍ الْمُؤْمِنُونَ فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ

منورہ میں کوئی کافر، مشرک، کافر عورت، مشرک عورت، منافق مرد و عورت باقی نہیں رہے گا یہاں تک کہ اس سے نکل جائے گا، اس دن اس میں صرف ایمان والے رہیں گے، یہ خلاص کا دن ہے۔



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حجاج ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ جمعہ کے دن دو کپڑے پہنتے تھے جب آپ جمعہ پڑھا کر آتے تو ہم اس کو لپیٹ کر رکھ لیتے تھے۔

یہ حدیث حضرت عائشہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں واقدی اکیلے ہیں۔

حضرت یوسف بن عبداللہ بن سلام اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! ہم بہتر ہیں یا جو ہمارے بعد آئیں گے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: اگر ان میں سے کوئی اُحد پہاڑ کی مثل خرچ کرے اور تم ایک مٹھی خرچ کرو تو وہ تمہارے اس حصے کو نہیں پہنچ سکیں گے۔

یہ حدیث عبداللہ بن سلام سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں واقدی اکیلے ہیں۔

حضرت بسرہ بنت صفوان رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں

مَنْ اسْمُهُ حَجَّاجٌ

3516 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عُمَرَ بْنِ السَّدُوسِيِّ، كَاتِبُ بَنِي كَثِيرٍ الْقَاضِي قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الشَّاذُكُونِيَّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي يَحْيَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ ذُكْوَانَ، مَوْلَى عَائِشَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَوْبَانِ يَلْبَسُهُمَا فِي جُمُعَتَيْهِ، فَإِذَا انْصَرَفَ طَوَيْنَاهُمَا إِلَى مِثْلَاهَا

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

3517 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عُمَرَ بْنِ السَّدُوسِيِّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيَّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ الْوَاقِدِيُّ قَالَ: أَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ خَيْرٌ أَمْ الَّذِينَ يَجِئُونَا مِنْ بَعْدِنَا؟ قَالَ: لَوْ أَنْفَقَ أَحَدُهُمْ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مَدًّا أَحَدِكُمْ وَلَا نَصِيفَهُ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْوَاقِدِيُّ

3518 - حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ عُمَرَ بْنِ

السَّدُوسِيُّ قَالَ: نَا سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَابِتِ بْنِ ثَوْبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، أَنَّ بُسْرَةَ بِنْتَ صَفْوَانَ، سَأَلَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمَرَأَةِ تَدْخُلُ يَدَهَا فِي فَرْجِهَا؟ فَقَالَ: عَلَيْهَا الْوُضُوءُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثَوْبَانَ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلِيمَانُ بْنُ دَاوُدَ

یہ حدیث ابن ثوبان سے صرف یحییٰ بن راشد ہی روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں سلیمان بن داؤد اکیلے ہیں۔



اس شیخ کے نام سے
جس کا نام حفص ہے

مَنْ اسْمُهُ
حَفْصٌ

حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: زمین کا حصہ جلدی خراب ہوتا ہے پہلے بایاں پھر دایاں۔

3519 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا أَبُو حُدَيْفَةَ مَوْسَى بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ جَرِيرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْرَعُ الْأَرْضِ خَرَابًا يُسْرَاهَا، ثُمَّ يَمْنَاهَا

یہ حدیث متصلاً صرف ابو حذیفہ ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ مَوْضُوعًا إِلَّا أَبُو حُدَيْفَةَ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے حلال رزق کھایا، سنت پر عمل کیا، لوگ اس کے ثمر سے محفوظ رہے تو وہ جنت میں گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! آپ کی امت تو بہت زیادہ ہے؟ آپ نے فرمایا: عنقریب میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے۔

3520 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ الرَّقِّيُّ قَالَ: نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ: نَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ هَلَالِ بْنِ مِقْلَاصِ الصَّيْرَفِيِّ، عَنْ أَبِي بَشِيرٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ طَيِّبًا وَعَمِلَ فِي سُنَّةٍ وَآمَنَ النَّاسُ بِوَأَيْقَهُ دَخَلَ الْجَنَّةَ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا فِي أُمَّتِكَ لَكَثِيرٌ؟ فَقَالَ: وَسَيَكُونُ فِي قُرُونٍ مِنْ بَعْدِي

یہ حدیث ابودائل ابوسعید سے اسی سند سے روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسرائیل اکیلے

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ إِسْرَائِيلُ

3519 - أخرجه أيضاً أبو نعيم في الحلية جلد 7 صفحہ 112 من طريق الطبرانی .

3520 - أخرجه الترمذی: صفة القيامة جلد 4 صفحہ 669 رقم الحديث: 2520 وقال: هذا حديث غريب . والحاكم في

المستدرک جلد 4 صفحہ 104 . انظر الترغيب للمنزى جلد 2 صفحہ 546 رقم الحديث: 4 .

ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: ائمہ قریش سے ہوں گے ان کے نیک نیکوں کے امیر اور ان کے گناہ گار گناہ گاروں کے امیر ہوں گے ہر ایک کا حق ہے پھر حق والے کا حق اسے ادا کر دو اگرچہ تم پر کان کٹا حبشی غلام امیر بنا دیا جائے اس کی بھی بات سنو اور اطاعت کرو۔ جب تک تمہیں اس کے اسلام اور اس کی گردن مارنے کے درمیان اختیار نہ مل جائے اگر اس کے اسلام اور اس کی گردن مارنے کے درمیان اختیار ملے تو چاہیے کہ اس کی گردن کی مدد کی جائے اس کی ماں اسے روئے۔ اس کا اسلام چلے جانے کے بعد نہ دنیا ہے نہ آخرت (سب برباد ہے)۔

اس حدیث کو مسعر سے صرف فیض بن فضل ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عروہ البارقی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن تک بھلائی گھوڑوں کی پیشانی میں رکھ دی گئی ہے۔

یہ حدیث مقداد بن شرح سے صرف اسرائیل روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمیں حضور

3521 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ

قَالَ: نَا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ الْجَلِيلِيُّ قَالَ: نَا مِسْعَرُ بْنُ كِدَامٍ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأَيْمَةُ مِنْ قُرَيْشٍ، أَبْرَارُهَا أُمَرَاءُ أَبْرَارِهَا، وَفَجَّارُهَا أُمَرَاءُ فَجَّارِهَا، وَلِكُلِّ حَقٍّ، فَاتُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، وَإِنْ أَمَرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ مُجَدَّعٌ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا، مَا لَمْ يُخَيِّرْ أَحَدَكُمْ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَإِنْ خَيْرَ بَيْنَ إِسْلَامِهِ وَبَيْنَ ضَرْبِ عُنُقِهِ، فَلْيَمْدُدْ عُنُقَهُ، ثَكَلَتْهُ أُمُّهُ، فَلَا دُنْيَا وَلَا آخِرَةَ بَعْدَ ذَهَابِ إِسْلَامِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ، إِلَّا فَيْضُ بْنُ الْفَضْلِ

3522 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ

الرَّقِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَيْرُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْمِقْدَادِ بْنِ شُرَيْحٍ إِلَّا إِسْرَائِيلُ

3523 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ

3522 - أخرجه البخاری: الجهاد جلد 6 صفحہ 66 رقم الحدیث: 2852، و مسلم: الامارة جلد 3 صفحہ 1493.

3523 - أخرجه البخاری: الطلاق جلد 9 صفحہ 280 رقم الحدیث: 5262، و لكنه قال: فلم يعد ذلك علينا شيئاً. و مسلم:

الطلاق جلد 2 صفحہ 1104.

ﷺ نے اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کیا، آپ نے اسے طلاق شمار نہیں کیا۔

یہ حدیث بیان سے صرف زائدہ ہی روایت کرتے

ہیں۔

حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل قرض دینے والوں کو ان کے قرض کے مطابق روک لے گا؛ سخت طریقے سے روک لے گا؛ وہ عرض کریں گے: اے رب! ان کو کیسے دیا جائے گا؛ قرض ہم کو روک لیں گے، ننگے پاؤں ننگے جسم کون قرض ادا کرے گا؟ اللہ عزوجل فرمائے گا: عنقریب ان کو تمہاری نیکیاں دی جائیں گی، تمہاری نیکیاں ان کے نامہ اعمال میں ڈالی جائیں گی، اگر نیکیاں ختم ہو گئیں تو ان کے گناہ لے کر تمہارے نامہ اعمال میں ڈالے جائیں گے۔

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ اپنے والد سے

روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ ایک سفر میں تھے کہ آپ نے مجھے فرمایا: تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کی: جی ہاں! آپ سواری سے نیچے اترے پھر آپ چلے یہاں تک کہ آپ میری نظر سے غائب ہو گئے؛ جب آپ تشریف لائے تو میں وضو کے لیے پانی لایا۔ پس آپ نے وضو کیا، دونوں ہتھیلیوں کو دھویا اور اپنے چہرے کو دھویا، آپ پر شامی جبہ تھا، اس کی آستین

اللہ بِنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا زَائِدَةٌ عَنْ بَيَانَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: خَيْرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْتَرْنَا، فَلَمْ يَكُنْ طَلَاغًا لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَيَانَ، إِلَّا زَائِدَةٌ

3524 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بِنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا حَمَّادُ بْنُ شُعَيْبٍ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ بْنِ نِيَارٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ حَابِسُ الْغَرِيمِ عَلَى غَرِيمِهِ كَأَشَدَّ مَا حَبَسَ شَيْءٌ عَلَى شَيْءٍ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ كَيْفَ أُعْطِيهِ وَقَدْ حَشَرْتَنِي حَافِيًا غَرِيَانًا: فَمِنْ أَيْنَ؟ فَيَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: سَأُعْطِيهِمْ مَا أَعْطَوكَ مِنْ حَسَنَاتِكَ، فَيُطْرَحُ عَلَى حَسَنَاتِ الْقَوْمِ، فَإِنْ كَانَتْ وَالْآ أُحْدِثُ مِنْ سَيِّئَاتِ الْقَوْمِ فَطُرِحَتْ عَلَى سَيِّئَاتِكَ

3525 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بِنُ رَجَاءٍ قَالَ: اَنَا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بِنُ أَبِي السَّفَرِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ بِنِ الْمُغِيرَةَ بِنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا فِي مَسِيرٍ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَعَكَ مَاءٌ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، فَنَزَلَ عَنِّي رَاحِلَتِي، ثُمَّ مَشَى حَتَّى تَوَارَى عَنِّي، فَلَمَّا اسْتَقْبَلْتُهُ بِالْمِطْهَرَةِ، فَتَوَضَّأَ وَغَسَلَ كَفَيْهِ وَغَسَلَ وَجْهَهُ، وَكَانَتْ عَلَيْهِ جَبَّةٌ

تنگ تھی تو آپ نے جبہ کے نیچے سے اپنے ہاتھ نکالے دونوں کہنیوں کو دھویا اور اپنے سر کا مسح کیا پھر میں آگے ہوا موزے اتارنے کے لیے۔ آپ نے فرمایا: رہنے دو! میں نے دونوں کو پاکی پر پہنا ہوا ہے اور آپ نے موزوں پر مسح کیا۔

یہ حدیث عبداللہ بن ابی السفر سے صرف عمر بن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن رجاء اکیلے ہیں۔

حضرت عیسیٰ بن مسعود بن حکم الزرقی اپنی دادی حبیبہ سے روایت کرتے ہیں وہ فرماتی ہیں کہ وہ حج کے دنوں میں منیٰ میں اپنی والدہ بنت عجماء کے ساتھ تھیں۔ بدیل بن ورقاء الخزاعی رسول اللہ ﷺ کی سواری پر آئے اور اعلان کیا کہ حضور ﷺ فرماتے ہیں: جس نے روزہ رکھا ہے وہ افطار کر لے کیونکہ یہ کھانے پینے کے دن ہیں۔

یہ حدیث بدیل بن ورقاء سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں عبداللہ بن رجاء اکیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پاس عید کے دن گائے کے گوشت کے اعضاء آئے ہم نے کہا: یہ کیا ہیں؟ انہوں نے کہا: حضور ﷺ نے اپنی ازواج کی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔

شَامِيَّةٌ صَبِيَّةٌ الْيَدَيْنِ فَأَخْرَجَ يَدَهُ مِنْ تَحْتِ الْجُبَّةِ وَغَسَلَ ذِرَاعَيْهِ، وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ، ثُمَّ أَهْوَيْتُ إِلَى خُفْيِهِ لَأَتَعْرِزَ عَنْهُمَا، فَقَالَ: دَعُهُمَا فَإِنِّي أَدْخَلْتُهُمَا وَهُمَا طَاهِرَتَانِ فَمَسَحَ عَلَيَّ خُفْيِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ، إِلَّا عُمَرُ بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

3526 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ أَبِي الْحُسَّامِ قَالَ: نَا صَالِحُ بْنُ كَيْسَانَ، عَنْ عَيْسَى بْنِ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ الزُّرْقِيِّ، عَنْ جَدَّتِهِ حَبِيبَةَ، أَنَّهَا كَانَتْ مَعَ أُمَّهَا بِنْتِ الْعَجْمَاءِ فِي أَيَّامِ الْحَجِّ بِمِنَى فَجَاءَتْهُمُ بُدَيْلُ بْنُ وَرْقَاءِ الْخَزَاعِيُّ عَلَى رَاحِلَةٍ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنَادَى: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُفْطِرْ فَإِنَّهُمْ أَيَّامُ أَكْلِ وَشُرْبٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ وَرْقَاءِ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

3527 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: نَا رِبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَ النَّحْرِ بِأَعْضَاءٍ مِنْ أَعْضَاءِ

الْبَقْرِ فَقُلْنَا: مَا هَذَا؟ فَقَالُوا: أَهْدَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَرْوَاجِهِ الْبَقَرَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ رَبِيعَةَ، إِلَّا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

3528 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهُ بْنُ رَجَاءٍ قَالَ: أَنَا سَعِيدُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَبِيعَةَ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا حُنَيْسٍ الْغِفَارِيَّ، يَقُولُ: خَرَجْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تِهَامَةَ، حَتَّى إِذَا كَانَ بِعُسْفَانَ جَاءَهُ أَصْحَابُهُ فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، جَهَدْنَا الْجُوعَ، فَأَذَنْ لَنَا فِي الظَّهْرِ أَنْ نَأْكُلَهُ، فَقَالَ: نَعَمْ فَأُخْبِرَ بِذَلِكَ عُمَرُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا نَبِيَّ اللَّهِ مَا صَنَعْتَ؟ أَمَرْتُ النَّاسَ أَنْ يَأْكُلُوا الظَّهَرَ، فَعَلَى مَاذَا يَرْكَبُونَ؟ قَالَ: مَا تَرَى يَا ابْنَ الْخَطَّابِ قَالَ:

أَرَى أَنْ تَأْمُرَهُمْ - وَأَنْتَ أَفْضَلُ رَأْيًا - أَنْ يَجْمَعُوا فَضْلَ أَرْوَادِهِمْ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ تَدْعُو اللَّهَ لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ يَسْتَجِيبُ لَكَ، فَأَمَرَهُمْ، فَجَمَعُوا فَضْلَ أَرْوَادِهِمْ فِي ثَوْبٍ، ثُمَّ دَعَا اللَّهَ لَهُمْ، ثُمَّ قَالَ: ائْتُوا بِأَوْعِيَتِكُمْ فَمَلَأَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ وَعَائَتَهُ، ثُمَّ أِذِنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالرَّحِيلِ فَلَمَّا ارْتَحَلُوا أُمْطَرُوا مَا شَاءَ اللَّهُ، وَنَزَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

ربیعہ سے یہ حدیث سعید بن سلمہ وایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبد اللہ بن رجاء اکیلے ہیں۔

حضرت ابو حنیس الغفاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ غزوہ تہامہ میں نکلا جب ہم مقام عسفان پر آئے تو آپ کے اصحاب آپ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: یا رسول اللہ! ہم کو بھوک لگی ہے آپ ہمیں اجازت دیں کہ ہم سواریاں ذبح کر کے کھائیں! آپ نے فرمایا: ٹھیک ہے! یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوئی تو وہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے اور عرض کی: اے غیب کی خبریں دینے والے اللہ کے نبی! یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کو سواریاں ذبح کر کے کھانے کا حکم دے دیا ہے اگر اسے کیا گیا تو سواریوں کا کیا ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا:

اے عمر! اس حوالہ سے آپ کی کیا رائے ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میری رائے یہ ہے کہ آپ ان کو حکم دیں کہ جو ان کے پاس بچا ہوا زاد راہ ہے وہ ایک کپڑے میں جمع کریں پھر اس کھانے پر آپ اللہ سے دعا کریں کیونکہ اللہ آپ کی دعا قبول کرتا ہے۔ آپ ﷺ نے اپنے غلاموں کو حکم دیا تو انہوں نے زاد راہ ایک کپڑے میں جمع کیا آپ نے اس کھانے پر دعا کی پھر فرمایا: اپنے برتن لے آؤ! ہر ایک نے اپنا برتن بھر لیا پھر

اخرجه أيضا البزار من طريق عبد الله بن رجاء به وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 306: ورجاله ثقات.

وَسَلَّمَ وَنَزَلُوا مَعَهُ، وَشَرَبُوا مِنَ الْمَاءِ هُمْ وَالْكَرَاعِ
ثُمَّ خَطَبَهُمْ فَبَجَاءَ نَفَرٌ ثَلَاثَةٌ، فَجَلَسَ اثْنَانِ مَعَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَهَبَ الْآخَرُ، فَقَالَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا أُخْبِرُكُمْ عَنِ النَّفَرِ
الثَّلَاثَةِ؟ أَمَّا وَاحِدٌ فَاسْتَحْيَا فَاسْتَحْيَا اللَّهُ مِنْهُ، وَأَمَّا
الْآخَرُ فَاقْبَلَ تَائِبًا فَتَابَ اللَّهُ عَلَيْهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ
فَاعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللَّهُ عَنْهُ

حضور ﷺ نے سواری لانے کا حکم دیا، جب سواری پر
بیٹھ کر چلنے لگے تو جو اللہ نے چاہا بارش ہوئی، حضور ﷺ
نیچے اترے آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ بھی اترے اور
اس سے پانی پیا، اس کے بعد آپ نے صحابہ کرام کو خطبہ
دیا۔ پھر تین آدمی آپ کے پاس آئے، دو حضور ﷺ
کے پاس بیٹھ گئے اور ایک چلا گیا، حضور ﷺ نے فرمایا:
کیا میں آپ کو ان تینوں کے متعلق نہ بتاؤں! ایک نے
شرم کی تو اللہ عزوجل نے اس سے حیا فرمایا، دوسرا توبہ
کرتے ہوئے آیا تو اللہ عزوجل نے اس کی توبہ قبول کی
تیسرے نے اعراض کیا تو اللہ عزوجل نے اس سے
اعراض کیا۔

لَا يُزَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي حُنَيْسٍ، إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَجَاءٍ

یہ حدیث ابوحنیس سے اسی سند سے روایت ہے، ان
سے روایت کرنے میں عبد اللہ بن رجاء اکیلے ہیں۔

3529 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ
قَالَ: أَنَا أَبُو حُدَيْفَةَ مَوْسَى بْنُ مَسْعُودٍ النَّهْدِيُّ قَالَ:
نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ طَهْمَانَ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ
عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ سِئِلَ عَنْ عِلْمٍ فَكَتَمَهُ الْجَحْمَ
بِلِحَامٍ مِنْ نَارِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس سے علم کے متعلق پوچھا گیا اور اس
نے علم کو چھپایا تو اسے قیامت کے دن جہنم کی آگ کی
لگام دی جائے گی۔

لَمْ يَسِرْ وَهَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَمَاكِ، إِلَّا إِبْرَاهِيمُ
بُنْ طَهْمَانَ

یہ حدیث سماک سے صرف ابراہیم بن طہمان ہی
روایت کرتے ہیں۔

3529- أخرجه أبو داؤد: العلم جلد 3 صفحہ 320 رقم الحديث: 3658، والترمذی: العلم جلد 5 صفحہ 29 رقم

الحديث: 2649 وقال: حديث أبي هريرة حديث حسن. وابن ماجه: المقدمة جلد 1 صفحہ 98 رقم

الحديث: 266، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 353 رقم الحديث: 7588، انظر الترغيب للمنذرى جلد 1

صفحہ 121 رقم الحديث: 1.

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسلام لانے کے بعد کسی شے پر اتنے خوش نہیں ہوئے جتنے ہم اس بات پر خوش ہوئے جو ہمیں حضور ﷺ نے بیان کیا کہ مومن کو راستہ سیدھا بنانے پر ثواب دیا جاتا ہے، عجیبی زبان میں بتانے پر بھی راستہ سے تکلیف دہ شے ماننے پر بھی یہاں تک کہ کپڑے پر کوئی شی ہو وہ اس کو ہاتھ لگائے اور ختم کر دے اس کا دل اس کو اٹھانے میں متردد رہا، اس نے اس کو نکال دیا تو اس کے لیے اس کا ثواب بھی لکھا جائے گا۔

ثابت سے صرف سلمہ بن تمام شقری ابو عبد اللہ روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں منہال بن خلیفہ کیلے ہیں۔

حضرت حدیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! کیا اس نیکی کے دور ہونے کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! بُرائی اور فتنہ ہوگا میں نے عرض کی: بھلائی کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! آپ نے فرمایا: وہ اکیلے ہوں گے جماعت سے علیحدہ ہوں گے، میں نے عرض کی: بھلائی کے بعد بُرائی ہوگی؟ آپ نے فرمایا: جی ہاں! پھر آپ

3530 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا سَعْدُ بْنُ حَفْصِ الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ تَمَّامٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَّانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: مَا فَرِحْنَا بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ فَرِحْنَا بِحَدِيثِ حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤْمِنَ يُوجَرُ فِي هَدَايَتِهِ: السَّبِيلَ، وَفِي تَغْيِيرِهِ: بِلِسَانِهِ عَنِ الْأَعْجَمِيِّ، وَفِي إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ، حَتَّى إِنَّهُ لَيُوجَرُ فِي السَّلْعَةِ تَكُونُ فِي ثَوْبِهِ، فَيَلْتَمِسُهَا بِيَدِهِ، فَتَخْطُهَا فَيَخْفِقُ لَهَا فَوَادُّهُ، فَيَرُدُّ عَلَيْهِ، وَيَكْتَبُ لَهُ أَجْرَهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتٍ، إِلَّا سَلْمَةُ بْنُ تَمَّامِ الشَّقْرِيُّ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ

3531 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ بْنِ الصَّبَّاحِ قَالَ: نَا أَبُو عَسَّانٍ مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَبِي خَالِدِ الدَّلَّانِيِّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَيْسَرَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ، عَنْ حُدَيْفَةَ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: نَعَمْ، شَرٌّ وَفِتْنَةٌ قُلْتُ: بَعْدَ هَذَا الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟ قَالَ: نَعَمْ، هُدْنَةٌ عَلَى

3530- أخرجه أيضاً أبو يعلى، والبخاري، والبيهقي في الأدب. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 3 صفحہ 137: وفي

استادہ المنہال ابن خلیفہ وثقة أبو حاتم. وأبو داؤد، والبخاري وفيه كلام.

3531- أخرجه البخاري: المناقب جلد 6 صفحہ 712 رقم الحديث: 3606، ومسلم: الامارة جلد 3 صفحہ 1475، وأبو

داؤد: الفتن جلد 4 صفحہ 93 رقم الحديث: 4246، وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 451-452 رقم الحديث:

23344 ولفظه عند أبو داؤد وأحمد.

نے فرمایا: اس میں فتنہ بھرے ہوں گے، وہ جہنم کی طرف
بلائیں گے، اے حذیفہ! اس وقت کھجور کے درخت پر سولی
چڑھنا زیادہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ ان کی دعوت قبول
کی جائے جس کی طرف وہ بلا تے ہیں۔

عبدالملک بن میسرہ سے صرف ابو خالد الدالانی
روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عبدالسلام بن
حرب اکیلے ہیں۔

دَخَنٍ، وَجَمَاعَةً عَلَىٰ أَقْدَاءِ فِيهَا قُلْتُ: هَلْ بَعْدَ هَذَا
الْخَيْرِ مِنْ شَرِّ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَسَلِّ صَمَاءَ عَمِيَاءَ، وَدُعَاةً
يُذْعَوْنَ إِلَى النَّارِ، فَلَا تَمُوتْ يَا حَذِيفَةُ عَاصًا عَلَيَّ
جَذْعَ خَيْرٍ مِنْ أَنْ تَسْتَجِيبَ إِلَيَّ أَحَدٍ مِنْهُمْ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
مَيْسَرَةَ، إِلَّا أَبُو خَالِدٍ الدَّالَانِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ
السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ



اس شیخ کے نام سے
جس کا نام حاتم ہے

مَنْ اسْمُهُ
حَاتِمٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ کی بارگاہ میں سونے کا ایک ٹکڑا لایا گیا یہ پہلا صدقہ تھا جو معدنیات سے آیا تھا آپ ﷺ نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی: یہ کان سے ہمیں صدقہ ملا ہے آپ نے فرمایا: عنقریب کانیں ہوں گی عنقریب اس میں بدترین مخلوق ہوگی۔

یہ حدیث سعیر سے صرف عاصم بن یوسف روایت کرتے ہیں۔

3532 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَمِيدٍ أَبُو عَدِيٍّ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ مُوسَى الْقَطَّانُ قَالَ: نَا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ الْيَرْبُوعِيُّ قَالَ: نَا سَعِيرُ بْنُ الْخَمْسِ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: أُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِطْعَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، وَكَانَتْ أَوَّلَ صَدَقَةٍ جَاءَتْهُ مِنْ مَعْدِنٍ فَقَالَ: مَا هَذِهِ؟ قَالُوا: صَدَقَةٌ مِنْ مَعْدِنٍ لَنَا فَقَالَ: إِنَّهَا سَتَكُونُ مَعَادِنٌ، وَسَيَكُونُ فِيهَا شِرَارٌ خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيرٍ، إِلَّا عَاصِمُ بْنُ يُونُسَ



مِنْ اسْمِهِ حَوَيْتٌ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام حویت ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جو جمعہ کے لیے آئے وہ غسل کرے۔

3533 - حَدَّثَنَا حَوَيْتُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَكِيمٍ
الِدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ، عَنْ حَازِمٍ،
عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ آتَى الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ



3533 - أخرجه البخاری: الجمعة جلد 2 صفحہ 430 رقم الحدیث: 882 بلفظ اذا راح احدكم الى الجمعة فليغتسل

ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحہ 580 بلفظ: اذا جاء احدكم الى الجمعة فليغتسل..

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حبوش ہے

مِنْ اسْمِهِ حَبُوشٌ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس آیا، اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے پاس مال اور اولاد ہے، میرا باپ مال دار اور بچوں والا ہے، وہ باوجود اس کے میرا مال لینا چاہتا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔

3534 - حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رَزْقِ اللَّهِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا يُوسُفُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ رَجُلًا آتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا، وَإِنَّ لِي مَالًا وَعِيَالًا وَاتَّه يُرِيدُ أَنْ يَأْخُذَ مَالِي إِلَى مَالِهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ

یہ حدیث یوسف بن ابی اسحاق سے صرف عیسیٰ بن یونس ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا عِيسَى بْنُ يُونُسَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل ہر کام میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔

3535 - حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رَزْقِ اللَّهِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ: نَا سَلَمَةُ بْنُ الْعَبَّارِ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الرَّفْقَ فِي الْأَمْرِ كُلِّهِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَلَمَةَ إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ

یہ حدیث سلمہ سے صرف عبد اللہ بن یوسف ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور

3536 - حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رَزْقِ اللَّهِ قَالَ: نَا

3535 - أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 463 رقم الحدیث: 6024، ومسلم: السلام جلد 4 صفحہ 1706

3536 - أخرجه الترمذی: الفتن جلد 4 صفحہ 541 رقم الحدیث: 2269 وقال: هذا حدیث غریب. وأحمد:

ﷺ نے فرمایا: خراسان سے کالے جھنڈے والے نکلیں گے ان کو کوئی شی واپس نہیں کرے گی یہاں تک کہ ایلیاء کے مقام پر جھنڈا گاڑیں گے۔

یہ حدیث زہری سے صرف یونس روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں رشیدین اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن جبیر بن مطعم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت میں رشتہ داری کو ختم کرنے والا داخل نہیں ہوگا۔

یہ حدیث قرہ سے صرف رشیدین ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو پسند ہو کہ اس کے رزق میں کشادگی دی جائے اور عمر میں اضافہ ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔

یہ حدیث ابو یزید سے صرف عمرو بن حارث روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں رشیدین اکیلے ہیں۔

عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَارِشِدِينَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُوَيْبٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَخْرُجُ مِنْ خُرَاسَانَ رَايَاتٌ سَوْدٌ لَا يَرُدُّهَا شَيْءٌ حَتَّى تَنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينَ

3537 - حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَبْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعُ رَحِمٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قُرَّةَ، إِلَّا رِشْدِينَ

3538 - حَدَّثَنَا حَبُوشُ بْنُ رِزْقِ اللَّهِ قَالَ: نَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ: نَا رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُوَسَّعَ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِي عُمُرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: رِشْدِينَ

المسند جلد 2 صفحہ 484 رقم الحدیث: 8796

3537- أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 428 رقم الحدیث: 5984، مسلم: البر والصلة جلد 4 صفحہ 1981

3538- أخرجه البخاری: البيوع جلد 4 صفحہ 353 رقم الحدیث: 2067، مسلم: البر والصلة جلد 4 صفحہ 1982

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حامد ہے

مِنْ اسْمِهِ حَامِدٌ

حضرت سہل بن ابی حمزہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے بکر بن مغفلہ کو دیکھا وہ ہمارے صاحب تھے میں بچہ تھا میں اُن کے قریب ہوا یہاں تک کہ انہوں نے مجھے آگے دھکیل دیا یعنی رسول کریم ﷺ کے فیصلہ کی طرف جو آپ قسامت کے بارے فرما رہے تھے۔ (قسامت یہ ہے کہ اگر کہیں قتل ہو جائے اور قاتل کا پتہ نہ ہو تو لوگوں کو اکٹھا کر کے قسمیں لے لے کر قاتل تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ مترجم)

زہری سے یہ حدیث صرف یونس اور یونس سے صرف عننبہ بن خالد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں احمد بن صالح اکیلے ہیں۔

3539 - حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ سَعْدَانَ بْنِ يَزِيدَ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ قَالَ: نَا عَنبَسَةَ بِنُ خَالِدٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي يُونُسُ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ قَالَ: زَعَمَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُرْوَةَ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ: سَمِعْتُ سَهْلَ بْنَ أَبِي حَثْمَةَ، يَقُولُ: لَقَدْ رَأَيْتُ بَكْرَ ابْنَ مَغْفَلَةَ صَاحِبَنَا ذَلِكَ، وَأَنَا غُلَامٌ فَدَنَوْتُ مِنْهُ حَتَّى رَكَّضَنِي يَغْنَى: قَضَاءَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقِسَامَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ، وَلَا عَنِ يُونُسَ، إِلَّا عَنبَسَةُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ



3539- أصله عند البخاری ومسلم: أخرجه البخاری: الأدب جلد 10 صفحہ 552 رقم الحدیث: 6142-6143 ومسلم:

القسامة جلد 3 صفحہ 1292، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 3 رقم الحدیث: 16097، والطبرانی فی الکبیر

جلد 6 صفحہ 99 رقم الحدیث: 5625 .

اس شیخ کا نام سے جس کا نام حکیم ہے

حضرت قتادہ بن ربیع رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نماز پڑھ رہے ہوتے اس حالت میں کہ حضرت امامہ بنت ابی العاص بن ربیع کو اٹھائے ہوتے تھے۔ یہ حضرت زینب بنت رسول اللہ ﷺ کی لخت جگر تھیں؛ جب آپ رکوع کرتے تو اس کو نیچے رکھتے؛ جب رکوع کر لیتے تو اسے اٹھا لیتے تھے یہاں تک کہ نماز سے فارغ ہو جاتے۔

مَنْ اسْمُهُ حَكِيمٌ

3540 - حَدَّثَنَا حَكِيمُ بْنُ يَحْيَى الْمَتُونِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ بْنِ رَاشِدٍ الْوَأَسْطِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْمَدِينِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سُلَيْمِ الزُّرْقِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ بْنِ رَبِيعٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي وَهُوَ حَامِلٌ أُمَامَةَ بِنْتِ أَبِي الْعَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ، وَهِيَ بِنْتُ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَكَعَ وَضَعَهَا، وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا، حَتَّى فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام حکم ہے

مَنْ اسْمُهُ الْحَكْمُ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ ﷺ سے تیز گرمی کی شکایت کی، تو آپ ﷺ نے ہماری شکایت کا ازالہ اس طرح فرمایا فرمایا: کثرت سے لاحول ولا قوۃ الا باللہ پڑھا کرو کیونکہ اس کے پڑھنے سے ننانوے نقصان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں ان میں سے سب سے کم غم ہے۔

محمد بن منکدر سے بلھط اور بلھط سے عبدالمجید روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن ابی عمر لکھتے ہیں ان سے اسی سند سے روایت ہے بلھط کی طرف اس کے علاوہ کوئی حدیث منسوب نہیں ہے۔

3541 - حَدَّثَنَا الْحَكْمُ بْنُ مَعْبِدٍ الْخَزَاعِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ الْعَدَنِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْمَجِيدِ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ قَالَ: نَا بَلْهَطُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: شَكَوْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّمْضَاءَ فَلَمْ يُشْكِنَا وَقَالَ: أَكْثِرُوا مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ، فَإِنَّهَا تَدْفَعُ تِسْعَةَ وَتَسْعِينَ بَابًا مِنَ الضَّرِّ، أَدْنَاهَا الْهَمُّ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، إِلَّا بَلْهَطُ، وَلَا عَنْ بَلْهَطُ، إِلَّا عَبْدُ الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ، وَلَا يَرُوى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، وَلَمْ يُسْنِدْ بَلْهَطُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ



مِنْ اسْمِهِ حَمْدَانُ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام حمدون ہے

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں: کتاب اللہ اور اپنی اہل بیت، دونوں جدا نہیں ہوں گے یہاں تک کہ مجھے حوض کوثر پر ملیں گے۔

یہ حدیث کثیر النواء سے صرف ابو عبد الرحمن المسعودی روایت کرتے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل علم، آل محمد ﷺ اور حضرت عائشہ بنت ابوبکر رضی اللہ عنہما سے پوچھیں، اصحاب اسود اور ناقص ہاتھوں والے حضور ﷺ کی زبان سے ملعون قرار دیئے گئے، وہ نقصان میں ہے جس نے افتراء باندھا۔

3542 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ كَثِيرِ النَّوَاءِ، وَأَبِي مَرْيَمَ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخَدْرِيِّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ: كِتَابُ اللَّهِ، وَعِترَتِي أَهْلُ بَيْتِي، وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ كَثِيرِ النَّوَاءِ، إِلَّا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ

3543 - حَدَّثَنَا حَمْدَانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَامِرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ الْقَزَّازُ قَالَ: نَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمَسْعُودِيُّ قَالَ: نَا الْحَارِثُ بْنُ حَصِيرَةَ، عَنْ أَبِي صَادِقٍ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ نَاجِدٍ، عَنْ عَلِيِّ قَالَ: لَقَدْ عَلِمَ أَوْلُو الْعِلْمِ مِنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَائِشَةُ بِنْتُ أَبِي بَكْرٍ فَسَلَوْهَا، أَنَّ أَصْحَابَ الْأَسْوَدِ ذِي الثُّدَيَّةِ مَلْعُونُونَ عَلَى لِسَانِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ، وَقَدْ خَابَ مَنْ افْتَرَى



بَابُ الْخَاءِ مَنْ اسْمُهُ خَلْفٌ

باب الخاء اس شیخ کے نام سے جس کا نام خلف ہے

3544 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ

قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ: نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدِ
الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي صَدِيقُ بْنُ مُوسَى، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَدِمَ الْمَدِينَةَ، فَاسْتَأْخَذَ بِهِ رَاحِلَتَهُ بَيْنَ دَارِ جَعْفَرِ
بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ وَدَارِ الْحَسَنِ بْنِ زَيْدٍ، فَأَتَاهُ
النَّاسُ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الْمَنْزِلُ، فَأَنْبَعَثَ بِهِ
رَاحِلَتَهُ، فَقَالَ: دَعُوهَا، فَإِنَّهَا مَأْمُورَةٌ ثُمَّ خَرَجَتْ بِهِ،
حَتَّى جَاءَتْ بِهِ مَوْضِعَ الْمِنْبَرِ، فَاسْتَأْخَذَ بِهِ، ثُمَّ
تَجَلَّجَلَتْ، وَلِنَّاسٍ ثُمَّ عَرِيشٌ كَانُوا يَرُشُونَهُ
وَيَعْمُرُونَهُ وَيَتَبَرَّدُونَ فِيهِ، حَتَّى نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ رَاحِلَتِهِ، فَأَوَى إِلَى
الظِّلِّ، فَنَزَلَ فِيهِ، فَأَتَاهُ أَبُو أَيُّوبَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ، مَنْزِلِي أَقْرَبُ الْمَنَازِلِ إِلَيْكَ، فَاَنْقُلْ رَحْلَكَ
إِلَيْهِ، قَالَ نَعَمْ، فَذَهَبَ بِرَاحِلَتِهِ إِلَى الْمَنْزِلِ، ثُمَّ أَتَاهُ
رَجُلٌ آخَرَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، انْزِلْ عَلَيَّ، فَقَالَ:
إِنَّ الرَّجُلَ مَعَ رَحْلِهِ حَيْثُ كَانَ وَتَبَّتْ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعَرِيشِ اثْنَا عَشَرَ لَيْلَةً
حَتَّى بَنَى الْمَسْجِدَ

حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ مدینہ منورہ آئے، آپ کی سواری جب جعفر
بن محمد بن علی اور حسن بن زید کے گھر کے درمیان پہنچی تو
آپ کے پاس صحابہ کرام آئے، انہوں نے عرض کی:
یا رسول اللہ! آپ نیچے اتریں! آپ سواری سے نیچے
اتریں! آپ ﷺ نے فرمایا: اس کو چھوڑ دو، یہ اللہ کے حکم
کی پابند ہے۔ پھر وہ سواری آپ کو لے کر نکلی یہاں تک
کہ منبر کی جگہ پر آئی اور بیٹھ گئی، یہاں پر صحابہ کرام کے گھر
تھے۔ وہ چھڑکاؤ کر کے رونق بڑھاتے اور ماحول کو
ٹھنڈا کرتے۔ رسول اللہ ﷺ نیچے اترے اور اپنی سواری
سے سایہ میں آئے، آپ کے پاس حضرت ابوایوب آئے
اور عرض کی: یا رسول اللہ! میرا گھر آپ کے زیادہ قریب
ہے، آپ میرے گھر آ جائیں! اس میں ڈیرہ جمائیں۔
آپ ﷺ نے فرمایا: ٹھیک ہے! آپ کی سواری آپ کو
حضرت ابوایوب کے ہاں لے گئی۔ پھر ایک اور آدمی آیا
اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! میرے گھر آئیں!
آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی اپنی سواری کے ساتھ ہوتا
ہے جہاں وہ ہوگی، حضور ﷺ اس چھپر میں بارہ راتیں
رہے مسجد کے بننے تک۔

یہ حدیث ابن زبیر سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں سعید بن منصور اکیلے ہیں۔
حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: امام ضامن ہے جو وہ کرتے ہیں تم بھی وہی کرو۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ
3545 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الزُّبَيْرِ الْحَمِيدِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى
بْنُ شَيْبَةَ، مِنْ وَلَدِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
كُلَيْبٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ فَمَا صَنَعَ
فَأَصْنَعُوا

یہ حدیث حضرت جابر بن عبد اللہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں حمیدی اکیلے ہیں۔
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو آدمی کسی کے ہاتھ پر مسلمان ہوا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ الْحَمِيدِيُّ
3546 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: نَا كَيْتُ
بْنُ سَعْدٍ، عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ،
عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ رَجُلٌ وَجَبَتْ لَهُ
الْجَنَّةُ

حضرت لیث سے یہ حدیث محمد بن معاویہ روایت کرتے ہیں اور عقبہ بن عامر سے صرف اس سند سے مروی ہے۔

لَمْ يُرَوِّ هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ اللَّيْثِ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، وَلَا يُرَوَّى عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ

حضرت بشر بن سعید فرماتے ہیں (یہ پرانے بزرگ ہیں) ہم ایک مقام میں طاؤس کے ساتھ تھے ہم نے شور سنا، حضرت طاؤس نے فرمایا: یہ کیا ہے؟ فرمایا: قوم کو ابن ہشام نے ایک سب میں پکڑا ہے ان کو طوق ڈالا۔ میں نے طاؤس کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضرت ابن عباس

3547 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ: نَا الْحَمِيدِيُّ قَالَ: نَا سَلْمَةُ بْنُ سَيْسَنِ الْمَكِّيُّ
الْحَيَّاطُ قَالَ: حَدَّثَنِي بَشَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، - وَكَانَ شَيْخًا
قَدِيمًا - قَالَ: كُنَّا مَعَ طَاوُسٍ فِي الْمَقَامِ، فَسَمِعْنَا
صَوْرَةَ طَاوُسٍ، فَقَالَ طَاوُسٌ: مَا هَذَا؟ فَقَالَ: قَوْمٌ أَخَذَهُمْ

رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو کوئی اس اُمت میں بدعت ایجاد کرتا ہے وہ مرے گانہیں یہاں تک کہ وہ اس کو پالے گا۔ حضرت بشر بن عبید فرماتے ہیں: میں نے ابن ہشام کو دیکھا کہ جس وقت اسے معزول کیا گیا ولید بن عبد الملک کے عمال آئے ان کو طوق ڈالا۔

حضرت ابن عباس سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے اس گوروایت کرنے میں حمیدی اکیلے ہیں۔

حضرت محمد بن واسع فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت بلال بن بردہ سے کہا: آپ کے والد نے مجھے بیان کیا دادا کے حوالہ سے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم میں ایک وادی ہے اس وادی میں ایک کنواں ہے اس کو ہسب کہا جاتا ہے اللہ عزوجل پر حق ہے کہ اس میں ہر تکبر کرنے والے سرکش کو ڈالے۔

محمد بن واسع سے صرف ازہر بن سنان روایت کرتے ہیں ابو موسیٰ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبد اللہ بن بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ امیر قبط نے حضور ﷺ کو دو لونڈیاں جو بہنیں تھیں اور ایک خچر تحفہ کے طور پر دیں خچر پر آپ ﷺ سوار ہوتے تھے دونوں لونڈیوں میں سے ایک (کو آزاد کر کے اس) سے آپ نے نکاح کیا ان سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے دوسری آپ نے حسان بن ثابت انصاری کو دے

ابن ہشام فی سبب، فَطَوَّقَهُمْ فَسَمِعْتُ طَاوَسًا يُحَدِّثُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَحَدٍ يُحَدِّثُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ حَدَثًا لَمْ يَكُنْ يَمُوتُ حَتَّى يُصِيبَهُ ذَلِكَ قَالَ بَشْرُ بْنُ عُبَيْدٍ: فَأَنَا رَأَيْتُ ابْنَ هِشَامٍ حِينَ عَزَلَ، فَاتَى عَمَّالُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ فَطَوَّقُوهُ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحُمَيْدِيُّ

3548 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ

قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ قَالَ: قُلْتُ لِبَلَالِ بْنِ أَبِي بَرْدَةَ: إِنَّ أَبَاكَ حَدَّثَنِي عَنْ جَدِّكَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ فِي جَهَنَّمَ وَادِيًا، فِي الْوَادِي بِئْرٌ يُقَالُ لَهُ: هَبْهَبٌ، حَقٌّ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُسْكِنَ فِيهِ كُلَّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، إِلَّا أَزْهَرُ بْنُ سِنَانَ، وَلَا يُرَوَى عَنْ أَبِي مُوسَى، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3549 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادِ الْمَكِّيُّ قَالَ: نَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمَهَاجِرِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: أَهْدَى أَمِيرُ الْقِبْطِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَارِيَتَيْنِ أُخْتَيْنِ وَبَعْلَةً، فَأَمَّا الْبَعْلَةُ: فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

دی۔

يُرَكَّبُهَا، وَأَمَّا أَحَدَى الْجَارِيَتَيْنِ: فَتَسَرَّاهَا، فَوَلَدَتْ
إِبْرَاهِيمَ، وَأَمَّا الْأُخْرَى فَأَعْطَاهَا حَسَّانَ بْنَ ثَابِتِ
الْأَنْصَارِيِّ

یہ حدیث بشر بن مہاجر سے صرف خاتم بن اسماعیل
ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ،
الْأَحَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے ایک آدمی کی طرف جو اپنی انگلی سے اشارہ کرتا
ہے تو آپ نے کہا: احد احد (وہ ایک ہے وہ ایک
ہے)۔

3550 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ: نَا مُسْلِمُ بْنُ أَبِي مُسْلِمٍ الْجَرْمِيُّ قَالَ: نَا مَخْلَدُ
بُنُّ الْحُسَيْنِ، عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ يُشِيرُ بِأَصْبَعِيهِ، فَقَالَ:
أَحَدٌ أَحَدٌ

ہشام بن حسان سے صرف مغلد بن حسین روایت
کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں مسلم الجرمی اکیلے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، إِلَّا
مَخْلَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُسْلِمُ الْجَرْمِيُّ

حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ
عنہما دونوں فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ
رضی اللہ عنہا کو جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دی جو
بانسوں کا ہے اس میں شور اور تھکاوٹ نہیں ہوگی۔

3551 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَبُو بَكْرِ الزُّهَيْرِيُّ قَالَ:
نَا عَمْرُو بْنُ عَاصِمِ الْكِلَابِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ
زِيَادٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ،
وَأَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ، قَالَا: بَشَّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِيجَةَ بِنَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ،
لَا صَخَبَ فِيهِ وَلَا نَصَبَ لَمْ يَقُلْ أَحَدٌ

کسی ایک نے بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث حضرت
ابوصالح سے وہ ابوسعید سے مگر عبدالواحد بن زیاد نے اور
عبدالواحد سے صرف عمرو بن عاصم روایت کرتے ہیں ان

فِي هَذَا الْحَدِيثِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، إِلَّا عَبْدَ الْوَاحِدِ بْنَ زِيَادٍ،
وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَبْدِ الْوَاحِدِ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَاصِمٍ،

سے روایت کرنے میں ابو بکر الزہیری اکیلے ہیں۔ عیسیٰ بن یونس، اعمش سے وہ ابوصالح سے، وہ حضرت ابو ہریرہ سے اکیلے روایت کرتے ہیں۔

تَفَرَّدَ بِهِ: أَبُو بَكْرٍ الزُّهَيْرِيُّ وَرَوَاهُ عَيْسَى بْنُ يُونُسَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَحَدَّثَهُ

3552 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَمْرِو الْعُكْبَرِيُّ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ نے قبیلہ بنی عامر بن صعصعہ کے ایک دیہاتی سے سودا کیا۔ فرماتے ہیں: میرا گمان ہے کہ وہ گندم کا ڈھیر تھا (حمل خبط، حمل حنطة، حنط کے الفاظ ہیں) جب سودا مکمل ہو گیا تو آپ نے اس سے فرمایا: چن لے! اعرابی نے کہا: اگر میں آج کی طرح دیکھوں (اللہ آپ کو آباد رکھے) آپ کس قبیلہ سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: قریشی ہوں۔

قَالَ: نَا الْمُعَاْفَى بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ، عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى مِنْ أَعْرَابِيٍّ - قَالَ: حَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ - حِمْلٌ خَبَطٍ أَوْ حِمْلٌ حِنْطَةٍ أَوْ حِنْطٍ، فَلَمَّا وَجَبَ الْبَيْعَ قَالَ لَهُ: اخْتَرَفَ فَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ: إِنْ رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ، عَمَرَكَ اللَّهُ، مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ قُرَيْشٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف یحییٰ بن ایوب روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں موسیٰ بن امین اکیلے ہیں۔

3553 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ

حضرت ابراہیم الحجری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن اوفی رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک جنازہ پڑھا جو آپ کی بیٹی کا تھا، آپ نے اس جنازہ پر چار نکمیریں کہیں، پھر فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو ایسے ہی کرتے دیکھا۔

الْمُسْتَمَلِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ الْحَجَرِيِّ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى عَلَى جَنَازَةِ بِنْتٍ لَهُ، فَكَبَّرَ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ

3552 - أخرجه ابن ماجة: التجارات جلد 2 صفحہ 736 رقم الحديث: 2184، والحاكم في المستدرک جلد 2 صفحہ 48

والبيهقي في الكبرى جلد 5 صفحہ 444 رقم الحديث: 10442، والدارقطني: سننه جلد 3 صفحہ 21 رقم

الحديث: 74. انظر الدر المنثور للسيوطي جلد 2 صفحہ 144.

3553 - أخرجه ابن ماجة: الجنائز جلد 1 صفحہ 482 رقم الحديث: 1503 نحوه في الزوائد: في اسناده الهجری واسمه

ابراهيم بن مسلم الكوفي، ضعفه ابن عيينة ويحيى بن معين والنسائي وغيرهم.

قَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
صَنَعَ

یہ حدیث مسعر سے صرف محمد بن یزید الواسطی
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن حرب
النشائی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ مِسْعَرٍ، إِلَّا مُحَمَّدُ
بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبِ
النَّشَائِيُّ

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں
نے اپنے والد سے پوچھا: اے ابا جان! رسول اللہ
ﷺ کے بعد افضل کون ہے؟ فرمایا: ابوبکر اور پھر ان
کے بعد عمر رضی اللہ عنہما ہیں۔

3554 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ
قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ خَلْفِ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا إِسْحَاقُ
الْأَزْرُقِيُّ، عَنْ عَوْفِ الْأَعْرَابِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
الْحَنْفِيَّةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي: يَا أَبَتِ، مَنْ خَيْرُ النَّاسِ بَعْدَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ قَالَ: أَبُو بَكْرٍ،
ثُمَّ عُمَرُ

یہ حدیث عوف سے صرف اسحاق بن ازرق روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں حسن بن خلف اکیلے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَوْفٍ، إِلَّا إِسْحَاقُ
الْأَزْرُقِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ خَلْفِ

حضرت عبداللہ بن ابی قتادہ اپنے والد سے روایت
کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت کی
ہلاکت تین چیزوں میں ہے: (۱) قدریہ (۲) عصیت
میں (۳) بغیر تصدیق کے روایت کرنے میں۔

3555 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ الْحَسَنِ الْوَاسِطِيُّ
قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّامِيُّ قَالَ: نَا سُؤَيْدُ بْنُ
عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ،
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: هَلَاكُ أُمَّتِي فِي ثَلَاثٍ:

حضرت سلمان بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے

فِي الْقَدَرِيَّةِ، وَالْعَصِيَّةِ، وَالرَّوَايَةِ مِنْ غَيْرِ نَبَتْ
3556 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ سَلْمٍ

3554- أخرجه البخاری: فضائل الصحابة جلد 7 صفحہ 24 رقم الحديث: 3671 .

3555- وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 144 أيضًا الى الصغير وقال: وفيه سويد ابن عبد العزيز وقد

أجمعوا على ضعفه .

3556- وأخرجه أيضًا الترمذی وابن ماجة والنسائی من طريق حفصة بنت سيرين بالاسناد المذكور مرفوعًا بلفظ

ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: رشتے دار کو صدقہ دینا دو گنا ثواب ہے ایک صدقہ کا اور دوسرا صلہ رحمی کا۔

الضَّبِّيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا غَالِبُ
بُنُ قُرَّانَ الْهُدَلِيُّ قَالَ: نَا أَبُو نَعَامَةَ الْعَدَوِيُّ عَمْرُو بْنُ
عِيْسَى قَالَ: حَدَّثَنِي حَفْصَةُ بِنْتُ سِيرِينَ، عَنْ أُمِّ
الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْحٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ،
عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
يَقُولُ: صَدَقَةٌ ذِي الرَّحِمِ عَلَى ذِي رَحِمِهِ صَدَقَةٌ،
وَصَلَّةٌ

یہ حدیث ابونعامہ سے صرف غالب بن قرآن
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں نصر بن علی
اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ أَبِي نَعَامَةَ، إِلَّا غَالِبُ
بُنُ قُرَّانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ
حضور ﷺ دن و رات کو جاگتے تھے تو آپ وضو سے
پہلے مسواک کرتے تھے۔

3557 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ
قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الضَّبْرِيُّ قَالَ: نَا مُعَاذُ بْنُ
هَانَءِ الْبَهْرَانِيُّ قَالَ: نَا هَمَّامٌ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ،
عَنْ أُمِّ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَرْفُقُ لَيْلًا وَلَا نَهَارًا، فَيَسْتَيْقِظُ إِلَّا
تَسْوُوكَ قَبْلَ أَنْ يَتَوَضَّأَ

یہ حدیث علی بن زید سے صرف ہمام روایت کرتے
ہیں اور حضرت عائشہ سے اسی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ زَيْدٍ إِلَّا
هَمَّامٌ، وَلَا يُرْوَى عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذی الرحم اثنان . صدقة وصله وقال الترمذی: حدیث حسن . وأخرجه أيضاً
أحمد، والدارمی، والحاكم وصححه كلهم من طریق حفصة بنت سيرين بالاسناد المکور . وانظر تهذيب الكمال
جلد 22 صفحہ 181 .

3557 - أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1 صفحہ 15 رقم الحدیث: 57، وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 180 رقم
الحدیث: 25327، والبيهقي في الكبرى جلد 1 صفحہ 64 رقم الحدیث: 167، وعزاه الحافظ السيوطي أيضاً الى
ابن أبي شيبة، وقال: بسند ضعيف . انظر الدر المنثور جلد 1 صفحہ 113 .

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اذان پڑھنے والے اور تلبیہ پڑھنے والے اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو مؤذن اذان پڑھ رہا ہوگا اور تلبیہ پڑھنے والا تلبیہ پڑھ رہا ہوگا۔

3558 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ الْوَصِيِّ بْنِ نَصْرِ بْنِ الْوَصِيِّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ الرَّمَاطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْوَلِيدِ الضَّبِّيُّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهَدَلِيِّ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْمُؤَذِّنِينَ وَالْمَلَّيْنَ يَخْرُجُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ، يُؤَذِّنُ الْمُؤَذِّنُ، وَيَلْبِي الْمَلِّيُّ

یہ حدیث ابو زبیر سے صرف ابو بکر الہذلی اور ابو بکر سے صرف ابو الولید الضبی روایت کرتے ہیں۔ ابو الولید یہ عباس بن بکار ہیں اور حضرت جابر سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، إِلَّا أَبُو بَكْرِ الْهَدَلِيُّ، وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرِ، إِلَّا أَبُو الْوَلِيدِ الضَّبِّيُّ - وَهُوَ: الْعَبَّاسُ بْنُ بَكَّارٍ -، وَلَا يُرَوَى عَنْ جَابِرٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شغار جائز نہیں ہے، صحابہ کرام نے عرض کی: یا رسول اللہ! شغار کیا ہے؟ فرمایا: ایک عورت کا دوسری عورت کے بدلے میں نکاح کرنا اور آپس میں مہر مقرر نہ کرنا۔

3559 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الضَّبِّيُّ قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا شِغَارَ قَالُوا: وَمَا الشِّغَارُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نِكَاحُ الْمَرْأَةِ بِالْمَرْأَةِ، لَا صَدَاقَ بَيْنَهُمَا

یہ حدیث ابی بن کعب سے اسی سند سے روایت ہے، اس کو روایت کرنے میں یوسف بن خالد السمئی اکیلے ہیں۔

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي بِنِ كَعْبٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُونُسُ بْنُ خَالِدِ السَّمْتِيُّ

3558 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحه 330: وفيه مجاهيل لم اجد من ذكرهم . قلت: وفيه ايضا منهم

بالوضع، ومتروك .

3559 - وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحه 269 ايضا الى الصغير وقال: وفيه يوسف بن خالد السمتي وهو

ضعيف، والسند منقطع ايضا .

3560 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الصَّبِيُّ

قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا نَضْرَةَ، يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ، أُنْتَرُ بَعْدَ آذَانَ الصُّبْحِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْتَرُ قَبْلَ الْآذَانِ قَالَ: وَكَانَ آذَانُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَقَالُوا: أُنْتَرُ بَعْدَ الْآذَانِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُنْتَرُ قَبْلَ الْآذَانِ فَقَالُوا الثَّلَاثَةَ: أُنْتَرُ بَعْدَ الْآذَانِ؟ قَالَ: أُنْتَرُوا بَعْدَ الْآذَانِ فَرَخَّصَ لَهُمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، إِلَّا يُونُسُ بْنُ خَالِدِ السَّمْتِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ

3561 - حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ عُبَيْدٍ اللَّهِ الصَّبِيُّ

قَالَ: نَا خَالِدُ بْنُ يُونُسَ السَّمْتِيُّ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرِ رَكَعَاتٍ لَا أَدْعُهُنَّ: رَكَعَتَانِ قَبْلَ الْغَدَاةِ، وَرَكَعَتَانِ قَبْلَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الظُّهْرِ، وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرَبِ، وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْعِشَاءِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ السَّعْدِيِّ، إِلَّا يُونُسُ بْنُ خَالِدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُهُ عَنْهُ

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! کیا ہم وتر صبح کی اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: وتر اذان سے پہلے پڑھو۔ حضرت ابوسعید فرماتے ہیں: حضور ﷺ کی اذان طلوع فجر کے بعد ہوتی تھی۔ صحابہ کرام نے عرض کی: کیا ہم اذان کے بعد وتر پڑھ سکتے ہیں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: وتر اذان سے پہلے پڑھو۔ صحابہ کرام نے تیسری مرتبہ عرض کی: کیا ہم وتر اذان کے بعد پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا: اذان کے بعد پڑھ لیا کرو۔ آپ ﷺ نے صحابہ کرام کو رخصت دی۔

یہ حدیث ابوسفیان السعدی سے صرف یوسف بن خالد سمتی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے ان سے اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ ﷺ نے وصیت کی: دس رکعتیں پڑھنے کی تو میں ان کو نہیں چھوڑتا ہوں، دو رکعتیں فجر کے فرضوں سے پہلے اور دو رکعتیں ظہر کے فرضوں سے پہلے، دو فرضوں کے بعد، دو مغرب کے بعد، یعنی فرضوں کے بعد دو عشاء کے فرضوں کے بعد۔

یہ حدیث ابوسفیان السعدی سے صرف یوسف بن خالد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ان کے بیٹے اکیلے ہیں۔

اس شیخ کے نام سے جس کا نام خضر ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نماز فجر کے لیے نکلتے تو غسل کے پانی کے قطرے آپ کے سر سے ٹپک رہے ہوتے تھے پھر صبح روزہ کی حالت میں کرتے تھے۔

حضرت صفوان بن عسال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دیہاتی حضور ﷺ کے پاس آیا اس نے عرض کی: یا رسول اللہ! ایک آدمی کسی قوم سے محبت کرتا ہے لیکن اُن سے ملا نہیں ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: آدمی جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ ہوگا۔

مِنْ اسْمِهِ خَضِرٌ

3562 - حَدَّثَنَا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ الْجَوْهَرِيُّ الْبُعْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدِ الْقَطَّانِ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: نَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَتِيْبَةَ، عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُجُ إِلَى صَلَاةِ الْغَدَاةِ وَرَأْسُهُ يَقَطُرُ مِنَ الْغُسْلِ، ثُمَّ يُصْبِحُ صَائِمًا

3563 - حَدَّثَنَا خَضِرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمَرْزُبَانَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ بَدِيلٍ قَالَ: نَا مُفَضَّلُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زُرِّ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَكِنَّا يَلْحَقُ بِهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ



3562 - أخرجه ابن ماجة: الصيام جلد 1 صفحہ 543 رقم الحديث: 1703 .

3563 - أخرجه الترمذی: الزهد جلد 4 صفحہ 596 رقم الحديث: 2387 وقال: هذا حديث حسن صحيح وأحمد:

المسند جلد 4 صفحہ 293 رقم الحديث: 18115 .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام خالد ہے

حضرت ام سعد رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئی، میں نے عرض کی: اے ام المؤمنین! ایک عورت اپنے شوہر کے گھر سے صدقہ کرتی ہے، ثواب اس عورت کے لیے ہے یا اس کے شوہر کے لیے؟ آپ نے فرمایا: دونوں کے لیے ہے، مجھے حضور ﷺ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔

اس حدیث کو حضرت عائشہ سے صرف اسی سند سے روایت کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے ساتھ نصر بن علی منفرد ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور ﷺ کے ساتھ مسجد میں تھے یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہوا تو رسول اللہ ﷺ نکلے، میں آپ کے پیچھے چلا یہاں تک کہ ہم حضرت فاطمہ بنت محمد کے گھر پہنچے، رسول اللہ ﷺ داخل ہوئے تو آپ رضی اللہ عنہا آرام فرما رہی تھیں، آپ ﷺ نے فرمایا: اے فاطمہ! آپ اس وقت کیا ارادہ رکھتی ہیں؟ عرض کی: میں آج ساری رات

مَنْ اسْمُهُ خَالِدٌ

3564 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ أَبُو يَزِيدَ الْقُرَشِيُّ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو الْجَوَيْرِيَّةِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهَارٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أُمُّ سَعْدٍ، قَالَتْ: دَخَلْتُ عَلَى عَائِشَةَ فَقُلْتُ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، الْمَرْأَةُ تُعْطَى الشَّيْءَ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَا صَدَقَةً، فَهُوَ لَهَا أَوْ لِرِزْوَجِهَا؟ قَالَتْ: هُوَ بَيْنَهُمَا، حَدَّثَنِي بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ

3565 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ النَّضْرِ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا سَلَمَةَ بْنَ حَرْبِ بْنِ زِيَادِ الْكِلَابِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مُدْرِكٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَنَسٌ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَسْجِدِ، حَتَّى إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعْتُهُ فَقَالَ: انْطَلِقْ بِنَا حَتَّى نَدْخُلَ عَلَى فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ

3564 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 141: وفيه من لم أعرفه .

3565 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 183: ذكر الذهبي سلمة في الميزان، فقال: مجهول كشيخه أبي

مدرک، وقد وثق ابن حبان سلمة، وذكر له هذا الحديث في ترجمته، وفي الميزان أبو مدرک، قال الدارقطني: متروک، فلا أدري هو أبو مدرک هذا، أو غيره، وبقية رجاله ثقات، وعزاه أيضاً إلى الصغير .

پریشان رہی ہوں، آپ ﷺ نے فرمایا: جو دعا میں نے
آپ کو سکھائی تھی وہ کیا آپ کو یاد نہیں ہے؟ عرض کی: میں
بھول گئی ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: تو پڑھ ”یا حئی، یا
قیوم، بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِثْتُ، اَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ،
وَلَا تَكِلْنِي إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا إِلَى نَفْسِي
طَرَفَةَ عَيْنٍ“۔

یہ حدیث حضرت انس سے اسی سند سے روایت
ہے اس کو روایت کرنے میں نصر بن علی اکیلے ہیں۔

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا، فَإِذَا هِيَ نَائِمَةٌ
مُضْطَجِعَةً، فَقَالَ: يَا فَاطِمَةُ، مَا يُنِيْمُكَ فِي هَذِهِ
السَّاعَةِ؟ قَالَتْ: مَا زِلْتُ مُنْذُ الْبَارِحَةِ مَحْمُومَةً قَالَ:
فَإَيْنَ الدُّعَاءِ الَّذِي عَلَّمْتِكِ؟ قَالَتْ: نَسِيْتُهُ قَالَ:
قَوْلِي يَا حَيُّ، يَا قَيُّوْمُ، بِرَحْمَتِكَ اسْتَعِثْتُ، اَصْلِحْ لِي
شَأْنِي كُلَّهُ، وَلَا تَكِلْنِي إِلَى أَحَدٍ مِنَ النَّاسِ وَلَا إِلَى
نَفْسِي طَرَفَةَ عَيْنٍ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ تَفَرَّدَ بِهِ: نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ



تَفَرَّدَ بِهِ: عُرُوهُ بْنُ مَرْوَانَ الرَّقِيُّ

روایت کرنے میں عروہ بن مروان الرقی اکیلے ہیں۔

3568 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَا عُرُوهُ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے

بُنْ مَرْوَانَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ

نے فرمایا: سات آسمانوں میں ایک قدم اور ایک بالشت

الْكَرِيمِ الْجَزْرِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ

ایک ہتھیلی کے برابر جگہ نہیں مگر وہاں فرشتہ کھڑا ہے، کوئی

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا فِي

قیام کوئی رکوع، کوئی تہجد کی حالت میں، جب قیامت

السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ مَوْضِعُ قَدَمٍ وَلَا شِبْرٍ وَلَا كَفِّ إِلَّا

کا دن ہوگا تو وہ سارے کے سارے عرض کریں گے: تو

وَفِيهِ مَلَكٌ قَائِمٌ أَوْ مَلَكٌ رَاكِعٌ أَوْ مَلَكٌ سَاجِدٌ، فَإِذَا

پاک ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے، ہم نے

كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالُوا جَمِيعًا: سُبْحَانَكَ مَا عَبَدْنَاكَ

تیرے ساتھ کوئی شے شریک نہیں ٹھہرائی ہے۔

حَقَّ عِبَادَتِكَ، إِلَّا أَنَا لَمْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا

یہ حدیث عطاء سے صرف عبدالکریم اور عبدالکریم

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءٍ، إِلَّا عَبْدُ

سے صرف عبید اللہ بن عمر روایت کرتے ہیں۔

الْكَرِيمِ، وَلَا عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ، إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ

عَمْرٍو

3569 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَا حَيَوَةُ

حضور ﷺ نماز میں دو سلام کرتے تھے۔

بُنْ شَرِيحِ الْحَمِصِيِّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنْ

حضور ﷺ نماز میں دو سلام کرتے تھے۔

الزُّبَيْدِيِّ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ

یہ حدیث زہری سے صرف زہیدی ہی روایت

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُسَلِّمُ تَسْلِيمَتَيْنِ

کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا

حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ

الزُّبَيْدِيُّ

3570 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَا عُرُوهُ

حضور ﷺ نے فرمایا: میں احمد ہوں، میں محمد ہوں اور میں

بُنْ مَرْوَانَ الْعِرْقِيُّ قَالَ: نَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ

3568 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحه 361: وفيه عروة بن مروان قال الدارقطني: ليس بقوى في

الحديث، وبقيه رجاله رجال الصحيح .

3569 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحه 149: وفيه بقية وهو ثقة مدلس، وقد عنعنه .

3570 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 287: وفيه عروة بن مروان، قيل فيه ليس بالقوى، وبقيه رجاله

وثقوا . وقد أخرجه أيضًا الطبراني في الكبير جلد 2 صفحه 199 .

AlHidayah - الهداية

حاشر ہوں، سارے لوگ میرے قدموں کے پاس جمع ہوں گے، میں ماحی ہوں میری وجہ سے اللہ عزوجل نے کفر ختم کیا، جب قیامت کا دن ہوگا تو حمد کا جھنڈا میرے پاس ہوگا، میں سارے رسولوں کا سردار ہوں گا اور ان سب کی شفاعت کروں گا۔

یہ حدیث جابر بن عبد اللہ سے صرف عبد اللہ بن محمد بن عقیل اور عقیل سے صرف عبید اللہ بن عمرو اور قاسم اور وہ عبد اللہ بن محمد بن عقیل سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: حج مبرور کی جزاء صرف جنگ ہے اور عمرے کے درمیان میں ہونے والے گناہوں کو معاف کرواتے ہیں۔

یہ حدیث سعید بن ابی ہلال سے صرف خالد بن یزید اور خالد سے صرف لیث ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی مسلمان آدمی کا

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَيَّ قَدَمِي، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللَّهُ بِي الْكُفْرَ، فَإِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَإِنَّ لَوَاءَ الْحَمْدِ مَعِيَ وَكُنْتُ إِمَامَ الْمُرْسَلِينَ، وَصَاحِبَ شَفَاعَتِهِمْ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ، وَلَا عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، إِلَّا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، وَالْقَاسِمُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَقِيلٍ

3571 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَا عَبْدُ

اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الْحَكَمِ قَالَ: أَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سُمَيِّ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحِجَّةُ الْمَبْرُورَةُ لَيْسَ لَهَا جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ، وَالْعُمْرَتَانِ تَكْفِرَانِ مَا بَيْنَهُمَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ، إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ، وَلَا عَنْ خَالِدِ، إِلَّا اللَّيْثُ

3572 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَا حَيَّوَةُ

بْنُ شُرَيْحِ الْحِمَاصِيِّ قَالَ: نَا بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، عَنِ ابْنِ

3571 - أخرجه البخاری: العمرة جلد 3 صفحہ 698 رقم الحدیث: 1773، و مسلم: الحج جلد 2 صفحہ 983 و لفظهما:

العمرة الى العمرة كفارة لما بينهما..... والدارمی: المناسک جلد 2 صفحہ 48 رقم الحدیث: 1795، وأحمد:

المسند جلد 2 صفحہ 607 رقم الحدیث: 9954 و لفظه عند الدارمی وأحمد .

3572 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 271 رقم الحدیث: 4881، وأحمد: المسند جلد 4 صفحہ 280 رقم

الحدیث: 18034 . انظر الدر المنثور للسيوطی جلد 6 صفحہ 96 .

ایک لقمہ ناجائز طریقے سے کھایا، اللہ عزوجل اسے جہنم سے اس کی مثل کھلائے گا، جس نے کسی مسلمان کا ناجائز طریقے سے کپڑا پہنا تو اللہ عزوجل اسے اس کی مثل جہنم سے پہنائے گا، جو مسلمان آدمی ریاکاری کے لیے کھڑا ہوا بے شک اللہ عزوجل اس کو قیامت کے دن ریاکاری کے مقام پر کھڑا کرے گا۔

ثُوبَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ وَقَّاصِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَكَلَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ أَكَلَهُ فَإِنَّ اللَّهَ يُطْعِمُهُ مِثْلَهَا مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ كُتِيَ ثُوبًا بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَكْسُوهُ مِثْلَهُ مِنْ جَهَنَّمَ، وَمَنْ قَامَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ مَقَامَ سَمْعَةَ فَإِنَّ اللَّهَ يَقِيمُهُ مَقَامَ رِيَاءٍ وَسَمْعَةَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

یہ حدیث ابن ثوبان سے صرف بقیہ بن ولید ہی روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ ثُوبَانَ، إِلَّا بَقِيَّةُ بَنِ الْوَلِيدِ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تمام سارے کے سارے اچھے اور بُرے اللہ کی طرف سے پیدا شدہ ہیں۔ اور فرمایا: تقدیر نظام توحید ہے، جو اللہ کی توحید اور تقدیر پر ایمان رکھے اس نے مضبوطی سے رسی کو پکڑا، جو تقدیر پر ایمان نہ رکھے اس کی توحید ناقص ہے۔ اور فرمایا: تقدیر کا جھٹلانا والا جنت میں نہیں جائے گا۔

3573 - حَدَّثَنَا خَيْرُ بْنُ عَرْفَةَ قَالَ: نَاهَانُءُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ الْإِسْكَندَرَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو رَبِيعَةَ سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْأُمُورُ كُلُّهَا خَيْرٌهَا وَشَرُّهَا مِنَ اللَّهِ وَقَالَ: إِنَّ الْقَدَرَ نِظَامُ التَّوْحِيدِ، فَمَنْ وَحَدَّ اللَّهُ وَآمَنَ بِالْقَدْرِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى، وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِالْقَدْرِ كَانَ نَاقِضًا لِلتَّوْحِيدِ وَقَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مُكْذِبٌ بِقَدْرِ

حضرت ابو حازم سے صرف سلیمان بن ربیعہ ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ہانی بن متوکل اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ أَبِي حَازِمٍ، إِلَّا سُلَيْمَانَ بْنَ رَبِيعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: هَانِءُ بْنُ الْمُتَوَكِّلِ



اس شیخ کے نام سے
جس کا نام خطاب ہے

مَنْ اسْمُهُ
خَطَابٌ

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: جس نے اللہ کی راہ میں ایک دن کا روزہ
رکھا، اللہ عزوجل اس کے اور جہنم کے درمیان ایک خندق
بنائے گا، اتنی بڑی جتنا فاصلہ زمین و آسمان کے درمیان
ہے۔

یہ حدیث سفیان سے صرف عبد اللہ بن ولید العدنی
روایت کرتے ہیں۔

3574 - حَدَّثَنَا خَطَابُ بْنُ سَعْدِ الدِّمَشْقِيِّ
قَالَ: نَا مُؤَمَّلُ بْنُ اِهَابِ الرَّمْلِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
الْوَلِيدِ الْعَدَنِيِّ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنِ
الْأَعْمَشِ، عَنِ شَمْرِ بْنِ عَطِيَّةَ، عَنِ شَهْرِ بْنِ
حَوْشَبٍ، عَنِ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ قَالَ: قَالَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ صَامَ يَوْمًا فِي سَبِيلِ
اللَّهِ جَعَلَ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ النَّارِ خَنْدَقًا كَمَا بَيْنَ
السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ
بْنُ الْوَلِيدِ الْعَدَنِيُّ



3574- أخرجه أيضاً الطبرانی في الصغير. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 3 صفحہ 197: واسنادہ حسن. وحسنہ

أيضاً المنذرى (الترغيب جلد 2 صفحہ 86).

بَابُ الدَّالِ

مَنْ اسْمُهُ

دَاوُدُ

باب الدال
اس شیخ کے نام سے
جس کا نام داؤد ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے کسی میت کو غسل دیا، اس نے امانت کو ادا کیا، یعنی جو اس سے عیب ظاہر ہو اس کو چھپا دے تو اس کے گناہ اس طرح معاف ہوں گے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اس کو جنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: چاہیے کہ ولی وہ شخص بنے جو زیادہ علم والا ہو اگر علم والا نہ ہو تو وہ جو پرہیزگار اور امانت دار ہو۔

یہ حدیث حضرت عائشہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں سلام بن مطیع اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے پوچھا جائے گا۔ حکمران راعی

3575 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ

أَبُو الْفَوَارِسِ الْمُرُورُوذِي قَالَ: نَا اِبْرَاهِيْمَ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ قَالَ: نَا سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ جَابِرِ الْجَعْفِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَارِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ غَسَلَ مَيِّتًا فَأَدَى فِيهِ الْأَمَانَةَ، يَعْنِي: سَتَرَ مَا يَكُونُ عِنْدَ ذَلِكَ، كَانَ مِنْ ذُنُوبِهِ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ قَالَتْ: وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لِيَلِهِ مَنْ كَانَ أَعْلَمَ، فَإِنْ كَانَ لَا يَعْلَمُ فَرَجُلٌ مِمَّنْ تَرَوْنَ أَنَّ عِنْدَهُ وَرَعًا وَأَمَانَةً

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَائِشَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلَامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ

3576 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: نَا

زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى الْخَزْرَازِيُّ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ أَبُو مُحَمَّدٍ الرَّقْمَانِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ،

3575- أخرجه أيضاً أحمد جلد 6 صفحہ 120 من طريق جابر بن يزيد الجعفي بالاسناد وأيضاً البيهقي في الكبرى جلد 3

صفحہ 396 من طريق سلام بن أبي مطيع، عن جابر الجعفي بالاسناد. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 3

صفحہ 24: وفيه جابر الجعفي، وفيه كلام كثير.

3576- أخرجه أيضاً الطبراني في الصغير، وذكره الهيثمي في المعجم جلد 5 صفحہ 210 وقال: رواه الطبراني في الصغير

والأوسط باسنادين، واحد اسنادى الأوسط، رجاله رجال الصحيح.

(نگہبان) اور اپنی رعیت کا ذمہ دار ہے۔ ہر آدمی رابع ہے اور اپنی بیوی کے بارے اور اس لونڈی کے بارے پوچھا جائے گا۔ عورت اپنے خاوند کے حقوق کی محافظ ہے اور اس سے اس کے گھر اور اولاد کے بارے سوال کیا جائے گا۔ غلام اپنے آقا کے حقوق کا محافظ ہے اور مالک کے مال کے بارے اس سے پوچھا جائے گا۔ تم میں سے ہر ایک کسی نہ کسی کے حقوق کا محافظ ہے اور تم میں سے ہر ایک سے سوال ہو گا۔ پس تم سب ان سوالوں کے جوابات اب سے تیار کر لو۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! ان کے جوابات کیا ہیں؟ آپ ﷺ نے فرمایا: نیک اعمال۔

اس حدیث کو حضرت قتادہ سے سعید نے ہی روایت کیا اس حدیث کے ساتھ اسماعیل بن عباد اکیلے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا: جس آدمی نے اپنے مسلمان بھائی کو نیکی ملنے میں یا مشکل کو آسان کرنے میں طاقت والے تک راہنمائی کی اللہ تعالیٰ اسے پل صراط سے پار جانے میں اس کی مدد فرمائے گا قیامت کے دن جب پاؤں متزلزل ہوں گے۔

اس حدیث کو ہشام بن عروہ، عروہ بن رویم لخمی

عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ فَلَا مِيرُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ زَوْجَتِهِ، وَعَنْ مَا مَلَكَتْ يَمِينُهُ، وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ لِحَقِّ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ بَيْتِهَا وَوَلَدِهَا، وَالْمَمْلُوكُ رَاعٍ لِحَقِّ مَوْلَاهُ وَمَسْئُولٌ عَنْ مَالِهِ، فَكُتُّكُمْ رَاعٍ وَكُتُّكُمْ مَسْئُولٌ، فَاَعِدُوا لِيَتْلِكَ الْمَسَائِلِ جَوَابًا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا جَوَابُهَا؟ قَالَ: أَعْمَالُ الْبِرِّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا سَعِيدٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبَّادٍ

3577 - حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ السَّرْحِ الرَّمْلِيُّ

قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ هِشَامِ بْنِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى الْغَسَّانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي هِشَامُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ رُوَيْمٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ وَصْلَةً لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ إِلَى ذِي سُلْطَانٍ فِي مُبَلَّغٍ بَرٍّ أَوْ تَيْسِيرٍ عَسِيرٍ أَعَانَهُ اللَّهُ عَلَى إِجَارَةِ الصِّرَاطِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ دَحْضِ الْأَقْدَامِ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، إِلَّا

3577 - أخرجه أيضًا الطبرانی في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحه 194: وفيه إبراهيم بن هشام

وثقه ابن حبان وغيره، وضعفه أبو حاتم وغيره، وذكره ابن الجوزي في العلل المتناهية وقال: هذا حديث لا يثبت، قال

أبو زرعة: إبراهيم بن هشام كذاب .

عُرْوَةُ بْنُ رُوَيْمٍ اللَّحْمِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ يَحْيَى
 الْغَسَّانِيُّ، وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْهُ إِلَّا ابْنُ أَبِي رَاهِمٍ
 روایت کرتے ہیں اور ہشام بن یحییٰ غسانی منفرد ہیں اور
 ان سے صرف ان کے بیٹے ابراہیم ہی روایت کرتے
 ہیں۔



اس شیخ کے نام سے جس کا نام دلیل ہے

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: قربانی میں بھیجی، لہجی، لنگڑی، بیماری والی اور جس کے تھن جڑ سے کٹے (جانور جائز نہیں ہیں) ہوئے ہوں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ تعالیٰ نے امیر مسلمانوں پر ان کے مالوں میں اتنی مقدار فرض کی جس سے ان کی قوم کے غریبوں کے ہاتھ کھلے ہو جائیں (کچھ وسعت مل جائے) غریب، مسکین اور فقیر لوگوں کو ہرگز مشقت میں نہ ڈالا جائے مگر جب وہ بھوکے ہوں اور وہ کام کرنے سے عاری ہوں جو غنی کرتے ہیں۔ خبردار! بے شک قیامت کے دن ان سب کا سخت محاسبہ کرے گا اور مخالفت کرنے والوں کو سخت عذاب دینے والا ہے۔

مَنْ اسْمُهُ دَلِيلٌ

3578 - حَدَّثَنَا دَلِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ بْنِ دَلِيلِ الْاَصْبَهَانِيِّ قَالَ: نَا زِيَادُ بْنُ اَيُّوبَ دَلَوِيَه قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ قَالَ: نَا اِبْنُ طَاوُسٍ، عَنْ اَبِيهِ، عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَجُوزُ فِي الْبَدَنِ الْعَوْرَاءُ، وَلَا الْعَجْفَاءُ، وَلَا الْجَرَبَاءُ، وَلَا الْمُصْطَلَمَةُ اَطْبَاوَهَا

3579 - حَدَّثَنَا دَلِيلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيْسَى اَبُو عَبْدِ اللّٰهِ الْمُقْرِيُّ قَالَ: نَا ثَابِتُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ، عَنْ حَرْبِ بْنِ سُرَيْجٍ، عَنْ اَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ مُحَمَّدِ ابْنِ الْحَنْفِيَّةِ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِنَّ اللّٰهَ فَرَضَ عَلَيَّ اَغْنِيَاءَ الْمُسْلِمِيْنَ فِيْ اَمْوَالِهِمْ قَدَرَ الَّذِي يَسَعُ فُقْرَانَهُمْ، وَلَكِنْ يُجْهَدُ الْفُقْرَاءُ اِلَّا اِذَا جَاعُوا وَعُرُوا مِمَّا يَصْنَعُ اَغْنِيَاؤُهُمْ، اَلَا وَاِنَّ اللّٰهَ مُحَاسِبُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِسَابًا شَدِيْدًا، وَمَعْدِبُهُمْ عَذَابًا نُّكْرًا



3578 - وقال الحافظ الهيثمي في مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 22: عن أبي مسعود (وهو خطأ من الناسخ) وفيه علي بن

عاصم بن صهيب وفيه ضعف وقد وثق .

3579 - أخرجه أيضاً الطبراني في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 65 بعد نقله كلام الطبراني: تفرد

به ثابت قلت: ثابت من رجال الصحيح وبقية رجاله وثقوا وفيهم كلام .

بَابُ الذَّالِ مَنْ اسْمُهُ ذَاكِرٌ

باب الذال اس شیخ کے نام سے جس کا نام ذاکر ہے

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم ﷺ اکثر مجھ سے فرمایا کرتے تھے: اے عائشہ! تیرے ابیات نے کیا کیا؟ میں عرض کرتی: آپ کی مراد کون سے ابیات ہیں کیونکہ وہ تو بہت سے ہیں اے اللہ کے رسول! آپ ﷺ نے فرمایا: جو شکر کے بارے میں نے عرض کی: میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں! جی ہاں!

اپنے کمزور بھائی کو اٹھا سہارا دے اس کی کمزوری تیرے لائے نہیں ایک دن پس اس کو انجا آلیں گے وہ بڑھے تجھے جزا ملے گی یا وہ تیری تعریف کرے گا بے شک جس نے تیری تعریف کی تیرے اچھے کام پر اسی طرح ہے کہ اس نے جزا دی بے شک جب تو کریم سے وصال کا ارادہ کرے تو ڈھیلی ڈھالی قوتوں سے کمزور اور پرانی رسی نہ پیٹ۔

آپ نے فرمایا: ہاں! اے عائشہ! جب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوقات کو اٹھائے گا تو اپنے بندوں میں

3580 - حَدَّثَنَا ذَاكِرُ بْنُ شَيْبَةَ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَارَوَادُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ أَبِي الزُّعَيْرِ عَمْرٍو، وَسَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيرًا مَا يَقُولُ لِي: يَا عَائِشَةُ، مَا فَعَلْتَ أَبِياتِكَ؟ فَأَقُولُ: بِأَيِّ أَبِياتِي تُرِيدُ، فَأَيُّهَا كَثِيرَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: فِي الشُّكْرِ قُلْتُ: نَعَمْ بِأَبِي وَأُمِّي، قَالَ الشَّاعِرُ:

(البحر الكامل)

ارْفَعُ ضَعِيفَكَ لَا يَحْرُبِكَ ضَعْفُهُ ... يَوْمًا
فَتُدْرِكُهُ الْعَوَاقِبُ قَدْ نَمَا
يَجْزِيكَ أَوْ يُنْسِي عَلَيْكَ وَإِنَّ مَنْ ... أَتَى
عَلَيْكَ بِمَا فَعَلْتَ كَمَنْ جَزَى
إِنَّ الْكَرِيمَ إِذَا أَرَدَتْ وَصَالَهُ ... لَمْ تَلْفَ رَنًا
حَبْلَهُ وَاهِيَ الْقَوَى

قَالَ: فَيَقُولُ: نَعَمْ يَا عَائِشَةُ، إِذَا حَشَرَ اللَّهُ الْخَلَائِقَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ لِعَبْدٍ مِنْ عِبَادِهِ، اصْطَنَعَ

3580- أخرجه أيضًا الطبرانی في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 184: وشیخہ ذاکر بن شیبہ

ضعفه الأزدي .

سے ایک بندے سے فرمائے گا: میرے بندوں میں سے ایک بندے نے تیرے ساتھ نیکی کی تھی، کیا تُو نے اس کا شکر یہ ادا کیا۔ عرض کرے گا: اے میرے رب! میں نے جانا کہ وہ تیری طرف سے ہے۔ تو میں نے اس پر تیرا شکر ادا کیا۔ اللہ فرمائے گا: تُو نے میرا شکر ادا نہ کیا جب تُو نے اس آدمی کا شکر یہ ادا نہیں کیا جس کے ہاتھ سے میں نے نعمت عطا فرمائی ہے۔ اس حدیث کو کھول سے صرف اسی سند سے روایت کیا گیا ہے، اس حدیث کے ساتھ رواد بن جراح منفرد ہیں۔

إِلَيْهِ عَبْدٌ مِنْ عِبَادِهِ مَعْرُوفًا: هَلْ شَكَرْتَهُ؟ فَيَقُولُ: يَا رَبِّ عَلِمْتُ أَنَّ ذَلِكَ مِنْكَ فَشَكَرْتُكَ عَلَيْهِ فَيَقُولُ: لَمْ تَشْكُرْنِي إِذْ لَمْ تَشْكُرْ مَنْ أَجْرِيَتْ ذَلِكَ عَلَيَّ يَدِيهِ لَا يَرُوى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ مَكْحُولٍ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ تَفَرَّدَ بِهِ: رَوَاهُ بْنُ الْجَرَّاحِ



بَابُ الرَّاءِ مِنْ اسْمِهِ رَوْحٌ

باب الرءاء اس شیخ کے نام سے جس کا نام روح ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس سے کوئی بکری اس حالت میں خریدی کہ اس کا دودھ روک لیا گیا ہو تو اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو واپس کر دے اور ساتھ ایک صاع کھجوریں دے۔

یہ حدیث اعمش سے صرف یزید بن عطاء اور یزید سے صرف زہیر بن عباده روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابو زینب اع کیلے ہیں۔

حضرت ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو لوگوں کا شکر یہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا ہے۔

3581 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّوَّاسِيُّ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ اشْتَرَى شَاةً مُصْرَاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِنْ شَاءَ رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، وَلَا عَنْ يَزِيدٍ، إِلَّا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ، تَفَرَّدَ بِهِ أَبُو الزِّنْبَاعِ

3582 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ قَالَ: نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عَطِيَّةِ الْعَوْفِيِّ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

3581 - أخرجه البخارى: البيوع جلد 4 صفحہ 422 رقم الحديث: 2148 بلفظ: فمن ابتاعها بعد فانه بخير النظرين بعد

أن يحنلها..... . ومسلم: البيوع جلد 3 صفحہ 1159 .

3582 - أخرجه الترمذى: البر والصلة جلد 4 صفحہ 339 رقم الحديث: 1955 وقال: هذا الحديث حسن صحيح .

وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 40 رقم الحديث: 11286 . انظر كشف الخفاء للعجلونى جلد 2 صفحہ 366 رقم

الحديث: 3613 .

یہ حدیث مطرف از اسباط روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ سے سوال ہوا: کون سے اعمال افضل ہیں؟ فرمایا: نماز وقت پر ادا کرنا، اس کے بعد والدین سے نیکی کرنا، اس کے بعد اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔

یہ حدیث بیان سے صرف محمد بن فضیل اور محمد بن فضیل سے صرف یحییٰ بن یحییٰ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو طیبہ نے حضور ﷺ کو پچھنا لگایا، آپ نے اس کو اس کی مزدوری دی، اگر یہ حرام ہوتا تو آپ مزدوری نہ دیتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: تم میں سے ہر وہ آدمی ڈرے جو امام سے پہلے سر اٹھاتا ہے کہ اللہ عزوجل اس کا سر گدھے کے سر کی طرح نہ بنا دے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُطَرِّفٍ، إِلَّا أَسْبَاطُ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ

3583 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنَ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ: نَا بِيَانٌ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْأَعْمَالِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: الصَّلَاةُ لَوْ قَتَبَهَا، ثُمَّ بَرُّ الْوَالِدَيْنِ، ثُمَّ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ بِيَانٍ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ، وَلَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ فَضِيلٍ، إِلَّا يَحْيَى الْجُعْفِيُّ

3584 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نَا يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ أَبَا طَيْبَةَ حَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَاهُ أَجْرَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ

3585 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزِّنْبَاعِ قَالَ: نَا يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا مَعْمَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَزْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ حِبَّانَ، عَنْ مِسْعَرِ بْنِ كِدَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يُحَوَّلَ اللَّهُ رَأْسَهُ رَأْسَ

3583- أخرجه البخاری: الجهاد جلد6 صفحہ5 رقم الحدیث: 2782، ومسلم: الايمان جلد1 صفحہ89 .

3585- أخرجه البخاری: الأذان جلد2 صفحہ4 رقم الحدیث: 691، ومسلم: الصلاة جلد1 صفحہ320 .

حَمَارٍ؟

یہ حدیث مسعر سے صرف زید بن حبان اور زید بن حبان سے صرف معمر بن سلیمان روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

حضرت شریح فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا: عورتوں کے مہر میں غلو نہ کرو، اگر (مہر) دنیا و آخرت میں زیادہ عزت کا سبب ہوتا تو اس کے تم سے زیادہ حق دار رسول اللہ ﷺ اور آپ کی اولاد اور اہل بیت ہوتے، حضور ﷺ نے خود اپنی شادی اور اپنی کسی بیٹی کی شادی کی تو اس کا حق مہر بارہ اوقیہ سے زیادہ نہیں تھا۔

یہ حدیث شریح سے صرف شععی اور شععی سے صرف اشعث بن سوار اور اشعث سے صرف قاسم بن مالک روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب میری امت کے لوگ تکبر کریں اور ان کے خادم فارس و روم کے لوگ ہوں تو ان کے بعض پر بعض کو مسلط کیا جائے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مِسْعَرٍ، إِلَّا زَيْدُ بْنُ حَبَانَ، وَلَا عَنْ زَيْدِ بْنِ حَبَانَ، إِلَّا مَعْمَرُ بْنُ سَلِيمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ

3586 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَاجِ أَبُو الزُّبَيْعِ قَالَ: نَا يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكِ الْمُزَنِيِّ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ: قَالَ عَمْرُ بْنُ الْخَطَّابِ: لَا تُغَالُوا بِمُهْوَرِ النِّسَاءِ، فَإِنَّهَا لَوْ كَانَتْ مَكْرُمَةً فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ كَانَ أَحَقَّكُمْ بِهَا وَأَوْلَاكُمْ بِهَا مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَهْلُ بَيْتِهِ، مَا زَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ نِسَائِهِ وَلَا زَوَّجَ بِنْتًا مِنْ بَنَاتِهِ بِأَكْثَرَ مِنْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَوْقِيَّةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْحٍ، إِلَّا الشَّعْبِيُّ، وَلَا عَنِ الشَّعْبِيِّ، إِلَّا أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ، وَلَا عَنْ أَشْعَثَ، إِلَّا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ

3587 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَاجِ أَبُو الزُّبَيْعِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ لَهِيْعَةَ قَالَ: نَا عُمَارَةَ بْنَ غَزِيَّةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ يُحْنَسَ، مَوْلَى الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ

3586 - أخرجه أبو داود: النكاح جلد 2 صفحہ 241 رقم الحديث: 2106 والنسائي: النكاح جلد 3 صفحہ 413 رقم

الحديث: 1114 م. قول: هذا حديث حسن صحيح. وابن ماجه: النكاح جلد 1 صفحہ 607 رقم

الحديث: 1887 .

3587 - وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 240: واصله حسن .

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي
الْمُطَبِّطِيَاءُ، وَخَدَمْتَهُمْ فَارِسُ، وَالرُّومُ سُلِّطَ بَعْضُهُمْ
عَلَى بَعْضٍ

یہ حدیث عمار بن غزیہ سے صرف ابن لہیعہ ہی
روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ، إِلَّا
ابْنَ لَهِيْعَةَ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ
حضور ﷺ یہ دعا کرتے تھے: ”اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَائَةِ
نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ“۔

3588 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزُّبَيْعِ
قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: كَانَ مِنْ دُعَاءِ
الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ، وَتَحْوِيلِ عَافِيَتِكَ، وَفُجَائَةِ
نِقْمَتِكَ، وَجَمِيعِ سَخَطِكَ

یہ حدیث ابن عمر سے صرف عبداللہ بن دینار اور
حضرت عبداللہ بن دینار سے صرف موسیٰ بن عقبہ روایت
کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں یعقوب بن
عبدالرحمن الزہری اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ، إِلَّا عَبْدُ
اللَّهِ بْنُ دِينَارٍ، وَلَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا مُوسَى
بْنُ عُقْبَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
الزُّهْرِيُّ

حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے اللہ! جو اہل مدینہ پر ظلم
کرے اور ان کو ڈرائے تو تو ان کو ڈرا، ان پر اللہ اور
فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہو ان کے فرض و نفل قبول
نہ ہوں۔

3589 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزُّبَيْعِ
قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ قَالَ: نَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ
هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ
يَسَّارٍ، عَنْ عَبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: اللَّهُمَّ مَنْ ظَلَمَ أَهْلَ
الْمَدِينَةِ وَآخَافَهُمْ فَآخَفَهُ، وَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ

3588- أخرجه مسلم: الذكر والدعاء جلد 4 صفحہ 2097، وأبو داود: الصلاة جلد 2 صفحہ 92-93 رقم

الحديث: 1545 .

3589- وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 309 أيضاً الى الكبير وقال: ورجاله رجال الصحيح .

وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يُقْبَلُ مِنْهُ صَرْفٌ وَلَا عَدْلٌ

یہ حدیث موسیٰ بن عقبہ سے صرف ہشام بن عروہ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں لیث بن سعد اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، إِلَّا هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک ایسے آدمی کے پاس سے گزرے جو اپنا پاؤں بکری کی گردن پر رکھے ہوئے تھا اور چھری تیز کر رہا تھا اور وہ بکری اس کو دیکھ رہی تھی آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو اس کو چھڑا نہیں سکتا ہے؟ تو اس کو دو دفعہ مارنا چاہتا ہے۔

3590 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: نَا يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّازِيُّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى رَجُلٍ وَاصِعٍ رِجْلَهُ عَلَى صَفْحَةِ شَاةٍ وَهُوَ يُحَدِّثُ شَفْرَتَهُ وَهِيَ تَلْحَظُ إِلَيْهِ بِبَصَرِهَا، فَقَالَ: أَفَلَا قَبَلَ هَذَا تُرِيدُ أَنْ تُمِيتَهَا مَوْتَتَيْنِ لَمْ يَصِلْ

یہ حدیث عاصم سے عکرمہ وہ ابن عباس سے موصولاً صرف عبدالرحیم بن سلیمان روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یوسف بن عدی اکیلے ہیں۔

هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، إِلَّا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: يُوْسُفُ بْنُ عَدِيٍّ

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی سالن پکائے تو اس کا شور بہ زیادہ کر لے پھر اس سے اپنے ہمسایہ کو دے۔

3591 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُّ قَالَ: نَا عَمِيَّ عَمْرُو بْنُ عَثْمَانَ قَالَ: نَا أَبُو مُسْلِمٍ، قَائِدُ الْأَعْمَشِ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا طَبَخَ أَحَدُكُمْ قَدْرًا فَلْيَكْثِرْ مَرَقَهَا ثُمَّ لِيْنَاوِلْ جَارَهُ مِنْهَا

3590 - وأخرجه أيضاً الطبرانی في الكبير جلد 11 صفحہ 332 رقم الحدیث: 11916. وقال الحافظ الهیثمی فی المعجم

جلد 4 صفحہ 36. ورجالہ رجال الصحیح .

3591 - وقال الحافظ الهیثمی فی المعجم جلد 8 صفحہ 168: وفيه عبيد الله بن سعيد قائد الأعمش وثقه ابن حبان وضعفه

غيره وبقيه رجاله ثقات .

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا أَبُو

مُسْلِمٍ

ہیں۔

یہ حدیث اعمش سے صرف ابو مسلم روایت کرتے

3592 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ أَبُو الزُّبَاعِ

قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ

بَشِيرٍ الْهَمْدَانِيُّ قَالَ: نَا مُجَالِدُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ وَبَرَةَ

بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: إِنَّ ابْنَ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَكَّتْ، فَقَالَ

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِعُثْمَانَ: ائْتِنِي

عَلَيْهَا، فَإِنَّهُ لَا بُدَّ لَهَا مِنِّي أَوْ مِنْكَ، وَأَنْتَ أَحَقُّ

فَخَلَفَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهَا،

فَلَمَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ أَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَبَشِّرُهُ بِأَنَّ اللَّهَ قَدْ آتَمَ عِدَّتَهُمْ بِكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ وَبَرَةَ، إِلَّا مُجَالِدٌ،

وَلَا عَنْ مُجَالِدٍ، إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ بَشِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى

الْجُعْفِيُّ

یہ حدیث وبرہ سے مجالد اور مجالد سے احمد بن بشیر

روایت کرتے ہیں اس کو یحییٰ الجعفی روایت کرتے ہیں۔

3593 - حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ، أَوْ ابْنُ

حَاتِمِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ زُبَيْرٍ قَالَ: نَا

مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ

قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنِ الْمُسْتَوْرِدِ بْنِ شَدَّادٍ قَالَ:

قَالَ الْمُقَدَّادُ: لَمَّا هَاجَرْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ قَسَمَنَا

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشْرَةَ عَشْرَةَ

حضرت مقداد فرماتے ہیں کہ ہم نے مدینہ کی طرف

ہجرت کی، ہم کو رسول اللہ ﷺ نے دس دس افراد میں

تقسیم کیا، میں ان دس میں شامل تھا، ہم حضور ﷺ کے

ساتھ تھے، ہم کو بکری دی، ہم اس کا دودھ پیتے تھے، ایک

آپ کو آنے سے دیر ہو گئی، ہم نے آپ کا حصہ رکھ دیا،

میں اس کی طرف اٹھا، میں بھوکا تھا تو میں نے اسے پی لیا،

3592 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحہ 87: وفيه مجالد بن سعيد، وقد وثق على ضعفه، وبقية رجاله رجال

الصحيح .

3593 - أصله عند مسلم من طريق سليمان بن المغيرة بن ثابت، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن المقداد، وساق القصة .

أخرجه مسلم: الأشربة جلد 3 صفحہ 1625 .

اس کے بعد حضور ﷺ تشریف لائے، میں اس کے بعد سویا نہیں تھا، آپ ﷺ اس برتن کے پاس آئے جس میں ہم آپ کا حصہ رکھتے تھے، آپ نے اس میں کوئی شے نہ پائی۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ کے لیے ذبح کر کے لاؤں؟ آپ نے فرمایا: نہیں!

یہ حدیث اسماعیل بن ابی خالد سے صرف محمد بن جابر روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں محمد بن زبور اکیلے ہیں۔

فَكُنْتُ فِي الْعَشْرَةِ الَّتِي كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَتْ لَنَا شَاةٌ نَشْرَبُ كَبْنَهَا بَيْنَنَا فَأَبْطَأَ عَلَيْنَا لَيْلَةً، وَقَدْ دَفَعْنَا لَهُ نَصِيْبَهُ، فَقُمْتُ إِلَيْهِ وَأَنَا جَائِعٌ، فَشَرِبْتُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ أُنْمَ بَعْدُ، فَاتَى الْإِنَاءَ الَّتِي كُنَّا نَضَعُ فِيهِ اللَّبَنَ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا أَذْبَحُهَا لَكَ؟ قَالَ: لَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ جَابِرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ زُبَيْرٍ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام رجاء ہے

مِنْ اسْمِهِ رَجَاءٌ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو اندھے کے ساتھ چالیس قدم چلا اس کے لیے ایک غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو تیرے پاس امانت رکھے اس کی امانت ادا کر اس امانت میں خیانت نہ کر۔

یہ حدیث ابو حصین سے صرف شریک اور قیس روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں طلق اکیلے ہیں۔

3594 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زَيْدٍ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَطِيَّةَ الصَّفَّارُ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَادَ أَعْمَى أَرْبَعِينَ ذِرَاعًا كَانَ لَهُ كَعَتَقِ رَقَبَةٍ

3595 - حَدَّثَنَا رَجَاءُ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ أَحْمَدَ الدُّورِيُّ قَالَ: نَا طَلْقُ بْنُ غَنَامٍ قَالَ: نَا شَرِيكُ، وَقَيْسُ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذِ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ، إِلَّا شَرِيكُ، وَقَيْسُ، تَفَرَّدَ بِهِ: طَلْقُ



3594- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 141: وفيه يوسف بن عطية الصغار وهو متروك .

3595- أخرجه أبو داؤد: البيوع جلد 3 صفحہ 288 رقم الحديث: 3535، والترمذي: البيوع جلد 3 صفحہ 555 رقم

الحديث: 1264 وقال: هذا حديث حسن غريب . وقال الحافظ الزيلعي: قال ابن القطان: والمانع من تصحيحه أن

شريكًا وقيس بن الربيع مختلف فيهما . انظر نصب الراية جلد 4 صفحہ 119 .

بَابُ الزَّايِ مِنِ اسْمِهِ زَكَرِيَّا

باب الزراء اس شیخ کے نام سے جس کا نام ذکر یا ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو وہ اپنی تینوں انگلیاں چاٹ لے کیونکہ وہ نہیں جانتا ہے کہ اس کے کس حصہ میں برکت ہے۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف ہمام بن یحییٰ روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں عفان اکیلے ہیں۔
حضرت علاء بن حضرمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مہاجرین میں سے کوئی آدمی مناسک ادا کرنے کے بعد تین دنوں سے زیادہ مکہ میں نہ رہے۔

3596 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ حَمْدٍ وَيَهُ
الْبُعْدَادِيُّ قَالَ: نَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ قَالَ: نَا هَمَّامُ بْنُ
يَحْيَى، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ
فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ
الْبُرْكَاتُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا هَمَّامُ بْنُ
يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: عَفَّانُ

3597 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّجَزِيُّ
الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا جَرِيرُ
بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سُفْيَانَ،
رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ السُّوقِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُمَيْدٍ،
عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَمُكُّ
رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ بِمَكَّةَ بَعْدَ مَا يَقْضِي النَّسْكَ

3596 - أخرجه أيضاً الطبرانی في الصغير . وقال الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 31. ورجاله رجال الصحيح وهو عند

مسلم وأبي داؤد من فعله، كان إذا أكل طعاماً لعلق أصابعه الثلاث .

3597 - أصله في البخاری ومسلم . أخرجه البخاری: مناقب الأنصار جلد 7 صفحہ 313 (باب إقامة المهاجر بمكة) بعد

قضاء نسكه) رقم الحديث: 3933 ولفظه: ثلاث للمهاجر بعد الصدر . ومسلم: الحج جلد 2 صفحہ 986 بلفظ:

مكث المهاجر بمكة، بعد قضاء نسكه، ثلاثاً .

فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

یہ سفیان جن سے سفیان الثوری رضی اللہ عنہ روایت کی ہے وہ سفیان بن عیینہ ہیں۔

سُفْيَانُ هَذَا الَّذِي رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ،
هُوَ: سُفْيَانُ بْنُ عَيِّنَةَ

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے اور مہاجر وہ ہوتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا اس سے رُک جائے۔

3598 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ
قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ الْأَيْلِيِّ قَالَ: نَا مُعْتَمِرُ
بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ
وَيَدِهِ، وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَنْهُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُلَيْمَانَ التَّمِيمِيِّ، إِلَّا
مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْمَاعِيلُ بْنُ حَفْصِ

یہ حدیث سلیمان تمیمی سے صرف متمر روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں اسماعیل بن حفص اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ایک آدمی کی قیامت کے دن اس کے والد سے ملاقات ہوگی تو وہ کہے گا: اے والد ماجد! میں تیرا کون سا بیٹا تھا؟ وہ کہے گا: بہتر بیٹا، وہ آدمی کہے گا: کیا آج میری اطاعت کرے گا؟ جس کا میں تجھے حکم دوں؟ وہ کہے گا: جی ہاں! تو وہ کہے گا: میرا ہاتھ پکڑو وہ اس کا ہاتھ پکڑے گا اور اس کو لے کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ عزوجل مخلوق سے اعراض کرے گا، فرمائے گا: اے ابن آدم! جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا

3599 - حَدَّثَنَا زَكْرِيَّا بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ
قَالَ: نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ
ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ رَبَاحِ الْأَنْصَارِيِّ، أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَحَدَّثَنَا زَكْرِيَّا
بْنُ يَحْيَى السَّاجِيُّ قَالَ: نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا
حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهَشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
سَيْرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، فِيمَا يَحْسُبُ حَمَادُ، عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَلْقَى الرَّجُلُ أَبَاهُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيَقُولُ: يَا أَبَتَاهُ، أَيُّ ابْنٍ كُنْتُ لَكَ؟

3598- أخرجه البخاری: الايمان جلد 1 صفحہ 69 رقم الحدیث: 10. وعند مسلم بلفظ: أى المسلمین خیر؟ قال من سلم

المسلمون من لسانه وبده. مسلم: الايمان جلد 1 صفحہ 65.

3599- أخرجه أيضاً البزار من طريق حماد بن سلمة من ايوب بن نحوه. وذكر الهيثمي رواية البزار فقط في مجمع الزوائد

جلد 1 صفحہ 121 وقال: ورجاله ثقات.

چاہتا ہے ہو جا! وہ عرض کرے گا: میرا والد بھی میرے ساتھ ہے کیونکہ تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رسوا نہ کرے گا۔ اللہ عزوجل اس سے اعراض کرے گا، مخلوق کی طرف توجہ کرے گا، پھر آدمی کی طرف توجہ کرے گا، فرمائے گا: اے ابن آدم! جنت کے جس دروازے میں داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا! وہ عرض کرے گا: اے رب! میرا والد بھی میرے ساتھ ہے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ رسوا نہ کرے گا۔ اللہ عزوجل اس سے اعراض کرے گا، پھر مخلوق کی طرف دیکھے گا، اس کے بعد فرمائے گا: اے ابن آدم! جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہتا ہے داخل ہو جا! وہ عرض کرے گا: اے رب! میرا والد میرے ساتھ ہے تو نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ مجھے رسوا نہ کرے گا۔ اللہ عزوجل اس آدمی کے والد کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے جہنم میں ڈال دے گا، اس کی ہڈی پکڑے گا اور فرمائے گا: یہ تیرا باپ ہے؟ وہ آدمی عرض کرے گا: نہیں! یہ میرا باپ نہیں ہے۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں: ہم بیان کیا کرتے تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے۔

حضرت ابو حیان تمیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے تمام اعضاء وضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا: یہ رسول اللہ ﷺ کا وضو ہے۔

قَالَ: خَيْرُ ابْنِ قَالَ: هَلْ أَنْتَ مُطِيعِي الْيَوْمِ بِشَيْءٍ أَمْرُكَ بِهِ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَقُولُ: خُذْ بِيَدِي، فَيَأْخُذُ بِيَدِهِ، فَيَنْطَلِقُ بِهِ حَتَّى يَأْتِيَ الرَّبَّ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَهُوَ يَعْرِضُ الْخَلْقَ، فَيَقُولُ: ابْنِ آدَمَ، ادْخُلْ مِنْ آتِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، فَيَقُولُ: آتَى رَبِّ، وَأَبَى مَعِيَ، فَإِنَّكَ وَعَدْتَنِي إِلَّا تُخْزِنِي فَيَعْرِضُ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيُقْبَلُ عَلَى الْخَلْقِ يَعْرِضُهُمْ، ثُمَّ يُقْبَلُ عَلَيْهِ، فَيَقُولُ: ابْنِ آدَمَ ادْخُلْ مِنْ آتِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ فَيَقُولُ: آتَى رَبِّ، وَأَبَى مَعِيَ، فَإِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي، فَيَعْرِضُ عَنْهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى، وَيُقْبَلُ عَلَى الْخَلْقِ فَيَعْرِضُهُمْ، فَيَقُولُ: ابْنِ آدَمَ ادْخُلْ مِنْ آتِي أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شِئْتَ، فَيَقُولُ: آتَى رَبِّ، وَأَبَى مَعِيَ، فَإِنَّكَ قَدْ وَعَدْتَنِي أَنْ لَا تُخْزِنِي فَيَمْسُخُ اللَّهُ أَبَاهُ ضِبْعَانًا، أَبْجَرَ أَوْ أَمْجَرَ، فَيَلْقَى فِي النَّارِ، فَيَأْخُذُ بَارْتِيهِ، فَيَقُولُ: أَبُوكَ هَذَا فَيَقُولُ: لَا، وَعِزَّتْكَ، مَا هَذَا أَبِي قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: فَكُنَّا نَتَحَدَّثُ أَنَّهُ إِبْرَاهِيمُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

3600 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْأَهْوَازِيُّ الْعَدْلُ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ مُخْتَارِ التَّمَارِ، عَنْ أَبِي حَيَّانِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: رَأَيْتُ عَلِيًّا تَوَضَّأَ مِنْ مِطْهَرَةِ النَّيْمِ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، وَقَالَ: هَذَا وَضُوءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث ابو حیان تیمی سے صرف مختار التمار روایت کرتے ہیں مختار سے مراد مختار بن نافع ہے۔

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنے فوت شدہ لوگوں کی اچھائیوں کو یاد کرو اور ان کی بُرائیوں کو بیان کرنے سے رُک جاؤ۔

یہ حدیث عطاء سے صرف عمران بن انس روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے اپنے بندوں کے دلوں کو دیکھا تو محمد ﷺ کا دل سب بندوں کے دلوں سے بہتر پایا پھر محمد ﷺ کے دل کے بعد متوجہ ہوا تو محمد ﷺ کے غلام صحابہ کے دلوں کو بہتر پایا ان کو اپنے دین کے لیے چنا اور اپنے دین کی سر بلندی کے لیے جہاد کے لیے چنا جس کو مسلمان اچھا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں اچھا ہوتا ہے اور جس کو مسلمان بُرا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بُرا ہوتا ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ التَّمِيمِيِّ، إِلَّا مُخْتَارُ التَّمَارِ وَهُوَ: مُخْتَارُ بْنُ نَافِعٍ

3601 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا أَبُو كُرَيْبٍ قَالَ: نَا مُعَاوِيَةَ بْنُ هِشَامٍ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَنَسِ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اذْكُرُوا مَحَاسِنَ مَوْتَاكُمْ وَكُفُّوا عَنْ مَسَاوِيهِمْ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ إِلَّا عِمْرَانُ بْنُ أَنَسٍ

3602 - حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ دِينَارٍ الْكُوفِيُّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ قَادِمٍ، عَنْ عَبْدِ السَّلَامِ بْنِ حَرْبٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ شَقِيقِ أَبِي وَإِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ أَطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَوَجَدَ قَلْبَ مُحَمَّدٍ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، ثُمَّ أَطَّلَعَ فِي قُلُوبِ الْعِبَادِ بَعْدَ قَلْبِ مُحَمَّدٍ فَوَجَدَ قُلُوبَ أَصْحَابِهِ خَيْرَ قُلُوبِ الْعِبَادِ، فَاخْتَارَهُمْ لِدِينِهِ، يُقَاتِلُونَ عَلَى دِينِهِ، فَمَا رَأَاهُ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَاهُ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

3601- أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 277 رقم الحدیث: 4900، والترمذی: الجنائز جلد 3 صفحہ 330 رقم

الحدیث: 1019 وقال: هذا حدیث غریب. سمعت محمداً يقول: عمران بن أنس المکی منکر الحدیث.

والطبرانی فی الکبیر جلد 12 صفحہ 438 رقم الحدیث: 13599 وقال: حدیث ضعیف.

3602- أخرجه أيضاً فی الکبیر من طرق وأحمد جلد 1 صفحہ 379 عن أبي بكر، ثنا عاصم، عن زر بن حبیش به والبیزار من

طریق علی بن قادم به مختصراً، وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 1 صفحہ 180: ورجالہ موثقون.

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام زید ہے

مَنْ اسْمُهُ
زَيْدٌ

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے نعلین اور انگوٹھی پہننے کا حکم دیا گیا ہے۔

3603 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْمُهْتَدِيِّ أَبُو حَبِيبٍ
الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ يَعْقُوبَ الطَّالِقَانِيُّ قَالَ:
نَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ
الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ بِالنَّعْلَيْنِ وَالْخَاتَمِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا يُونُسُ،
وَلَا عَنْ يُونُسَ، إِلَّا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ
بْنُ يَعْقُوبَ

یہ حدیث زہری سے یونس اور یونس سے عمر بن
ہارون روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سعید
بن یعقوب اکیلے ہیں۔



3603- أخرجہ أيضاً الطبرانی فی الصغير، ومن طريقة الخطيب جلد 8 صفحہ 448 . وقال الحافظ الهيثبي في المعجم
جلد 5 صفحہ 141: وفيه عمر بن هارون البلخي وهو ضعيف . قلت: بل هو متروك، وماه ابن معين بالكاتب
(التهديب جلد 7 صفحہ 501) .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام زبیر ہے

حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ہماری طرف نکلے تو آپ کے ہاتھ میں دو تھیلیاں تھیں ایک میں سونا اور دوسرے میں ریشم تھی آپ نے فرمایا: یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں اور عورتوں پر حلال ہیں۔

یہ حدیث اسماعیل بن ابی خالد سے صرف عمرو بن جریر روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں داؤد بن سلیمان اکیلے ہیں۔

مَنْ اسْمُهُ زَبِيرٌ

3604 - حَدَّثَنَا الزُّبَيْرُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمِ بْنِ الْمُنْذِرِ بْنِ الزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ: خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي يَدِهِ صُرَّتَانِ أَحَدُهُمَا مِنْ ذَهَبٍ، وَالْأُخْرَى مِنْ حَرِيرٍ، فَقَالَ: هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى الذُّكُورِ مِنْ أُمَّتِي، حَلَالٌ لِلْإِنَاثِ مِنْ أُمَّتِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ جَرِيرٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ



3604- أخرجه أيضاً الطبرانی في الصغير؛ والبزار عن داؤد بن سليمان المؤدب به . وقال الحافظ الهيثمي في المجموع جلد 5

صفحة 146: وفيه عمرو بن جرير وهو متربك .

باب السین اس شیخ کا نام سے جس کا نام سعد ہے

بَابُ السِّينِ مَنْ اسْمُهُ سَعْدٌ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: امام ضامن ہوتا ہے مؤذن امانت
والے ہوتے ہیں اے اللہ! ائمہ کو ہدایت دے اور
مؤذنون کو بخش دے۔

یہ حدیث ابواسحاق سے زہیر اور زہیر سے موسیٰ بن
داؤد النضی روایت کرتے ہیں۔

3605 - حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ يَحْيَى الرَّقِّيُّ قَالَ:
نَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ الصَّبِيَّ
قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي
صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ: الْإِمَامُ ضَامِنٌ، وَالْمُؤَذِّنُ مُؤْتَمَنٌ اللَّهُمَّ
ارْشِدِ الْأَيْمَةَ وَاغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، إِلَّا
زُهَيْرٌ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ زُهَيْرٍ، إِلَّا مُوسَى بْنُ دَاوُدَ
الصَّبِيَّ



اس شیخ کے نام سے
جس کا نام سعدون ہے

حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: ماں کا ذبح ہونا بچہ کا ذبح ہونا ہے۔

یہ حدیث فراس سے شیبان روایت کرتے ہیں۔

مَنْ اسْمُهُ
سَعْدُونٌ

3606 - حَدَّثَنَا سَعْدُونُ بْنُ سَهْلٍ بْنُ عَبْدِ
الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي ذُوَيْبٍ الْعُكَاوِيُّ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا
شَيْبَانَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ النَّحْوِيُّ، عَنْ فِرَاسِ بْنِ
يَحْيَى، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَكَاتُ الْجَنِينِ ذَكَاتُ أُمِّهِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ فِرَاسٍ، إِلَّا شَيْبَانُ



3606 - أخرجه أبو داؤد: الضحايا جلد 3 صفحہ 103 رقم الحديث: 2827 بلفظ: ذكاته أمه . وابن ماجه: الذبائح جلد 2

صفحہ 1067 رقم الحديث: 3199، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 48 رقم الحديث: 11349 انظر نصب الراية

جلد 4 صفحہ 189 .

مَنْ اسْمُهُ سَعِيدٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام سعید ہے

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس دوران کہ رسول کریم ﷺ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ایک آدمی لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا آیا اور نبی کریم ﷺ کے قریب آ کر بیٹھ گیا۔ پس رسول کریم ﷺ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو فرمایا: اے فلاں! جہاں جگہ ملتی تھی وہاں بیٹھ جانے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ عرض کی: اے اللہ کے رسول! مجھے لالچ ہوا کہ میں اُس جگہ بیٹھوں جہاں آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا: میں نے تجھے لوگوں کی گردنیں پھلانگتے اور ان کو تکلیف دیتے ہوئے دیکھا، جس نے مسلمان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی، جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی۔

یہ حدیث حضرت انس سے قاسم بن علی، قاسم سے موسیٰ بن خلف روایت کرتے ہیں، سعید بن سلیمان اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت عبداللہ بن ادنیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حج و عمرہ اکٹھا کیا کیونکہ آپ کو یقین تھا

3607 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ خَلْفِ الْعَمِّيِّ قَالَ: نَا الْقَاسِمُ الْعِجْلِيُّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ تَخْطِي رِقَابَ النَّاسِ، حَتَّى جَلَسَ قَرِيبًا مَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ قَالَ: مَا مَنَعَكَ يَا فُلَانُ أَنْ تَجْمَعَ؟ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ حَرَصْتُ أَنْ أَضَعَ نَفْسِي بِالْمَكَانِ الَّذِي تَرَى قَالَ: قَدْ رَأَيْتَكَ تَخْطِي رِقَابَ الْمُسْلِمِينَ وَتُؤْذِيهِمْ، مَنْ آذَى مُسْلِمًا فَقَدْ آذَانِي، وَمَنْ آذَانِي فَقَدْ آذَى اللَّهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، إِلَّا الْقَاسِمُ الْعِجْلِيُّ، وَلَا عَنْ الْقَاسِمِ، إِلَّا مُوسَى بْنُ خَلْفٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ

3608 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا

3607 - أخرجه أيضاً في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحہ 182: وفيه القاسم بن مطيب قال ابن

حبان: كان يخطي كثيراً فاستحق الترك .

3608 - أخرجه أيضاً البزار من طريق سعيد بن سليمان به . وعزاه الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 239 الى الكبير

أيضاً وقال: وفيه يزيد بن عطاء وثقه أحمد وغيره وفيه كلام .

يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: إِنَّمَا جَمَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ، لِأَنَّهُ عَلِمَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا بَعْدَ ذَلِكَ

کہ اس کے بعد نہیں کرنا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ عَطَاءٍ

یہ حدیث اسماعیل بن خالد سے صرف یزید بن عطاء ہی روایت کرتے ہیں۔

3609 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُجَبَّرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ هَوَانَ قُرَيْشٍ أَهَانَهُ اللَّهُ

حضرت عامر بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے قریش کو رسوا کرنے کی کوشش کی اللہ عزوجل اس کو رسوا کرے گا۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا ابْنُ مُجَبَّرٍ، وَلَا يُرَوَى عَنْ سَعْدٍ، إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

یہ حدیث زہری سے صرف ابن مجبر روایت کرتے ہیں حضرت سعد سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

3610 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةِ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سَلِيمَانَ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ، عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنَ السَّعَادَةِ الزَّوْجَةَ الصَّالِحَةَ،

حضرت محمد بن سعد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: نیک بختی یہ ہے کہ نیک بیوی اچھا گھر اچھی سواری اور بد بختی کی علامت یہ ہے: بُرَى بِيَوْمِي بُرَى أَكْهَرُ مَرَادٍ چھوٹا گھر اور بُرَى سَوَارِي۔

3609- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 714 رقم الحدیث: 3905 وقال: هذا حدیث غریب. وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 232 رقم الحدیث: 1592 ولفظهما من یرد هوان قریش أهانہ الله .

3610- أخرجه أيضًا فی الكبير جلد 1 صفحہ 146 رقم الحدیث: 329 وأحمد: والبراز' من طریق محمد بن أبی حمید' عن اسماعیل بن محمد بن سعد بن أبی وقاص' عن أبیه' عن جدہ' مرفوعًا بنحوه' وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 4 صفحہ 275: ورجال أحمد رجال الصحیح. قلت فی سندہ: محمد بن أبی حمید ابراهیم قال ابن حجر فی التقریب: ضعیف .

وَالْمَسْكَنَ الصَّالِحَ، وَالْمَرْكَبَ الصَّالِحَ، وَإِنَّ مِنَ الشَّقَاءِ الزَّوْجَةَ السُّوَاءَ وَالْمَرْكَبَ السُّوَاءَ، وَالْمَسْكَنَ السُّوَاءَ

یہ حدیث عباس بن زریج سے صرف ابراہیم بن عثمان روایت کرتے ہیں ابراہیم بن عثمان ابو شیبہ ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ یہ دعا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ اجْعَلْ إِلَى آخِرِهِ"۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ ذَرِيحٍ، إِلَّا إِبْرَاهِيمَ بْنَ عُثْمَانَ وَهُوَ أَبُو شَيْبَةَ

3611 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُغِيرَةَ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ: نَا عَيْسَى بْنُ مَيْمُونٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ عَائِشَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْعُو يَقُولُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ أَوْسَعَ رِزْقِكَ عَلَيَّ عِنْدَ كَبِيرِ سِنِي، وَأَنْقِطَاعِ عُمُرِي

یہ حدیث رسول اللہ ﷺ سے صرف قاسم کی حدیث روایت کی جاتی ہے حضرت عائشہ کے حوالے سے۔

لَا يُرَوَّى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْقَاسِمِ، عَنْ عَائِشَةَ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا: یہ بات عورت کی خوش قسمتی سے ہے کہ اس کی طرف پیغام نکاح میں آسانی ہو اور اس کا حق مہر آسان ہو۔ حضرت عروہ بن زبیر نے کہا: میں کہتا ہوں کہ عورت کی پہلی خوش قسمتی یہ ہے کہ اس کا حق مہر زیادہ ہو۔

3612 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِسْرَائِيلَ الْقُطَيْبِيُّ، قَالَ: نَا حِبَّانُ بْنُ مُوسَى الْمُرَوِّزِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ يُمِّنُ الْمَرْأَةَ تَيْسِيرُ حِطَّتَيْهَا، وَتَيْسِيرُ صَدَاقِهَا قَالَ عُرْوَةُ وَأَقُولُ أَنَا: مِنْ أَوَّلِ شُؤْمِهَا أَنْ يَكْثُرَ صَدَاقُهَا

3611 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 185: واسناده حسن - قلت: بل اسناده ضعیف -

3612 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحہ 258-284: وفي اسناده أسامة بن زيد بن أسلم وهو ضعيف وقوف وثق وبقية رجال أحمد ثقات - وأخرجه أيدنا في الطبرانی في الصغير، والبخاري، والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي وهذا يدل على أسامة بن يزيد هو الليثي فانه من رجال مسلم -

حضرت صفوان بن سلیم سے یہ حدیث اسامہ بن زید ہی روایت کرتے ہیں۔ ابن مبارک اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔ اور رسول کریم ﷺ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اپنا گھوڑا دو گھوڑوں کے درمیان داخل کیا، وہ آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، یہ جواباز ہے۔

یہ حدیث قتادہ سے سعید بن جبیر اور سعید سے صرف ولید روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ہشام بن عمار کیلے ہیں۔

حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: محبت اللہ کی طرف سے ہے، نافرمانی آسمان سے ہے، جب اللہ عزوجل کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل علیہ السلام اعلان کرتے ہیں کہ تمہارا رب فلان سے محبت کرتا ہے اس سے محبت کرو اس کی محبت دنیا میں رکھی جاتی ہے یعنی لوگوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ، إِلَّا أَسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ الْمُبَارَكِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3613 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَوْسٍ الدِّمَشْقِيُّ الْإِسْكَافِيُّ قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ ادْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ، وَهُوَ يَأْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ، فَهُوَ قِمَارٌ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا سَعِيدُ بْنُ بَشِيرٍ، وَلَا عَنْ سَعِيدٍ، إِلَّا الْوَلِيدُ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ

3614 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ: نَا شَرِيكَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدِ الْأَنْصَارِيِّ، عَنْ أَبِي ظَبْيَةَ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلْمِقَّةُ مِنَ اللَّهِ، وَالصَّيْتُ فِي السَّمَاءِ، فَإِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا نَادَى جِبْرِيلُ: إِنَّ رَبِّكُمْ يُحِبُّ فُلَانًا فَأَحْبُوهُ، فَتُوضَعُ لَهُ الْمِقَّةُ فِي الْأَرْضِ

3613 - أخرجه أبو داود: الجهاد جلد 3 صفحہ 30 رقم الحديث: 2579 وابن ماجه: الجهاد جلد 2 صفحہ 960 رقم

الحديث: 2876 وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 664 رقم الحديث: 10568. انظر تلخيص الحبير جلد 4

صفحہ 180 رقم الحديث: 10.

3614 - أخرجه أيضًا في الكبير، وأحمد من طريق عن شريك به. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 274.

ورجاله وثقوا.

یہ حدیث ابوامامہ سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں شریک اکیلے ہیں۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں فرمایا: غنی کا (قرض وغیرہ دینے سے) ٹال مٹول کرنا ظلم کے برابر ہے۔ جب کسی ڈھیر پر تجھ سے حیلہ کیا جائے تو تیرے لیے بھی حیلہ روا ہے۔

محمد بن سیرین سے صرف ابو بکر ہذلی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں اور ابو بکر ہذلی سے یزید بن یوسف زحمویہ اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: فیصلے تین طرح کے ہیں ایک وہ آدمی جو فیصلہ کرتا ہے اس کے فیصلہ کے لیے کوشش کرتا ہے درست فیصلہ کیا تو اس کے لیے جنت ہو گی ایک وہ آدمی جو فیصلہ کرتا ہے فیصلہ کے لیے کوشش کرتا ہے لیکن غلطی کرتا ہے تو اس کے لیے جنت ہو گی ایک وہ آدمی جو فیصلہ کرتا ہے اور اس میں ظلم کرتا ہے تو وہ جہنم میں جائے گا۔

یہ حدیث ابوبہاشم الرمائی سے صرف خلف بن خلیفہ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: شَرِيكٌ

3615 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ

قَالَ: نَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى زَحْمَوِيَهُ قَالَ: نَا يَزِيدُ بْنُ يَوْسُفَ الشَّامِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُدَلِيِّ، عَنِ الْحَسَنِ، وَابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَإِذَا أَحَلَّتْ عَلَيَّ مِلْيَةٌ فَاحْتَلُّ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، إِلَّا أَبُو بَكْرٍ الْهُدَلِيُّ، وَلَا عَنْ أَبِي بَكْرِ الْهُدَلِيِّ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ يَوْسُفَ، تَفَرَّدَ بِهِ: زَحْمَوِيَهُ

3616 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ

قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَبُو مَعْمَرٍ الْقَطِيعِيُّ قَالَ: نَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ، عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَائِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْقَضَاءُ ثَلَاثَةٌ: فَرَجُلٌ قَضَى فَاَجْتَهَدَ فَاصَابَ فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَاَجْتَهَدَ فَاَخْطَا فَلَهُ الْجَنَّةُ، وَرَجُلٌ قَضَى فَاَجْرَ فَفِي النَّارِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ الرُّمَائِيِّ،

3615- أخرجه البخاری: الحوالة جلد 4 صفحہ 542 رقم الحدیث: 2287، ومسلم: المساقاة جلد 3 صفحہ 1197 من

طریق: أبی الزناد - بلفظ: مطل الغنی ظلم، وإذا اتبع أحدكم علی ملیء فلیتبع - وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 610

رقم الحدیث: 9986 - انظر: نصب الرایة جلد 4 صفحہ 59-60 .

3616- وقال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 4 صفحہ 198: ورجالہ رجال الصحیح - قلت: خلف بن خلیفہ تغیر فی

آخره، ولم یخرج له مسلم الا فی الشواهد .

إِلَّا خَلْفُ بُنِّ خَلِيفَةَ

روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابراہیم بن جریر اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو دیکھا کہ آپ نے وضو کیا اور اپنے موزوں پر مسح کیا ان کو اتار نہیں ان دونوں میں نماز پڑھی۔ حضرت ابراہیم سے پوچھا گیا کہ سورہ مائدہ نازل ہونے کے بعد؟ فرمایا: جی ہاں!

3617 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَيْهِ، لَا يَنْزِعُهُمَا، وَيُصَلِّي فِيهِمَا قِيلَ لَهُ: بَعْدَ نَزُولِ الْمَائِدَةِ؟ قَالَ: نَعَمْ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میری امت ہمیشہ فطرت پر رہے گی جب تک وہ فجر خوب سفید کر کے پڑھتے رہیں گے۔

3618 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَزَالُ أُمَّتِي عَلَى الْفِطْرَةِ مَا أَسَفَرُوا بِالْفَجْرِ

حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے موزوں پر مسح کیا۔

3619 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ

حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

3620 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ الْوَاسِطِيُّ

3617 - أخرجه أبو داؤد: الطهارة جلد 1 صفحہ 38 رقم الحديث: 154، والترمذی: الطهارة جلد 1 صفحہ 156-157 رقم الحديث: 94 ولفظهما نحوه .

3618 - أخرجه أيضاً البزار وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 318: رواه البزار والطبرانی في الكبير (كذا) وفيه حفص بن سليمان ضعفه ابن معين' والبخاری' وأبو حاتم' وابن حبان' وقال ابن خراش: كان يضع الحديث' ووثقه أحمد في رواية وضعفه في أخرى .

3619 - أخرجه البخاری: الوضوء جلد 1 صفحہ 367 رقم الحديث: 203، ومسلم: الطهارة جلد 1 صفحہ 228 .

3620 - أخرجه أبو داؤد: الأدب جلد 4 صفحہ 329 رقم الحديث: 5101 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يوقظ للصلاة .

کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مرغ کو گالی مت دو کیونکہ وہ وقت پر اذان دیتا ہے۔

قَالَ: نَاعَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَسُبُّوا الدِّيكَ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّنُ بَوَقْتٍ

حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آسمان کے رحمت کے دروازے پانچ چیزوں کے لیے کھلتے ہیں: قرآن پڑھنے والے کے لیے، دشمن سے لڑتے وقت، بارش برستے وقت، مظلوم کی بددعا کے لیے اور اذان کے لیے۔

3621 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ سَيَّارٍ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ قَالَ: أَنَا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَفْتَحُ أَبْوَابُ السَّمَاءِ الْخَمْسُ لِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَلِلِقَاءِ الزَّحْفَيْنِ، وَلِنُزُولِ الْقَطْرِ، وَلِدَعْوَةِ الْمَظْلُومِ، وَلِلْأَذَانِ

یہ احادیث عبد العزیز بن رفیع سے صرف حفص بن سلیمان روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عمرو بن عون اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، إِلَّا حَفْصُ بْنُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ عَوْنٍ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جو (روزہ رکھ کر) گانے اور جھوٹ نہیں چھوڑتا ہے، اللہ عزوجل کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے۔

3622 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ سَلَمٍ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ أَبُو هَمَّامٍ الْبَكْرَاوِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ الْخَطَّابِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ:

وأحمد: المسند جلد 5 صفحہ 229 رقم الحدیث: 21736 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة انه يؤذن بالصلاة. وأبو نعيم في الحلية جلد 6 صفحہ 246 بلفظ: لا تسبوا الديك فانه يدعو الى الصلاة.

3621- أخرجه أيضًا في الصغير: وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 331: وفيه حفص بن سليمان الأسدي ضعفه البخاري ومسلم وابن معين والنسائي وابن المديني وثقه أحمد وابن حبان.

3622- أخرجه أيضًا في الصغير.. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 174: وفيه من لم أعرفه. قلت: رجال الاسناد كلهم معروفون ومترجمون. الا أن شيخ الطبرانی لين، فالحدیث بهذا الاسناد ضعيف.

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَدْعِ الْخَنَا
وَالْكَذِبَ، فَلَا حَاجَةَ لِلَّهِ فِي أَنْ يَدْعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا عَبْدُ
الْمَجِيدِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمَرَ الْخَطَّابِيُّ، وَلَا
يُرَوَّى عَنْ أَنَسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

یہ حدیث ابن جریج سے صرف عبدالمجید روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عبد اللہ بن عمرو بن خطاب اکیلے ہیں، حضرت انس سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے صبح کی نماز میں تنزیل السجده میں سجدہ کیا۔

3623 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّرَاعُ
الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الصَّيْرَفِيُّ قَالَ: نَا
مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ،
عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَجَدَ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ بِ تَنْزِيلِ
السُّجْدَةِ

یہ حدیث عمرو بن مرہ سے صرف لیث اور لیث سے صرف معتمر روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں عمرو بن علی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، إِلَّا
لَيْثٌ، وَلَا عَنْ لَيْثٍ، إِلَّا مُعْتَمِرٌ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ
عَلِيٍّ وَلَمْ يَرَوْهُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَنْ الْحَارِثِ إِلَّا
هَذَا.

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ سن پانچ ہجری میں رسول کریم ﷺ کے پاس ہمارا آنا ہوا، جنگ احزاب (خندق) والے سال ہم قریش کے ساتھ مل کر نکلے۔ میں اپنے بھائی فضل کے ساتھ تھا، ہمارے ساتھ ہمارا غلام ابورافع تھا یہاں تک کہ ہم عرج

3624 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
التُّسْتَرِيُّ، قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ شَبَةَ، قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ
مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ الْأَنْصَارِيُّ الْمَعْرُوفُ بِابْنِ
الْقَدَّاحِ، سَمِعْتُ مِنْهُ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ: نَا سُلَيْمَانَ بْنَ
دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ

3623- أخرجه أيضاً في الصغير . وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 2 صفحہ 172: وفيه الحارث بن عبد الله الأعور وهو ضعيف .

3624- وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 6 صفحہ 67: وفيه عبد الله بن محمد بن عمارة الأنصاري وسليمان بن داود بن الحصين لم يوثقا ولم يضعفا، وبقية رجاله ثقات .

پہنچ گئے۔ ہم راستہ میں برابر سوار ہوتے رہے۔ ہم نے اس راہ میں جثاثہ والا راستہ اختیار کیا یہاں تک کہ ہم بنی عمرو بن عوف قبیلے کے پاس جا نکلے۔ یہاں تک کہ چلتے چلتے ہم مدینہ پہنچ گئے، ہم نے دیکھا رسول کریم ﷺ خندق میں موجود تھے۔ میں اُس وقت آٹھ سال کا تھا اور میرے بھائی (فضل) کی عمر ۱۳ سال تھی۔

عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ قُدُومَنَا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِحَمْسٍ مِنَ الْهَجْرَةِ، خَرَجْنَا مُتَوَصِّلِينَ بِقُرَيْشٍ عَامَ الْأَحْزَابِ، وَأَنَا مَعَ أَخِي الْفَضْلِ، وَمَعَنَا غُلَامًا: أَبُو رَافِعٍ، حَتَّى انْتَهَيْنَا إِلَى الْعَرَجِ فَعَدَلْنَا فِي طَرِيقِ رُكُوبِهِ، وَأَخَذْنَا فِي تِلْكَ الطَّرِيقِ عَلَى الْجُجَجَانَةِ، حَتَّى خَرَجْنَا عَلَى بَنِي عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ، حَتَّى دَخَلْنَا الْمَدِينَةَ، فَوَجَدْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْخَنْدَقِ، وَأَنَا يَوْمَئِذٍ ابْنُ ثَمَانٍ سِنِينَ، وَأَخِي ابْنُ ثَلَاثِ عَشْرَةَ سَنَةً.

حضرت داؤد بن حصین سے اس حدیث کو صرف ان کے بیٹے سلیمان ہی روایت کرتے ہیں، عبد اللہ بن محمد بن عمارہ اس حدیث کے ساتھ منفرد ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ إِلَّا ابْنَةُ سُلَيْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَمَارَةَ

حضرت ابوبکرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: مجھے لوگوں سے جہاد کرنے کا حکم دیا گیا ہے یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، جب وہ یہ پڑھ لیں تو انہوں نے مجھ سے اپنا خون اور اموال بچا لیے مگر حق کے ساتھ ان کا باطن کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔

3625 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَيْسَى الْخَزَّازُ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عَبِيدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ أَبِي بَكْرَةَ قَانَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أُمِرْتُ أَنْ أَقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُواهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَانَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحَسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

یہ حدیث یونس سے صرف عبد اللہ بن عیسیٰ روایت

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا عَبْدُ اللَّهِ

بُنْ عَيْسَى، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ

کرتے ہیں؛ اس کو روایت کرنے میں محمد بن عیسیٰ اکیلے ہیں۔

3626 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ التُّسْتَرِيُّ قَالَ: نَا حَبِيبُ بْنُ بَشِيرٍ، أَخُو أَبِي الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيِّ، لِأَمِّهِ قَالَ: نَا مَحْجُوبُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ: نَا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ فِي بَعْضِ مَخَارِجِهِ وَمَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَحَضَرَتِ الصَّلَاةُ، فَلَمْ يَجِدِ الْقَوْمَ مَاءً يَتَوَضَّئُونَ بِهِ، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا نَجِدُ مَاءً نَتَوَضَّأُ بِهِ، فَاَنْطَلَقَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ فَجَاءَ بِقَدَحِ مَاءٍ يَسِيرٍ، فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ مَدَّ أَصَابِعَهُ عَلَى الْقَدَحِ، فَتَوَضَّأَ الْقَوْمُ كُلُّهُمْ حَتَّى بَلَّغُوا مَا يُرِيدُونَ وَشَكََّ أَنْسٌ كَمْ كَانُوا قَرِيبًا مِنَ السَّعِينِ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ کسی راستے پر موجود تھے اور آپ کے ساتھ آپ کے صحابہ کرام بھی تھے نماز کا وقت ہو گیا تو قوم کے پاس وضو کے لیے پانی نہیں تھا۔ انہوں نے عرض کی: اے اللہ کے رسول! ہم وضو کے لیے پانی نہیں پاتے ہیں۔ ان میں سے ایک آدمی گیا اور پانی کا پیالہ لایا جس میں تھوڑا سا پانی تھا۔ رسول کریم ﷺ نے اس سے وضو فرما کر اس میں اپنی انگلیاں رکھ کر پھیلا دیں (جن سے پانی جاری ہو گیا) تمام موجود صحابہ نے وضو کیا، بعد ازاں چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا خیال ہے کہ اس وقت تقریباً ستر صحابہ تھے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا مَحْجُوبُ بْنُ الْحَسَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَبِيبُ بْنُ بَشِيرٍ

حضرت یونس سے اس حدیث کو صرف محبوب بن حسین نے روایت کیا اور حبیب بن بشر اکیلے ہیں۔

3627 - حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ رَبِّهِ الصَّفَّارُ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: نَا الرَّبِيعُ بْنُ ثَعْلَبٍ قَالَ: نَا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ مِنْ فِرَاشِهِ، وَظَنَنْتُ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَارِيَتِهِ مَارِيَةَ فَقُمْتُ الْتِمَسُ الْجِدَارَ، فَوَجَدْتُهُ قَائِمًا يُصَلِّي،

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول کریم ﷺ کو اپنے بستر پر نہ دیکھا اور گمان کیا کہ آپ اپنی لونڈی حضرت ماریہ کے پاس تشریف لے گئے ہیں، میں تلاش کرنے کے لیے کھڑی ہوئی تو میں نے آپ کو دیکھا کہ آپ کھڑے نماز پڑھ رہے ہیں، پس میں نے اپنے ہاتھ آپ کے بالوں

3626- أخرجه البخاری: المناقب جلد6 صفحہ672 رقم الحدیث: 3574، والطبرانی فی الصغیر جلد1 صفحہ170 .


3627- أخرجه النسائی: عشرة النساء جلد7 صفحہ65 (باب الغيرة) .

میں داخل کیے کہ آپ نے غسل کیا ہے یا نہیں؟ پس جب آپ واپس لوٹے تو آپ نے فرمایا: اے عائشہ! تیرے پاس تیرا شیطان آ گیا تھا؟ میں نے عرض کی: کیا میرے لیے کوئی شیطان ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی: کیا ہر آدمی کے لیے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہاں! میں نے عرض کی: آپ کے لیے بھی ہے؟ آپ ﷺ نے فرمایا: ہے لیکن میرے رب نے اسے مسلمان بنا دیا ہے۔

یہ حدیث یحییٰ بن سعید سے ہے وہ عمرہ سے روایت کرتے ہیں اور یحییٰ سے روایت صرف فرج بن فضالہ ہی روایت کرتے ہیں۔

فَأَذْخَلْتُ يَدِي فِي شَعْرِهِ لَأَنْظُرَ اغْتَسَلَ أَمْ لَا؟ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ: أَخَذَكَ شَيْطَانُكَ يَا عَائِشَةُ؟ قُلْتُ: وَلى شَيْطَانٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَلِجَمِيعِ بَنِي آدَمَ؟ قَالَ: نَعَمْ قُلْتُ: وَلكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكِنَّ اللَّهَ أَعَانَنِي عَلَيْهِ فَأَسْلَمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُمَرَ، إِلَّا فَرَجُ بْنُ فَضَالَةَ



اس شیخ کے نام سے
جس کا نام سہل ہے

مِنْ اسْمِهِ
سَهْلٌ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: دو آدمیوں کی نماز اُن کے سروں سے اوپر نہیں جاتی ہیں: وہ غلام جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہو یہاں تک کہ واپس آ جائے اور وہ عورت جو اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہے یہاں تک کہ نافرمانی سے باز آ جائے۔

3628 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا اِبْرَاهِيمَ بْنَ أَبِي الْوَزِيرِ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اِثْنَانِ لَا تُجَاوِزُ صَلَاتُهُمَا رُؤُوسَهُمَا: عَبْدٌ اَبَقَ مِنْ مَوَالِيهِ حَتَّى يَرْجِعَ اِلَيْهِمْ، وَامْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا حَتَّى تَرْجِعَ

یہ حدیث ابراہیم بن مہاجر سے عمر بن عبید اور عمر بن عبید سے صرف ابراہیم بن ابی الوزیر روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابن ابی صفوان اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهَاجِرٍ، اِلَّا عُمَرُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَلَا رَوَاهُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عُبَيْدٍ، اِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي الْوَزِيرِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي صَفْوَانَ

حضرت خزاعی بن زیاد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت عبداللہ بن مغفل کے پاس بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے بیان کیا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: ٹھیکری نہ مارو کیونکہ اس کے ساتھ نہ شکار ہوتا ہے نہ دشمن مرتا ہے یہ یا تو دانت توڑتی ہے یا آنکھ پھوڑتی ہے۔

3629 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ الْوَأَسِطِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي صَفْوَانَ الثَّقَفِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَبُو عَسَانَ الْعَنْبَرِيُّ قَالَ: نَا اَلْهَيْثَمُ بْنُ اَلْجَهْمِ أَبُو عَثْمَانَ اَلْمُؤَدَّبُ قَالَ: نَا خُزَاعِيُّ بْنُ زِيَادٍ قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغْفَلٍ، فَحَدَّثَنَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

3628- أخرجه أيضًا في الصغير، و الحاكم من طريق محمد بن منده الأصبهاني، ثنا بكر بن بكار، ثنا عمر بن عبید به وسكت

عنه الحاكم، والذهبي. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد4 صفحه316: ورجاله ثقات.

3629- عند البخاري ومسلم من طريق كهيمس بن الحسن عن عبد الله بن بريد عن عبد الله بن مغفل نحوه. أخرجه

البخاري: الذبائح جلد9 صفحه522 رقم الحديث: 5479، ومسلم: الصيد والذبائح جلد3 صفحه1547.

وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تَحْدِفُوا، فَإِنَّهُ لَا يُصَادُ بِهَا صَيْدٌ، وَلَا يُنْكَأُ بِهِ عَدُوٌّ وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ، وَتَقْفَأُ الْعَيْنَ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خُرَاعِيِّ بْنِ زِيَادٍ، إِلَّا
الْهَيْثَمُ بْنُ الْجَهْمِ

یہ حدیث خزاعی بن زیاد سے صرف ہیشم بن جہم روایت کرتے ہیں۔

3630 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا هِلَالَ بْنَ بَشْرِ الدَّارِعِ قَالَ: نَا
سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السَّرَاجِ، عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كُنْتُ مَعَ ابْنِ عُمَرَ فِي سَفَرٍ،
فَاسْرَعَ السَّيْرَ حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَنَادَيْتُهُ: يَا أَبَا
عَبْدِ الرَّحْمَنِ، الصَّلَاةُ، فَسَارَ حَتَّى اشْتَبَكَتِ
النُّجُومُ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ، وَصَلَّى الْعِشَاءَ
رَكَعَتَيْنِ، ثُمَّ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا عَجَلَ بِهِ أَمْرٌ صَلَّى هَكَذَا

حضرت نافع فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے ساتھ تھا، آپ جلدی چلے یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا، میں نے آپ کو آواز دی: اے ابو عبد الرحمن! نماز! آپ چلنے لگے یہاں تک کہ ستارے نکلنے لگے، پھر آپ اترے اور آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی دو رکعتیں ادا کیں۔ پھر فرمایا: حضور ﷺ کو جب جلدی ہوتی تھی تو آپ اسی طرح نماز پڑھتے تھے۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
السَّرَاجِ، إِلَّا عُمَرَ بْنَ عَامِرٍ، وَلَا رَوَاهُ عَنْ عُمَرَ، إِلَّا
سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: هِلَالَ بْنُ بَشْرِ

یہ حدیث عبد الرحمن السراج سے صرف عمر بن عامر اور عمر سے صرف سالم بن نوح روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ہلال بن بشر اکیلے ہیں۔

3631 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ
الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ السَّكَنِ قَالَ:
نَا حِبَّانُ بْنُ هِلَالَ قَالَ: نَا زَيْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ التُّسْتَرِيُّ
قَالَ: نَا الْحَسَنُ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ إِلَى جِدْعٍ، فَلَمَّا
اتَّخَذَ الْمُنْبَرَ حَنَّ الْجِدْعُ، فَنَزَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ ایک تنے کا سہارا لے کر خطبہ دیتے تھے جب منبر بن گیا تو وہ تاسسکیاں لینے لگا، آپ ﷺ منبر سے نیچے اترے اس تنے کو اپنے ساتھ چمٹا لیا تو وہ خاموش ہو گیا۔

3630- عند البخاری من طریق سالم نحوه . أخرجه البخاری: تفسير الصلاة جلد 2 صفحہ 666 رقم الحدیث: 1092 .

3631- أخرجه الترمذی: المناقب جلد 5 صفحہ 594 رقم الحدیث: 3627 وقال: هذا حدیث حسن صحیح وابن ماجه:

الإقامة جلد 1 صفحہ 454 رقم الحدیث: 1415 فی الزوائد: اسنادہ صحیح ورجاله ثقات .

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاحْتَضَنَهُ، فَسَكَنَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ اِبْرَاهِيمَ، اَلَا
حَبَّانُ بْنُ هَلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
السَّكَنِ

یہ حدیث یزید بن ابراہیم سے صرف حبان بن
ہلال روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں یحییٰ
بن سکن اکیلے ہیں۔

3632 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ أَبِي سَهْلٍ

الْوَاسِطِيُّ قَالَ: نا عَيْسَى بْنُ شَادَانَ قَالَ: نا الصَّلْتُ
بُنُ مُحَمَّدِ ابُو هَمَامِ الْخَارَكِيُّ قَالَ: نا مَنْصُورُ بْنُ
سَعْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ حَمَادًا، يَقُولُ: اخْبَرَنِي اِبْرَاهِيمُ،
اَنَّ الْاَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، حَدَّثَهُ، اَنَّ عَائِشَةَ اخْبَرَتْهُ، اَنَّ
رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّا كُنَّا
نَهَيِّنَاكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ، فَزُورُوهَا، فَاِنَّهَا تَدْجُرُ
الْاٰخِرَةَ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ اَنْ تَتَّبِعُوا فِي الدُّبَابِ وَالْحَنَمِ
وَالْمُرَقَّتِ، فَانْتَبِذُوا فِيمَا بَدَا لَكُمْ وَاجْتَنِبُوا كُلَّ
مُسْكِرٍ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا:
میں تم کو قبروں کی زیارت کرنے سے منع کرتا تھا
لیکن اب قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ آخرت کی یاد
دلاتی ہیں، میں تمہیں دبا، حنم اور مرقت (جن میں شراب
تیار کی جاتی تھی) کے برتنوں میں نبیز بنانے سے منع کرتا
تھا اب جس میں چاہو نبیز بناؤ ہر نشہ آور شے سے بچو۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ أَبِي
سُلَيْمَانَ، اِلَّا مَنْصُورُ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: اَبُو هَمَامِ
الْخَارَكِيُّ

یہ حدیث حماد بن سلیمان سے صرف منصور بن سعد
روایت کرتے ہیں ان سے روایت کرنے میں ابوہمام
الخارکی اکیلے ہیں۔

3633 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى شَيْرَانَ

الرَّامَهُرْمِزِيُّ قَالَ: نا اَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّمِيِّ قَالَ: نا
زِيَادُ بْنُ عَبْدِ اللّٰهِ الْبُكَائِيُّ قَالَ: نا الرَّحِيلُ بْنُ
مُعَاوِيَةَ، اَخُو زُهَيْرٍ، عَنْ اَبِي اسْحَاقَ، عَنْ اَبِي
الْاَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ، قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَقَدْ هَمَمْتُ اَنْ اَمُرَّ رَجُلًا فَيَصَلِّيَ

حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: میں نے ارادہ کیا کہ کسی کو نماز پڑھانے
کا حکم دوں تو وہ لوگوں کو نماز جمعہ پڑھائے، پھر ان لوگوں کو
ان کے گھروں کے اندر جلا دوں جو نماز جمعہ نہیں پڑھتے
ہیں۔

الْجُمُعَةَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَحْرَقَ عَلَى قَوْمٍ يَتَخَلَّفُونَ عَنْهَا
بُيُوتَهُمْ

یہ حدیث رحیل بن معاویہ سے صرف زیاد البکائی
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں احمد بن عبدہ
اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الرَّحِيلِ بْنِ مُعَاوِيَةَ،
إِلَّا زِيَادُ الْبَكَّائِيُّ، تَفَرَّدَ بِهِ: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِةَ

حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہما
فرماتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر نے حضرت سعد بن
وقاص سے فرمایا: آپ کو کیا تھا کہ آپ میرے ساتھ نہ
نکلے کیا آپ نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے نہیں
سنا کہ میری امت سے کچھ لوگ دین سے اس طرح نکل
جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکلتا ہے، علی بن ابی
طالب ان کو قتل کریں گے آپ نے یہ تین مرتبہ فرمایا تھا؟
حضرت سعد نے عرض کی: اللہ کی قسم! میں نے سنا ہے لیکن
میں خلوت پسند کرتا ہوں، یہاں تک کہ ایسی تلوار پاؤں جو
کافر کو کاٹے اور مومن کو بچائے۔

3634 - حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُوسَى قَالَ: نَا
عِيسَى بْنُ شاذَانَ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ فَرْعَةَ، مِنْ أَهْلِ
مَكَّةَ، كُوفِيُّ الْأَصْلِ قَالَ: نَا عُمَرُ بْنُ أَبِي عَائِشَةَ
الْمَدَنِيُّ قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ مَسْمَارٍ يَعْنِي مُهَاجِرًا
مَوْلَى آلِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يُذَكِّرُ، عَنْ عَامِرِ بْنِ
سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، أَنَّ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ قَالَ: لِسَعْدِ
بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ: مَا لَكَ لَا تَخْرُجُ مَعَ عَلِيٍّ، أَمَا
سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
يَخْرُجُ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي بِمَرْفُوفٍ مِنَ الدِّينِ مُرُوقٍ
السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، قَالَهَا
ثَلَاثَ مِرَارٍ قَالَ: إِي وَاللَّهِ، لَقَدْ سَمِعْتُهُ وَلَكِنِّي
أَحْبَبْتُ الْعُرْلَةَ حَتَّى أَجِدَ سَيْفًا يَقْطَعُ الْكَافِرَ، وَيَبْنُو
عَنِ الْمُؤْمِنِ

یہ حدیث حضرت عمار بن یاسر سے اسی سند سے
روایت ہے اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن شاذان
اکیلے ہیں۔

لَا يَرَوِي هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عِيسَى بْنُ شاذَانَ



3634 - وعزاه الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 6 صفحہ 238 الى الكبير أيضا وقال: وفيه عمر بن أبي عائشة ذكره الذهبي
في الميزان وذكر له هذا الحديث وقال: هذا حديث منكر .

اس شیخ کے نام سے جس کا نام سلمہ ہے

مَنْ اسْمُهُ سَلَمَةٌ

حضرت حفصہ زوجہ نبی ﷺ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو کبھی بیٹھ کر نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اپنی وفات کے ایک سال یا دو سال پہلے آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے تھے اور سورۃ کو ترتیل سے پڑھتے تھے یہاں تک کہ آپ بیٹھ کر نفل پڑھتے ہوئے زیادہ قرأت کرتے تھے کھڑے ہو کر پڑھنے سے۔

3635 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نَا جَدِّي لَامِي خَطَابُ بْنُ عُثْمَانَ الْفَوْزِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنِ الْمُطَّلِبِ بْنِ أَبِي وَدَاعَةَ، عَنْ حَفْصَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهَا قَالَتْ: لَمْ أَرِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَاعِدًا فِي سُبْحَةٍ حَتَّى كَانَ قَبْلَ مَوْتِهِ بِعَامٍ وَاحِدٍ أَوْ اثْنَيْنِ، فَرَأَيْتُهُ يُصَلِّي قَاعِدًا فِي سُبْحَتِهِ، وَيُرْتِلُ السُّورَةَ حَتَّى تَكُونَ قِرَائَتُهُ أَيَّهَا أَطْوَلَ مِنْ أَطْوَلَ مِنْهَا

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ گھوڑے پر سوار ہوئے پس اس سے گر پڑے تو آپ کی دائیں طرف زخمی ہو گئی، آپ ہمیں بیٹھ کر نماز پڑھاتے رہے اور ہم آپ کے پیچھے بیٹھ کر پڑھتے تھے پھر جس وقت آپ نے سلام پھیرا تو فرمایا: امام اس لیے ہوتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے جب کھڑا ہو کر پڑھے تو تم بھی کھڑے ہو کر پڑھو جب رکوع کرے تو تم بھی رکوع

3636 - حَدَّثَنَا سَلَمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفَوْزِيُّ الْحِمَصِيُّ قَالَ: نَا خَطَابُ بْنُ عُثْمَانَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكِبَ فَرَسًا، فَصُرِعَ عَنْهُ، فَجَحِشَ شِقُّهُ الْأَيْمَنُ، فَصَلَّى لَنَا يَوْمًا صَلَاةً مِنَ الصَّلَوَاتِ وَهُوَ قَاعِدٌ، فَصَلَّيْنَا وَرَأَيْتُهُ قُعُودًا، ثُمَّ قَالَ حِينَ سَلَّمَ: إِنَّمَا

3635 - أخرجه مسلم: المسافرین جلد 1 صفحہ 507 وأحمد: المسند جلد 6 صفحہ 317 رقم الحديث: 26497 .

3636 - أخرجه البخاری: الأذان جلد 2 صفحہ 204 رقم الحديث: 689 من طريق مالك عن ابن شهاب ولم يذكر: وإذا

سجد فاسجدوا، ولكنه ذكر هذا اللفظ في موضوع آخر من طريق حميد الطويل في الصلاة جلد 1 صفحہ 581 رقم

الحديث: 378 . ومسلم: الصلاة جلد 1 صفحہ 308 ولم يذكر: وإذا ركع فاركعوا . والترمذی: الصلاة جلد 2

صفحہ 194 رقم الحديث: 361 ولفظه عنده .

کرو جب رکوع سے اٹھے تو تم بھی اٹھو جب سجدہ کرے تو تم بھی سجدہ کرو جب سمع اللہ من حمدہ کہے تو تم ربنا لک الحمد پڑھو جب بیٹھ کر پڑھے تو تم بھی بیٹھ کر پڑھو۔

جَعَلَ الْإِمَامُ لِيُؤْتَمَّ بِهِ، فَإِذَا صَلَّى الْإِمَامُ قَائِمًا فَصَلُّوا قِيَامًا، وَإِذَا رَكَعَ فَارْكَعُوا، وَإِذَا رَفَعَ فَارْفَعُوا، وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا، وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، فَقُولُوا: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَإِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا قُعُودًا أَجْمَعُونَ

3637 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ أَحْمَدَ الْفُوزِيُّ

قَالَ: نَا جَدِّي، نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَمِيرٍ قَالَ: نَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي عَبْلَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلْمَةَ، وَأَبِي عَبْدِ اللَّهِ الْأَعْرَبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ أَخْبَرَهُمَا، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِي يَهْجُرُ إِلَى الصَّلَاةِ، يَعْنِي: الْجُمُعَةَ، كَمَثَلِ الَّذِي يَهْدِي النَّاقَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى آثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي بَقْرَةً، ثُمَّ الَّذِي عَلَى آثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الْكَبْشَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى آثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الدَّجَاجَةَ، ثُمَّ الَّذِي عَلَى آثَرِهِ كَالَّذِي يَهْدِي الْبَيْضَةَ

حضرت ابو سلمہ اور ابو عبد اللہ الاغر فرماتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے دونوں کو بتایا کہ حضور ﷺ نے بتایا کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کی مثال جو جمعہ کے لیے جلدی آتا ہے وہ اونٹ کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ گائے کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ مینڈھا کی قربانی کرنے والے کی مثل ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ مرغی صدقہ کرنے والے کی مثل ہے پھر جو اس کے بعد آتا ہے تو وہ اٹھہ صدقہ کرنے والے کی مثل ہے یعنی جس طرح ان کو ثواب ملتا ہے اسی طرح جمعہ کے لیے آنے والے کو ثواب ملتا ہے۔

3638 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ

إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلِ الْكُوفِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ حُجَيْبَةَ بْنِ عِدِّيٍّ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُشَدُّ الرَّحَالُ إِلَّا إِلَى

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اپنی ساریوں پر سامان سفر نہ باندھو مگر تین مسجدوں کی طرف: مسجد نبوی، مسجد حرام مسجد اقصیٰ کی طرف۔ کوئی عورت دو دن سے زیادہ سفر نہ کرے مگر اپنے شوہر یا محرم کے ساتھ کوئی بھی دو دن روزے نہ

3637- أخرجه البخاری: الجمعة جلد 2 صفحہ 472 رقم الحدیث: 929، ومسلم: الجمعة جلد 2 صفحہ 587 (باب فضل

التهجير يوم الجمعة).

3638- أخرجه أيضًا في الصغير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحہ 6: وفيه إبراهيم بن اسماعيل بن يحيى

الكهيلي وهو ضعيف قلت: وفيه أيضًا اسماعيل، ويحيى وهما متروكان.

رکھے جائیں سال میں: عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں میں دو نمازوں کے بعد کوئی نماز نہیں ہے: نماز فجر کے بعد یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے اور عصر کے بعد یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے۔

ثَلَاثَةَ مَسَاجِدَ: مَسْجِدِي هَذَا، وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الْأَقْصَى وَلَا تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا أَوْ مَحْرَمٌ وَلَا يُصَامُ يَوْمَانِ فِي السَّنَةِ: يَوْمَ الْفِطْرِ، وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَلَا صَلَاةَ بَعْدَ صَلَاتَيْنِ: بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ، وَبَعْدَ صَلَاةِ الْعَصْرِ حَتَّى تَغْرُبَ الشَّمْسُ لَمْ يَرَوْ هَذَا عَنْ سَلْمَةَ إِلَّا ابْنَهُ يَحْيَى تَفْرُدَ بِهِ وَالِدَهُ عَنْهُ.

اس حدیث کو حضرت سلمہ سے صرف ان کے بیٹے یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں اور اس حدیث کے ساتھ ان کے والد ان سے منفرد ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کی: یا رسول اللہ! میں آپ سے سنتی ہوں کہ جب آپ مریض کی عیادت کرتے ہیں تو کہتے ہیں: لوگوں کے رب مشکل دور کر، شفاء دے، تو شفاء دینے والا ہے! آپ ﷺ نے سر اٹھایا اور فرمایا: بلکہ میں عرض کرتا ہوں: "اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، بَلِ اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى" (اے اللہ! مجھے اعلیٰ دوست سے ملادے)۔

3639 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ يَحْيَى بْنِ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ أَبِي الضُّحَى، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: أَخَذْتُ بِيَدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: مَا كُنْتُ أَسْمَعُهُ يَقُولُ إِذَا عَادَ مَرِيضًا: اْمَسِّحِ الْبَاسَ، رَبَّ النَّاسِ، وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِي، لَا شَافِيَ إِلَّا أَنْتَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ، فَقَالَ: بَلِ اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى، بَلِ اللَّهُمَّ مَعَ الرَّفِيقِ الْأَعْلَى

3640 - حَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا: آج تم میں سے کس نے روزے کی حالت میں صبح کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ

3639 - أخرجه مسلم: السلام جلد 4 صفحہ 1721-1722، وابن ماجه: الجنائز جلد 1 صفحہ 517 رقم الحديث: 1619

نحوه .

3640 - أخرجه أيضًا البزار عن ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو ضعيف .

3640 - أخرجه أيضًا البزار عن ابراهيم بن اسماعيل بن يحيى بن سلمة وهو ضعيف .

عنه نے عرض کی: میں نے! آپ ﷺ نے فرمایا: آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے! آپ ﷺ نے فرمایا: آج تم میں سے کون جنازہ میں شریک ہوا ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی: میں نے! حضور ﷺ نے فرمایا: خوشخبری ہے جس نے مکمل کام اللہ کی رضا کے لیے کیے اللہ عزوجل اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔

یہ حدیث سلمہ بن کہیل سے ان کے بیٹے یحییٰ روایت کرتے ہیں ان کے والد سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لِأَصْحَابِهِ: أَيُّكُمْ أَصْبَحَ صَائِمًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا قَالَ: أَيُّكُمْ عَادَ مَرِيضًا؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، قَالَ أَيُّكُمْ شَيَّعَ جَنَازَةً؟ قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أَنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَيِّنًا، مَنْ كَمَلَتْ لَهُ هَذِهِ، بَنَى اللَّهُ لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ

لَمْ يَرَوْ هَذِهِ الْأَحَادِيثَ، عَنْ سَلْمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِيهِ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ



اس شیخ کے نام سے جس کا نام سلامہ ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضور ﷺ کے پاس سے گزرا اس حالت میں کہ آپ قضائے حاجت فرما رہے تھے اس نے آپ کو سلام کیا تو آپ نے جواب نہیں دیا، جب قضائے حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے ہتھیلی زمین پر ماری، تیمم کیا، پھر آپ ﷺ نے اس کے سلام کا جواب دیا۔

یہ حدیث اوزاعی سے صرف مسلمہ بن علی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ہشام بن عمار اکیلے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ مریض کی عیادت تین دن بعد کرتے تھے۔

یہ حدیث ابن جریج سے صرف مسلمہ بن علی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں ہشام بن عمار اکیلے

مَنْ اسْمُهُ سَلَامَةٌ

3641 - حَدَّثَنَا سَلَامَةٌ بْنُ نَاهِضٍ الْمَقْدِسِيُّ

قَالَ: نَا هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا الْأَوْزَاعِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوَلُّ، فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ، فَلَمَّا فَرَغَ ضَرَبَ بِكَفِّهِ فْتَيْمَمَ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ

3642 - حَدَّثَنَا سَلَامَةٌ بْنُ نَاهِضٍ قَالَ: نَا

هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ: نَا مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَعُودُ مَرِيضًا إِلَّا بَعْدَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، إِلَّا

مَسْلَمَةُ بْنُ عَلِيٍّ، تَفَرَّدَ بِهِ هِشَامُ بْنُ عَمَّارٍ

3641 - أخرجه ابن ماجة: الطهارة جلد 1 صفحه 126 رقم الحديث: 351. وفي الزوائد: اسناده ضعيف لضعف مسلمة بن على؛ وقال البخارى وأبو زرعة: منكر الحديث. وقال الحاکم: يروى عن الأوزاعى وغيره المنكرات والموضوعات .

3642 - أخرجه ابن ماجة: الجنائز جلد 1 صفحه 462 رقم الحديث: 1437. وفي الزوائد: اسناده ضعيف فيه: مسلمة ابن على؛ قال فيه البخارى وأبو حاتم وأبو زرعة: منكر الحديث؛ وقال ابن عدى: أحاديثه غير محفوظة؛ واتفقوا على تضعيفه .

ہیں۔

حضرت کلب بن حزن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اے قوم! تم کوشش سے جنت طلب کرو اور کوشش سے جہنم سے بھاگو بے شک جنت کا طالب سوتا نہیں ہے اور جہنم سے بھاگنے والا بھی نہیں سوتا ہے۔

کلب بن حزن، حضور ﷺ سے اس حدیث کے علاوہ کوئی روایت نہیں کرتے ہیں اور ان سے روایت نہیں مگر اسی سند سے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جہنم سے بچو! اگرچہ کھجور کا ایک حصہ صدقہ دے کر۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن صہیب سے صرف مبارک بن حمیم ہی روایت کرتے ہیں۔

3643 - حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ نَاهِصٍ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زُرَّارَةَ الرَّقِّيَّ قَالَ: حَدَّثَنِي يَعْلَى بْنُ الْأَشْدَقِ، عَنْ كَلْبِ بْنِ حَزْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: يَا قَوْمُ، اطْلُبُوا الْجَنَّةَ جَهْدَكُمْ، وَاهْرَبُوا مِنَ النَّارِ جَهْدَكُمْ، فَإِنَّ الْجَنَّةَ لَا يَنَامُ طَالِبُهَا، وَإِنَّ النَّارَ لَا يَنَامُ هَارِبُهَا لَمْ يُسَيِّدْ كَلْبُ بْنُ حَزْنٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، وَلَا يُرْوَى عَنْهُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3644 - حَدَّثَنَا سَلَامَةُ بْنُ جَعْفَرِ الرَّمَلِيِّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَانِئِ النَّيْسَابُورِيِّ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ سَحِيمٍ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَبٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صَهَبٍ، إِلَّا مُبَارَكُ بْنُ سَحِيمٍ



3643 - أخرجه أيضًا في الكبير - وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 233: وفيه يعلى بن الأشدق وهو ضعيف جدًا .

3644 - أخرجه أيضًا البزار من طريق محمد بن الفضل، ثنا حماد بن سلمة عن حميد بن أنس مرفوعاً بمثله، وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 3 صفحہ 109: ورجال البزار رجال الصحيح .

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام سلیمان ہے

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مجھ سے روزہ کی حالت میں مباشرت خفیہ کی۔

حضرت اسود علقمہ، حضرت عائشہ سے اسی کی مثل روایت کرتے ہیں۔

یہ دوسری حدیث حریث حکم سے اور حماد سے اور حریث سے صرف سعدان بن یحییٰ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سلیمان بن عبد الرحمن اکیلے ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ عنقریب میرے بعد مشرق و مغرب اور جزیرہ عرب میں زمین کا دھنس جانا ہوگا۔ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! کیا زمین میں دھنسا

مَنْ اسْمُهُ
سُلَيْمَانُ

3645 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَدَلَمِ الدِّمَشْقِيُّ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطْرٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: بَاشَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ صَائِمٌ

3646 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ بْنِ حَدَلَمِ قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ: نَا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ أَبِي مَطْرٍ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، وَعَلْقَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ، مِثْلَهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ الْآخَرَ عَنْ حُرَيْثِ، عَنِ الْحَكَمِ، وَحَمَادٍ، إِلَّا سَعْدَانُ بْنُ يَحْيَى، تَفَرَّدَ بِهِ: سُلَيْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ

3647 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَاذِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ: سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ، تَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

3645 - أصله في البخاري ومسلم بلفظ: كان النبي ﷺ يقبل ويباشر وهو صائم. أخرجه البخاري: الصوم جلد 4

صفحة 176 رقم الحديث: 1927، ومسلم: الصيام جلد 2 صفحہ 777 .

3646 - تقدم تخريجه .

3647 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 14: وفيه حكيم بن نافع وثقه ابن معين وضعفه غيره وبقيته رجاله

ثقات .

دیا جائے گا حالانکہ ان میں نیک لوگ ہوں گے؟
آپ ﷺ نے فرمایا: جی ہاں! جب وہاں کے رہنے
والے خمیٹ ہو جائیں گے۔

یہ حدیث یحییٰ بن سعد سے صرف حکیم بن نافع ہی
روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نے میری امت
کے اُن وسوسوں کو جو اُن کے دلوں میں آتے ہیں، معاف
کر دیا ہے جب تک اس پر عمل نہ کریں یا اس کے ساتھ
گفتگو نہ کریں۔

یہ حدیث قاسم بن معن سے صرف معافی بن
سلیمان ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حضور
ﷺ سے سنتی تھی کہ آپ عرض کرتے تھے: اے اللہ!
میری امت کا حساب آسان کر کے لینا! میں نے عرض
کی: یا رسول اللہ! حساب یسیر سے کیا مراد ہے؟ آپ
ﷺ نے فرمایا: اے عائشہ! اللہ عزوجل نے جس کے
نامہ اعمال کو دیکھا اور اس سے درگزر کیا (وہ کامیاب
ہے) جس سے حساب لیا گیا پس وہ ہلاک ہو گیا۔

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: سَيَكُونُ بَعْدِي خَسْفٌ
بِالْمَشْرِقِ، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِبِ، وَخَسْفٌ فِي جَزِيرَةِ
الْعَرَبِ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيَخَسَفُ بِالْأَرْضِ
وَفِيهِمُ الصَّالِحُونَ؟ قَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نَعَمْ إِذَا كَانَ أَكْثَرُ أَهْلِهَا الْخَبِيثِ
لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، إِلَّا
حَكِيمُ بْنُ نَافِعٍ

3648 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَاوَى قَالَ:
حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ قَالَ: نَا مِسْعَرٌ،
عَنْ قَنَادَةَ، عَنْ زُرَّارَةَ بْنِ أَوْفَى، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ
تَجَاوَزَ لِأُمَّتِي عَمَّا وَسَّوَسَتْ بِهِ أَنْفُسُهَا، مَا لَمْ تَعْمَلْ
بِهِ أَوْ تَكَلِّمْ بِهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مَعْنٍ، إِلَّا
الْمُعَاوَى بْنُ سُلَيْمَانَ

3649 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُعَاوَى قَالَ: نَا
أَبِي قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ أَبِيهِ،
عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ أَسْمَعُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: اللَّهُمَّ حَاسِبِنِي حِسَابًا يَسِيرًا
فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا الْحِسَابُ الْيَسِيرُ؟ فَقَالَ:
يَا عَائِشَةُ، يَنْظُرُ فِي كِتَابِهِ فَيَتَجَاوَزُ، عَنْ سَيِّئَاتِهِ، فَأَمَّا

3648- أخرجه البخاري: الايمان والنذور جلد 11 صفحه 557 رقم الحديث: 6664، ومسلم: الايمان جلد 1

صفحة 116 ولفظه للبخاري .

3649- أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحه 55 رقم الحديث: 24270 .

مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ فَقَدْ هَلَكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يَحْيَى بْنِ عُرْوَةَ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ، تَفَرَّدَ بِهِ مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ

یہ حدیث یحییٰ بن عروہ سے صرف محمد بن اسحاق روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن سلمہ اکیلے ہیں۔

3650 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ

الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا سَهَيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ الْجَارُودِيُّ، قَالَ: نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْوَانَ الْعَبْدِيُّ، عَنْ اِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ الْمَكِّيِّ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ: رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَنِي سَلَمَةَ، مَنْ سَيِّدُكُمْ الْيَوْمَ؟ قَالُوا: الْجِدُّ بْنُ قَيْسٍ، وَلَكِنَّا نَبْخُلُهُ، قَالَ: وَأَيُّ ذَا أَذْوَأَ مِنَ الْبُخْلِ؟ وَلَكِنْ سَيِّدُكُمْ عَمْرٍو بْنُ الْجَمُوحِ

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اے بنی سلمہ! آج تمہارا سردار کون ہے؟ انہوں نے عرض کی: جد بن قیس، ہم اس کو بخیل سمجھتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: بخل سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے؟ تمہارا سردار تو عمرو بن جموح ہے (جو بخلی ہے)۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ إِلَّا اِبْرَاهِيمُ بْنُ يَزِيدَ وَلَا عَنْ اِبْرَاهِيمَ إِلَّا سُلَيْمَانُ بْنُ مَرْوَانَ تَفَرَّدَ بِهِ سَهَيْلُ بْنُ اِبْرَاهِيمَ

یہ حدیث عمرو بن دینار سے صرف ابراہیم بن زید اور ابراہیم سے صرف سلیمان بن مروان ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسمیل بن ابراہیم اکیلے ہیں۔

3651 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ

قَالَ: نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَأَلْتُ رَبِّي مَسْأَلَةً، وَدِدْتُ أَنِّي لَمْ أَسْأَلْهُ، قُلْتُ: يَا رَبُّ، قَدْ كَانَتْ قَبْلِي رُسُلٌ، مِنْهُمْ مَنْ سَخَّرَتْ لَهُ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں نے اپنے رب سے مانگا حالانکہ میں مانگنا نہیں چاہتا تھا۔ میں نے عرض کی: اے رب! مجھ سے پہلے رسولوں میں سے کچھ ایسے تھے کہ ہوا ان کے تابع تھی ان میں کچھ مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ عزوجل نے فرمایا: کیا میں نے آپ کو یتیم نہیں پایا پھر جگہ

3650 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحہ 318: وفيه ابراهيم بن يزيد المكي وهو متروك .

3651 - أخرجه أيضاً في الكبير . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 256-257: وفيه عطاء بن السائب وقد

اختلط .

دی، کیا آپ کو اپنی محبت میں گم نہیں پایا، پس اپنی طرف راہ دی، کیا آپ کے لیے آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا، کیا آپ سے آپ کا بوجھ نہیں اتار دیا ہے! میں نے عرض کی: اے رب! کیوں نہیں! اے میرے رب! اتنی رفعت بھی تو کسی کو نہیں ملی۔

یہ حدیث حماد بن زید سے صرف ابوریح الزہرائی اور سلیمان بن ایوب صاحب بصری روایت کرتے ہیں۔

حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ ان کے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دو آدمیوں کے درمیان بغیر اجازت کے بیٹھنے سے منع فرمایا۔

یہ حدیث حماد بن زید سے صرف احمد بن عبدہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت ابو احوص اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضور ﷺ کے پاس آیا، آپ ﷺ نے ایک دیہاتی کو انتہائی خستہ حالت میں دیکھا، اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، آپ نے اس کو کہا: تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ اس نے عرض کی: ہر قسم کا مال مجھے اللہ نے دیا ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا: جب اللہ عزوجل کسی بندہ

الرِّيحَ، وَمِنْهُمْ مَنْ كَانَ يُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ: أَلَمْ أَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَجِدْكَ ضَالًّا فَهَدَيْتُكَ؟ أَلَمْ أَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ؟ وَوَضَعْتُ عَنكَ وَزْرَكَ؟ قُلْتُ: بَلَى يَا رَبُّ لَمْ يَرْفَعْ

هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، إِلَّا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ أَيُّوبَ، صَاحِبُ الْبَصْرِيِّ

3652 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الصَّبِيِّ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ قَالَ: نَا عَامِرُ الْأَحْوَلِ، عَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَجْلِسَ الرَّجُلُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ إِلَّا بِإِذْنِهِمَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ، إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ

3653 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْحَسَنِ الْعَطَّارُ قَالَ: نَا هُدْبَةُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ: نَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ آتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَرَأَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشْعَثَ أَغْبَرَ فِي هَيْئَةِ أَعْرَابِيٍّ، فَقَالَ: لَهُ مَا لَكَ مِنَ الْمَالِ؟ قَالَ: مِنْ

3652- أخرجه أبو داود: الأدب جلد 4 صفحہ 263 رقم الحديث: 4844 والترمذی: الأدب جلد 5 صفحہ 89 رقم

الحديث: 2752 ولفظ الترمذی: لا يحل للرجل أن يفرق وقال: هذا حديث حسن صحيح .

3653- قال الحافظ الهیثمی فی المجمع جلد 5 صفحہ 136: ورجالہ رجال الصحیح . وأخرجه أيضًا فی الصغیر .

پر نعمت کرے تو وہ پسند کرتا ہے کہ وہ نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھے۔

عبدالملک بن عمیر سے صرف حماد بن سلمہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن میں ایک ایسی سورت ہے کہ جس کی تمیں آیتیں ہیں، وہ اپنے پڑھنے والے کے لیے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں جھگڑے گی، وہ اپنے پڑھنے والے کو جنت میں داخل کرائے گی، وہ سورہ ملک ہے۔

اس حدیث کو ثابت سے صرف سلام ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: لہسن اور پیاز کھانے سے بچو، لہسن و پیاز کھا کر ہماری مسجدوں میں نہ آؤ، اگر تم نے ضروری کھانا ہے تو اس کو پکا کر کھاؤ۔

یہ دونوں حدیثیں سلام بن مسکین سے صرف شیبان بن فروخ ہی روایت کرتے ہیں۔

كُلِّ الْمَالِ قَدْ آتَانِي اللَّهُ قَالَ: فَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَنْعَمَ عَلَيَّ الْعَبْدِ نِعْمَةً أَحَبَّ أَنْ يُرَى عَلَيْهِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمِيرٍ، إِلَّا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ

3654 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ يَحْيَى

الطَّبِيبُ الْبَصْرِيُّ قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: نَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سُورَةٌ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هِيَ إِلَّا ثَلَاثُونَ آيَةً، خَاصَمَتْ عَنْ صَاحِبِهَا حَتَّى أَدْخَلَتْهُ الْجَنَّةَ، وَهِيَ سُورَةُ تَبَارَكَ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ ثَابِتِ الْبُنَانِيِّ إِلَّا سَلَامُ.

3655 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّبِيبُ

قَالَ: نَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ قَالَ: نَا سَلَامُ بْنُ مَسْكِينٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّاكُمْ وَهَاتَيْنِ الْبُقْلَتَيْنِ الْمُتَنَتَيْنِ أَنْ تَأْكُلُوهُمَا وَتَدْخُلُوا مَسَاجِدَنَا، فَإِنْ كُنْتُمْ لَا بَدَّ أَكَلُوهُمَا فَاقْتَنُوهُمَا بِالنَّارِ قَتَلًا

لَمْ يَرَوْ هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، عَنْ سَلَامِ بْنِ مَسْكِينٍ إِلَّا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخٍ

3654- أخرجه أيضاً في الصغير، وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 7 صفحه 130: ورجاله رجال الصحيح. وذكره

السيوطي في الجامع الصغير وعزاه أيضاً الى الضياء المقدسي، ورمز لصحته، ونقل المناوي عن ابن حجر أنه قال:

حديث صحيح. وأدخله الشيخ الألباني في صحيح الجامع الصغير، وقال: حسن.

3655- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 2 صفحه 20: ورجاله موثوقون.

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جس کو قاضی بنایا گیا اُس کو بغیر چھری کے ذبح کیا گیا۔

3656 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرَاخِ بْنِ أَبِي الرَّبِيعِ الْفَرَعَانِيُّ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ: نَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ جُعِلَ قَاضِيًا فَقَدْ ذُبِحَ بِغَيْرِ سِكِّينٍ

یہ حدیث سفیان سے صرف بکیر بن بکار روایت کرتے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سُفْيَانَ، إِلَّا بَكْرُ بْنُ بَكَّارٍ

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو امانت کی قسم اٹھاتے ہوئے دیکھا، آپ ﷺ نے فرمایا: کیا تو امانت کی قسم اٹھا رہا تھا؟

3657 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ فَرَاخِ بْنِ الْفَرَعَانِيُّ قَالَ: نَا عَبَادُ بْنُ الْوَلِيدِ الْغُبَرِيُّ قَالَ: نَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلًا حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ، فَقَالَ: أَلَسْتَ الَّذِي تَحْلِفُ بِالْأَمَانَةِ؟

یہ حدیث یونس بن عبید سے صرف عبدالوارث ہی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں حفص بن عمر الحوضی اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، إِلَّا عَبْدُ الْوَارِثِ، تَفَرَّدَ بِهِ: حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ



3656 - أخرجه أبو داود: الأفضية جلد 3 صفحہ 297 رقم الحديث: 3572، والترمذی: الأحكام جلد 3 صفحہ 605

وقال: هذا حديث حسن غريب. وابن ماجه: الأحكام جلد 2 صفحہ 774 رقم الحديث: 2308، وأحمد: المسند

جلد 2 صفحہ 308 رقم الحديث: 7164.

3657 - وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 4 صفحہ 181: ورجالہ ثقات.

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام سلم ہے

حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہم اپنے
والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کسی
والد کی اپنی اولاد کے لیے بہترین وراثت اچھا ادب
سکھانا ہے۔

یہ حدیث عمرو بن دینار سے صرف محمد بن موی
روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن عمر اکیلے
ہیں۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور
حضور ﷺ ایک ہی پانی کے برتن سے غسل کرتے تھے
میں عرض کرتی: میرے لیے بھی (پانی) چھوڑیں میرے
لیے بھی (پانی) چھوڑیں۔

یہ حدیث یونس سے صرف سالم بن نوح ہی روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن عبید اللہ بن
حفص اکیلے ہیں۔

مَنْ اسْمُهُ
سَلْمٌ

3658 - حَدَّثَنَا سَلْمٌ بْنُ عِصَامٍ أَبُو أُمَيَّةَ
الثَّقَفِيُّ الْأَصْبَهَانِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: نَا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى الْحَرَشِيُّ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ
قَهْرَمَانَ آلِ الزُّبَيْرِ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ
قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا
وَرَّثَ وَالِدٌ وَلَدًا خَيْرًا مِنْ آدَبٍ حَسَنٍ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، إِلَّا
مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عَمْرٍو إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ

3659 - حَدَّثَنَا سَلْمٌ بْنُ عِصَامٍ قَالَ: نَا
مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ بْنِ هِشَامِ بْنِ زَيْدِ بْنِ
أَنَسٍ قَالَ: نَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عُبَيْدٍ، عَنْ
الْحَسَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، قَالَتْ: كُنْتُ
أَغْتَسِلُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
إِنَاءٍ وَاحِدٍ فَأَقُولُ: أَبَقِ لِي، أَبَقِ لِي

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ يُونُسَ، إِلَّا سَالِمُ بْنُ
نُوحٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ حَفْصِ

3658- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 8 صفحہ 108-109: وفيه عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير وهو ضعيف .

3659- أخرجه الطبرانی في الكبير جلد 23 صفحہ 367 رقم الحديث: 868، والطبرانی في الصغير جلد 1 صفحہ 177

وقال: لم يروه عن يونس الا سالم بن نوح العطار تفرد به محمد بن عبید اللہ بن حفص .

مَنْ اسْمُهُ سَيْفٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام سیف ہے

حضرت ابو نعیم صحابی رسول ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: میری امت کی مثال بارش کی طرح ہے، کوئی نہیں جانتا کہ اس کے اول حصہ میں برکت ہے یا آخری حصہ میں۔

ابو نعیم کا نام عمران بن حصین الخزاعی ہے یہ حدیث عمران بن حصین سے اسی سند سے روایت ہے اس کو روایت کرنے میں ابن ابی السری اکیلے ہیں۔

حضرت ابن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے وضو کے لیے پانی مانگا تو آپ نے سارے اعضاء کو ایک ایک دفعہ دھویا فرمایا: نماز اس وضو کے ساتھ قبول ہوتی ہے پھر ہر عضو کو دو مرتبہ دھویا اور فرمایا: یہ وہ وضو ہے جو تم سے پہلے امتیں کرتی تھیں، پھر آپ نے ہر عضو کو تین تین مرتبہ دھویا اور فرمایا: یہ میرا وضو ہے اور مجھ سے پہلے انبیاء بھی ایسے ہی وضو کرتے تھے۔

3660 - حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو التَّمَامِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا مُوسَى بْنُ طَارِقٍ أَبُو قُرَّةَ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ أَبِي نُجَيْدٍ صَاحِبِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: أُمَّتِي كَالْمَطَرِ لَا يُدْرَى أَوَّلُهُ خَيْرٌ أَمْ آخِرُهُ

أَبُو نُجَيْدٍ عِمْرَانُ بْنُ حَصِينٍ الْخَزَاعِيُّ، وَلَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حَصِينٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي السَّرِيِّ

3661 - حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمْرٍو الْغَزِّيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ الْعَسْقَلَانِيُّ قَالَ: نَا أَبُو هُنَيْدَةَ قَالَ: نَا ابْنُ لَهَيْعَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هُبَيْرَةَ، عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: دَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، بِوَضُوءٍ فَتَوَضَّأَ وَاحِدَةً وَاحِدَةً، فَقَالَ: هَذَا الْوَضُوءُ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ الصَّلَاةَ إِلَّا بِهِ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثِنْتَيْنِ ثِنْتَيْنِ، فَقَالَ: هَذَا وَضُوءُ الْأُمَّمِ

3660 - أخرجه أيضاً البزار عن عبيد بن محمد، ثنا اسماعيل بن نصر، ثنا عباد بن راشد، عن عمران بن حصين بنحوه، وقال: لا

نعلمه يروى عن النبي ﷺ باسناد أحسن من هذا. وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 10 صفحہ 71: واسناد

البزار حسن .

3661 - قال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 1 صفحہ 234: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

قَبْلَكُمْ ثُمَّ تَوَضَّأَ ثَلَاثًا ثَلَاثًا، فَقَالَ هَذَا وَضُوءِي
وَوَضُوءُ الْأَنْبِيَاءِ مِنْ قَبْلِي

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ إِلَّا بِهَذَا
الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ

3662 - حَدَّثَنَا سَيْفُ بْنُ عَمْرٍو الْعَزْرِيُّ

قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ قَالَ: نَا عَمْرُو بْنُ أَبِي
سَلَمَةَ، عَنْ صَدَقَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ أَبِي
كَرِيمَةَ، عَنْ أَبِي قُرَّةَ عَطَاءِ بْنِ أَبِي قُرَّةَ، عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ ضَمْرَةَ السَّلُولِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا الدَّرْدَاءِ،
يَقُولُ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا
سَمِعَ النِّدَاءَ قَالَ: اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ
وَالصَّلَاةُ الْقَائِمَةُ، صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ
وَرَسُولُكَ، وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَالَ هَذَا عِنْدَ
النِّدَاءِ جَعَلَهُ اللَّهُ فِي شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

لَا يُرَوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ أَبِي الدَّرْدَاءِ إِلَّا
بِهَذَا الْإِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ أَبِي سَلَمَةَ

یہ حدیث ابن بریدہ سے اسی سند سے روایت ہے
اس کو روایت کرنے میں محمد بن ابی السری اکیلے ہیں۔

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ جب اذان سنتے تو اس کے بعد یہ دعا کرتے:
”اللَّهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدَّعْوَةُ التَّامَّةُ وَالصَّلَاةُ
الْقَائِمَةُ، صَلَّى عَلَيَّ مُحَمَّدٌ عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ،
وَاجْعَلْنَا فِي شَفَاعَتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ“۔ حضور ﷺ نے
فرمایا: جس نے اذان سن کر یہ دعا کی تو قیامت کے دن
اللہ عزوجل اس کے لیے میری شفاعت واجب کر دے
گا۔

ابوالدرداء سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے
اس کو روایت کرنے میں عمرو بن ابی سلمہ اکیلے ہیں۔



3662- أخرجه أيضًا في كتاب الدعاء . وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحہ 336: وفيه صدقه بن عبد الله

السمين، ضعفه أحمد والبخاري ومسلم وغيرهم، ووثقه دحيم وأبو حاتم وأحمد بن صالح المصري .

بَابُ الشَّيْنِ

مَنْ اسْمُهُ

شُعَيْبٌ

باب الشين
اس شیخ کے نام سے
جس کا نام شعيب ہے

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما "الناقور" کا معنی بیان کرتے ہیں کہ اس کا معنی صور ہے۔ اور حضور ﷺ نے فرمایا: میں کیسے خوش ہو سکتا ہوں جبکہ اسرائیل علیہ السلام صور منہ میں لیے ہوئے ہیں۔

یہ حدیث ادریس اودی عطیہ سے وہ ابن عباس سے اور ادریس سے صرف ابن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں۔ ابو مسلم قائد اعمش سے ابو ادریس سے وہ عطیہ سے وہ ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں۔

حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کافر کو کہا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: میں نہیں جانتا، وہ اُس وقت زیادہ گونگا اندھا اور بہرا ہوگا اس کو ایک نیزہ مارا جائے گا اگر وہ نیزہ پہاڑ پر مارا جائے تو وہ مٹی ہو جائے، اس کی آواز ہر شے

3663 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي اِدْرِيسُ الْاَوْدِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: النَّاقُورُ: الصُّورُ، وَهُوَ قَرْنٌ، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَيْفَ اَنْعَمَ وَقَدْ اَنْقَمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ اِدْرِيسِ الْاَوْدِيِّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ اِلَّا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَرَوَاهُ أَبُو مُسْلِمٍ قَائِدُ الْاَعْمَشِ، عَنِ الْاَعْمَشِ، عَنْ أَبِي اِدْرِيسَ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ

3664 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَانَ بْنَ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنَ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: نَا الْاَعْمَشُ قَالَ: حَدَّثَنِي سَعْدُ بْنُ عُبَيْدَةَ، عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

3663- أخرجه أيضًا أحمد أطول منه، عن أسباط، ثنا مطرف، عن عطية به. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10

صفحة 334. وفيه عطية العوفى وهو ضعيف، وفيه توثيق لين.

3664- أخرجه أبو داود: السنة جلد 4 صفحه 239-240 رقم الحديث: 4753، وأحمد: المسند جلد 4 صفحه 363 رقم

الحديث: 18639 من حديث طويل وعزاه الحافظ السيوطى أيضًا الى ابن أبى شيبة وهناد بن السرى فى الزهد

وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبى حاتم وابن مردويه. انظر الدر المنثور جلد 4 صفحه 78.

سنے گی مگر انسان اور جن نہیں سنتے ہیں۔ اور فرمایا: میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ آپ یہ آیت پڑھ رہے تھے: اللہ عزوجل ایمان والوں کا (لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ) کے پڑھنے کی وجہ سے دنیا و آخرت میں ثابت قدم رکھے گا اللہ عزوجل ظلم کرنے والوں کو گمراہ کرتا ہے۔

یہ حدیث اعمش سے یحییٰ بن زکریا بن ابی زائدہ روایت کرتے ہیں۔

حضرت عقبہ بن عامر اور ابو مسعود رضی اللہ عنہما بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نے کہا: میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا وہ قبروں کو اکھاڑتا تھا اس نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور ہڈیاں پکڑ کر پھینک دینا پس اس کے ساتھ ایسے ہی کیا گیا۔ اللہ عزوجل نے اُس سے فرمایا: تُو نے ایسے کیوں کیا؟ اس نے عرض کی: اے رب! تجھ سے ڈر گیا تھا اللہ عزوجل نے اس کو بخش دیا۔ حضرت عقبہ نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے۔

یہ حدیث زکریا بن ابی زائدہ سے صرف ان کے بیٹے یحییٰ ہی روایت کرتے ہیں۔

وَسَلَّمَ: يُقَالُ لِلْكَافِرِ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: لَا أَدْرِي، فَهُوَ تِلْكَ السَّاعَةَ أَصَمُّ أَعْمَى أَبْكُمْ، فَيُضْرَبُ بِمِرْزِيَّةٍ، لَوْ ضُرِبَ بِهَا جَبَلٌ صَارَ تُرَابًا فَيَسْمَعُهَا كُلُّ شَيْءٍ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ قَالَ: وَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ (يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ) (ابراہیم: 27)

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَعْمَشِ، إِلَّا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ

3665 - حَدَّثَنَا شُعَيْبُ بْنُ عِمْرَانَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَسْكَرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي رَبِيعُ بْنُ حِرَاشٍ قَالَ: بَيْنَا حُدَيْفَةُ، وَعُقْبَةُ بْنُ عَمْرٍو أَبُو مَسْعُودٍ جَالِسِينَ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَانَ يَنْبِشُ الْقُبُورَ، فَقَالَ لِأَهْلِيهِ: إِذَا أَنَا مِتُّ فَحَرِّقُونِي، ثُمَّ خُذُوا عَظْمِي فَاطْحَنُوهَا، ثُمَّ انظُرُوا يَوْمًا رَانِحًا فَادْرُونِي فِيهِ، ففَعِلَ ذَلِكَ بِهِ، فَقَالَ: لَهُ رَبُّهُ: لِمَ فَعَلْتَ ذَلِكَ؟ قَالَ: مَخَافَةٌ مِنْكَ يَا رَبُّ، فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ عُقْبَةُ: وَأَنَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ، إِلَّا ابْنُهُ يَحْيَى

مَنْ اسْمُهُ شَبَابٌ

اس شیخ کے نام سے جس کا نام شباب ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قرآن کی اپنی رائے سے تفسیر بیان کرنا کفر ہے۔

یہ حدیث زہری سے صرف عنہ الحداد روایت کرتے ہیں۔

حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: شراب تمام گناہوں کی جڑ ہے، جس نے اس کو پیا اس کی چالیس دن تک نمازیں قبول نہیں ہوں گی اور اگر اس کو اس حالت میں موت آئی کہ وہ شراب اس کے پیٹ میں تھی تو وہ جاہلیت کی موت مرا۔

یہ حدیث ولید بن عبادہ سے صرف حکم بن عبدالرحمن روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن ربیعہ اکیلے ہیں۔

3666 - حَدَّثَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ الْوَائِطِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ الْمُتَوَكِّلِ، عَنْ عَنبَسَةَ الْحَدَّادِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ، وَأَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْمِرَاءُ فِي الْقُرْآنِ كُفْرٌ لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا عَنبَسَةُ الْحَدَّادِ

3667 - حَدَّثَنَا شَبَابُ بْنُ صَالِحِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ حَرْبٍ النَّشَائِيُّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ الْكِلَابِيِّ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَعْمِ الْبَجَلِيِّ، عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْخَمْرُ أُمُّ الْخَبَائِثِ فَمَنْ شَرِبَهَا لَمْ تُقْبَلْ مِنْهُ صَلَاتُهُ أَرْبَعِينَ يَوْمًا، فَإِنْ مَاتَ وَهِيَ فِي بَطْنِهِ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ، إِلَّا الْحَكَمُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ رَبِيعَةَ

3666 - أخرجه أبو داؤد: السنة جلد 4 صفحہ 199 رقم الحديث: 4603، وأحمد: المسند جلد 2 صفحہ 401 رقم

الحديث: 8009 .

3667 - وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 5 صفحہ 75: وشيخه شباب بن صالح لم يعرفه، وبقية رجاله ثقات، وفي

بعضهم كلام لا يضر. وأورده الشيخ الألباني في سلسلة الصحيحة وحسنه.

مَنْ اسْمُهُ شَرَّاحِيلُ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام شراحیل ہے

حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔

3668 - حَدَّثَنَا شَرَّاحِيلُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو

الْوَرْدُ الْبَالِسِيُّ الْقَاضِي قَالَ: نَا عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ
الْحَلَبِيُّ قَالَ: نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ مُحَمَّدِ
بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ صَلَّى خَلْفَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ

یہ حدیث مالک سے صرف ابن مبارک روایت
کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں عبید بن ہشام اکیلے
ہیں۔

لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَالِكٍ، إِلَّا ابْنُ
الْمُبَارَكِ، تَفَرَّدَ بِهِ: عُبَيْدُ بْنُ هِشَامٍ



3668- أخرجه أيضًا في الصغير. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحہ 49: وفيه عبید بن ہشام وثقه أبو حاتم

وغیره، وفيه خلاف.

مَنْ اسْمُهُ

شَيْبَانُ

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام شیبان ہے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے
دوست ﷺ نے مجھے تین چیزوں کی وصیت کی: ہر ماہ
تین روزے رکھنے کی، جمعہ کے دن غسل کرنے کی، سونے
سے پہلے وتر پڑھنے کی۔

3669 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ أَبُو أَحْمَدَ
الْمُسَمَعِيُّ قَالَ: نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ
قَيْسٍ، عَنِ مُحَمَّدِ بْنِ وَاسِعٍ، عَنِ مَعْرُوفٍ، عَنِ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ: أَوْصَانِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بثَلَاثٍ: صِيَامٍ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَالْغُسْلِ يَوْمَ
الْجُمُعَةِ، وَالْوِتْرِ قَبْلَ النَّوْمِ



باب الصاد

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام صالح ہے

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایک بوڑھا آدمی نبی کریم ﷺ کے پاس آیا، اُس نے عرض کی: یا رسول اللہ! مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں کہ جس کے ذریعے میں اللہ کے قریب ہو جاؤں! آپ ﷺ نے فرمایا: اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اُس نے عرض کی: میں اس کی طاقت نہیں رکھتا، میں بوڑھا اور کمزور ہو گیا ہوں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: اذان دینے والے بن جاؤ۔

یہ حدیث عبدالعزیز بن قریر سے صرف مبارک بن راشد روایت کرتے ہیں۔ ان سے داؤد بن شیبہ اکیلے روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جب کسی بستی میں اذان دی جاتی ہے تو اللہ عزوجل اس دن اس بستی والوں سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔

بَابُ الصَّادِ

مَنْ اسْمُهُ
صَالِحٌ

3670 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ أَبُو

شُعَيْبٍ الْبَصْرِيُّ بِمِصْرَ قَالَ: نَا دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ قَالَ: نَا مُبَارَكُ بْنُ رَاشِدٍ الدَّارِمِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ قُرَيْرٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ شَيْخًا هَرَمًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، عَلِّمْنِي عَمَلًا أَتَقَرَّبُ بِهِ إِلَى رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: عَلَيْكَ بِالْجِهَادِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ: لَا أَسْتَطِيعُ ذَلِكَ كِبَرْتُ، عَنْ ذَلِكَ، وَضَعُفْتُ قَالَ: فَكُنْ مُؤَدِّنًا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ قُرَيْرٍ، إِلَّا مُبَارَكُ بْنُ رَاشِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: دَاوُدُ بْنُ شَيْبٍ، وَلَا يُرْوَى عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3671 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ الْبَصْرِيُّ

قَالَ: نَا بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقُرَشِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدِ بْنِ عَمَّارِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا أُذِنَ فِي قَرْيَةٍ أَمْنَهَا اللَّهُ

3670- وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 1 صفحہ 330: وفيه قريب والذ الاصمعي وهو منكر الحديث .

3671- أخرجه أيضاً في الصغير والكبير . وقال الحافظ الهيثمي في المعجم جلد 1 صفحہ 331: وفيه عبد الرحمن بن سعد

بن عمارة ضعفه ابن معين .

مِنْ عَذَابِهِ ذَلِكَ الْيَوْمَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سَلِيمٍ، إِلَّا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَعْدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: بَكْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ

یہ حدیث سفیان بن سلیم سے صرف عبدالرحمن بن سعد روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں بکر بن محمد اکیلے ہیں۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: قیامت کے دن موت کو لایا جائے گا اور جنت اور دوزخ کے درمیان روکا جائے گا ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا: اے جنت والو! وہ دیکھیں گے تو ان کو کہا جائے گا کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ وہ عرض کریں گے: اے ہمارے رب! یہ موت ہے اُس کو جنت اور دوزخ کے درمیان ذبح کیا جائے گا۔ جنت والوں کو کہا جائے گا: ہمیشہ رہو اب موت نہیں ہے۔

یہ حدیث قتادہ سے صرف خالد بن قیس اور خالد سے نوح بن قیس ہی روایت کرتے ہیں۔ اس کو روایت کرنے میں نافع بن خالد العطاحی اکیلے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کے بعد اس اُمت میں افضل ابو بکر اور عمر ہیں۔

3672 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ شُعَيْبٍ قَالَ: نَافِعُ بْنُ خَالِدِ الطَّاحِيُّ قَالَ: نَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ أَخِيهِ خَالِدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يُجَاءُ بِالْمَوْتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُوقَفُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، فَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ، فَيَطَّلِعُونَ، فَيَقَالُ لَهُمْ: اتَّعْرِفُونَ هَذَا فَيَقُولُونَ: يَا رَبَّنَا، هَذَا الْمَوْتُ، فَيُذْبَحُ بَيْنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ، وَيُقَالُ لَهُمْ: خُلُودٌ لَا مَوْتَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ قَتَادَةَ، إِلَّا خَالِدُ بْنُ قَيْسٍ، وَلَا، عَنْ خَالِدِ، إِلَّا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: نَافِعُ بْنُ خَالِدِ الطَّاحِيُّ

3673 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِقَاتِلِ بْنِ صَالِحِ الْبَغْدَادِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ: نَاعِمُ بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ الْفُقَيْمِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: خَيْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ، وَعُمَرُ

3672- أخرجه أيضًا أبو يعلى، والبخاري، عن نافع بن خالد الطاحي به، نحوه. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10

صفحة 398: ورجالهم رجال الصحيح غير نافع بن خالد الطاحي وهو ثقة.

3673- أصله عند البخاري من طريق محمد ابن الحنفية قال: قلت لأبي: أي الناس خير بعد رسول الله ﷺ؟ فذكر نحوه.

أخرجه البخاري: فضائل الصحابة جلد 7 صفحہ 24 رقم الحديث: 3671. وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 138

رقم الحديث: 881 ولفظه له.

یہ حدیث عبدالملک بن ابجر سے صرف عمرو بن عبدالغفار ان کے بیٹے عبدالرحمن بن عبدالملک بن ابجر۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ
أَبَجَرَ، إِلَّا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْغَفَّارِ، وَابْنُهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ
بُنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبَجَرَ

حضرت قبیصہ بن مخارق الحلالی فرماتے ہیں کہ میں نے تلوار کا پٹہ اٹھایا۔ پس انہوں نے حدیث بیان کی۔

3674 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ قَالَ: نَا أَبِي قَالَ: نَا
أَبُو هَمَّامٍ مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبْرِقَانَ قَالَ: نَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ
السَّحْسَنِ الْعَنْبَرِيُّ، عَنْ هَارُونَ بْنِ رِثَابٍ، عَنْ كِنَانَةَ
بْنِ نَعِيمٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ مُخَارِقِ الْهَلَالِيِّ
قَالَ: تَحَمَّلْتُ حَمَالَةَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ

حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں اپنی امت کے مردوں پر اپنے بعد سب سے نقصان دہ فتنہ عورتوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں۔

3675 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
مُقَاتِلِ الْبَغْدَادِيِّ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ خَلْفِ التَّيْمِيِّ
الْكُوفِيِّ قَالَ: نَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الْمَعْنِيِّ قَالَ:
نَا مِنْدَلُ بْنُ عَلِيٍّ، عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي
عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا تَرَكَتُ بَعْدِي فِتْنَةً أَضَرَّ
مِنَ النِّسَاءِ عَلَى الرِّجَالِ

یہ حدیث عاصم الاحول سے مندل روایت کرتے ہیں اور اس کو روایت کرنے میں علی بن حمید اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَاصِمِ الْأَحْوَلِ،
تَفَرَّدَ بِهِ: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: طلاق نکاح کے بعد ہی ہوتی

3676 - حَدَّثَنَا صَالِحٌ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي
مُقَاتِلِ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقُطَيْبِيُّ قَالَ: نَا

3674- أخرجه مسلم: الزكاة جلد 2 صفحہ 722، وأبو داؤد: الزكاة جلد 2 صفحہ 123 رقم الحديث: 1640، والنسائي: الزكاة جلد 5 صفحہ 66 (باب الصدقة لمن تحمل بحمالة)، والدارمي: الزكاة جلد 1 صفحہ 487 رقم الحديث: 1678، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 579 رقم الحديث: 15922.

3675- أخرجه البخاري: النكاح جلد 9 صفحہ 41 رقم الحديث: 5096، ومسلم: الذكر والدعاء جلد 4 صفحہ 2097.
3676- أخرجه أيضًا في الصغير. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 4 صفحہ 337: أحمد بن صالح كذا في المجمع والصواب صالح بن أحمد متروك.

عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ الْبَارِقِيُّ، عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا طَلَّاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَيُّوبَ، إِلَّا عَاصِمُ بْنُ هِلَالٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَطْعِيُّ

یہ حدیث ایوب سے صرف عاصم بن ہلال ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں یحییٰ بن القطعی اکیلے ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے: "أَعُوذُ بِرِضَاكَ إِلَى آخِرِهِ"۔

3677 - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي مُقَاتِلٍ قَالَ: نَا سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ بْنِ سَلَمٍ قَالَ: نَا أَبِي، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُولُ: أَعُوذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ، وَأَعُوذُ بِمَعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبَتِكَ، وَأَعُوذُ بِرَحْمَتِكَ مِنْ عَذَابِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، لَا أَحْصِي ثَنَاءً عَلَيْكَ، أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَيَّ نَفْسِكَ لَمْ يَرَوْهُ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا جُنَادَةُ بْنُ سَلَمٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: سَلَمُ بْنُ جُنَادَةَ

یہ حدیث عبید اللہ بن عمر سے صرف جنادہ بن سلم ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں سلم بن جنادہ اکیلے ہیں۔

امام طبرانی فرماتے ہیں کہ میں نے صلیحہ بنت ابی نعیم الفضل بن دکین کو کہتے ہوئے سنا وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے ہوئے سنا: قرآن اللہ کا کلام ہے مخلوق نہیں جو کہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے۔

3678 - سَمِعْتُ صَالِحَةَ بِنْتِ أَبِي نَعِيمٍ الْفَضْلِ بْنِ دُكَيْنٍ، تَقُولُ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ، مَنْ قَالَ: الْقُرْآنُ مَخْلُوقٌ فَهُوَ كَافِرٌ



بَابُ الضَّادِ مُهْمَلٌ

بَابُ الطَّاءِ

مَنْ اسْمُهُ

طَالِبٌ

باب الضاد مهمل

باب الطاء

اس شیخ کے نام سے

جس کا نام طالب ہے

حضرت عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: آزاد عورت سے عزل اس کی اجازت سے کیا جائے۔

یہ حدیث زہری سے جعفر بن ربیعہ اور جعفر سے صرف ابن لہیعہ روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں اسحاق بن عیسیٰ اکیلے ہیں اور حضور ﷺ سے اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت عبدالرحمن بن ابوسعید الخدری رضی اللہ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: کوئی آدمی کسی کی شرمگاہ کی طرف نہ دیکھے نہ کوئی عورت دوسری عورت کی شرمگاہ کو دیکھے کوئی آدمی

3679 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةٍ الْأَذْنَبِيُّ قَالَ:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا أَخِي إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُقْبَةَ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَرَّرِ بْنِ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُمَرَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يُعْزَلُ عَنِ الْحُرَّةِ إِلَّا بِإِذْنِهَا

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ، وَلَا عَنْ جَعْفَرٍ، إِلَّا ابْنُ لَهِيْعَةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: إِسْحَاقُ بْنُ عَيْسَى، وَلَا يَرَوِي عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3680 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةٍ قَالَ: نَا

مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي فُدَيْكٍ، عَنِ الصَّحَّاحِ بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ

3679- أخرجه ابن ماجه: النكاح جلد 1 صفحہ 620 رقم الحديث: 1928، وأحمد: المسند جلد 1 صفحہ 40 رقم

الحديث: 213 ولفظهما: نهى عن العزل عن الحرة الا باذنها. وفي اسنادهما ابن لهيعة وهو ضعيف .

3680- أخرجه مسلم: الحيض جلد 1 صفحہ 266، وأبو داؤد: الحمام جلد 4 صفحہ 40 رقم الحديث: 4018، والترمذی:

الأدب جلد 5 صفحہ 109 رقم الحديث: 2793، وأحمد: المسند جلد 3 صفحہ 78 رقم الحديث: 11607 .

دوسرے آدمی کے راز کو ظاہر نہ کرے اور کوئی عورت دوسری عورت کے راز کو ظاہر نہ کرے۔

الْخُدْرِي، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ، وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ، وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ، وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَسْلَمَ، إِلَّا الضَّحَّاكُ بْنُ عُثْمَانَ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ، وَزَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ

3681 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ قَالَ: نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا مُبَشِّرُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ تَمَّامِ بْنِ نَجِيحٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ أَنَّ غَرْبًا مِنْ جَهَنَّمَ جُعِلَ وَسَطَ الْأَرْضِ لَأَذَى نَتْنِ رِيحِهِ وَشِدَّةَ حَرِّهِ مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، وَلَوْ أَنَّ شَرْرَةَ مِنْ شَرِّ جَهَنَّمَ بِالْمَشْرِقِ لَوَجَدَ حَرَّهَا مَنْ بِالْمَغْرِبِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ، إِلَّا تَمَّامُ بْنُ نَجِيحٍ

3682 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذِنِيُّ قَالَ: نَا الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى الْحَرَبِيُّ قَالَ: نَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سَمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ، وَيُعْطِي عَلَى الرَّفِيقِ مَا لَا يُعْطَى عَلَى

یہ حدیث زید بن اسلم سے صرف ضحاک بن عثمان روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں ابن ابی فدیک اور زید بن حباب اکیلے ہیں اور حضرت ام سعید سے یہ حدیث اسی سند سے روایت ہے۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: اگر جہنم سے کوئی جز زمین کے درمیان رکھا جائے تو اس کی سخت بدبو سے اور گرمی سے مشرق اور مغرب تکلیف میں مبتلا ہو جائے، جہنم کے انگاروں میں سے ایک انگارہ اگر مشرق میں ہو تو مغرب میں موجود آدمی اس کی گرمی محسوس کرے۔

یہ حدیث حسن سے صرف تمام بن نجیح ہی روایت کرتے ہیں۔

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: بے شک اللہ عزوجل نرم ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے، نرمی کرنے پر وہ کچھ دیتا ہے جو سختی کرنے پر نہیں دیتا ہے۔

الْعَنْفِ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سِمَاكِ، إِلَّا أَبُو
الْأَحْوَصِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْحَسَنُ بْنُ عَيْسَى الْحَرْبِيُّ

یہ حدیث سماک سے صرف ابو احوص روایت کرتے
ہیں اس کو روایت کرنے میں حسن بن عیسیٰ الحربی اکیلے
ہیں۔

حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس
نے اپنا نسب بدلا اس کے لیے جنت حرام ہوگئی۔ حضرت
ابو عثمان فرماتے ہیں کہ میں ابوبکرہ سے ملا میں نے یہ
حدیث ذکر کی فرمایا: میں نے اپنے دونوں کانوں سے سنا
اور اپنے دل میں یاد کیا حضور ﷺ سے۔

3683 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذْنِيُّ قَالَ:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ
عَلِيَّةَ، عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ، عَنْ عَاصِمٍ، فَلَقِيتُ عَاصِمًا
بِمَكَّةَ فَحَدَّثَنَا، عَنْ أَبِي عُمَانَ النَّهْدِيِّ، عَنْ سَعْدِ بْنِ
أَبِي وَقَاصٍ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ ادَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ فَالْجَنَّةُ عَلَيْهِ
حَرَامٌ قَالَ أَبُو عُمَانَ: فَلَقِيتُ أَبَا بَكْرَةَ، فَذَكَرْتُ
ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ: سَمِعْتُهُ أُذْنِي، وَوَعَاهُ قَلْبِي مِنْ
مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

یہ حدیث خالد عاصم سے اور عاصم سے صرف ابن
علیہ ہی روایت کرتے ہیں اس کو روایت کرنے میں محمد بن
عیسیٰ الطباع اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ خَالِدِ، عَنْ عَاصِمٍ،
إِلَّا ابْنُ عَلِيَّةَ، تَفَرَّدَ بِهِ: مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ

حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور
ﷺ نے فرمایا: میں نیک لگا کر نہیں کھاتا ہوں۔

3684 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذْنِيُّ قَالَ:

نَا مُحَمَّدُ بْنُ عَيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ
رَقِيبَةَ بْنِ مَصْقَلَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ
أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِي جُحَيْفَةَ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا أَكُلُ مُتَكِنًا لَمْ يُدْخَلْ فِي

3683- أخرجه البخارى: الفرائض جلد12 صفحه54 رقم الحديث: 6766-6767، ومسلم: الايمان جلد1 صفحه80 .

3684- أخرجه البخارى: الأطعمة جلد9 صفحه451 رقم الحديث: 5398، وأبو داؤد: الأطعمة جلد3 صفحه3427

رقم الحديث: 3769، والترمذى: الأطعمة جلد4 صفحه273 رقم الحديث: 1830، وابن ماجه: الأطعمة جلد2

صفحة1086 رقم الحديث: 3262، وأحمد: المسند جلد4 صفحه378 رقم الحديث: 18781 .

علی بن اقر اور ابی جحیفہ کی اس حدیث میں عون بن ابی جحیفہ داخل نہیں ہیں مگر محمد بن عیسیٰ الطباع، ایک جماعت نے ابو عوانہ سے، وہ رقبہ سے، وہ علی بن اقر سے، وہ ابو جحیفہ سے۔

حضرت مقدم بن معدی کرب الکندی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: اللہ عزوجل سے ایسی طمع کی پناہ مانگو جو طمع کی طرف لے جائے، یعنی وہ عادت بن جائے اور اس لالچ سے بھی اللہ کی پناہ مانگو جو ایسی چیز کی طرف لے جائے جس کی خواہش نہ کی جاسکتی ہو۔

هَذَا الْحَدِيثُ بَيْنَ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ وَبَيْنَ أَبِي جَحِيْفَةَ، عَوْنُ بْنُ أَبِي جَحِيْفَةَ إِلَّا مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسَى الطَّبَّاعُ وَرَوَاهُ جَمَاعَةٌ عَنْ أَبِي عَوَانَةَ، عَنْ رَقْبَةَ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْأَقْمَرِ، عَنْ أَبِي جَحِيْفَةَ

3685 - حَدَّثَنَا طَالِبُ بْنُ قُرَّةَ الْأَذْنِيُّ قَالَ:

نَا مُحَمَّدَ بْنَ عِيْسَى الطَّبَّاعُ قَالَ: نَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عِيَّاشٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ سُلَيْمٍ أَبُو سَلَمَةَ الْكِنَانِيُّ، عَنْ يَحْيَى بْنِ جَابِرِ الطَّائِي، عَنِ الْمُقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ الْكِنْدِيِّ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: تَعَوَّذُوا بِاللَّهِ مِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى طَبْعٍ وَمِنْ طَمَعٍ يَهْدِي إِلَى غَيْرِ مَطْمَعٍ



3685- أخرجه أيضًا في الكبير جلد 20 صفحہ 274. وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 10 صفحہ 147: وفيه محمد

بن سعيد بن الطباع، ولم أعرفه. قلت: هو محمد بن عيسى والطباع عيسى تحرف عند الحافظ الهيثمي الى سعيد ولذا لم يعرف.

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام
طاہر ہے

مَنْ
اسْمُهُ
طَاهِرٌ

حضرت عمرو بن مرہ الجعفی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو فرماتے ہوئے سنا: جس
نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، اس کو چاہیے کہ وہ
اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔

3686 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَلِيٍّ الطَّبْرَانِيُّ
قَالَ: نَا اِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْوَلِيْدِ الطَّبْرَانِيُّ قَالَ: نَا
الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ، عَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ زُمَيْلٍ، عَنِ اَبِي
اَسْمَاءَ السَّكْسَكِيِّ، عَنِ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ الْجُهَنِيِّ
قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُوْلُ: مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوْا مَقْعَدَهُ مِنَ
النَّارِ

عمرو بن مرہ سے یہ حدیث اسی سند سے روایت
ہے، اس کو روایت کرنے میں بشیم بن عدی اکیلے
ہیں۔

لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْثَةَ اِلَّا
بِهَذَا الْاِسْنَادِ، تَفَرَّدَ بِهِ: الْهَيْثَمُ بْنُ عَدِيٍّ

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
کہ نبی کریم ﷺ کی لونڈی آپ کے بیٹے حضرت
ابراہیم کی ماں کے گھر میں ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی۔
ایک قبلی اُن کے پاس پناہ لیتا اور ان کے پاس پانی اور
لکڑیاں لے آتا تھا۔ اس حوالے سے لوگوں نے یہ
بات کی کہ ایک موٹا عجی کافر، عجی عورت کے پاس آتا

3687 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عِيْسَى بْنِ فَيْرَسِ
الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ الْمَخْزُومِيُّ قَالَ: نَا
ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْ يَزِيْدَ بْنِ اَبِي حَبِيْبٍ، عَنِ ابْنِ شَهَابٍ،
عَنِ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: كَانَتْ سُرَيْيَةُ النَّبِيِّ صَلَّى
اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُمَّ اِبْرَاهِيْمَ فِي مَشْرُبَةٍ لَهَا، وَكَانَ
قَبِيْطِيُّ يَأْوِي اِلَيْهَا، وَيَأْتِيهَا بِالْمَاءِ وَالْحَطْبِ، فَقَالَ

3686- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 1 صفحه 149: رواه الطبراني في الأوسط والكبير، وفيه الهيثم بن عدی

الطائي قال البخاري وغيره: كذاب .

3687- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 9 صفحه 164: وفيه ابن لهيعة وهو ضعيف .

ہے۔ (کوئی بات ہے!) تو یہ بات نبی کریم ﷺ کو پہنچی۔ آپ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی طرف قاصد بھیجا اور حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیں۔ پس حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف گئے اتفاق سے اس کو کھجور کے درخت پر پایا۔ پس جب قبلی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تلوار اٹھاتے ہوئے دیکھا تو اس پر یوں خوف طاری ہوا کہ اس کے تن بدن پر جو چادر تھی اس نے پھینک دی اور درخت سے کود گیا، اچانک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی نظر پڑی تو اس کا ذکر (عضو تناسل) کٹا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ واپس حضور ﷺ کی بارگاہ میں آئے۔ عرض کی: اے اللہ کے رسول! آپ کی کیا رائے ہے کہ آپ ہم میں سے کسی ایک کو حکم دیں، پھر وہ اس کے علاوہ صورت حال دیکھے تو کیا وہ آپ کی طرف رجوع کر سکتا ہے؟ ہم ﷺ نے فرمایا: ہاں! حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قبلی کے حوالے سے جو بات دیکھی تھی، بتا دی۔ راوی کا بیان ہے کہ ام ابراہیم نے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ کو جنم دیا تو حضور ﷺ تک میں رہے یہاں تک کہ جبریل علیہ السلام نے آ کر کہا: یا ابا ابراہیم! السلام علیک! تو آپ ﷺ مطمئن ہو گئے۔

اس حدیث کو زہری سے صرف یزید بن ابی حبیب اور عقیل بن خالد روایت کرتے ہیں۔ اس حدیث کے ساتھ ان دونوں سے ابن لہیعہ منفرد ہیں۔

النَّاسُ فِي ذَلِكَ: عَلَجٌ يَدْخُلُ عَلَى عِلْجَةٍ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرْسَلَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ، فَأَمَرَهُ بِقَتْلِهِ، فَاُنْطَلَقَ فَوَجَدَهُ عَلَى نَخْلَةٍ، فَلَمَّا رَأَى الْقَبِيْطِيَّ السَّيْفَ مَعَ عَلِيٍّ وَقَعَ، فَالْقَى الْكِسَاءَ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ وَافْتَحَمَ، فَإِذَا هُوَ مَجْبُوبٌ، فَرَجَعَ عَلِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَرَأَيْتَ إِذَا أَمَرْتُ أَحَدَنَا بِأَمْرٍ، ثُمَّ رَأَى غَيْرَ ذَلِكَ أَيْرَاجِعُكَ؟ قَالَ: نَعَمْ، فَأَخْبِرَهُ بِمَا رَأَى مِنَ الْقَبِيْطِيِّ قَالَ: فَوَلَدْتُ أُمَّ إِبْرَاهِيمَ إِبْرَاهِيمَ فَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فِي شَكٍّ حَتَّى جَاءَهُ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا أَبَا إِبْرَاهِيمَ، فَاطْمَأَنَّ إِلَى ذَلِكَ

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، إِلَّا يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ، وَعَقِيلُ بْنُ خَالِدٍ، تَفَرَّدَ بِهِ: ابْنُ لَهِيْعَةَ، عَنْهُمَا

3688 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَيْسَى بْنِ قَيْرَسٍ الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ الرَّوَّاسِيُّ قَالَ: حَدَّثَنِي جَدِّي أَحْمَدُ بْنُ أَبِيصَ الْمَدِينِيُّ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْجَنَّةَ لَتُزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، وَإِنَّ الْحُورَ الْعِينِ لَتُزَيَّنُ مِنَ السَّنَةِ إِلَى السَّنَةِ لِشَهْرِ رَمَضَانَ، فَإِذَا دَخَلَ شَهْرُ رَمَضَانَ، قَالَتِ الْجَنَّةُ: اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ سُكَّانًا، وَيَقْلَنْ الْحُورَ الْعِينِ، اللَّهُمَّ اجْعَلْ لَنَا فِي هَذَا الشَّهْرِ مِنْ عِبَادِكَ أَرْوَاجًا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَمَنْ صَانَ نَفْسَهُ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَشْرَبْ فِيهِ مُسْكِرًا، وَلَمْ يَرْمِ فِيهِ مُؤْمِنًا بِالْبُهْتَانِ، وَلَمْ يَعْمَلْ فِيهِ خَطِيئَةً، رَوَّجَهُ اللَّهُ كُلَّ لَيْلَةٍ مِائَةَ حُورَاءٍ، وَبَنَى لَهُ قَصْرًا فِي الْجَنَّةِ مِنْ ذَهَبٍ وَفِضَّةٍ وَيَاقُوتٍ وَزَبَرَجِدٍ، لَوْ أَنَّ الدُّنْيَا جُمِعَتْ فَجُعِلَتْ فِي ذَلِكَ الْقَصْرِ لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا كَمَرَبِطٍ عَنُرٍ فِي الدُّنْيَا، وَمَنْ شَرِبَ فِيهِ مُسْكِرًا وَرَمَى فِيهِ مُؤْمِنًا بِالْبُهْتَانِ، وَعَمِلَ فِيهِ خَطِيئَةً أَحْبَطَ اللَّهُ عَمَلَهُ سَنَةً، فَاتَّقُوا شَهْرَ رَمَضَانَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللَّهِ أَنْ تُفَرِّطُوا فِيهِ فَقَدْ جَعَلَ لَكُمْ أَحَدَ عَشَرَ شَهْرًا تَنْعَمُونَ فِيهَا وَتَتَلَذَّذُونَ، وَجَعَلَ لِنَفْسِهِ شَهْرَ رَمَضَانَ فَأَحْذَرُوا شَهْرَ رَمَضَانَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے فرمایا: جنت کو ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک خوبصورت کیا جاتا ہے، رمضان کے مہینہ کی آمد کے لیے، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کہتی ہے: اے اللہ! میرے لیے اس مہینہ میں روزے رکھنے والے بندوں کو رکھ دے۔ حورالعین کہتی ہیں: اے اللہ! اس مہینہ میں روزے رکھنے والے میرے لیے شوہر رکھ دے۔ حضور ﷺ نے فرمایا: جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کو قابو میں رکھا، اس میں شراب اور نشہ آور شے نہ پی، کسی مؤمن پر بہتان نہ لگایا، کوئی گناہ نہ کیا تو اللہ عزوجل ہر رات اس کی ایک سو حوروں سے شادی کرتا ہے، اس کے لیے جنت میں سونے، چاندی یا قوت زبرجد کا محل بنایا جاتا ہے، اگر ساری دنیا کو اس محل میں رکھا جائے تو ایسے محسوس ہوگا کہ دنیا کا ایک کوڑا رکھا گیا ہے، اور جس نے اس ماہ میں شراب پی، مؤمن پر بہتان لگایا، گناہ کیا، اللہ عزوجل اس کے ایک سال کی نیکیاں ختم کر دے گا، رمضان کے ماہ میں گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس ماہ میں کنجوسی کرنے سے بچو! اس نے تم کو گیارہ ماہ تک نعمتیں دی ہیں اور تم لذت حاصل کرتے رہے ہو، رمضان کے ماہ میں اپنے آپ کو قابو میں رکھو، رمضان کے ماہ میں گناہوں سے

3688- وقال الحافظ الهيثمي في المجمع جلد 3 صفحہ 147 بعد نقله كلام الطبرانی: لم يروه عن الأوزاعي إلا أحمد بن

أبيص، قلت: ولم أجد من ترجمه، وبقيته موقوفون.

بجو۔

یہ حدیث اوزاعی سے صرف احمد بن ابیض المدینی روایت کرتے ہیں، اس کو روایت کرنے میں زہیر بن عباد اکیلے ہیں۔

حضرت یزید مولیٰ سلمہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان نے حضرت عائشہ زوجہ نبی ﷺ سے قربانی کے گوشت کے متعلق پوچھا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: حضرت علی بن ابی طالب ایک غزوہ سے آئے تو حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے آپ کے لیے قربانی کا گوشت کھانے کے لیے رکھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے کھانے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ رسول اللہ ﷺ سے پوچھ لیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا: ایک ذی الحجہ سے لے کر دوسری ذی الحجہ تک کھاؤ۔

ام سلیمان، یزید بن ابی عبید مولیٰ سلمہ بن اکوع کی بیوی ہیں، حضرت عائشہ سے اس حدیث کے علاوہ روایت نہیں کرتی ہیں، اس کو روایت کرنے میں عمرو بن حارث اکیلے ہیں۔

لَمْ يَرَوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، إِلَّا أَحْمَدُ بْنُ أَبِيضَ الْمَدَنِيِّ، تَفَرَّدَ بِهِ: زُهَيْرُ بْنُ عَبَّادٍ

3689 - حَدَّثَنَا طَاهِرُ بْنُ عَيْسَى بْنِ قَيْرَسٍ

الْمِصْرِيُّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجَعْفِيُّ قَالَ: نَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، عَنْ أَبِيهِ، وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ يَزِيدَ، مَوْلَى سَلْمَةَ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمَانَ، أَمْرَأَتَهُ سَأَلَتْ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، عَنْ لَحْمِ الْأَضْحَى؟ فَقَالَتْ: قَدِمَ عَلِيٌّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ مِنْ غَزْوَةٍ، فَدَخَلَ عَلَيَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُرِّبَ لَهُ مِنْ لَحْمِ الْأَضْحَى، فَأَبَى أَنْ يَأْكُلَهُ حَتَّى سَأَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلْهُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ إِلَى ذِي الْحِجَّةِ

لَمْ تَرَوْ أُمَّ سُلَيْمَانَ أَمْرَأَةَ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلْمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ عَائِشَةَ حَدِيثًا غَيْرَ هَذَا، تَفَرَّدَ بِهِ: عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ



3689 - أخرجه أحمد: المسند جلد 6 صفحہ 314 رقم الحديث: 26471. وقال الحافظ الهيثمي: لم ترو أم سليمان غير

هذا الحديث، قلت: وثقت كما نقل في المسند: وبقية رجال أحمد ثقات. انظر مجمع الزوائد جلد 4 صفحہ 30.

اس شیخ کے نام سے
جس کا نام
طی ہے

مِنْ
اسْمُهُ
طِي

حضرت مجاہد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی حضرت امام حسن و حسین رضی اللہ عنہما کے پاس آیا، اس نے دونوں سے مانگا تو دونوں نے ارشاد فرمایا: مانگنا صرف تین آدمیوں کے لیے جائز ہے: ضرورت مند کے لیے یا ضمانت اٹھانے والے کے لیے یا مقروض کے لیے۔ پھر دونوں نے اس کو دیا، پھر وہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کے پاس آیا اور ان سے مانگا تو انہوں نے دے دیا، اس سے پوچھا نہیں۔ اس آدمی نے کہا: میں آپ کے چچا زاد کے پاس آیا تو ان دونوں نے مجھ سے پوچھا، آپ نے مجھ سے نہیں پوچھا؟ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا: دونوں رسول اللہ ﷺ کے بیٹے ہیں، دونوں علم کو لقمہ بنا کر کھاتے ہیں۔

یہ حدیث مجاہد سے صرف یونس بن خباب ہی روایت کرتے ہیں۔

3690 - حَدَّثَنَا طِيُّ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ قَحْطَبَةَ بْنِ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ الطَّائِيُّ قَالَ: نَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ صَالِحِ الْأَزْدِيِّ قَالَ: نَا يَحْيَى بْنَ يَعْلَى الْأَسْلَمِيِّ، عَنْ يُونُسَ بْنِ خَبَابٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ، فَسَأَلَهُمَا، فَقَالَا: إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِثَلَاثَةٍ: لِحَاجَةٍ مُجْهِفَةٍ، أَوْ حِمَالَةٍ مُثْقَلَةٍ، أَوْ ذَيْنِ فَادِحٍ وَأَعْطِيَاهُ، ثُمَّ أَتَى ابْنَ عُمَرَ، فَأَعْطَاهُ، وَلَمْ يَسْأَلْهُ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ: أَتَيْتُ ابْنِي عَمَّكَ فَسَأَلَانِي، وَأَنْتَ لَمْ تَسْأَلْنِي، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: ابْنَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا كَانَا يُعْرَانِ الْعِلْمَ غَرًّا

لَمْ يَسْرُوْ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مُجَاهِدٍ، إِلَّا يُونُسُ بْنُ خَبَابٍ

آج راقم الحروف نے اللہ عزوجل کے فضل و کرم اور حضور ﷺ کی خاص نگاہِ کرم، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، اولیاء کاملین خصوصاً حضور محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، حضور غوث پاک اور مرکز تجلیات منبع فیوض برکات، تاج العارفین،

امام الکاملین گنج بخش فیض عالم حضور داتا صاحب اور نائب رسول، عطاء رسول حضور خواجہ معین الدین چشتی اور سفیر عشق مصطفیٰ امام العارفین، سید الواصلین غوث زمان، سلطان الفقر سیدی مرشدی حضور پیر سید غلام دستگیر چشتی کاظمی موسوی قدس سرہ العزیز اور وارث علوم دستگیر، شبیبہ دستگیر حضرت پیر سید حسان الحق مشہدی کاظمی موسوی چشتی دام اللہ ظلہ سجادہ نشین آستانہ عالیہ سرویہ شریف راولپنڈی اور جامعہ رسولیہ شیرازیہ کے جملہ اساتذہ کرام خصوصاً شیخ الحدیث والتفسیر استاذ الاساتذہ رئیس المدرسین، زینت مسند تدریس، یادگار اسلاف حضرت علامہ مفتی گل احمد خان عتقی مدظلہ العالی استاذی المکرم شیخ الحدیث مجاہد اہل سنت، محافظ ناموس رسالت داعی اتحاد اہلسنت وجماعت حضرت صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی، شیخ الحدیث والتفسیر مفتی محمد اشرف بندیا لوی، مفکر اسلام شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ المفتی ڈاکٹر محمد عارف نعیمی مدظلہ کی دعاؤں اور شفقت کے صدقہ ”مجم الاوسط“ کے عربی مطبوعہ کی دوسری جلد کا ترجمہ مکمل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اے اللہ! اپنے ان نیک بندوں کے صدقے باقی کام کو میرے لیے آسان کر دے۔ اس کام کو میری قبر و آخرت کیلئے ذریعہ نجات کا سبب بنا دے! حسد ریاکاری دکھاوے سے محفوظ رکھ! عاجزی و انکساری کی توفیق عطا فرما! آمین بحرمۃ سید العالمین۔

غلام دستگیر چشتی سیالکوٹی غفرلہ

